

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الضَّالُّونَ وَمَنْ حَمَلَ الْاَثْمَ  
وَمَنْ حَمَلَ الْاَثْمَ

ننزہ

کی

سب سے بڑی کتاب

ناشر

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
الحمد لله رب العالمین  
والصلاة والسلام على  
محمد وآله الطیبین الطاهرین  
الکرام

نہ

کی

سب سے بڑی کتاب

فائن

ضیاء المشرقین پبلیکیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	نماز کی سب سے بڑی کتاب
مصنف	مولوی سید نذیر الحق
تاریخ اشاعت	اکتوبر 2012ء
ناشر	محمد حفیظ البرکات شاہ
	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
ایڈیشن	گیارہ
تعداد	ایک ہزار
کمپیوٹر کوڈ	FQ20
قیمت	=/380 روپے

# ضیاء القرآن پبلی کیشنز

ملنے کے پتے

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 37221953 فیکس: 042-37238010

9۔ انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 37247350۔ فیکس 042-37225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411۔ فیکس: 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

## فہرست مضامین

77	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	15	تمہید
78	نماز کے ظاہری و باطنی ارکان	19	اسلام اور مسلمان
80	نماز کے روحانی تاثرات	26	وجہ تصنیف
82	ذکر الہی کی تشریح	28	کتاب الایمان
83	نماز کے لطائف باطنی کی تشریح	47	ارکان اسلام میں نماز رکن اعظم ہے
84	نماز کے ارکان کی روح	51	شعب معراج میں نماز کی مشروعیت
89	نماز کی روج	53	فرزند توحید کی معراج
	نماز میں حضور قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے	53	نماز کے متعلقات (اذان)
91	ہے	57	تکبیر
93	چاروں ارکان کا تقابل	59	امامت و جماعت
	نماز جامع جمیع عبادات بدنی و نفسی	63	اتحاد و اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ
94	ہے	65	قیام
96	زکوٰۃ کا بیان	65	رکوع و سجود
	نماز اور زکوٰۃ کو پہلو بہ پہلو رکھنے کی	66	تعود
97	حکمت	67	تخصیص اوقات کا فلسفہ
97	تاریخ زکوٰۃ	69	تغیر اوقات کا اثر
98	ترک زکوٰۃ کی سزا	70	پنجگانہ اوقات کے تعیین کی وجہ
99	وجوب زکوٰۃ کی شرائط	70	وجہ تعیین قبلہ
100	سونے چاندی کا نصاب	72	ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے
100	جانوروں کا نصاب	74	وجہ تخصیص خانہ کعبہ
101	چند ضروری مسائل	75	مکہ معظمہ کی فضیلت و تقدیس
102	مستحق زکوٰۃ کون ہیں؟		مکہ کو اولیت و فضیلت کا شرف حاصل ہے
106	وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا منع ہے	76	

141	نماز کا بیان	106	کس کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے
141	(ترغیب و ترہیب)	108	ضمناً روزوں کا بیان
142	انسانی فطرت	108	روزہ کی تاریخ
143	نماز کا سب سے بڑا فائدہ	109	روزہ کی فرضیت
147	حقیقت نماز	110	فلسفہ صیام
149	نماز کی علت غائی اور قرآن	111	روزہ کے جسمانی و روحانی فوائد
150	نماز اور قرآن و حدیث	114	روزہ کے مختصر مسائل
151	سات سو مقامات پر فریضہ نماز کی تاکید	121	ضمناً حج کا بیان
	تمام آیات و احادیث اور اقوال کا	121	تاریخ حج
157	خلاصہ	122	حج کے دینی و مذہبی فرائض
157	حکایت	123	دنوی فوائد
159	ترک صلوٰۃ پر وعید	124	عبادات کی دو قسمیں
	قیامت کے روز بے نمازیوں کی	125	احکامات حج
162	رسوائی	129	حج مبرور
166	نماز کی حفاظت	130	حج کو جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے
	فرضیت صلوٰۃ اور اس کے تدریجی	131	طواف کا طریقہ
167	احکام	132	قیام مکہ
169	تہجد کی نماز کے بعد تین نمازیں	133	واپسی کے آداب
171	تکمیل احکام اور خشوع و خضوع	133	عورتوں کے چند مخصوص مسائل
172	نماز اور خدا کی یاد	134	تمتع اور قرآن
174	منصور کا ایک عجیب واقعہ	135	ایک ضروری مسئلہ
174	نماز میں توحید کے اسرار و نکات	136	زیارت النبی ﷺ
182	نماز کی بے اثری	136	ایک حکایت
184	الفاظ کے خاص اثرات		قبر شریف کے پاس درود و شریف
184	نماز اور خشیت الہی	137	پڑھنے کی فضیلت
186	نماز کی روح	137	مدینہ میں داخل ہونے کے آداب

246	وضو کا فلسفہ	188	اوقات نماز کا روحانی فلسفہ
247	وضو کی تاریخ و مشروعیت	190	تعداد اور رکعت
254	وضو کے بعد کی دعا	191	تعیین کعبہ کے بعض اسرار
256	مسواک کا مسنون طریقہ اور ثواب	193	نماز پڑھنے کی ترکیب
257	نواقص وضو		نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی
259	مسائل متفرقہ	197	مسنون دعائیں
263	پٹی اور جبیرہ کے مسائل	199	ترکیہ نفس کے متعلق چند خاص وظائف
264	باب الغسل		حنفی مذہب کے مطابق عورتوں کے
264	(اقسام غسل)	204	نماز پڑھنے کا طریقہ
269	متفرق یادداشتیں اور ہدایتیں	206	احکامات کا بیان
272	غسل کی بقیہ اقسام	206	(کتاب الطہارت)
275	باب الخیض والنفاس	214	باب الانجاس
278	ضروری مسائل	217	نجاستوں کا بیان
280	حائضہ سے جماع اور استمتاع	219	نجاست حقیقیہ کا بیان
282	نفاس کے خاص مسائل و احکام	222	نجاست حقیقیہ کا نقشہ
283	استقاط کا حکم	228	جوٹھے پانی کے احکام
283	معذور کے احکام	229	جانوروں کے پینے کے احکام
285	فصل اول: باب التیمم	230	کنوئیں کے احکام
287	فصل دوم: فرائض و سنن و تیمم	235	پانی کے احکام و مسائل
290	تشریحات	241	استنجا کے احکام و کیفیت
290	چند اصول و ضوابط	241	(اسلام کی خصوصیت)
292	فصل سوم: مسائل متفرقہ	243	ایک لطیف نکتہ
296	ضروری ہدایتیں		رفع حاجت اور پیشاب کرنے کے
296	موزوں پر مسح کرنے کا بیان	243	آداب
297	مسائل متفرقہ	244	ایک عام بے حیائی
299	کتاب الصلوٰۃ	246	باب الوضو

325	چار نفل نمازوں کے اوقات	299	باب الاذان والاقامت
325	نماز کے مکروہ و ممنوع اوقات	300	تاریخ اذان
326	شرط ششم: استقبال قبلہ	302	اذان کے معنی و مفہوم
327	تاریخ تحویل قبلہ	303	اذان دینے کا طریقہ
	بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی حکمت	304	اذان کے مسائل
328	و مصلحت	305	ضروری یادداشتیں
330	استقبال قبلہ کے احکام و مسائل	306	اذان کا جواب
331	قبلہ کی شناخت کرنے کا طریقہ	306	اذان کی فضیلت
334	شرط ہفتم: نیت کا بیان	308	اذان کے بعد کی دعا
336	ایک ضروری یادداشت	309	فصل دوم: اقامت کا بیان
337	باب ارکان الصلوٰۃ	309	ساعت دعا
338	تعدیل ارکان کی بحث	311	باب شروط الصلوٰۃ
	تعدیل ارکان امام صاحب کے	312	شرط اول: طہارت بدنی
339	نزدیک	312	شرط دوم: ستر پوشی
341	خلاصہ بحث	314	شرط سوم: طہارت لباس
342	تکبیر تحریمہ کا بیان	315	شرط چہارم: طہارت مکان
344	مسائل و احکام تکبیر تحریمہ	316	شرط پنجم: دخول وقت
345	نماز کا پہلا رکن	317	قرآن مجید سے اوقات خمسہ کا ثبوت
	(قیام)	318	دلوک
346	نماز کا دوسرا رکن		حدیث نماز سے نماز کی فرضیت کا
	(قرأت)	320	ثبوت
	مسئلہ قرأت میں دوسرے ائمہ کا	321	نماز فجر
347	اختلاف	322	نماز ظہر
348	بقیہ مسائل	323	نماز عصر
	قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے	324	نماز مغرب
348	پڑھنا چاہیے	324	نماز عشاء

374	نماز کی سنتیں	349	بحث قرأت خلف الامام
376	ضروری ہدایات		قرأت فاتحہ خلف امام کے نفی وجوب
376	نماز کے مستجاب	350	کی دلیل
376	تکبیر تحریمہ کا ثواب		اس اختلاف کی تفصیل
	(اور چند بقیہ مسائل)	352	آیت منزل سے استدلال کرنا غلط ہے
378	دعائے استفتاح	354	خلاصہ بحث
380	ایک عجیب لطیف نکتہ	356	قرأت میں غلطی ہونے کا بیان
380	بحث تکبیر تحریمہ غیر عربی زبان میں	357	تلاوت قرآن کی غرض و غایت
382	قرآۃ کے متعلق چند ضروری باتیں	359	تلاوت قرآن کا مستحب طریقہ
383	استعاذہ کے مسائل	359	چند ضروری ہدایات
384	آمین کے مسائل	360	ایک اہم بات
385	رکوع کے مسائل	361	مسائل و احکام
368	قومہ کا بیان	363	غلطی قرآن کی اقسام
377	سجدہ کا بیان	365	تحقیق مدولین
388	التحیات کا بیان	366	نماز کا تیسرا رکن
389	درود پڑھنے کا بیان		(رکوع)
390	درود پڑھنے کے بعد کی دعائیں	366	نماز کا چوتھا رکن
392	سلام کے مسائل		(سجدہ)
393	بحث رفع یدین	368	ضروری ہدایات
394	تعدیل ارکان کا بیان	368	نماز کا پانچواں رکن
395	تنبیہ		(قعدہ اخیرہ)
396	نماز کے آداب	369	تحقیق تشہد
397	نماز کو فاسد کر نیوالے افعال و اقوال	370	انگشت شہادت کا اٹھانا
397	صحیح اور غیر صحیح کی تعریف	371	درود شریف کا بیان
402	فساد نماز کے متعلق بقیہ مسائل	372	نماز کا چھٹا رکن
	نماز میں وضو ٹوٹ جانے کے مسائل	373	نماز کے واجبات



436	کثیر نمازوں کی قضا	406	وغیرہ
437	سفر اور قیام کی فوت شدہ نمازیں		سترہ اور نماز کے آگے سے گزر جانے
438	استقاط کا بیان	409	کے احکام
439	شیخ فانی کا حکم		وہ عذر جن کی وجہ سے نماز توڑنی
439	مسافر کی نماز کا بیان	410	واجب ہے
440	مسافر کے احکام		نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرنے
441	حالت سفر میں قصر صلوٰۃ واجب ہے	411	والے امور
442	سفر کی نیت اور احکام	415	کراہت تنزیہی پیدا کر نیوالے امور
442	سفر کی ابتداء و انتہا	418	باب الوتر
442	اقامت کی شرطیں	418	تحقیق رکعات وتر
443	وطن اصلی اور وطن اقامت	421	وتر کا وقت
444	مسائل و احکام	421	دعا قنوت
445	قصر میں اقتداء اور امامت کے احکام	422	ایک قابل غور امر
	چلتی ریل اور چلتی کشتی وغیرہ پر نماز کا	423	دوسری دعا
446	طریقہ	424	وتر کا سلام پھیرنے کے بعد کی دعا
447	پیار کی نماز کا بیان	425	وتر کے احکام و مسائل
448	لیٹ کر نماز پڑھنے کی ترکیب	426	مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کا بیان
448	نماز کب ساقط ہوتی ہے	428	فجر کی سنتوں اور قنوت نوازوں کی بحث
	کسی جانور کی سواری پر فرض اور	430	یادداشت
450	واجب نماز کا حکم	431	سنت کے ضروری مسائل
450	کشتی میں نماز کا حکم	431	قنوت فجر کی بحث
452	سجدہ سہو کا بیان	431	ایک ضروری بحث
453	سجدہ سہو کا طریقہ	433	فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا بیان
456	مسائل متفرقہ	434	مسائل و احکام
460	ضروری یادداشتیں و ہدایتیں	435	صاحب ترتیب کے کہتے ہیں
462	شک و ظن اور وہم کے مسائل	435	ترتیب ساقط ہونے کے وجوہ

492	تابالخ کی امامت	463	نماز کے اندر بے وضو ہونے کا شک
492	امام بننے کا کون شخص زیادہ مستحق ہے	465	اور اس کا حکم
493	وہ لوگ جنکی امامت ناجائز مکروہ ہے	466	سجدہ سہو کب ساقط ہوتا ہے
494	فاسق کی امامت	466	سجدہ تلاوت کا بیان
495	ناپینا کی امامت	467	(سجدہ تلاوت کی حقیقت)
496	امامت کا مقصود	468	سجدہ تلاوت کا حکم
497	ائمہ مساجد کی اجارہ داری	469	سجدہ تلاوت کا طریقہ
498	ائمہ مساجد کی ہٹ دھرمی	470	سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعا
499	جماعت کے احکام و مسائل	474	سجدہ کی آیتیں
501	ترک جماعت کے عذر	476	احکام و مسائل
502	جماعت کے متعلق مختلف مسائل	478	چند سجدوں کی بجائے ایک سجدہ کافی
503	صفوں کی درستی و ترتیب	479	ہونے کا بیان
505	وہ امور جو امام کیلئے مکروہ تحریمی ہیں	480	متفرق ہدایات
	وہ صورتیں جن میں مقتدی پر امام کی	481	سجدہ تلاوت کے بھول جانے کا حکم
506	تالبع داری لازم نہیں	482	سجدہ شکر کا بیان
508	مقتدی کی قسمیں	483	امامت و جماعت
508	مضبوق کے احکام	484	نماز اور اطاعت امیر
511	مضبوق کے لئے ہدایات	486	قرآن و حدیث سے جماعت کا ثبوت
511	لاحق کا حکم	487	جماعت کی تاکید
512	مضبوق للاحق کا طریقہ ادا نماز	488	نماز باجماعت اور اس کے فضائل
512	بناء نماز کے احکام	489	تازیانہ عبرت
512	ضروری مسائل	490	ترک جماعت کا عذاب
515	جماعت ثانیہ کا حکم	491	نماز باجماعت کا مقصود اصلی
516	امام کے لئے دس آداب		جماعت کے بارے میں مسلمانوں کی
517	مسجد کے احکام و آداب		کجروی
518	اسلام کی پہلی مسجد		امامت کا بیان

539	مصر کی بحث	519	مساجد کی آبادی اور سعی تخریب
	گاؤں میں جمعہ پڑھنا درست ہے یا		سعی تخریب کرنے والوں کے لئے
540	نہیں	520	سخت وعید
541	خطبہ کا بیان	521	مسجدوں کے متولی کیسے ہونے چاہئیں
543	خطبہ کی مقدار واجب و مسنون	523	ائمہ مساجد کی حالت پر خون کے آنسو
544	خطبہ کے وقت عصا یا تلوار کا رکھنا		مساجد کے بارے میں ایک ضروری
544	خطبہ پڑھنے کی ترکیب	524	اور قابل توجہ چیز
545	خطبہ کے مسائل	525	مسجد نبوی اور سیاسی امور
546	فرض احتیاطاً		مسلمانوں کے لئے واضح اور روشن
547	جمعہ کی اذان	526	صراط عمل
	جمعہ کے دن کیا کیا باتیں مسنون و	527	مسجد کے احکام
548	مستحب ہیں		مسجد میں آنے کے اور ٹھہرنے کے
550	جمعہ کے دن درود و اذکار	528	آداب و احکام
551	جمعہ کی ساعت مقبولہ	530	مسجد میں خرید و فروخت
552	ترک جمعہ کا عذاب	531	مسجد سے نکلنے کا بیان
553	نماز عیدین کا بیان	531	مسجد کی خدمت کرنے کا ثواب
554	عید کا نام عید کس لئے رکھا گیا	532	تصویر کے متعلق احکام
555	عیدین کے احکام و مسائل	533	نماز جمعہ کا بیان
556	عیدین کی شرائط	533	جمعہ کہاں فرض ہوا
556	عیدین کی نماز پڑھنے کی ترکیب	534	جمعہ کی فضیلت
557	عیدین کے خطبہ کے احکام و مسائل	536	جمعہ کی رات افضل ہے یا دن
558	مسائل عید		جمعہ کے دن یا شب میں مرنے والے
561	صدقہ فطر	536	خوش قسمت مسلمان
563	قربانی کا بیان	537	جمعہ کے احکام و مسائل
563	قربانی کی غایت کیا ہے	538	جمعہ کے دن سفر کرنے کا حکم
565	کیا قربانی کرنا ظلم اور بے رحمی ہے	538	صحت جمعہ کی شرط

589	ماہ محرم کی نماز	567	قربانی کا ثواب
590	ربیع الاول کی نماز	568	قرآن اور قربانی
590	رجب اور لیلة الرغائب کی نماز	569	احکام قربانی
591	شعبان کی نماز	570	قربانی کے معانی
592	رمضان المبارک کی نماز	570	قربانی کی نیت
592	شب قدر کی نماز	571	قربانی کے جانور
593	نماز تراویح	572	قربانی کا جانور کس عمر کا ہو
594	مسائل تراویح	574	قربانی کے گوشت کی تقسیم
595	ختم قرآن کا حکم	574	قربانی کی کھال
595	قرآن خوانی کی اجرت	575	ایام تشریق کے احکام
596	شب قدر کا بیان	575	خلاصہ کلام
598	شب قدر کی تعیین	576	نوافل کا بیان
598	اعتکاف کا بیان	576	سنت و نفل کے عام فقہی مسائل
599	مسنون اعتکاف	577	بیٹھ کر نفل پڑھنے کا حکم
599	اعتکاف کا رکن اور شرط	578	نفل عائشہ
599	اعتکاف واجب کی وصیت اور کفارہ	579	نفل نمازوں کی تفصیل
600	ہفتہ کی نمازیں	579	تحیۃ المسجد
600	یک شنبہ کی نماز	579	تحیۃ الوضو
601	دو شنبہ کی نماز	580	نماز اشراق
602	سہ شنبہ کی نماز	580	نماز چاشت
602	چار شنبہ کی نماز	581	نماز تہجد کا بیان
602	پنجم شنبہ کی نماز	583	امت محمدی کے اشراف کون ہیں
602	جمعہ کی نماز	584	صلوٰۃ و تسبیح
603	نوافل کے مسائل	586	نماز استخارہ
604	ضروری یادداشتیں	588	نماز قضائے حاجت
605	توبہ اور نماز تومہ کا بیان	589	نماز حفظ ایمان

626	کفن پہنانے کا مسنون طریقہ	606	کسوف و خسوف کی نمازیں
627	نماز جنازہ کا بیان	607	مسلمانوں کی حالت پر افسوس
627	صحت نماز کی شرط	608	قحط اور نماز استسقاء
628	نماز جنازہ کے ارکان و فرائض	608	قحط کی تعریف
628	نماز جنازہ کا مسنون طریقہ	608	نماز استسقاء کا طریقہ
630	مفسدات	609	مسنون دعا اور دیگر آداب
630	متفرق مسائل	610	خطبہ استسقاء
631	مسجدوں میں نماز جنازہ مکروہ ہے	611	قحط کے متعلق چند روایتیں
632	میت کو قبرستان لے جانے کا بیان	613	نماز جنازہ کا بیان
633	تدفین کا بیان	613	بیمار کی دعا
634	قبر میں اتارنے کا بیان	614	عیادت کے آداب
635	مسائل متفرقہ	615	بیمار پر سی کا ثواب
636	زیارت قبور	616	نزع کی علامتیں
636	زیارت قبور کا طریقہ	617	تلقین موتی کا بیان
637	ضروری ہدایات	618	نزع کی سختی آسان ہونے کی سورتیں
638	سوگ و تعزیت		دم نکلنے کے بعد درثناء کے لئے ضروری
638	ایصال ثواب	618	امور
639	شہید کا بیان	620	غسل کا بیان
640	شہید کامل	621	طریق غسل
642	وصیت کرنے کا بیان		پیری کے پتوں اور کافور کے استعمال کی
643	سلام کرنے کا بیان	622	حکمت
643	سلام کرنے کی فضیلت اور ثواب	622	غسل کے مسائل
644	وہ لوگ جن کو سلام کرنا مکروہ ہے	624	غسل کی اجرت
645	وہ لوگ جن پر جواب دینا واجب نہیں	624	مذکورہ اشخاص کو غسل نہ دیا جائے
646	بعض خاص سورتوں کے اجر و ثواب	625	کفن کا بیان
646	سورہ فاتحہ کی فضیلت	625	کفن کفایہ و مسنون

- 648 آیہ الکرسی کے فوائد
- 649 سورہ یاسین کے فضائل
- 649 سورہ دخان اور سورہ ملک کے فضائل
- 650 سورہ اخلاص کی تفسیر اور فضائل
- 652 سورہ کافرون اور معوذتین کے فضائل
- 655 وظائف نافع
- 656 صبح و شام کے وظائف
- 657 دن کا وظیفہ
- 657 رات کا وظیفہ
- 658 سلام کے بعد کا وظیفہ
- 658 حصول غنا کی دعا
- 659 توبہ اور استغفار کا بیان
- 659 گناہ کا علاج
- 660 استغفار کے معنی
- 662 اسم اعظم کا بیان
- 665 آخری کلمات
- 667 التماس
- 668 نقشہ دائمی اوقات نماز

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ  
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ  
وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّبِينٌ

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ  
صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ  
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّبِينٌ

کتابہ شفیق انور پبلیشرز

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### تمہید

الحمد لله الذي اسس على قواعد الكتاب والسنة مبادئ الدين والاسلام. وشيد بالبراهين الواضحة والحجج القاطعة اركان الشرع والاحكام. وبعث الى عباده رسلا وانبياء عليهم السلام للهداية والارشاد. واخلفهم علماء في اظهار شعائر الملة واطفاء نائرة الزيغ والالحاد. يستفرغون مجهودهم في اعلاء كلمة الحق ورفع منار الدين. ويستنفدون سعيهم في احياء سنة سيد الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم اجمعين وعلى عترته وخلفائه الراشدين. وصحابته ومن تابعهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد۔

پرتو شمس میں ہے نور قمر میں تو ہے  
دل میں غنچہ کے ہے بوئے گل تر میں تو ہے  
پھر بھی ہیں شعبدے یہ ارض و سما کے جلوے  
تجھ پہ ہے میری نظر میری نظر میں تو ہے

مالک ارض و سما تو بڑی عظمت و جبروت اور عزت والا ہے۔ تیری عظمت و کبریائی کے سامنے بڑوں بڑوں کی عظمت و اقتدار اور بڑائیاں سر بسجود ہیں۔ تو سب حاکموں کا حاکم ہے۔ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو عاجز نواز ہے اگر تو چاہے تو ایک ذلیل چھر کو طاقت دے کر نمرود جیسی ہستی کے سارے کس بل کو خاک میں ملا سکتا ہے تو حقیر سے حقیر اور کمزور سے کمزور ناکارہ ہستی سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ تیری نوازانے والی قوت



نا قابل میں قابلیت کے جوہر پیدا کر دیتی ہے۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اور پتا اپنی ٹہنی سے نہیں ہل سکتا۔ تو ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ ذات و صفات میں کوئی شریک و پیہم نہیں۔ تیری مشیت میں کسی کا چار نہیں۔ تیرے حکم میں کسی کو جائے دم زدن نہیں کسی کو تیری برابری کا حق نہیں۔

خدائے کارساز! تو نے محض لفظ کن سے یہ اتنی بڑی کارگاہ حیات اور کارخانہ عالم بنا ڈالا اگر چاہے تو اس طرح اس کو ایک لمحہ میں معدوم کر سکتا ہے تو ہمیں عدم سے وجود میں لایا۔ ہماری روحانی و جسمانی نشوونما اور تربیت و تکمیل کے لیے سامان مہیا کئے۔ حواس خمسہ دیے۔ اعضاء و جوارح دیے اور عقل و سمجھ دی، نیکی و بدی کا راستہ سمجھایا لیکن اگر تیری طرف سے رشد و ہدایت نہ ہو اور تیری توفیق و مدد انسان کا ہاتھ نہ پکڑے تو دین کا کوئی کام بن سکتا ہے اور نہ دنیا کا وہ اپنی عاقبت برباد کر لے اور اس کی ساری عقل و سمجھ دھری کی دھری رہ جائے۔

خداوند تو نے جو ہمیں نیکی کا راستہ بتلایا ہے سیدھا راستہ ہے اور اسی پر چل کر ہم دارین کی فائز المرامی اور فلاح و نجات حاصل کرتے ہیں۔ تیرے بتلائے ہوئے راستہ کے سوا تمام راستے ٹیڑھے ہیں اور گمراہی و ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں۔

اطاعت شعار اور نافرمان بندوں کے معبود، کافر و مومن، متقی و بدکار اور باغی و وفادار کی فریاد سننے والے اور بیکسوں کے سہارے! وہ مسلمان، ہاں ہاں وہ مسلمان جن کو تو نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بخشا جن پر تو نے اپنے انعام و اکرام کی بارش کی جن کی ہر قدم اور ہر مرحلے پر امداد و دستگیری کی اور جن کو خیر الامم بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تم میرے بن کر ساری دنیا میں میری حکومت و بادشاہت قائم کرو۔ وہ اب اپنی بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے ارذل الامم بن گئے ہیں اور تجھ کو فراموش کر کے نفس و شیطان کے غلام بن گئے ہیں۔ تیری یاد سے ان کے سینے خالی ہیں۔ تیری محبت و اطاعت سے منہ موڑے ہوئے خواہش عشرت اور تمنائے دولت میں لگن ہیں۔ تجھ سے باغی ہو کر در

بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں مگر تیرے آستانہ پر نہیں جھکتے یا تجھ سے وابستہ نہیں ہوتے اور تیرے حبیب کا دامن نہیں تھامتے۔

کارساز حقیقی مسلمان اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں لیکن اس پر بھی غفلت و معصیت سے باز نہیں آتے۔ کیا وہ یونہی مٹتے رہیں گے؟ ان کی یہی حالت رہے گی؟ نہیں ہرگز نہیں انہیں توفیق دے کہ وہ پھر تجھ سے اپنا رشتہ استوار کریں۔ ہمیں غفلت و مذہوشی، فسق و عصیاں، وباؤں، بلاؤں، مفلسی، غلامی، خود غرضی، ریاکاری اور جھوٹی عزتوں کی حرص و ہوس سے نجات دے۔ قہر و جبر کی تلوار ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر ہمیں ہلاک نہ کر۔ اگر ہمیں ہماری بغاوت و سرکشی کی سزا ہی دینی ہے تو خود ہلاک کر دے۔

لاچاروں کے چارہ کار! یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں۔ رحم کرنے والے خطا پوش! ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں اگرچہ ہم تجھ سے باغی ہیں لیکن پھر بھی تو ہمارا ہے تجھ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں اگر تو ہماری نہیں سنے گا تو کون سنے گا تو رحیم و کریم ہے، بندہ نواز ہے۔

مولا! فریاد ہے کہ ہم لٹ گئے، تباہ ہو گئے۔ اپنا بنا لے۔ ہمیں ایک اور نیک کر دے۔ ہمیں نیکی پارسائی سچائی اور بندگی کے سیدھے راستے پر چلا۔ یہ پیشانی تیرے سرکش و نافرمان بندے کی ہے جو عاجزی سے خاک پر پڑی ہوئی ہے ہمیں ہلاکت و بربادی سے بچا۔ بدی کی راہوں پر چلنے سے روک دے۔ نفس و شیطان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے اور جذبہ معصیت کو تباہ کر دے۔

ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے اور گڑگڑاتے ہیں کہ ہم کو سر بلند کر، صراطِ مستقیم پر ثابت قدمی عنایت فرما۔ ہمارے اندر حجازی آن بان اور شان کا جوش پیدا کر۔ ہمیں دل کی آنکھیں عقل رسا اور مستقیم نظر عطا فرما۔ ہمیں ہمارے مقصد حیات میں کامیاب کر اور ہمیں دین و دنیا کی حقیقی مسرت و کامرانی عطا فرما۔

رحم کرنا ہم گنہگاروں پہ تیرا کام ہے  
دونوں عالم ہیں ترے رحمن تیرا نام ہے

اے امید بے نوا مشکل کشائے دو جہاں  
 بتلائے غم ہیں ہم تو دفع آلام ہے  
 یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے  
 جو قلب کو گرمادے جو روح کو تڑپادے  
 پھر وادیِ فاراں کے ہر ذرہ کو چمکادے  
 پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے  
 بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل  
 اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے  
 اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو  
 وہ داغِ محبت دے جو چاند کو شرمادے

## اسلام اور مسلمان

اے بادشاہ کھلی والے سے جا کہو پیغام میرا  
قبضہ سے بے چاری امت کا دین بھی گیا دنیا بھی گئی

دو لفظ ایسے ہیں جن سے تمام دنیا کی رونق اور زینت قائم ہے مگر اسلام جس طرح  
ابتدائے آفرینش سے افق عالم پر ضیا گستر رہا ہے اسی طرح آج بھی ضیا بار ہے اور قیامت  
تک رہے گا اس کی تابانی، درخشانی میں نہ کوئی فرق آیا ہے اور نہ آئے گا۔ وہ دنیا والوں کو  
بدستور پیغام فلاح و نجات اور روشنی دے رہا ہے اور یونہی دیتا رہے گا۔ مگر خود اس کے ماننے  
والوں کا کیا حال ہے! بس یہ نہ پوچھئے وہ پہلے سب کچھ تھے اب کچھ بھی نہیں۔ اسلام تو دنیا  
میں موجود ہے اور اپنی پوری شان و شوکت، رہنمائی و حقیقت نوازی کے ساتھ۔ مگر وہ پہلے  
مسلمان کہاں؟

وہ الفت کی دنیا وہ ایمان کی دنیا      وہ وحدت کی دنیا وہ قرآن کی دنیا  
اخوت کی دنیا مسلمان کی دنیا      کہاں ہے الہی وہ اخواں کی دنیا  
وہ غیروں کو اپنا بنا لینے والے  
وہ روٹھے ہوؤں کو منا لینے والے

کہاں چل دیے وہ دلارے ہمارے      نظر آج آتے نہیں وہ پیارے  
نوید سحر کے تھے گویا ستارے      جگانے کو نکلے تھے جگا کر سدھارے  
چمک کر زمانے میں گم ہو گئے وہ  
جگا کر زمانے کو خود سو گئے وہ

آج وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں اور اپنے  
مذہب کو "اسلام" کے مبارک و حیات آفریں نام سے تعبیر کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ مسلمان  
ہونے کے کیا معنی ہیں اور اسلام کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ وہ جس چیز کو آج پیارا مذہب کہہ رہے

ہیں اسے مذہب اسلام سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا زمین کو آسمان سے۔ وہ اپنے مذہب کے اہم لوگوں سے بالکل نا آشنا ہیں۔ خدا سے ان کا تعلق محض رسمی اور زبانی باقی رہ گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو وہ زبان سے تو مانتے ہیں اور آپ کے عشق و محبت کا دم بھی بھرتے ہیں مگر آپ کی شریعت کے باغی ہیں۔ مکافات عمل کا انہیں یقین ہی نہیں اور اگر ہے تو غلط معنوں میں ایمانیات اور اعمال و عبادات میں ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی حقیقت مفقود ہے۔

ان کے نزدیک عبادت الہی صرف نماز و روزہ کا نام ہے مگر ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اگر ان کے پاس نماز و روزہ بھی اپنے حقیقی رنگ میں باقی ہوتے تو ان کی اخلاقی روحانی اور سیاسی پستی کا یہ عالم نہ ہوتا کہ اسلام کو ہم سے عار ہے۔ مہلک و شرم ناک غلط فہمیاں مذہب اور اخروی کامیابیوں میں نخل ہو رہی ہیں۔ وہ مذہبی پابندی کے دھوکے میں باطل توہمات اور لغو اعمال میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا و عاقبت کو برباد کر رہے ہیں اور اسلام کے فیوض و برکات سے محروم ہو گئے ہیں۔

حب انسان ذوق حق خوف خدا کچھ بھی نہیں  
ان کا ایمان چند دہموں کے سوا کچھ بھی نہیں

علمائے امت کی نگاہ میں مسلمانان ہند کے جملہ اجزائے حیات میں جو اضمحلال و افسردگی موجود اور ناقابل اصلاح نظر آتی ہے اس کا حکیمانہ سبب تعلیمات اسلام اور بصائر قرآنی سے بعد و تجاہل ہی ہے اور ان کی ترقی و حیات کی صرف یہی ایک راہ کھلی ہوئی ہے کہ ان کو اسلام کے حیات افزوں ضابطہ عمل و قانون کی اطاعت و اتباع کی طرف بلا یا جائے۔ لہذا پہلے مسلمانوں کو اسلام اور مسلمان کے حقیقی معنوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اسلام اور مسلمان کے معنی

مذہب دنیا میں خدا کی سب سے بڑی مہربانی، رحمت اور کرم ہے۔ اس کی غرض انسانوں کو پاک بنانا اور نیکی و پاکیزگی کی راہ پر لے چلانا ہے۔ وہ انسان کو عبدیت کے دائرہ میں مقید رکھنا چاہتا ہے اور اس کا مقصد اصلاح نفوس اور بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں۔ وہ دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسان کی تمام عملی قوتوں کو سیدھے راستہ اور قانون فطرت پر چلائے

تاکہ وہ اپنا مقصد بہ درجہ کمال حاصل کر لیں۔ وہ ہر طرح سے کامل ہو جائیں اور ان کی ہر بات مذہب کی روشنی میں آجائے۔ مذہب چاہتا ہے کہ خدا کے بندوں پر خدا ہی کی حکومت ہو۔ انسان کسی انسان کے سامنے نہ جھکے بلکہ صرف اپنے خدا کے سامنے جھکے اور قوانین الہیہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔

اسلام سے پہلے یہ مقاصد عظمیٰ الہامی مذاہب نے اپنی اپنی بساط اور دائرہ عمل کے مطابق پورے کئے لیکن اب چونکہ اسلام بصورت قرآن خدا کا آخری مذہب ہے۔ ہر طرح کامل و مکمل اور عقل و فطرت کے مطابق ہے اور تمام پچھلی شریعتوں اور صداقتوں کا جامع ہے۔ اس لئے اب یہ مقاصد صرف اسلام ہی کے ذریعے پورے ہو سکتے ہیں۔ اب بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح اور نجات و کامرانی کا صرف یہی ایک راستہ ہے باقی تمام گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔

اسلام کے معنی اطاعت، انقیاد اور تسلیم کے ہیں یعنی اپنے ظاہری و باطنی قویٰ کے ساتھ خدا کے حضور میں جھک جانا اس کے تمام احکام پر عمل کرنا اور اپنے تمام اعمال و افکار کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لے آنا۔ اس سلسلہ میں وہ ہم پر صرف دو چیزیں عائد کرتا ہے ایمان اور عمل صالح۔ سارا اسلام انہی دو باتوں میں بند ہے جو شخص ایمان و عمل صالح کی حقیقی روح اپنے اندر پیدا کر لے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی علما و عملا یہ ہیں کہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس پر عمل کرے۔ جو شخص احکام الہی میں سے کچھ اس کے اغراض کے مطابق ہو اس کو مانے اور جو اغراض کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے وہ منافق خود غرض ہے۔ یہودیوں کو خدا نے اسی وجہ سے ذلیل و رسوا کیا کہ وہ کتاب اللہ کے بعض حصہ کو مانتے تھے اور بعض کو رد کرتے تھے۔ پس مسلمان وہ ہے جو خدا اور رسول اللہ ﷺ کے تمام احکام کو تسلیم کرے۔

بناء اسلام

جاننا چاہئے کہ اسلام کی بناء پانچ چیزوں پر قائم ہے اگر مسلمان ان پانچوں کی پانچوں پر قائم ہے تو اس کا اسلام بھی قائم ہے اور وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ وہ پانچ چیزیں یہ

ہیں۔

۱۔ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس پر یقین رکھنا یعنی توحید و رسالت کو سمجھنا اور ماننا۔

۲۔ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا۔

۳۔ زکوٰۃ دینا۔

۴۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔

۵۔ حج کرنا۔

مشہور تو یہی پانچ بنائیں ہیں حالانکہ ایک چھٹی بنا بھی ہے جس پر مسلمانوں کی نظر ہی نہیں اور وہ چھٹی بنا جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے مفہوم میں ہر قسم کے ایثار و قربانی سعی و کوشش اور جہد للحمیات بھی شامل ہے۔

یہ نہ سمجھئے کہ یہ صرف میرا ذاتی خیال اور تحقیق ہے بلکہ اسلام کا یہ چھٹا رکن قرآن پاک کے ہر صفحہ سے عیاں اور ظاہر و ثابت ہے اور بعض فقہانے جہاد کو اسلامی ارکان کی فہرست میں رکھا ہے۔ چنانچہ صاحب رد المحتار لکھتے ہیں۔

وَالْعِبَادَاتُ خَمْسَةٌ: الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ.

عبادات پانچ ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ (۱)

الغرض اسلام کے یہ چھ ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے جو لوگ ان فرائض دینیہ کی بجا آوری سے قاصر ہونے کے باوجود سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ صرف نماز پڑھ لینے ہی سے کامل مومن ہیں وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان ارکان میں سے اگر ایک بھی رکن ترک کر دیا جائے تو مسلمان کی مسلمانی مندوش ہے۔ مثلاً ایک نمازی تہجد گزار اور شب بیدار صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی ساری عبادت بے سود ہے۔ یا روزے رکھتا ہے مگر استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا تو اس کی دینداری ناقص ہے یا ارکان خمسہ کی پابندی کرتا ہے مگر جہاد فی سبیل اللہ سے جان چراتا ہے تو سرے سے اس نے ارکان

۱۔ رد المحتار۔ کتاب الطہارۃ ص ۱۸۳۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

خمسہ کی روح ہی کو نہیں سمجھا۔ مختصر یہ کہ مسلمان ان ارکان میں سے کسی کا بھی تارک ہے تو وہ نُوْمُوْا بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ کا مصداق ہے اور وہ کامل مسلمان نہیں۔

### کامل مسلمانی کا فقدان

کروڑوں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا بڑے شد و مد سے دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے عمل کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی نماز کا پابند ہے روزوں میں سنت ہے نہ کوئی روزے رکھتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کوئی زکوٰۃ دینے کی ہمت رکھتا ہے تو سفر حج کی صعوبتوں سے لرزتا ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا طرح طرح کے حیلے بہانے گھڑتا ہے اور اگر کروڑوں میں کوئی اللہ کا بندہ ان ارکان خمسہ کی پابندی کرتا ہے تو جہاد کے نام سے لرزتا ہے حالانکہ جہاد کوئی خوفناک چیز نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں محنت و مشقت برداشت کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اگر سچ پوچھو تو ارکان خمسہ کی اصلی روح بھی جہاد ہے۔ کیونکہ کسی میں نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے اور کسی میں مال کے ساتھ پس بہت کم ہیں ایسے مسلمان جن کو ان پانچوں فرائض کی بجا آوری سے تکمیل مسلمانی کی سند حاصل ہو سکے۔

رہے مسلمانوں کے حب الہی اور حب رسول کے دعوے ان کی کیفیت یہ ہے کہ زبان سے ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم کو اللہ و رسول سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہمارا تن من دھن سب ان پر قربان اور شمار ہے مگر دعویٰ اوروں کی حالت یہ ہے کہ نہ اللہ کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی و فرمانبرداری کرتے ہیں بلکہ ان کے برخلاف صورت و شکل میں، لباس و وضع میں، کھانے کمانے میں، اور شادی و غمی میں جتنے کام کرتے ہیں اپنی مرضی کے اور سب اپنے ملک، برادری اور باپ دادا کی رسموں کی پیروی میں۔ لہذا یاد رکھیے جو پورا پابند شریعت ہے وہی سچا مسلمان ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا معیار بتلا دیا ہے۔

مَا أَلَيْسَ لَكُمْ الرَّسُولُ قَدْ أُوْحِيَ وَإِنَّا نَحْنُ مُرْسِلُونَ (حشر: 7)

”اور جو کچھ تم کو یہ رسول دے اس کو لے اور جس چیز سے تم کو ہٹا دے ہٹ جاؤ۔“

اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ مسلمانی دل بہلاؤ اور فریب نفس ہے کہ اسلام کی جو بات آسان دیکھی، جس کو دل چاہا اس پر عمل کر لیا اور جو ذرا مشکل نظر آئی اور جس کو دل نہ چاہا



اسکو ترک کر دیا۔ یہ مسلمانی نہیں بلکہ مطلب پرستی ہے۔ حالانکہ اسلام کا اقرار کر کے ایک مسلمان کو اس قسم کا اختیار ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٥٦﴾ (احزاب)

”کسی مومن اور مومنہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو ان کے لئے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔“  
یعنی جب کسی امر کے متعلق خدا اور اس کے رسول کا حکم آجائے تو مومنوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسلام کہتا ہے کتاب اللہ میں سے کچھ ماننا اور کچھ کو رد کر دینا دنیا و آخرت میں رسوا کن ہے۔

### مذہب کا تعلق

یاد رکھیے! اگرچہ ہم اپنے آپ کو زبان سے مذہب اسلام کا پابند کہتے ہیں لیکن پیروی اپنی خواہشات کی کرتے ہیں اور ہمارے اکثر اعمال مذہبی احکام کے خلاف ہیں۔ تو یہ سچی مسلمانی نہیں کیونکہ مذہب زبان کا نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ اگر آپ مذہب پر عمل نہیں کرتے تو آپ کا مسلمان ہونا عبث و بیکار ہے۔ پھر یہ بھی خوب سمجھ لیجئے کہ مذہب کا تعلق صرف زبان یا صرف نماز روزہ سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہے۔ ہم ایک سچے مسلمان اس صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ ہماری تمام زندگی ہمارے مذہب کی تفسیر ہو۔ اگرچہ ہم مسلمان ہو کر اسلامی احکام کی خلاف ورزی کریں یا نماز پڑھ کر چوری، زنا اور جھوٹ وغیرہ معاصی کا ارتکاب کریں تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی اسلام کی تفسیر نہیں۔ اس کے معنی یہ بھی نہ سمجھئے کہ مسلمان وہ ہے جس سے کسی گناہ اور خدا کی نافرمانی کا صدور ہی نہ ہو نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ احکام خداوندی کی تعمیل کرنی چاہئے اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہئے۔ باوجود اس کے اگر بشریت کے تقاضا سے گناہ بھی سرزد ہو جائے تو

اس سے مسلمانی کو کوئی ضعف نہیں پہنچتا بلکہ فوراً توبہ و استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہئے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان قطعی طور پر تمام زندگی میں گناہوں سے بالکل محفوظ رہے کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم نہیں یہ منصب فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ ان سے ارتکاب معاصی کا صدور یہ ناممکن ہے باقی رہے عوام الناس، گناہ کرنا اس کی فطرت ہے مگر گناہوں اور روز کی نافرمانیوں اور اصرار کرنا شیطان کا کام ہے اور نیک بننے کی کوشش نہ کرنا اسلام کے خلاف ہے۔

### عبادت اور بندگی کا مفہوم

آپ کے سامنے اسلام اور مسلمانی کا صحیح تصور آ گیا ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسلام کا حقیقی مفہوم کیا ہے اور مسلمان کے دینی فرائض کیا ہیں۔ اب عبادت و بندگی کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے۔ عبادت اور بندگی صرف نماز و روزہ کا نام نہیں بلکہ ہمارے ان کاموں کا نام ہے جو ہم تمام دن اور رات میں کریں۔ ہماری بندگی کا دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم ہر کام خدا کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق کریں۔ ہمارا کھانا، پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، شادی و غمی، لباس و وضع غرضیکہ ہر حرکت و سکون عبادت میں داخل ہے بشرطیکہ ہم اسے احکام خداوندی کے مطابق کریں۔

آپ اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں اپنے خدا سے یہی اقرار عبودیت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس اقرار عبودیت کے مطابق ہمارے تمام کام مرضی الہی کے مطابق ہونے چاہئیں اور ہمیں اپنی زندگی انہی اصولوں پر بسر کرنی چاہئے جو مذہب نے سکھائے ہیں اپنی بہتری اور فلاح کے لئے سچے دل سے کوشش کرنا ہی ہمارا فرض اور خدا کی عبادت و بندگی ہے۔

## وجہ تصنیف

یہ ایک آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے کہ آج جو مسلمان تعلیم، صنعت و حرفت، تجارت و سیاست و معیشت، تہذیب و معاشرت اور اخلاق میں پسماندہ ہیں ہر طرح کی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں ان کے قوائے عملی و فکری پر جمود و تعطل کی اوس پڑی ہوئی ہے۔ ہر قوم پر ذہنی غلامی کی لعنت مسلط ہے نہ اس کے پاس اخلاق و روحانیت کی طاقت ہے نہ عزت و شوکت، نہ ان کی زندگی کا کوئی بلند معیار ہے نہ ان کے سامنے کوئی نصب العین، نہ ان میں اتحاد و تنظیم کی روح، ہر جگہ اور ہر مقام میں تنزل و ادبار کے ہاتھوں برباد ہیں اور انہیں ہر طرف سے مایوسیوں و ناکامیوں نے گھیر رکھا ہے اس کا واحد سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ان کے تنزل و ادبار کا بڑا سبب فرائض دینیہ سے غفلت اور زندگی کی سرگرمیوں سے محرومی اور بے عملی ہے۔ ان کے تنزل و ادبار کا ذمہ دار مذہب نہیں بلکہ خود وہ ہیں۔ ان میں وہ صلاحیت اور روح باقی نہیں رہی جس سے وہ دین و دنیا میں ترقی و کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور جس کو حاصل کر کے انہوں نے دنیا میں عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کی تھیں۔ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی جس کے بعد وہ زمین کی وراثت کے مستحق بنتے تھے۔

اب اس کا کیا علاج ہے؟ صرف یہ کہ ان میں ایمان و عمل کی حقیقی روح پھونکی جائے ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا سکھایا جائے۔ فرائض حیات اور فرائض دینیہ کی بجا آوری کی ترغیب و تحریص دلائی جائے اور ان کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنایا جائے۔ یہی وہ راز ترقی ہے جس پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کو مسلمان بنایا جاسکتا ہے۔

ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ارکانِ خمسہ کے متعلق ایک ایسی جامع کتاب دی جائے جو ان میں عبادت و بندگی کی حقیقی روح پھونک دے۔ یہی ارکانِ خمسہ ہیں جن کی تفہیم و تعمیل سے مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں اور دین کی مسرت و کامرانی

حاصل کر سکتے ہیں۔

اسلام کے یہی وہ اصول خمسہ ہیں جن میں ترقی و تقدم کے وہ تمام اصول پنہاں ہیں جن کی پابندی سے مسلمان زندہ ہو سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ ان اسلامی عبادات کا منشاء اگرچہ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور زاد آخرت جمع کرنا ہے اور دنیاوی وجاہت و ثروت اور استیلا و غلبہ ان کا مقصود نہیں لیکن چونکہ وہ ساتھ ہی ساتھ جسم کی مادی ضرورتیں بھی پوری کرتی ہیں اس لئے ان فرائض خمسہ اسلامیہ کی پابندی سے مسلمان وہ تمام انفرادی و اجتماعی اور سیاسی و معاشی خوبیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کی آج ان کو ضرورت ہے مگر یاد رہے یہ دنیاوی فلاح اور غلبہ و استیلاء ان اسلامی احکام کی پابندی کے فرعی اور ضمنی اثمار ہیں اور ان کی اصلی غایت نجات اخروی اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔

جو نام نہاد روشن خیال حضرات نماز روزہ وغیرہ کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نماز اس لئے اچھی عبادت ہے کہ اس سے پابندی اور صفائی جسم کی عادت پڑ جاتی ہے ان کی عقل و سمجھ پر مغرب کی مادیت نے پتھر ڈال دیے ہیں وہ اسلامی عبادات کے مقاصد عالیہ سے لاعلم ہیں۔ الغرض اگر مسلمان مادی اور روحانی ترقی حاصل کرنا اور صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ فرائض خمسہ کی پوری پوری پابندی کریں اور یہ کتاب اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے۔

اگرچہ نماز کے متعلق کثرت کے ساتھ کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور وہ عوام الناس کے لئے نہایت مفید اور مقبول ثابت ہوئیں ہیں لیکن ان سے علمی طبقہ کے مزاج کی تسکین نہیں ہوتی اور نہ وہ تمام متعلقات پر حاوی ہیں کہ ان کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہ رہے اور وہ عوام و خواص دونوں کے لئے مفید ثابت ہوں لہذا اس کتاب کے ذریعے کوشش کی گئی ہے کہ یہ کمی پوری ہو جائے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

نذیر الحق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## کتاب الایمان

اسلام کے اولین اصول

ایمان کے متعلق امام ابوحنیفہ کا مذہب

### ایمان کی تعریف

ایمان کے لغوی معنی ہیں گردیدن و باور کردن یعنی کسی چیز کا حق سمجھ لینا، اس کو مان لینا اور یقین کر لینا ہے۔ اس کے شرعی معنوں میں اختلاف ہے چنانچہ محقق تفتازانی شرح مقاصد میں لکھتے ہیں کہ:

”علمائے امت محمدی کی آراء ایمان کے شرعی معنی میں مختلف ہیں کہ آیا وہ صرف نام ہے کسی فعل قلبی کا یا صرف فعل لسانی کا یا مجموعہ فعل قلبی و لسانی کا یا اس میں افعال جوارح یعنی وہ اعمال جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں جس میں نماز روزہ وغیرہ بھی شامل ہیں۔“

پس یہ چار صورتیں ہیں۔ بر تقدیر اول کہ ایمان عبارت ہو صرف فعل قلبی سے اس بارے میں تین قول ہیں:

اول قول وہ ہے جو مشہور و مذہب محققین جمہور ہے یعنی ایمان موضوع ہے بمقابلہ تصدیق یعنی مان لینا اور یقین کر لینا آنحضرت ﷺ کا ایسے امور میں کہ ان احکام کا پروردگار عالم کی طرف سے لانا بالضرورت معلوم ہو۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان نام ہے تسلیم کا مگر درحقیقت یہ قول، قول اول ہی کی طرف مائل ہے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ ایمان نام ہے ان چیزوں کی معرفت یعنی پہچاننے اور سمجھنے کا۔ بر تقدیر ثانی کہ ایمان نام ہے صرف زبانی تسلیم کا یعنی حقیقت احکام نبویہ ﷺ کے ساتھ اقرار کرنا۔ بعض کے نزدیک معرفت قلبی شرط ہے بعض کے نزدیک تصدیق شرط ہے۔

بر تقدیر ثالث کہ ایمان نام ہوا مجموعہ افعال لسانی و قلبی کا اور ایمان عبارت ہو تصدیق قلبی و اقرار لسانی سے یعنی مومن وہ ہے جو دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے۔ یہی مذہب حضرت امام اعظم کا۔

بر تقدیر رابع کہ ایمان عبارت ہو تین چیزوں کے مجموعہ سے اول دل سے یقین کرنا، دوسرے زبان سے اقرار کرنا اور تیسرے اعضاء سے نیک کام کرنا۔

بحث ایمان کی متعلقہ تفصیلات اور اختلافات سے بچتے ہوئے اتنی بات یاد رکھیے کہ ایمان کے باب میں علمائے اہل سنت کے تین قول ہیں۔

اول یہ کہ ایمان نفس تصدیق قلبی کا نام ہے۔

دوسرے یہ کہ ایمان عبارت ہے مجموعہ تصدیق و اقرار سے۔

تیسرے یہ کہ ایمان مجموعہ تصدیق و اقرار اور عمل کا نام ہے۔ مگر عمل ایمان کا عرفی جزو ہے نہ کہ حقیقی یعنی عمل جزو کمال ایمان ہے اصل ایمان کا جزو نہیں۔

ایمان و عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں

محقق جلال الدین دوانی شرع عقائد عضدیہ میں لکھتے ہیں کہ اس مقام پر چار احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال ایمان کی حقیقت و ماہیت کا جزو ہوں کہ اگر اعمال معدوم ہوں تو ایمان بھی معدوم ہو جائے جیسے اجزائے حقیقیہ میں ہوتا ہے کہ جزو کے عدم سے کل کا عدم لازم آتا ہے۔ یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔

دوسرے یہ کہ اعمال ایمان کے اجزائے عرفیہ ہوں ان کے عدم سے عدم ذات ایمان لازم نہ آئے بلکہ ایمان کے کمال میں نقص و فتور ہو جائے جیسے ناخن، بال، ہاتھ اور پیر وغیرہ انسان کے جزو ہیں یا جیسے درخت کی شاخیں کہ اجزائے درخت ہیں ان کے فنا سے انسان یا درخت کا فنا لازم نہیں آتا مثلاً اگر کسی انسان کے ہاتھ نہ ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ انسان بھی نہ ہو۔ یہی مذہب سلف محدثین کا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”ایمان کی ستر اور چند شاخیں ہیں ان کا اعلیٰ درجہ کلمہ توحید کا اقرار اور ادنیٰ درجہ راستے میں سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے۔“

ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کہ  
 ”حیا ایمان کی شاخ ہے“۔ (2)

اس بناء پر ان لوگوں کے نزدیک ایمان، نفس تصدیق اور اعمال کے درمیان ایک امر مشترک کے لئے موضوع ہے پس ایمان کا اطلاق تصدیق اور اعمال دونوں پر بطور حقیقت کے ہے نہ بطور مجاز کے ایمان بمنزلہ درخت کے ہے اور اعمال بمنزلہ شاخوں کے لہذا اعمال کے فقدان سے کمال ایمان میں فتور ہوگا نہ کہ اصل ایمان میں ایسا ایمان جو اپنے ساتھ اعمال صالحہ کا ذخیرہ رکھتا ہو عذاب دائمی سے نجات دیتا ہے۔

تیسرے یہ کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں مگر اس کے مشابہ ہیں اور ایمان کا اطلاق ان پر مجازاً ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اعمال بالکلیہ ایمان سے خارج ہوں۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ اعمال بالکلیہ ایمان سے خارج نہیں بلکہ ایمان کے اجزائے عرفیہ ہیں جس کی تفصیل اوپر گزری۔ پس اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ایمان و عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں جیسے درخت اور اس کی شاخیں دو چیزیں ہیں اور ایمان صرف اعتقاد اور یقین کا نام ہے یعنی امام صاحب کے نزدیک عمل اصل کی حقیقت میں داخل نہیں بلکہ ایمان کامل کی شرط ہے۔ صاحب تصدیق و اقرار تارک طاعات بوجہ ایمان کے اگرچہ مومن ہے لیکن ناقص الایمان ہے اور ایسے شخص کو مومن فاسق کہتے ہیں۔

سو حقیقت ایمان کیا ہے؟ یہی کہ دل میں توحید و رسالت کا یقین رکھے اور زبان سے اقرار کرے۔ ایمان فعل اعضاء کا نام نہیں ہے نہ نیک اعمال ایمان میں داخل ہیں اور نہ اعمال بد ایمان کو برباد کرنے والے ہیں کیونکہ ایمان مقابل کفر اور نیک عمل مقابل گناہ کے ہیں پس اگر عمل ایمان میں داخل ہو تو چاہئے کہ گناہ کفر ہو جائے حالانکہ تمام اہل سنت اور محدثین کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ عبادت و طاعت نہ کرنے سے بندہ گنہگار ہوتا ہے کافر نہیں ہو جاتا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:

2۔ صحیح بخاری کتاب الایمان، باب امور الایمان، دار المعرفۃ بیروت۔

الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ (3)۔ ایمان اقرار و تصدیق کا نام ہے۔

### حقیقت ایمان

جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اقرار لسانی صرف دنیوی احکام جاری ہونے کی ایک شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک امر باطنی ہے اس لئے لازمی طور پر اس کے لئے علامت ظاہری بھی ہونی چاہئے۔ اسلام ظاہر و باطن دونوں کو دائرہ عبودیت میں لاتا ہے پس جو شخص قلب سے وحدانیت اور رسالت کی تصدیق کرے مگر زبان سے اس کا اقرار نہ کرے وہ عند اللہ مومن ہے۔ خلاصہ یہ کہ حقیقت ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے۔

### مشکوٰۃ شریف سے ایمان کا بیان

جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا ﷺ کی خدمت میں تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے اور عرض کی یا محمد ﷺ مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اس امر کا اعتراف کرے اور شہادت دے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ خدا کے رسول ہیں اور پھر تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کاج کرے (اگر تجھ کو زور اور اہمیت ہو) اس شخص نے یہ سن کر دوبارہ عرض کی ”آپ ﷺ نے سچ فرمایا“۔ ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کی حقیقت بیان فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ایمان تو یہ ہے کہ تو اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں اور رسولوں پر قیامت کے دن پر اور تقدیر کی برائی بھلائی پر ایمان و یقین رکھے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا ”آپ



ﷺ نے سچ فرمایا۔ (4)

یہ پوچھنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں اس سوال و جواب سے صحابہ کو دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے جواب میں تصدیق و اقرار کے ساتھ اعمال کو بھی رکھا ہے اور ایمان کے جواب میں صرف افعال قلبی یعنی عقائد اسلامیہ کو بیان فرمایا ہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں اعمال داخل نہیں ورنہ حضور ﷺ ایمانیات کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی بیان فرماتے۔ اس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ ایمان اور اعمال دو علیحدہ چیزیں ہیں۔

ایمان اور اعمال صالحہ میں مغایرت کے دلائل

یہ ایک آفتاب سے زیادہ روشن حقیقت ہے کہ ایمان و عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اس پر عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی جن کا کچھ اندازہ آپ نے مذکورہ بالا تفصیلات سے کر لیا ہوگا لیکن چونکہ یہ زمانہ کفر و الحاد کا ہے اصلاح و فساد پہلو بہ پہلو اپنا کام کر رہے ہیں۔ نام نہاد روشن خیالی خود ساختہ محقق اور مفسر و مبلغ اسلامی حقائق کی صورتوں کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور عقل کے پجاری ایمان و عمل کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ ایمان و عمل کی مغایرت کے دلائل کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے۔

۱۔ قرآن و احادیث میں اول سے آخر تک ”اعمال“ کو ”ایمان“ پر عطف کیا گیا ہے چنانچہ ہمیں قرآن اور حدیث نبوی میں جگہ جگہ اس کا حکم و مطالبہ کی تکرار نظر آتی ہے۔

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (البقرة: 25)۔ اس قسم کے جملوں میں اعمال کو ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور معطوف و معطوف علیہ کی مغایرت ظاہر و باہر ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ معطوف و معطوف علیہ ایک نہیں ہوتے۔

۲۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ایمان کو صحت اعمال کی شرط قرار دیا ہے کما فی

قوله تعالیٰ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 ”یعنی ”ذکور و اناث میں سے جو شخص بھی نیک اعمال بجالائے بشرطیکہ وہ مومن  
 ہو۔“ (النساء: 124)

اس آیت مبارکہ میں خدائے حکیم نے ایمان کو عمل صالح کی شرط قرار دیا ہے اور سب  
 جانتے ہیں کہ شرط و مشروط ایک چیز نہیں۔ ان دو دلائل ہی سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے  
 کہ ایمان و اعمال دو علیحدہ چیزیں ہیں۔

۳۔ قرآن عزیز میں دو قسم کے احکام آتے ہیں ایک قسم کے احکام تو ایمان و عقائد سے  
 متعلق ہیں اور دوسری قسم کے احکام عبادت و طاعت کے سلسلہ میں ہیں۔ چنانچہ ایک حکم تو  
 یہ ہے:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (النساء: 136) ”اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ“۔  
 دوسرا حکم یہ ہے:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الانفال: 1) ”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو“۔  
 اگر ایمان و عمل ایک ہی چیز ہوں تو یہ تقسیم ٹوٹ جاتی ہے اور قرآن کریم کی فصاحت و  
 بلاغت پر زبردست اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں بار بار بیکار و لغو جملوں کا تکرار نظر آتا  
 ہے۔ لیکن جس شخص کے دماغ میں ذرا سی بھی عقل ہوگی اور جو عربی زبان سے تھوڑی سی بھی  
 واقفیت رکھتا ہوگا وہ تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ اس بات کو جان لے گا کہ یہ دونوں احکام  
 ایک چیز نہیں ایمان اور ہے اور عمل الگ۔

۴۔ قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کے سامنے دو مرحلے رکھے ہیں ایک تو اٰمِنُوْا  
 اور دوسرا اَطِيعُوا اِيْمَانَ سے مراد ہے انسانیت کے بلند ترین مقاصد کو سامنے رکھنا اور کسب  
 سعادت کی استعداد و قوت کا اظہار کرنا اور اطاعت سے مقصود ایسے عملی ذرائع اختیار کرنا ہے  
 جو مطلوبہ مقاصد تک پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے کہ استعداد و قوت اور حرکت و عمل ایک چیز کا نام  
 نہیں یا یوں سمجھو کہ صحیح عمل کے لئے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم و احساس اور ادراک و شعور  
 کے بغیر جو حرکت ہوتی ہے وہ مجنونوں کی حرکت ہوتی ہے اور یہ مسلمہ امر ہے کہ علم اور عمل

ایک چیز نہیں۔

۵۔ اسلام میں نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایمان اور عمل صالح۔ پانچ چیزوں خدا، پیغمبروں، خدا کا پیغام پیغمبروں تک لانے والے فرشتوں، احکام الہی کی کتابوں اور پیغام محمدی کے مطابق عمل کرنے والوں یا عمل نہ کرنے والوں کی جزا و سزا پر یقین و اعتقاد رکھنا ایمان ہے۔ جس پر عمل کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور جس کے بغیر خلوص کے ساتھ کوئی نیک عمل سرزد نہیں ہو سکتا یعنی ایمان کے بغیر درگاہ خداوندی میں کوئی اچھا عمل بھی مقبول نہیں اور اعمال ہمارے اعضاء کے کام میں جن کو صالح یعنی وصیت الہی اور احکام الہی کے مطابق ہونا چاہئے اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ دماغ کی روشنی اور اعضاء کے کام ایک چیز نہیں۔

خلاصہ یہ کہ اس قسم کے ہزاروں عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان و عمل دو جداگانہ چیزیں ہیں اور ہمارے امام صاحب کا مذہب ایمان کے بارے میں قرین حق و صواب ہے۔

### اعمال کا تعلق

ایمان اور عمل کے مطابق ہم نے یہاں تک جو کچھ لکھا ہے اس سے اعمال کی اہمیت اور قدر و قیمت کو کوئی ضعف نہیں پہنچتا بلکہ اعمال کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ پس یہ نہ سمجھئے کہ شخص توحید کا رسمی و زبانی اقرار نجات کے لیے کافی ہے۔ اس غلط فہمی نے مسلمانوں کو معصیت و سیاہ کاری کے جہنم میں پھینکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے رسمی طور پر زبان سے توحید کا اقرار کر لینا نجات کے لیے کافی ہے اور غالباً مسلمانوں کی اس کجروی اور گمراہی نے اس فتنہ کو پیدا کیا ہے کہ آج ایمان و عمل کو ایک چیز سمجھا جا رہا ہے۔ سو یاد رکھیے ایمان و عمل اگرچہ ہیں تو دونوں مغائر مگر ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔

اسلام ایمان کے ذریعے قلب و روح پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جسم سے پہلے روح کو اپنے قانون کا پابند و مطیع بنانا چاہتا ہے اور عمل صالح کے ذریعے جسم کو قانون الہی کا پابند بناتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کی روح تو خدا کی فرمانبردار ہو اور جسم نافرمان۔ یعنی ایک شخص صحیح معنوں میں مومن ہو اور اس سے اعمال صالح کا صدور نہ ہو ایسے شخص کو کبھی ایمان

کی تکمیل کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا قلب توحید کا قائل ہو لیکن اگر روزمرہ کی زندگی اور اس کے اکثر اعمال و افکار احکام الہیہ کے مطابق نہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ اس کو سرے سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان نہیں۔ پس سمجھ لینا چاہئے کہ اس کا ایمان، اقرار فضول بے معنی اور منافقت پر مبنی ہے۔

یاد رکھیے اعمال کا تعلق قلب سے ہے جن اعمال کا تعلق قلب سے نہ ہو وہ نقش بر آب ہوا کرتے ہیں ان کا اخلاقی اور روحانی زندگی پر کچھ اثر نہیں ہوتا اس لئے ان کا وجود و عدم دونوں برابر ہیں۔ اسلام کے نزدیک اعمال وہی صالح اور قابل قبول ہیں جو مسلمانوں کی طرز زندگی کا مستقل حصہ ہوں۔ اس کی سیرت کا عکس ہوں اور اس کی روح سے پیدا ہوئے ہوں جو اعمال اس معیار پر پورے نہ اترتے ہوں وہ یا تو اضطراری افعال ہوتے ہیں یا محض دوسروں کو دکھانے کے لئے کیے جاتے ہیں۔ اور آخرت میں ان کی جزا کی امید رکھنا کسب موہوم اور بے سود ہے اور جن اعمال کا تعلق قلب سے ہو وہی صالح مشتمل ثمرات آخرت ہوا کرتے ہیں۔ قلب میں عمل کا تخم ایمان کے پانی سے پرورش پاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ دماغ کی روشنی روح کا خدا کے ساتھ تعلق اور نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا حوصلہ و ارادہ، ایمان سے دل کی طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے عمل کی استعداد و قوت پیدا ہوتی ہے اور ایمان دار و پاک اور صحیح الخیال دل سے اعمال بھی نیک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال کی پاکیزگی سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے اور اسی بنیاد پر اسلامی تصوف کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ لہذا خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ناپاک دل سے ہمیشہ ناپاک اعمال ہی پیدا ہوتے ہیں اور پاک دل سے پاک اعمال اور اعمال سے پہلے ایمان صحیح اور پختہ ہونا چاہئے۔

### اعمال کی اہمیت

آج ایمان و عمل کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں کسی نے ایمان کو اتنی اہمیت دی ہے کہ بے عملی و جمود کی حالت پیدا ہو گئی ہے اور کوئی اعمال کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ نجات کے لئے توحید و رسالت کا اقرار بھی ضروری نہیں۔ بلکہ جس کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو اس کی بخشش ہوگی۔ یہ دونوں افراط و تفریط اور گمراہی کے راستے ہیں جو اسلام

سے دور لے جاتے ہیں اور الحادو بے عملی کے اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اسلام ہی مسلمانوں کے موجودہ تنزل کا سبب ہے۔ یہ تو کہنے والوں کی جہالت و حماقت ہے کیونکہ اسلام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو آخرت کے تصور میں دنیا ترک کر دینی چاہئے اور ایمان کے بھروسہ پر عمل چھوڑ دینا چاہئے۔ اس کے خلاف اسلام نے رہبانیت اور ترک دنیا کی مذمت کی ہے۔ بے عملی جمود اور غفلت کی زندگی کو مذموم اور لعنتی زندگی ٹھہرایا ہے۔ یقین و عمل پر اسلام و ایمان کی بنیاد رکھی ہے اور عملی سرگرمیوں پر موت و زندگی کا انحصار بتلایا ہے۔

ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں نے ایمان کے مقابلہ میں عمل کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اسی پر پھولے رہے کہ بس کلمہ پڑھ کر ہم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ ہمیں طاعت و عبادت کی کیا ضرورت ہے اللہ غفور و رحیم ہے وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی نہ بخشیں گے تو پھر پیغمبر اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بخشوا لیں گے اگر یہ دونوں صورتیں بھی میسر نہ آئیں گی تو اپنے کئے کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ بتلایئے اس قسم کے قاطع اعمال عقائد رکھنے والے اعمال کی اہمیت کو کیا خاک سمجھیں گے۔ اگر سچ پوچھو تو اس قسم کے احمق مسلمانوں نے لوگوں کو یہ کہنے کی جرأت دلائی ہے کہ اسلام ہی نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے۔ مگر یہ ان کی نادانی اور ناتجہی ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک ہی چیز سمجھے بیٹھے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں کہ مذہب اپنے متبعین کے غلط اور غیر مذہبی اعمال و افکار کا ذمہ دار نہیں ہوا کرتا۔

ہمیں یہ مان لینا چاہئے کہ مسلمانوں کے تنزل و ادبار کا بڑا سبب دینی فرائض سے غفلت اور زندگی کی سرگرمیوں سے محرومی و بے عملی ہے۔ پس مسلمانوں کو اعمال کی اہمیت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالْعَصْرِ ۝  
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝  
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ (العصر)

”زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان عموماً خسارہ اور نقصان میں رہتا ہے سوائے

ان لوگوں کے جو ایمان و عمل کی دولت سے مالا مال ہیں۔  
 یعنی نقصان و خسارہ سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو اپنے پاس یقین و عمل کی دولت رکھتے  
 ہیں اور زندگی کی سرگرمیوں میں جان توڑ کر حصہ لیتے ہیں۔  
 عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی  
 یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے  
 یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے  
 یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے  
 غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں  
 جو ہر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

اعمال کو برباد نہ کرو

مذکورہ بالا آیت مقدسہ کو پیش کرنے کے بعد ضرورت نہیں رہتی کہ اعمال کی اہمیت کے  
 سلسلہ میں کچھ اور آیتیں پیش کریں مگر مسلمان ایسے سعادت مند کہاں کہ ایک دو آیتوں سے  
 متاثر ہو جائیں اور ان میں کوئی چیز عمل و حرکت پیدا کر دے۔ اس لئے چند آیتیں پیش کی  
 جاتی ہیں۔ ارشاد ہے

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَدَىٰ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَأْسُوٰهُ (توبہ: 105)

”کہہ دو کہ عمل کئے جاؤ ابھی تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھے گا۔“

یعنی اے حبیب! اپنی امت کے بے عمل اور رسمی و زبانی مومنوں سے کہہ دیجئے کہ محض  
 اقرار توحید و رسالت پر ہی نہ پھولے رہو بلکہ ابھی تو اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو  
 دیکھے گا کہ تمہارا یہ اقرار دل سے ہے یا محض زبان سے سوا ایمان والوں کو چاہئے کہ وہ عمل  
 سے غافل نہ رہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تَبْطَلُوْا

اَعْمَالَكُمْ (محمد)

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور انہیں اعمال کو برباد نہ

کرو۔

پھر ارشاد ہے

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝ (محمد)

”اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔“

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا

اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ (حجرات: 14)

ذرا دیکھئے تو سہی قرآن عزیز اعمال کی اہمیت اور کوشش کی قدر و قیمت کو کس عنوان اور طرز سے بیان کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کامیابی و ترقی کا راستہ بتلا رہا ہے اگر اب بھی مسلمان اعمال کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو جہنم میں جائیں۔

اپنے اپنے عمل کے مطابق درجات بنائے گئے ہیں

پندرہویں پارہ میں خدائے کریم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے ”جو شخص نیک اعمال کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے اور اس کو عملوں کے مطابق اچھے سے اچھا بدلہ دیں گے۔“ پھر چھبیسویں پارہ میں کہہ دیا گیا:

وَ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا ۚ وَ لِيُؤْفِقَهُمْ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَ هُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ۝ (احقاف)

”اپنے اپنے عمل کے مطابق درجات بنائے گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے

عملوں کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔“

غور کرو! جس مذہب اور جس کتاب حکیم نے دینی و دنیاوی ترقی و فلاح کے لئے عملی نظام کو اس قدر ضروری و ناگزیر قرار دیا ہو اس کو موجودہ مسلمانوں کی بے بسی و بے عملی کا سبب کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے اور وہ قوم کیونکر ایمان کے بھروسہ پر عملی سرگرمیوں سے محروم رہ سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے اعمال کی اہمیت کو جس انداز میں واضح کیا ہے اس سے بڑھ کر انسانی تصور اس کے ادراک سے قاصر ہے۔

## ایمان و اسلام دونوں ایک ہیں

اس واسطے کہ لغت میں اسلام کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے ہیں اور عرف شرع میں بھی احکام الہی کی فرمانبرداری کرنے اور ان پر یقین لانے کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ مفہوم تصدیق کی حقیقت ہے اور تصدیق ہی ایمان ہے۔ چنانچہ عقائد نسلی میں ہے

والایمان والاسلام واحد۔ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں۔ (5)

یہی احناف کا مسلک قدیم ہے شعبہ ایمان و اسلام میں غیریت ثابت کر کے اپنے آپ کو مومن اور باقی اہل اسلام کو مسلمان کہتے ہیں اور اس میں فرق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو حقائق اسلام کو تاویل و دلائل کے ساتھ جانتا ہو اور مسلمان وہ ہے جو ان کو بغیر تاویل و تفسیر کے جانے۔ یہ شیعوں کی من گھڑت باتیں ہیں جن کی قرآن و حدیث سے تائید نہیں ہوتی۔

معززہ کی رائے اس باب میں یہ ہے کہ ایمان باطن سے تعلق رکھتا ہے اور اسلام ظاہر سے۔ چنانچہ ان کے نزدیک فاسق مسلم ہے نہ مومن۔ جو فرقے ایمان و اسلام میں غیریت ثابت کرتے ہیں ان کے دلائل میں سے ایک قرآنی دلیل یہ آیت ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا

يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (حجرات: 14)

”بدوئی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے مگر کہو ہم مسلمان ہوئے اور نہیں داخل ہو ایمان تمہارے دلوں میں۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ اس لئے کہ اس میں اعراب کا اسلام ثابت کیا ہے اور ایمان کی ان سے نفی کی ہے۔

اس دلیل کا جواب علمائے احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ جو اسلام شرع میں معتبر ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت ظاہری کے ساتھ اطاعت باطنی بھی ہو اور ایسا اسلام بغیر ایمان کے پایا جانا ممکن نہیں اور ایسا ہی اسلام دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے نجات بخشتا ہے۔ اور اعراب کی نسبت جو اسلام ثابت کیا گیا ہے وہ صرف انقیاد ظاہری ہے جس میں انقیاد باطنی کو



دخل نہیں اس اسلام کی نظیر یہ ہے کہ کوئی آدمی زبان سے تو کلمہ شہادت ادا کرے اور دل میں اس کی تصدیق نہ کرے۔

ایمان اور اسلام کے ایک ہونے کی دوسری دلیل وہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جو پیچھے کہیں بیان ہوئی اس میں حضور ﷺ نے اعمال باطنی اور اعمال ظاہری دونوں کو اسلام کی تعریف میں بیان فرمایا ہے پس اسلام فقط اعمال ظاہری کا نام نہیں بلکہ وہ بھی مثل ایمان کے تصدیق قلبی سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ مشہور بین الناس ہے کہ

الإِسْلَامُ هُوَ الْخُضُوعُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔

اسلام ظاہری و باطنی طور پر خدا کے سامنے جھکنا ہے۔

اہل قبلہ سب مومن ہیں

اسلام ایک سیدھا سادھا اور فطری مذہب ہے جس کی بنیاد یقین و اعتماد اور فطری ذوق پر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے متیقن بندوں کی پہلی خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (بقرہ: 3) یعنی ارباب تقویٰ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات عالیہ پر ہر اس چیز کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جس کو انہوں نے کسی طور پر بھی محسوس نہ کیا ہو۔ مسلمانوں میں یہ خصوصیت اور ایمان و ایقان کی صفت اس وقت تک باقی رہی جب تک عرب کے ساتھ عجم کی آویزش نہیں ہوئی۔ جب عجمی اسلام کی آغوش میں آئے تو ان کی تفرقہ اندازانہ ذہنیت اور تخیلانہ زندگی نے اسلام کو فرقوں میں منقسم کر دیا اور پھر تو اسلام میں وہ تفریق اور فرقہ بندی ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ ہر فرقہ نے دوسرے فرقہ کو کافر جانا جہاں کہیں کسی سے عقائد میں اختلاف ہو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کفر کے فتوؤں کی مسلمانوں میں اس قدر کثرت اور بھرمار ہوئی کہ ان کی زبانوں پر سوائے کفر کے اسلام کا نام بھی باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے دنیا میں بھیجا تھا کہ وہ ایک اور نیک بن کر رہیں، خود خدا کے بنیں پھر دوسروں کو خدا کا بنا لیں اور دنیا میں خدا کی حکومت اور بادشاہت قائم کریں مگر کم بخت مکفروں اور تفرقہ اندازوں نے خدا کی حکومت کی بنیادیں ہی اکھاڑنا شروع کر دیں اور بجائے مسلمان بنانے کے لوگوں کو

کافر و مشرک بنانے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کتاب و سنت کے بتلائے ہوئے معیار کفر و اسلام کو نظر انداز کر کے خود اپنی طرف سے کفر و ایمان کے معیار قائم کر لئے تھے اور دنیائے اسلام میں حرب عقائد کی ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ حرب عقائد اور تکفیر بازی و مشرک سازی کی یہ لعنت کچھ اس طرح مسلمانوں پر مسلط ہوئی کہ آج بھی اس سے پیچھا چھوٹنے میں نہیں آتا۔

خدا جزائے خیر دے امت مسلمہ کے سب سے بڑے فقیہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے اس سیلاب کفر کو روکنے کے لئے اس کے آگے دریادلی اور وسیع القلبی کا زبردست بند لگا دیا اور کم از کم حنفی مسلمانوں کی زبانوں کو تو یہ کہہ کر لانا کفر اُحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ ”یعنی ہم کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے“ تکفیر سے روک دیا اور اپنے قسبیین کو مصالحت رواداری اور علماء کو نہایت حزم و احتیاط کی تعلیم دے کر ملت واحدہ کو فرقہ بندی و تفریق کے تباہ کن اثرات سے بچالیا مگر اس کا کیا علاج کہ چودھویں صدی کے علماء سو اور قرآنی بصیرت سے محروم مفتی خود ہی امام بن بیٹھے اور حضرت امام صاحب کی تحقیق و اجتہاد کو پس پشت ڈال دیا لیکن جو حقیقی مجتہد فقہائے اسلام میں گزرے ہیں ذرا ان کی دریادلی بھی دیکھ لیجئے اور پھر اس صدی کے علماء سو کی ذہنیتوں کا ماتم کیجئے۔ درمختار میں ہے:

واعلم انه لا يفتى بكفر مسلم ان امکن حمل كلامه على محمل حسن۔ (6)۔  
 ”جاننا چاہئے کہ کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اگر اس کے کلام کو کسی نیک احتمال پر محمول کیا جاسکتا ہو۔“

یعنی اگر اس کے کلام میں سے کوئی نیک پہلو نکل سکتا ہو تو کسی مفتی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے زبردستی کسی مسلمان کو کافر بنا ڈالے۔ نیز اسی درمختار میں ہے  
 اذا كان في المسئلة وجوه توجب الكفر و واحد يمنع فعلی المغتی  
 الميل لما يمنعہ۔ (7)

”اگر کسی مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب کفر ہوں اور ایک وجہ مانع تو مفتی کا فرض ہے کہ

وہ وجہ مانع کا خیال رکھے۔“

دیکھئے فقہائے اسلام نے کس قدر حزم و احتیاط اور مصالحت و رواداری کے ساتھ تکفیر سے علماء کو روکا ہے اور ان کی زبانوں پر تالے ڈالے ہیں مگر افسوس ہے کہ حنفی علماء پر کہ وہ تقلید کی زنجیروں کو توڑ کر اور اپنے امام سے منہ موڑ کر خدائی فوجدار بن بیٹھے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ اور وسیع القلسی ہے کہ آپ کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں۔ ملت مسلمہ پر آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے علمائے اسلام کے ذہنوں کو اس اصول کی طرف متوجہ کیا اور ان کو مرکز اتحاد کی طرف بلایا ممکن ہے کہ کوئی آپ کے قول لَا تُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ کا یہ مطلب سمجھے کہ اس سے تکفیر کا دروازہ قطعی طور پر مسدود ہو گیا اور اس رو سے تو کسی ایسے مسلمان کی بھی تکفیر نہیں ہو سکتی جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ کیونکہ بہر حال اسلام کے تمام فرقے اہل قبلہ ہیں اس غلط فہمی کا ازالہ خود متکلمین نے یہ کہہ کر کر دیا ہے کہ

من اهل القبلة هم الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين۔

”اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین پر اتفاق رکھتے ہوں۔“

یعنی جو ضروریات دین میں سے کسی امر دینی کا منکر ہو وہ اہل قبلہ نہیں اس بارے میں تکفیر کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ضروریات دین مثلاً نماز، روزہ، اور حج و زکوٰۃ وغیرہ میں سے کسی امر کا انکار موجب کفر ہے مگر فردی عقائد اور مسائل اجتہاد یہ میں تکفیر کی مطلق گنجائش نہیں کیونکہ اسلام آزادی فکر و اجتہاد کا حامی ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اصولی اختلاف کے مقابل میں بھی مصالحت و رواداری کا ثبوت دینا چاہئے۔ اصولی اختلاف کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایسے امر دین میں اختلاف کیا جائے جو اصول میں سے ہے اور کفر و اسلام کے درجہ میں ہے۔ مثلاً ختم نبوت کا انکار، خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار اور یا فرائض، پنجگانہ میں سے کسی کا انکار۔ اس قسم کا اختلاف ہی امت مسلمہ کی تباہی اور فرقہ بندی

کی بنیاد ہے اس کو روکنا اور اختلاف کرنے والوں کی مذمت کرنا تحفظ دین کے لئے ضروری اور لازمی ہے مگر ساتھ ہی اخلاق کی رعایت رکھنا اور تلخ کلامی و گرم گفتاری سے بچنا بھی شرط ہے۔ پس لَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ کے معنی یہ نہیں کہ کسی ملحد اور بے دین کی کسی حالت میں بھی تکفیر نہ کی جائے اہل قبلہ وہ ہے جو قطعیات اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو۔

ایمان کم و بیش نہیں ہوتا

جن لوگوں کے نزدیک اعمال ایمان کے اجزائے حقیقیہ ہیں جیسے معتزلہ و خوارج ان کے نزدیک ایمان اعمال کی زیادتی و نقصان کی مناسبت سے کم و بیش ہوتا ہے کیونکہ جزو کے نقصان سے کل کا نقصان ضروری ہے اور زیادتی جزو سے زیادتی مجموع بھی بدیہی ہے اور جن کے نزدیک اعمال ایمان کے اجزائے عرفیہ ہیں ان کے نزدیک اعمال کی زیادتی و نقصان سے اصل ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی یہی مذہب ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس کی تائید کتاب و سنت اور عقل سے ہوتی ہے۔ چنانچہ امام صاحب فقہ اکبر میں تحریر فرماتے ہیں۔

الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ۔

ایمان تصدیق و اقرار کا نام ہے اور اہل آسمان و زمین کا ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔ ہاں کامل ایمان میں یہ صفت ضروری ہے کہ جفاوت اعمال کمال ایمان میں فتور ہوگا اصل ایمان میں کچھ نقصان نہ ہوگا۔

ایمان میں کمی بیشی کی حقیقت

ایمان کی کمی بیشی بہ سبب زیادت و نقصان اعمال کے متعلق جتنا اختلاف ہے وہ صرف لفظی نزاع و اختلاف ہے اور وہ ہنی ہے اختلاف تفسیر ایمان پر۔ چنانچہ نووی شرح صحیح مسلم میں ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل اصفہانی شارح صحیح مسلم سے نقل کرتے ہیں۔

ایمان لغت میں عبارت ہے تصدیق سے پس اگر یہ معنی مراد لئے جائیں تو اس میں نقصان نہیں ہوتا کیونکہ نفس تصدیق کوئی قابل تجزی چیز نہیں ہے کہ اس میں کمال و نقصان نہ ہو اور عرف اہل شرع میں ایمان عبارت ہے۔ تصدیق اور اعمال سے اگر یہ تفسیر اختیار کی

جائے تو اس میں زیادتی و نقصان ہوگا (8)۔ یعنی لغوی اعتبار سے تو ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ظاہراً قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان زائد و ناقص ہوتا ہے اور یہی مذہب ہے اشاعرہ، معتزلہ اور حضرت امام شافعی وغیرہ کا۔ لیکن حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان زائد و ناقص نہیں ہوتا اور یہی مذہب ہے امام الحرمین کا جو علماء شافعیہ میں سے ہیں ان کے نزدیک ایمان نام ہے اس تصدیق کا جو مرتبہ یقین تک پہنچے اور یقین میں زیادتی و نقصان ممکن نہیں۔ تصدیق کرنے والا خواہ اطاعت کرے یا ارتکاب معاصی، دونوں حالتوں میں اس کی تصدیق بعینہ و یسوی کی ویسی باقی رہتی ہے اور اگر ایمان میں اعمال کو بھی داخل سمجھا جائے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ پس یہ اختلاف فرع ہے تفسیر ایمان کی۔ اہل سنت کو اس اختلاف میں نہیں پڑنا چاہئے اور یقین و اعتقاد رکھنا چاہئے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

کامل ایمان میں عمل بھی شریک ہے

اسلام نے عقائد کے تحت نوحقائق کو تسلیم کر لینے کی تلقین کی ہے وہ نوحقائق یہ ہیں۔

۱۔ وجود باری تعالیٰ کا اقرار و اعتراف۔

۲۔ ملائکہ کے وجود کا اعتراف۔

۳۔ کتب الہیہ کا اقرار۔

۴۔ تمام رسولوں کی تصدیق۔

۵۔ قیامت یعنی روز جزا کا یقین۔

۶۔ خدا کی طرف سے نیکی و بدی کا اندازہ کرنے کا یقین جس کو مسئلہ تقدیر کہتے ہیں یعنی

اس بات کو ماننا کہ خیر و شر دونوں خدا کی طرف سے ہیں۔

۷۔ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کا اقرار و یقین۔ یہ فرع ہے اعتقاد قیامت کی۔

۸۔ جنت کا یقین اور دوزخ کا اعتقاد۔ یعنی اس بات کو تسلیم کرنا کہ ان کا وجود خارج

میں موجود ہے۔

ان حقائق ایمانیہ کا خواہ تفصیلی طور پر یقین و اقرار کیا جائے یا مجمل طور پر مسلمان کو اختیار ہے۔ ان حقائق و عقائد میں سے دو عقیدے توحید و رسالت اصولی اور اہم عقائد ہیں ان دونوں حقائق کی تصدیق و اقرار سے بالطبع اور لازمی طور پر تمام حقائق آجاتے ہیں۔ چنانچہ ایمان کے دو رکن ہیں توحید اور رسالت۔ یہ دونوں رکن کلمہ شہادتین میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ شہادتین کے کلمے یہ ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اس کے بندے اور سچے رسول ہیں۔

ان دونوں عقائد کے سلسلہ میں لازمی طور پر ان باتوں کو ماننا چاہئے کہ خدا اپنی ذات و صفات میں ایک ہے۔ وہی سب کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ موت و حیات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی سب کا حاجت روا ہے۔ ہر حالت میں اس کو پکارنا چاہئے اور صرف اسی کی عبادت اور پرستش کرنی چاہئے۔ عقیدہ رسالت میں یہ امور بھی شامل ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہ ملے گی۔

**ایمان مفصل:** ایمان مفصل یہ ہے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

یعنی میں اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر نیکی و بدی کے اندازہ کرنے پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ یعنی دل سے ان حقائق ایمانیہ کو تسلیم کرتا ہوں۔

ان سات عقائد میں وہ تمام عقیدے داخل ہیں جو کتاب و سنت سے بالصراحت ثابت ہیں۔ ان کا ماننا بھی ضروری و لازمی ہے۔

**ایمان مجمل:** ایمان مجمل یہ ہے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبْلَتْ

## جَمِيعَ احْكَامِهِ

یعنی میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کئے۔

اگرچہ ایمان مجمل نجات اور اسلام کے فرض سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کافی ہے مگر ایمان مفصل اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام ان عقائد کو صرف تسلیم ہی کرا لینے پر اکتفا نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ ان حقائق کو صرف تسلیم کر لینا نجات کے لئے تو کافی ہے مگر ان کا مقصود، اثر، فائدہ اور کمال یہ ہے کہ ان حقائق کی مثالوں کو سامنے رکھ کر ان صفات کی تقلید کی جائے یعنی صفات الہیہ کو اپنے اندر عملی طور پر پیدا کرنا چاہئے۔ جس کے معنی ہی ہیں کہ ایمان کامل میں عمل بھی شریک ہے جیسا کہ ایمان مجمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس میں یہ عہد و اقرار شامل ہے کہ میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا اس کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ میں نے احکام الہیہ کو زبانی طور پر قبول کیا بلکہ عملی طور پر قبول کرنا بھی مراد ہے۔

## سچا اور کامل مومن کون ہے؟

وہ جو اپنے تمام ظاہری و باطنی اعضاء کے ساتھ خدا کے حضور میں جھک جائے اس کے تمام احکام پر دل و جان سے عمل کرے اور اپنی تمام زندگی کو شریعت اسلامیہ کے ماتحت کر دے۔ اسلام کی حقیقت اس وقت ہی کسی شخص میں متحقق ہو سکتی ہے جب کہ ایک مسلمان کا وجود محض خدا تعالیٰ کے لئے وقف ہو جائے اس کے ظاہری و باطنی قوی خدا کی راہ میں قانون اسلامی کے مطابق خرچ ہوں۔ ایک مومن اور مدعی اسلام کو نہ صرف زبانی اور اعتقادی طور پر بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا چاہئے کہ وہ خدا کو مانتا ہے اور اس کی زندگی اسلام کی عملی تفسیر ہے۔

اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لئے فنا  
ترک رضائے خویش پئے مرضی خدا

## ارکان اسلام میں نماز رکن اعظم ہے

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے۔

۱۔ اول اس بات کی شہادت دینا اور اقرار و یقین کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔

۲۔ پانچ وقت کی نماز پڑھنا۔

۳۔ زکوٰۃ دینا۔

۴۔ حج کرنا۔

۵۔ رمضان کے روزے رکھنا۔

ان چاروں ارکان میں سے نماز رکن اعظم ہے۔

اسلام نے عقائد کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ اہم نماز کو ٹھہرایا ہے اور اسکی فرضیت و اہمیت کو بار بار قرآن شریف میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں نماز کی ادائیگی کی تاکیدات سو جگہ آئی ہے۔ اسلام نے اور بھی مختلف عبادتوں کا حکم دیا ہے لیکن ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم عبادت نماز ہے کیونکہ اس میں عبودیت کی پوری شان بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی ہے۔ یعنی جس میں ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان اور ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء جسمانی اپنے اپنے طبعی فرائض کو پورے اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ بجالائیں اور ہمارے تمام ظاہری و باطنی اعضاء شریک عبادت ہوں چونکہ یہ شان عبودیت چاروں ارکان میں سے صرف نماز میں پائی جاتی ہے اس لئے نماز رکن اعظم ہے۔

دوسری دلیل

عبادت کا منشاء جسم و دل کی صفائی اور خدا تعالیٰ کا قرب اور حضوری ہے اور اس منشا کو نماز ہی بدرجہ احسن و اکمل پورا کرتی ہے اس سے قلبی تسکین اور روحانی تقویت تو حاصل ہوتی



ہی ہے علاوہ ازیں اس سے صفائی قلب، روح کی روشنی اور حواس کی یک سوئی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سامنے عبادت کے تمام طریقے ہیچ ہیں۔ نماز کا کوئی حصہ اور کوئی رکن دینی و دنیوی اور مادی و روحانی منافع سے خالی نہیں۔ چنانچہ پاکیزگی اخلاق، صفائی قلب، روشنی روح، تعمیل حکم الہی، درستی افعال، خلوص و نیک نیتی، پابندی اوقات، صحت جسمانی، اطاعت امیر اور قومی زندگی وغیرہ تمام مادی و روحانی منافع نماز کے اندر مضمر ہیں۔ نماز میں ایک مسلمان خالص توحیدی رنگ میں اپنے معبود حقیقی کی پرستش کرتا اور فرائض عبدیت بجا لاتا ہے۔ وہ اس کی عبادت میں محو ہو جاتا ہے اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر اس کی حمد و ثنا اور عرض و معروض بھی کرتا ہے۔ جھکتا بھی ہے، جنبہ سائی بھی کرتا ہے، ادب و تہذیب سے اس کے سامنے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ الغرض عبادت و حضوری اور عجز و نیاز کی کوئی ایسی صورت ہے جو نماز میں نہیں پائی جاتی۔

دیکھئے اظہار تذلل اور عبادت کی صرف چار ہی صورتیں ہیں:

۱۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔

۲۔ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا۔

۳۔ سجدے میں سر رکھ دینا۔

۴۔ دوزانوں بیٹھنا۔

اور یہی چار صورتیں نماز کے ارکان ہیں۔

تیسری دلیل: نماز کو اولیت کا درجہ حاصل ہے

نماز کے رکن اعظم ہونے کے دلائل میں تیسری دلیل یہ ہے کہ اسلامی عبادتوں میں نماز کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی اور معراج کی نسبت طبری کا قول ہے کہ ابتدائے وحی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوا اور جب ہی سے نماز بھی فرض ہوئی۔ نماز کے بعد مالی عبادات میں زکوٰۃ کو اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے اور حج بھی اس کے بعد۔ الغرض عبادات اسلامیہ میں نماز کو اولیت کا درجہ حاصل

ہے۔ چنانچہ ردالمحتار کے حاشیہ پر ہے۔

هِيَ فَرَضٌ عَيْنٌ عَلَى مُكَلَّفٍ بِالْإِجْمَاعِ فَرِضَتْ فِي الْإِسْرَاءِ۔ (9)  
 ”نماز ہر مکلف پر فرض عین ہے بالاجماع اور یہ فرض ہوئی ہے شب معراج میں۔“

چوتھی دلیل: نماز کے حقائق ثلاثہ

نماز تین حقائق کا مجموعہ ہے۔ حقیقت قرآن، حقیقت کعبہ اور حقیقت صلوٰۃ یعنی تلاوت قرآن جہت کعبہ اور نماز کے ظاہری و باطنی اعمال و ارکان۔ نماز کے یہ تینوں اجزاء اپنی جگہ اہم ہیں۔ تلاوت قرآن کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ۔ ز

”جو کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے اس کو چاہئے کہ قرآن شریف پڑھے۔“

گویا تلاوت قرآن خدائے قدوس کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ تلاوت قرآن بجائے خود ایک اعلیٰ و افضل عبادت ہے۔ مگر جو تلاوت نماز میں ہوتی ہے وہ نور علی نور ہے اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں تلاوت قرآن زیادہ بہتر ہے بہ نسبت خارج نماز کے پھر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے اور سورہ فاتحہ مفتاح قرآن اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ گویا ایک نمازی اپنی نمازوں میں دن رات میں ۴۴ مرتبہ تمام قرآن کی تلاوت کرتا اور اسلامی تعلیمات پر عبور حاصل کرتا ہے۔

حقیقت کعبہ کی شرف و فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ کعبۃ اللہ خدا کا گھر اور عاشقان الہی کا مرکز عشق ہے۔ باقی رہی حقیقت صلوٰۃ اسکے متعلق حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ۔

”بندہ کو اپنے رب کا سب سے زیادہ تقرب نماز کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔“

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں خدا اور بندہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یعنی مصلیٰ کی چشم بصیرت محبوب حقیقی کے جمال جہاں آراء کا بے حجاب مشاہدہ کرتی ہے۔

## پانچویں دلیل: نماز حج اکبر ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے مومن بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز و محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی خدا کا عشق و محبت ان کی پہچان و علامت ہے۔ ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبادات کا منشاء یہ ہے کہ عبد و معبود کا تعلق استوار ہو جائے اور عشق الہی کا جذبہ سینوں میں موجزن ہو جائے۔ سب جانتے ہیں کہ عاشق صادق کے لئے تین چیزیں اظہار عشق اور جوش فداکاری میں ہمد و معاون ہوتی ہیں جو عاشقان الہی کو مست و بے خود بنا دیتی ہیں۔

اول معشوق کا بے پردہ دیدار ہونا۔ دوسرا محبوب سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر آنا اور تیسرا محبوب کا توجہ خصوصی و قرب حضوری سے سرفراز کرنا۔

یہی تین چیزیں نمازی کو حاصل ہوتی ہیں گویا نماز عشق حقیقی کے جذبات براہیختہ کرنے حسن حقیقی کی بہار لوٹنے، شاہد مقصود سے ہمکنار ہونے اور دینی و دنیوی فوز و فلاح حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

پھر رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے یعنی مراتب قرب و شہود نماز کی حالت میں بدرجہ اتم و اکمل حاصل ہوتے ہیں اور گویا نمازی مادی دنیا سے عروج کر کے نشاۃ اخروی میں پہنچ جاتا ہے اور اس طرح اس کو دن میں پانچ مرتبہ معراج ہوتی ہے۔ چونکہ عبادت صلوٰۃ کا طریقہ جامع کمالات صوری و معنوی ہے اس میں شان عبودیت باقی عبادتوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اور اس میں مراتب قرب و حضور بدرجہ اتم و اکمل حاصل ہوتے ہیں اس لئے اسلام کے چاروں ارکان میں نماز رکن اعظم ہے جس کی تائید قرآن و حدیث اقوال صحابہ و ائمہ مجتہدین اور عقل و فطرت سے بھی ہوتی ہے۔

نماز کی ادائیگی سے چاروں ارکان کی ادائیگی ہو جاتی ہے

جاننا چاہیے کہ نماز اصل جمیع عبادات بدنی سے ہے اس لئے کہ وہ طہارت، استقبال، قبلہ، ذکر و تسبیح، تہلیل و شہادتین اور درود و دعا پر مشتمل ہے اور یہی اصول عبادات زماں ہیں۔

وہ عبادت صوم کی حقیقت بھی اپنے اندر رکھتی ہے اس طرح کہ صوم سے مراد ہے خواہشات نفسانی کو روک لینا اور یہ بات بہ نسبت صوم نماز میں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ نماز کی روح یہ ہے کہ قلب و روح اور تمام اعضاء کو مشتبہات سے روک کر خدا کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔ اگر سچ پوچھو تو عبادت صوم میں یہ معنی متحقق نہیں ہوئے اور نماز میں کسی نہ کسی حد تک ضرور متحقق ہو جاتے ہیں۔ نیز زکوٰۃ کے معنوں میں بھی مشتمل ہے کیونکہ برائے ستر عورت و تحصیل آلات طہارت مال کا خرچ کرنا اس میں واجب ہے پھر نماز کے وقت کو اپنے منافع سے خالی رکھنا ایسا ہے جیسے مال کو مصارف الہی میں خرچ کرنا۔ اسی طرح نماز حج کے معنوں میں بھی مشتمل ہے کیونکہ اس میں ارکان حج کی شان نمایاں ہے۔ چنانچہ تکبیر تحریمہ بجائے احرام، استقبال قبلہ مانند طواف، قیام بصورت و قوف عرفات اور رکوع سجود و دیگر حرکات و سکنات مثل سعی صفا و مروہ ہیں۔

الغرض چونکہ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے جو اپنے اندر چاروں ارکان کی کسی نہ کسی حد تک ظاہری و باطنی شان رکھتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ نماز کی ادائیگی سے چاروں ارکان کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور ایک نمازی اس مہتمم بالشان عبادت کے ذریعہ روزہ و حج اور زکوٰۃ کا بھی ثواب حاصل کر لیتا ہے۔

### شب معراج میں نماز کی مشروعیت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ہرقل کی حدیث بیان کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے نماز صدقہ اور پرہیزگاری کا حکم دیا۔ (10)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینہ کو چاک کیا پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک سونے کا طشت حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا پھر

10- صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ج 1 صفحہ 73۔ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت لبنان۔ 11- ایضاً

سینہ کو بند کر دیا اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان پر لے گئے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے آسمان اول کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دے اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد ﷺ ہیں پھر داروغہ نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں۔ پس اس نے دروازہ کھول دیا یکا یک ہم آسمان دنیا پر پہنچے وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے نبی صالح مرحبا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آدم ہیں اور ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ داہنی طرف والے بہشتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی۔ جب وہ اپنی داہنی طرف نظر کرتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو رو دیتے ہیں اس طرح تمام آسمانوں کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ (11)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا پھر اللہ نے میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کیں اور آپ بسواری براق واپس ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر کون سی عبادت فرض ہوئی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دن رات میں پچاس نمازیں فرض ہوئیں ہیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پچاس وقت کی نماز آپ کی امت ادا نہ کر سکے گی۔ خدا کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل سے میرا سابقہ پڑا ہے اس لئے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جا کر اپنی امت کے لئے تخفیف عبادت کی درخواست کیجئے۔ حضور ﷺ نے ایسا ہی کیا اور اس وقت کی نمازیں معاف ہو گئیں اور واپسی میں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کرانے کے لئے واپس جانے کی درخواست کی۔ اس طرح حضور ﷺ کئی مرتبہ تخفیف کرانے کے لئے جناب الہی میں پہنچے حتیٰ کہ صرف پانچ وقت کی نمازیں باقی رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ کی امت روزانہ پانچ وقت کی نماز بھی ادا نہ کر سکے گی۔ حضور

ﷺ نے فرمایا اب مجھے بار بار جاتے اور تخفیف کراتے شرم آتی ہے اب میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں اور اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ (12)

اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو کر چلے تو بحکم خدا کسی پکارنے والے نے خدا کی طرف سے پکار کر کہا کہ ہم نے اپنا فرض اپنے بندوں پر جاری کیا اور اپنے بندوں سے نماز میں تخفیف کی لیکن ہر ایک وقت کی نماز کا ثواب بموجب قول مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثَالِهَا کے دس وقت کی نماز کے برابر اللہ پاک نے مقرر فرما دیا ہے۔ اس طرح پچاس وقت کی نماز کا ثواب پانچ وقت کی نماز میں ہو گیا ہے۔ چونکہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی جو خدائے تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک رسم نیاز تھی اس لئے حکیم الشعراء حضرت امجد حیدر آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

### فرزندان توحید کی معراج

دلبر کے لئے ادائے نماز اچھی ہے  
عاشق کے لئے رسم نیاز اچھی ہے  
موقعہ ہے یہی تو اک قدم لینے کا  
ہر ایک عبادت سے نماز اچھی ہے  
تخلیق کا راز عبودیت میں ڈھونڈو  
ناز اپنا نیاز کی صفت میں ڈھونڈو  
اسرار عبودیت کا منظر ہے نماز  
آئینہ اسلام کا جوہر ہے نماز  
اسلام ہے گر لفظ تو معنی ہے نماز  
ہاں قربت مولیٰ کا وسیلہ ہے نماز

یہ محض شاعرانہ تخیل ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ نماز فرزندان توحید کی معراج ہے اور عروج و ارتقاء کی پہلی منزل ہے۔ فرزندان توحید کو غور کرنا چاہئے کہ رسول اللہ ﷺ کو

12۔ صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ ج 1 صفحہ 74۔ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت لبنان۔

صرف دو مرتبہ معراج ہوئی تھی لیکن آپ کے طفیل و تصدق سے آپ کی امت کے نمازی دن میں پانچ مرتبہ معراج حاصل کرتے ہیں اور پچاس وقت کی نمازوں کا ثواب پالیتے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی مسلمان اس عبادت کی پابندی نہ کرے تو وہ بہت نادان اور بد قسمت ہے۔ اب نماز کے ظاہری ارکان و افعال کی فضیلت و حکمت ملاحظہ فرمائیے اور دیکھئے کہ اسلام نے نماز میں کیسے کیسے مادی و روحانی منافع رکھے ہیں۔ ہم نماز کے فضائل، مصالِح عقلیہ و نقلیہ اور اس کے متعلقات کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

## نماز کے متعلقات

### اذان

اذان کیا ہے؟ لوگوں کو عبادت الہی اور فرائض عبدیت بجالانے کے لئے بلانے کا ایک طریقہ تمام مذاہب نے اپنے پیروؤں کو اپنے معبود کی عبادت و پرستش کے لئے بلانے اور جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ رکھا ہے مگر اس سلسلہ میں وہ ناقوس اور گھنٹہ وغیرہ بجانے سے زیادہ بہتر طریقہ وضع نہ کر سکے۔ ناقوس اور گھنٹہ کی لغویت اور غیر افادی حیثیت ہر شخص باندنی تامل معلوم کر سکتا ہے۔ پس ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اسلام نے پرستش و عبادت کے لئے جمع کرنے کا جو طریقہ مقرر کیا ہے وہی روحانیت خیز، معقول اور بہتر و مناسب ہے۔ اسلام کا کس قدر کمال اور روح پروری ہے کہ اس نے اس منادی کو بجائے خود ایک عبادت بنا دیا ہے اور اس کے وہ پیارے اور دلکش سماعت نواز اور محبوب ترنم الفاظ مقرر کئے ہیں کہ اس کے ایک لفظ کا مقابلہ دنیا کے تمام مذاہب بھی نہیں کر سکتے۔

اصلی نماز شروع ہونے اور فرزند ان توحید کو سر نیاز جھکانے سے پہلے ایک اللہ کا منادی جس کو مؤذن کہتے ہیں مسجد کے کسی بلند مقام پر کھڑا ہو کر نہایت بلند آواز سے کہتا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اور بزرگ ہے۔ وہ دو مرتبہ اس کی تکرار کرنا اور خالق کون و مکان شہنشاہ ارض و سما اور سلطان دو جہاں کی عظمت و کبریائی کی شہادت دیتا ہے جس کی عبادت کے لئے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس کے بعد کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ

تکرار سے بتا کید اعلان کرتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں جس کے سامنے انسان کو سرانگندہ ہونا پڑے۔ وہ خدائے واحد و یکتا جس کے سامنے ہم سب کو سرعبودیت جھکانا ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک و سہیم اور ہمسر نہیں اور اس کی کوئی نظیر و مثال نہیں وہ تمام صفات حسنہ سے متصف اور ہر طرح کی خیر و برکت کا مظہر و مصدر ہے اور سب کا خالق و معبود ہے۔ پھر دو مرتبہ کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ محمد اس کے رسول ہیں یعنی میں اپنے ہادی صادق اور روحانی دنیا کے پیشوائے اعظم محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں جس کی ہدایت و رہنمائی سے ہم سب کو راہ ہدایت ملی اور بھٹکی ہوئی انسانیت آباد ہوئی۔

یہاں تک مؤذن خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی تہمید و تقدیس اور اس کے رسول کی تعریف و توصیف بلند آواز سے بیان کرتا اور فضائے آسمانی میں توحید و رسالت کی منادی کرتا ہے کیونکہ یہی منادی اسلام و عبادات اسلامیہ کا عنوان اور ہدایت و سعادت کا آغاز ہے۔

اس کے بعد وہ دائیں طرف متوجہ ہو کر فرزند ان توحید کو صلائے عام دیتا ہے حَيُّ عَلَى الصَّلٰوة۔ لوگو! نماز کی طرف آؤ جس خدائے قدوس کی میں نے حمد و ثناء بیان کی ہے اس کے سامنے اپنا اپنا سرعبودیت جھکاؤ تاکہ وہ تمہیں دین و دنیا میں سر بلند و کامران فرمائے۔ اس کار خیر اور اس فرض عبدیت کی مزید ترغیب و تحریص دلانے اور روحانی جذبات کو ابھارنے کے لئے کہتا ہے حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ اللہ والو! اپنی بہتری اور فلاح کی طرف آؤ۔ یعنی یہ نماز جس کی طرف میں ان کو بلا رہا ہوں وہ انہیں کی فلاح و بہبود کا باعث ہے۔ اس میں خود انہیں کا بھلا ہے۔ اس لئے نماز کی ادائیگی میں مسلمانوں کو غفلت و تساہل نہیں کرنا چاہئے۔ عبد و معبود کا تعلق اور خالق و مخلوق کے باہمی راز و نیاز اس قابل نہیں کہ ان کو ایک منٹ کے لئے بھی فراموش کیا جائے جو شخص اپنے فرض عبدیت سے غافل رہا وہ روحانی موت مرا۔

آخر میں پھر وہ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ کر اپنے خالق حقیقی اور



حاکم تحقیق کی وحدت و کبریائی کا اعلان کرتا ہے اور اس بلند جگہ سے اتر آتا ہے اور اس دعوت و منادی سے فارغ ہو کر یوں دعا کرتا ہے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اِنِّ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَرَزَقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔

”اے اللہ اے اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ پر فائز فرما اور آپ کو منصب عظیم اور فضیلت سے نواز۔ نیز آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ قیامت کے روز ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمایا ہے شک تو وعدہ خلائی نہیں فرماتا۔“

انصاف شرط ہے کہ کیا اس سے بہتر بھی کسی مذہب میں عبادت کے لئے بلانے کا طریقہ اذان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

### اذان کی ایک مادی حکمت

اذان کا روحانی فائدہ اور اس کی روح پرور حکمت کا آپ نے کسی قدر اندازہ کر لیا ہوگا۔ اب اس کا ایک مادی پہلو بھی دیکھ لیجئے۔ اس دعوت و منادی میں لوگوں کو اس بات کا اشتہار دیا جاتا ہے کہ لوگو! اپنی بہتری و فلاح کی طرف آؤ۔ یعنی عبادت کرنا معبود کو نہیں بلکہ عابد ہی کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس سے ساجد ہی مستفید ہوتا ہے۔ وہ بہتری و فلاح کیا ہے جس سے استفادہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ منافع جات تو بیشمار ہیں ہم یہاں صرف ایک مادی نفع بیان کرنا چاہتے ہیں۔

اس دعوت و منادی میں اعلائے کلمۃ الحق، طاعت و عبادت اور قومی نظم و اتحاد کے مقصد عظیم کے لئے لوگوں کو اپنا سب کام چھوڑ کر جمع ہو جانے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ ان کو اس بات کا عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ ہر مذہبی اور قومی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہا کریں۔ چنانچہ اذان کے متعلق ان کو باری تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لِّلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُوا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

”اے مسلمانوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو خدا کے ذکر کیلئے لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔“ (جمعہ)

کون نہیں جانتا کہ ہماری فلاح و بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے ذاتی و مادی فائدہ کو اجتماعی و روحانی فائدہ پر قربان کرنا دعوت قومی پر لبیک کہنا سیکھیں۔ قومی و مذہبی مقصد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں اور حق و حریت کی راہ میں جانی و مالی قربانی کا ثبوت دیں۔ دنیا میں وہی قوم زندہ کہی جاسکتی ہے جو ہر معاملہ میں ذاتی فائدہ پر قومی فائدہ کو ترجیح دے اور مذہبی احکام کی بجا آوری میں سرگرم عمل رہے اور مردہ قوم وہی ہے جو مذہبی احکام اور قومی مفاد کی پرواہ نہ کرے۔ الغرض مسلمان چونکہ اللہ کے سپاہی اور مجاہد فی سبیل اللہ ہیں وہ دنیا میں آئے ہی اس لئے ہیں کہ خدا کی حکومت و بادشاہی قائم کریں اس لئے اذان ان کے لئے بگل کے قائم مقام ہے۔ دن کی پانچ وقت کی اذان مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنا دنیاوی کاروبار چھوڑ کر ایک مقررہ مقام پر جمع ہو جائیں اور اپنے خالق و معبود کے سامنے سر نیاز جھکائیں۔

### تکبیر

جب اذان کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور سنتوں سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو نماز باجماعت شروع کرنے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے۔ اذان اس لئے ہوتی ہے کہ باہر اور آس پاس کے تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں اور تکبیر اس لئے کہی جاتی ہے کہ جس غرض سے وہ جمع ہوئے ہیں اس خاص کام کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دربار خداوندی میں بخلوص قلب حاضری دیں۔ تکبیر کے ہوتے ہی لوگ صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تکبیر کے الفاظ وہی ہوتے ہیں جو اذان کے ہیں۔ اس میں صرف یہ الفاظ زائد ہوتے ہیں قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ یعنی لوگو! نماز قائم ہو گئی ہے۔ یہ قرآنی الفاظ کی تعمیل ہے۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ یعنی نماز قائم کرو گویا مکبر کہتا ہے کہ مسلمانوں! اس حکم خداوندی کی تعمیل کا وقت آ گیا ہے۔

وَأَمَّا كَعْوَانَةُ الثَّرَكِيِّينَ ۝ (بقرة) ”جھکوجھکنے والوں کے ساتھ“۔

صفوں کی درستی اور ترتیب

صفوں کی درستی اور ترتیب کے لئے رسول اللہ ﷺ نے سختی کے ساتھ احکام دیے ہیں اور مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ وہ صفوں کو سیدھا رکھیں بل کر کھڑے ہوں۔

چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اسْتَوْوَا وَلَا تَخْتَلِفُوا

فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَخْلَامَ وَالنَّهْيَ ثُمَّ

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ مسلم، ابوداؤد (13)

جماعت کی نماز کے وقت رسول اللہ ﷺ ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے کہ سیدھے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ رہو تا کہ تمہارے دلوں کا اختلاف جاتا رہے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو بہت سمجھدار ہیں پھر وہ جو ان سے قریب ہوں اور پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔

ایک اور حدیث اس باب میں آئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ خدا کے بندو! صفیں سیدھی اور برابر کرو ورنہ خدا تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ (14)

اس سے زیادہ صفوں کی درستی و ترتیب کی اور کیا تاکید ہوگی۔ صفوں کی درستی و ترتیب پر جو حضور ﷺ نے اتنا زور دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو فوجی قواعد سکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان اللہ والوں کی ظاہری اور باطنی اختلاف اور اختلاف دور کرنے کے بعد پوری یکجہتی و یک رنگی حاصل ہو جائے اور دیکھنے والوں پر اس یک رنگی اور نظم و ضبط کی ہیبت طاری ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ سپاہیانہ اسپرٹ زندگی کا جوہر ہے جس کے فنا ہونے کے بعد مسلمان

13۔ مسلم شریف بشرح نووی کتاب الصلوة جلد 4 صفحہ 129 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔

14۔ مسلم شریف بشرح نووی کتاب الصلوة جلد 4 صفحہ 131 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان۔

خاک کے ذروں اور جھاڑو کے تنکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان صحیح معنوں میں مجاہد اور سپاہی بن جائیں ان کی ہر بات میں یکجہتی ہو اور ان میں پورا پورا نظم و ضبط ہو۔ اس جوہر کی وہ اپنی عبادت میں رعایت رکھتا ہے۔ تکبیر اور صفوں کی درستی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم مذہبی اور قومی ضرورتوں اور اسلام کے تحفظ و اشاعت کے وقت حکم ملتے ہی ایک آواز پر سب کے سب ایک تربیت یافتہ فوج کی طرح صف بستہ ہو جایا کریں اور دینی مقصد کے حصول کے لئے سیسہ کی دیوار بن جایا کریں۔

## امامت و جماعت

### امامت اور اطاعت امیر

اسلام کی فطرت نظام اجتماع ہے یعنی اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم اور ایک جان بن کر رہیں اور نظر و اتحاد کا لازمی نتیجہ قوت و غلبہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو دنیا میں غالب و حکمران بنا کر رکھنا چاہتا ہے اس لئے نہیں کہ مسلمان اپنے غلبہ و استیلا سے دنیا کی کمزور قوموں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، ان کی جائیداد و املاک پر قبضہ کر لیں، ان کو اپنا محکوم و غلام بنا لیں اور ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر اپنے خزانوں میں بھر لیں بلکہ اس لئے کہ وہ دنیا میں سچائی و حقیقت کے گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں اس کے اعلان و اظہار کے لئے اسلام مسلمانوں کو مضبوط و بے باک بنانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں سچائی و حقیقت کا اعلان کرتے ہیں اسی لئے وہ مسلمانوں کے لئے قوت و غلبہ چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ (حج: 41)

”اگر ہم ان کو زمین پر حکمران کریں تو اقامت صلوٰۃ کریں۔“

گویا اسلام اپنی حکومت و خلافت اور مسلمانوں کا قوت و غلبہ فخر و مباہات کے لئے کمزوروں اور بے کسوں کے حقوق غصب کرنے، کسی پر ظلم و ستم توڑنے اور کسی کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے نہیں بلکہ دنیا سے ظلم و ستم اور فسق و فجور دور کرنے کے لئے چاہتا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ بقائے قوم کا راز اجتماع و اتحاد میں مضمر ہے۔ یہی قوموں کی ترقی و کامیابی کا باعث ہے۔ اسلام نے اس چیز کو عقائد میں ”توحید“ سے عبادات میں نماز باجماعت سے معاشرت میں کھانے پینے کے آداب سے مضبوط اور مستحکم کرنا چاہا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری بقا نظام اجتماع ہے سب متحد اور متفق ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔

اسلام نے عبادات میں بھی اجتماعیت کو پیدا کرنا چاہا ہے اور مسلمانوں کے ہر معاملہ میں اتحاد عمل چاہتا ہے وہ اجتماعی زندگی کو حیات اور انفرادی زندگی کو موت بتلاتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ جس قوم میں اجتماعی زندگی نہ ہو وہ قوم مردوں سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر تین آدمی بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہئے کہ اپنے میں سے ایک کو اپنا امیر قافلہ بنا لیں اور باقی دو اسے اپنا سردار سمجھ کر اس کی اطاعت کریں۔ یعنی اسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ صرف تین مسلمان حالت سفر میں بھی امام کے بغیر رہیں۔ مگر ہماری حالت زار پر افسوس کہ ہم احکام اسلامی سے اس قدر بے بہرہ اور روگرداں ہیں کہ آج ساری دنیا کے مسلمان بغیر امام کے زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ اگرچہ نمازیں پڑھتے ہیں اور کھون رات ایک امام کی متابعت کرتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ ہمیں امامت سے کیا سبق ملتا ہے۔

امامت کیا ہے؟

یہ کہ اپنے میں سے ایک بہترین اور قابل آدمی کو منتخب کر کے اپنا مذہبی پیشوا بنا لیا جائے اور پھر سچے دل سے اس کی پیروی و تقلید کی جائے یہ مذہبی و قومی زندگی کی روح ہے۔ حالت نماز میں امام کے احکام و حرکات کی پابندی و پیروی سے درحقیقت مسلمانوں کو اتحاد عمل، اتحاد خیال اور اطاعت امیر کا عادی بنایا جاتا ہے۔ امام کو یا اس اللہ والی جماعت کا کمان دار افسر ہوتا ہے اور یہ امارت و امامت مسلمانوں کی ترقی و کامیابی کی بنیادی اینٹ ہے۔

چونکہ امام مسلمانوں کا سردار و پیشوا ہوتا ہے اس لئے امام کے انتخاب و تقرر کے لئے یہ شرائط قرار دی گئی ہیں کہ وہ سب سے بہتر صحیح طور پر قرآن پڑھنے والا، دینی معاملات و مسائل کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اور جاننے والا، شریف النسب اور زاہد و متقی ہو۔ اسلام کہتا

ہے کہ امانت کے لئے بہترین شخص کا انتخاب ہو اور پھر سچے دل سے اور پورے طور پر اس کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ اور جماعتی زندگی کی کامیابی و ترقی کا راز اسی انتخاب امیر اور اتحاد عمل میں پوشیدہ ہے۔

اسلام تو چاہتا ہے کہ مسلمان نمازی جماعت کے لئے بہترین شخص کا انتخاب کریں مگر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مذکورہ بالا شرائط کی سرے سے پابندی ہی نہیں کرتے اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی مسجدوں میں ساری دنیا کے اپانچ، عہدی، جاہل اور کندہ نائراش بھرے پڑے ہیں جو نہ دین کو جانتے ہیں اور نہ دنیا کو

او خودیشتن گم است کرا رہبری کند

یہی توجہ ہے کہ ہماری نمازیں بے جان و بے اثر اور ہماری مسجدیں ہدایت و رہبری سے محروم ہیں۔

اطاعت امیر اور مسلمانوں کا عروج و زوال

دنیا آج تک حیران و ششدر ہے اور اس چیز کو اسلام کا ایک محیر العقول کارنامہ و معجزہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام نے عرب جیسی وحشی اور بکھری ہوئی قوم کو ایک اقل قلیل مدت میں خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچا دیا اور اونٹوں کی نکیل کی جگہ زمام سلطنت ان کے ہاتھ میں دے دی۔ غیروں نے تو خیر اس پر حیران ہونا ہی تھا کہ وہ اسلام کی فطرت و تاثیر کا اندازہ نہیں لگا سکتے مگر ہمیں حیرت تو مسلمانوں پر ہے کہ انہوں نے آج تک اس بات کا کھوج نہیں لگایا کہ آخر یہ کیا بات تھی کہ مسلمان کچھ سے کچھ بن گئے اور عرب کی خاک نشین قوم کو صاحب تخت و تاجین کس چیز نے بنایا۔

مسلمانوں کو بگوش ہوش سن لینا چاہئے کہ عہد اول کے مسلمانوں کی ترقی کا راز صرف دو باتوں میں مضمر تھا ان میں صرف دو وصف تھے۔

ایک تو رسول اللہ ﷺ سے محبت و شیفتگی۔

دوسرا نظم و اتحاد اور اطاعت امیر۔

اگر ان میں یہ دو باتیں نہ ہوتیں تو وہ عرب سے ایک انج بھی آگے نہ بڑھتے۔ آج ہم

کیوں ذلیل و پسماندہ اور غلام و محکوم ہیں؟ اس نے کہ ہم میں یہ دو باتیں نہیں حالانکہ یہی سبق ہمیں پانچ وقت کی نماز باجماعت سے ملتا ہے۔

جب حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھتے اور ایک امام کی حرکت پر متحرک ہوتے ہوئے دیکھا تو بے اختیار بول اٹھے ”خدا کی قسم یہ قوم دنیا میں کچھ کر کے رہے گی۔“ ان کی نگاہ حقیقت نے دیکھ لیا تھا کہ جس قوم کو آج اس طرح مذہبی عبادت کے ضمن میں یوں لظم و اتحاد، محبت و یکجہتی اور اطاعت امیر کا سبق دیا جا رہا ہے وہ اپنی قوت و غلبہ سے ایک نہ ایک دن ضرور شیاطین کے تحت اوندھے اور قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو تہہ و بالا کر دے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ انہی مقدس نمازیوں نے مسجدوں سے نکل کر ساری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ کونے کونے میں پیغام حق پہنچا دیا اور دنیا میں خدا کی حکومت قائم کر دی۔

جماعت کی تاکید

سپاہیانہ قواعد کی مشق اور ایک افسر کے حکم پر بیک وقت سینکڑوں آدمیوں کی اپنے جسم کو یکساں طور پر حرکت دینے کی عادت قومی اور جماعتی زندگی کے لئے بے حد ضروری چیزیں ہیں اگرچہ عبادت الہی سے مقصود ذکر الہی، قلبی سکون اور روحانی تقویت ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید سے مقصود ایک حد تک سپاہیانہ قواعد اور قومی زندگی بھی ہے۔ قومی زندگی کی اہمیت اور سپاہیانہ قواعد کی مشق ایک مسلمان کو عبادت الہی کے ضمن میں روزانہ پانچ مرتبہ ہو جاتی ہے ورنہ نماز تو ہم اپنے گھر میں یا گھر سے باہر جگہ اکیلے و تنہا پڑھ سکتے ہیں لیکن ہمیں جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جماعتی احساس اور اخوت اسلامیہ کے جذبات پیدا ہو جائیں اور ہم منظم و متحد ہو کر رہیں۔ دیکھئے اسلام نے جماعت کی کس قدر تاکید کی ہے۔

پہلا حکم تو یہ ہے

وَإِذَا كُنْتُمْ لِلدُّعَاءِ فَاكْبُرُوا (بقرہ)

”رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔“

بخاری شریف میں ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ  
دَرَجَةً۔ (15)

”ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ثواب میں ستائیس درجے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔“  
بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں اور اس کے لئے اذان کہی جائے پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ (16)

غور کیجئے حضور ﷺ نے جماعت بندی کی اس قدر تاکید کی ہے کہ آپ جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے گھروں میں آگ لگا دینے کو پسند فرماتے تھے۔ یہ اسلام کی قوت اتحاد اور اجتماعیت کی کتنی زبردست دلیل ہے۔ یہ اخوت و اتحاد نماز باجماعت کی خصوصیات میں سے ہے جس کو روحانی اثر نے اس قدر قوی اور مؤثر کیا ہے کہ نصف صدی ہی میں اس شیرازہ بندی اور اخوت و اتحاد کو اسلام نے تمام دنیا میں پھیلا دیا۔

اتحاد و اجتماع کا سب سے بڑا فائدہ

یہ نہ سمجھئے کہ نماز باجماعت سے مقصود محض اخوت و اتحاد ہی ہے بلکہ اس کے علاوہ سب سے بڑا فائدہ یہ بھی مد نظر ہے کہ اس طرح نمازی مسجد میں بالکل یکسوئی اور دلجمعی کے ساتھ یاد خدا میں مشغول ہو سکتے ہیں اور اگر یہ صورت حال ہو کہ مسجد میں تمام لوگ جمع ہو کر الگ الگ اپنی نمازیں پڑھیں تو کبھی وہ یکسوئی و دلجمعی حاصل نہیں ہو سکتی جو جماعت کی حالت میں



ہوتی ہے۔ خاموشی اور اطمینان گھر میں بھی میسر آ سکتا ہے لیکن جو اطمینان و سکون مسجد میں حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور حاصل ہونا ناممکن ہے کیونکہ مسجد میں یہ مرکز خیال ہوتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے۔

نظام عالم پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز اور ہر فعل کا وجود بغیر توسط و اعتدال کے نہیں ہو سکتا۔ اشیاء عالم میں اگر اعتدال و توسط نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو جائے اور کوئی چیز بھی وجہ پذیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اعتدال ہر چیز میں منظور ہے اور اشیاء میں اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ ان میں اتحاد و وحدت کا رابطہ قائم ہو۔ اس وحدت و اتحاد کو خدا تعالیٰ نے عبادت نماز میں جماعت و امامت کی شکل میں نمودار کیا ہے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رہے اور ان کا قومی شیرازہ منتشر نہ ہو پس اگر مسلمان نماز باجماعت سے اتحاد و یکجہتی اور شیرازہ بندی کا سبق نہ لیں تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے جماعت امامت کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا اور ان کی نمازیں محض رکمی نمازیں ہیں۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ نماز کی اصلی اور حقیقی غرض اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور نماز باجماعت کی اصلی غرض یہی ہے کہ مسلمان قومی و جماعتی زندگی بسر کریں اور باہم منظم و متحد رہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں اپنی عبادت کے ذریعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خدا تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو اور ہماری ظاہری و باطنی قوتیں للہی رنگ اختیار کریں وہاں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خدا کے بندوں کی محبت و ہمدردی پیدا ہو جائے۔

نماز باجماعت ہمیں یہ نکتہ سمجھاتی ہے کہ کسی قوم کی ترقی اور عروج اس کی تہذیب نفس اور تنظیم میں مضمر ہے۔ مسجد میں آنے اور باجماعت نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے اندر اجتماعی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح ان میں ایک مرکز پر جمع ہونے کی صلاحیت و استعداد بڑھتی ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کرنے سے ان میں اطاعت و اتباع کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کاش مسلمان ان اجتماعی اور روحانی نکتوں کو سمجھیں اور اپنی نمازوں میں ان حقائق کو مد نظر رکھا کریں۔

## قیام

نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں اور خدا کی نافرمانی سے روکتی ہے اور اس کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کرتی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قَوْمًا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۱۳﴾ (بقرہ) یعنی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے لئے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ اپنے حواس خمسہ ظاہری و باطنی کو اپنی فطری حالت پر قائم کرو۔ تمہارے جسم کے تمام اعضاء اپنے فرائض طبعی کو بجالائیں اور سب ہی عبادت الہی سے اثر لیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف زبان رٹے ہوئے الفاظ ادا کرتی رہے اور اعضاء حرکت کرتے رہیں مگر دل کو کچھ خبر نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے وہ کہیں اور ہی اڑا اڑا پھرتا رہے۔ بلکہ دل کو بھی خدا کے حضور میں جھکاؤ اور اس طرح خداوند حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر پورے عجز و نیاز اور کامل احتیاج کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے حضور و شہود کے غلبہ میں محو ہو جاؤ۔

قیام کے معنی قائم رکھنے کے ہیں یعنی اے میرے بندو تمہیں میرے حضور و شہود سے شیطان مردود اور نفسانی خیالات روکیں گے اور تم حضور قلب کے ساتھ نماز ادا نہ کر سکو گے۔ اس لئے اس قیام کا حقیقی فاعل اپنی طاقت و قوت کو نہ سمجھو بلکہ اس کی توفیق خدا ہی کی طرف سے خیال کرو اپنے خیالات و خواہشات کو نماز کی حالت میں قابو پاؤ اور یہ سمجھ لو کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا کم از کم خدا تم کو ضرور ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مرتبہ قرب اور حالت مشاہدہ حاصل نہ ہو تو پھر نفس کے ساتھ جہاد کرو نفسانی خیالات کو روکو۔ قیام میں دیر کرو تا کہ نفس کی مخالفت ہو۔ توفیق عبادت اسی کی طرف سے سمجھو۔

یہ ہے قیام کا حقیقی مطلب اسی کے لئے کہا گیا ہے کہ عاجزی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے لئے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔

## رکوع و سجود

حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی حکم الہی کی تعمیل میں اپنی پیٹھ جھکا دو، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے سامنے پست کر دو۔ باقی دنیا

کی تمام طاقتوں کو چھ سبھو۔ نفس سرکش کے منہ میں تقویٰ کی لگام لگا دو تا کہ وہ خدا کی نافرمانی کی طرف جانے نہ پائے۔ وہ تمہارا مطیع و فرمانبردار ہو جائے اور پھر دل کی زبان سے کہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یعنی میرا پروردگار بزرگ و برتر تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ رکوع کی حقیقت اور اثر و فائدہ جو خارج از نماز بھی حاصل ہوتا چاہئے یعنی نماز سے باہر بھی عاجزی و فروتنی کی ہی حالت ہونی چاہئے جو اوپر بیان ہوئی۔

سجدہ نماز کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے اور جو عاجزی و انکساری کی انتہائی صورت ہے نمازی اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر خدا کی عظمت و کبریائی کو تسلیم کرتا ہے۔ نمازی سجدہ کر کے اپنے محبوب حقیقی اور معشوق ازیلی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ زمین پر اپنی نخوت بھری پیشانی اور تکبر آلود ناک رگڑتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیو! تم خدائی عظمت و جبروت کے سامنے اپنے تن من کو عاجزی کی زمین پر بچھا دو۔ خدا کی طاقت و اقتدار کے سامنے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو اور زبان سے کہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى یعنی میرا رب تمام دنیا کی بڑی سے بڑی چیز سے بھی بزرگ ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے۔

سجدہ اگر حقیقت میں سجدہ ہو اور سر کو خاک پر رکھتے ہوئے دل میں یہ حقائق موجود ہوں تو نماز کی تمام خوبیاں طبیعت میں جم جائیں تو اخلاقی اصلاح و روحانی ترقی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ یہی تمام عبادتوں کی علت غائی اور نتیجہ ہے اس چیز کو کلام پاک نے ایک نہایت ہی مختصر اور جامع فقرہ میں بیان فرما دیا ہے۔

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (علق: 19)

”اور تو سجدہ کر اور نزدیک ہو۔“

یعنی سجدہ قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ اس سے خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ غرور و انانیت خاک میں مل جاتی ہے اور انسانیت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ (یہ آیت سجدہ ہے قاری و سامع پر سجدہ تلاوت واجب ہے)

قعود

قعدہ نماز کا آخری جزو ہے اس سے نمازی کے دل میں سکون و تمکین اور وقار کا جذبہ

پیدا ہوتا ہے۔ نمازی خدا کے حضور و شہود سے روحانی تسکین و تقویت حاصل کر کے مؤدب بیٹھ کر خدائے جل و علا کا شکر بجالاتا ہے کہ اس نے نماز صحیح طور پر پوری کرادی۔ نیز اس سے ایک فائدہ اور مقصود یہ بھی ہے کہ نمازی کے نفس میں وقار و تمکنت اور حلم بردباری کی صفت پیدا ہو اور دنیا کی تمام ہوا پرستیوں، ہولناکیوں اور حرص و طمع سے اس کا دل بیٹھ جائے۔ ہاتھ مال حرام اور لوگوں کی ایذا رسانی سے رک جائیں۔ پیر گناہ کی چال اور خدا کی نافرمانیوں سے بندھ جائیں۔ آنکھیں نظر بد سے رک جائیں اسی طرح تمام اعضاء گناہوں سے رک کر طاعت و عبادت سے راحت و سکون پائیں اور دوزخ کی آگ سے نجات پائیں۔

### تخصیص اوقات کا فلسفہ

اسلام ایک عقلی اور فطری مذہب ہے۔ وہ جسم و دل دونوں کی پرورش کا فکر و اہتمام کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک مسلمان کی زندگی جو احکام الہیہ کے مطابق بسر ہو وہ مسلسل عبادت ہے وہ انسان کی زندگی کے جملہ شعبوں میں شان و حدت و عمدیت پیدا کرتا ہے۔ روح و مادہ، جسم و جان، دین و دنیا، عقل و مذہب اور شریعت و سیاست کی تفریق اسلام میں موجود نہیں۔ مسلمان کی تمام زندگی کے مختلف مشاغل مثلاً مظاہر فطرت میں غور و فکر، اختلاف لیل و نہار کا مشاہدہ، تحقیق و اجتہاد، طلب علم، جہاد فی سبیل اللہ، خدمت خلق، تعلقات زن و شوہر، پرورش اولاد، اطاعت والدین، درس و تدریس، اعلائے کلمۃ الحق، سیر فی الارض، اکتساب فنون اور تجارت وغیرہ عبادت میں داخل ہیں۔ حیات مستعار کے ہر لمحہ میں اس کا مطلوب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہئے اور اس کی کل زندگی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی میں بسر ہونی چاہئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۰۷﴾

”اے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کچھ اسی خدا کے لئے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔“ (انعام)

الغرض مسلمان کی کل زندگی عبادت ہے اور اسلامی نقطہ نگاہ سے عبادت کی یہ صورت

عام ہے اور دوسری صورت اسلام نے عبادت کی یہ قرار دی ہے کہ مسلمان کو دن رات میں پانچ مرتبہ ایک مخصوص طریق پر مقررہ الفاظ میں جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے خدا کی عبادت و بندگی کرنی پڑتی ہے۔ اسے قرآنی اصطلاح میں ”صلوٰۃ“ کہتے ہیں۔ پہلی صورت میں ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ دن رات میں جتنی مرتبہ چاہے اپنے خالق و مالک کی یاد کرے۔ ہر حاجت ہر تکلیف اور ہر مصیبت کے وقت اسی کارساز حقیقی سے امداد کا طالب ہو لیکن انفرادی و اجتماعی فوائد و منافع کی غرض سے اس پر نماز پنجگانہ فرض کی گئی ہے جن کو میں میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔

تخصیص اوقات اور نماز پنجگانہ کی سب سے بڑی حکمت حواس ظاہری اور اعضاء جسمانی کو الہی رنگ میں رنگنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جسم انسانی میں دل و دماغ بادشاہ کی مانند ہیں اور دیگر اعضاء جسمانی درباریوں کی طرح ہیں جس طرح رفتہ رفتہ بادشاہ اپنے مصاحبوں اور درباریوں کی خوبو اختیار کر لیتا ہے ویسے ہی دل و دماغ بھی آہستہ آہستہ حواس ظاہری اور حرکات جسمانی سے متاثر ہو کر انہی کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں۔ دل کا اثر اعضاء پر ہوتا ہے اور اعضاء کا اثر دل پر۔ اسلام نے اس راز فطرت کو سمجھ کر نماز ظاہری کو فرض کیا ہے اور دن رات میں پانچ بار اس کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ طبیعت انسانی کا مقتضاء ہے کہ جو کام دن میں اتنی بار کیا جائے رفتہ رفتہ طبیعت اس سے مانوس ہو جاتی ہے اور بالآخر اخلاقی اصلاح اور روحانی ترقی ظاہر ہونے لگتی ہے۔

اسلام نے ان اوقات کے تقرر میں بھی بڑی بڑی حکمتیں رکھیں ہیں اور ایسے اوقات مقرر کئے ہیں جو دنیا کی ہماہمی اور مشاغل کی کلفتوں کو دور کر کے روحانی تسکین میں مدد و معاون ہوتے ہیں۔ نماز پانچ وقت کی پابندی سے پابندی اوقات اور ادائے فرض کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزانہ پانچ مرتبہ ذرا سی دیر کے لئے ٹھیک وقت پر دنیاوی کاروبار چھوڑ کر اپنا فرض عبودیت ادا کرنے کے لئے دربار خداوندی میں حاضری دینا ایک ایسی عادت ہے جو مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ تمام دینی و دنیاوی کاموں میں وقت کی پابندی اور ادائے فرض کا احساس کریں۔

## تغیر اوقات کا اثر

یہ ایک ظاہری امر ہے کہ جس طرح تغیر اوقات کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے ایسا ہی اس کی روحانیت پر بھی ایک مخصوص اثر پڑتا ہے۔ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو پانچ وقت ہماری نماز کے لئے اسلام نے مقرر کئے ہیں ان سے بہتر روحانیت پر اثر ڈالنے کے لئے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت نہیں۔ دیکھئے صبح کے وقت جب تمام فضا میں سکوت طاری ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز بزبان حال اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کے گیت گاتی ہے اور پرندے اپنے بیٹھے اور سریلے راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی روح خود بخود اپنے پیدا کرنے والے کی طرف کھینچتی ہے اور اس میں ایک عجیب کیفیت و سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس وقت ایک نورانی منظر سے روح پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے اس لئے خالق کائنات نے حکم دیا کہ انسان اس وقت ذکر الہی میں مصروف ہو اور روحانی غذا حاصل کرے۔ نور کے تڑکے خدا کی یاد سے فارغ ہو کر نمازی اپنے دنیاوی کاروبار میں لگ جاتا ہے اور بارہ ایک بجے تک اس طرح مشغول رہتا ہے اور اسے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لئے اپنا کام چھوڑ کر آرام کر لے تاکہ آدھے دن کی کلفت دور ہو جائے۔ اس موقع پر اسلام ظہر کے وقت پھر حکم دیتا ہے کہ اس آرام سے پہلے وہ صرف دس پندرہ منٹ کے لئے اپنے معبود حقیقی کا شکر یہ ادا کر لے اور چونکہ وہ صبح سے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہے اس لئے اپنی روحانی غذا و ضرورت سے بھی غافل نہ رہے۔ اسی طرح عصر کے وقت دنیاوی کاروبار کے بعد روحانی غذا دی جاتی ہے تاکہ اس کے دن بھر کے مشاغل کی ابتداء و انتہا ذکر الہی پر ہو اور اس میں سرمایہ داری و مادہ پرستی کے جراثیم پیدا نہ ہونے پائیں۔

عصر کے بعد مغرب کے وقت بھی روحانی غذا دی جاتی ہے تاکہ مادی غذا کی اصلاح و شکر یہ ہو اور سونے سے پہلے عشاء کے وقت یاد خداوندی کرنی پڑتی ہے کہ رات بھر روحانیت کا اثر رہے اور اس طرح دن رات کی تمام زندگی دائرہ عبدیت میں آجائے۔ یہ پانچ وقت کی روحانی غذا مسلمانوں میں مادہ پرستی کو نہ پیدا ہونے دے اور وہ ہمہ وقت یاد الہی

میں مصروف شمار کئے جائیں۔ الغرض ان اوقات خمسہ کا ہماری روحانیت پر ایک مخصوص اثر پڑتا ہے جو اور اوقات میں ممکن نہیں اس لئے اسلام نے ان اوقات کو مقرر کیا ہے اگر ہم اس روحانی اثر کو سمجھیں تو ہم میں بہت سی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہم بااخلاق انسان اور سچے خدا پرست بن سکتے ہیں۔

### ہنجگانہ اوقات کے تعیین کی وجہ

اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ وقت کی پابندی انفرادی و قومی زندگی کے لئے بچد اہم اور ضروری چیز ہے اور ادائے فرض کا احساس اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے۔ ان اوقات میں اس بات کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ انسان کو نیک اور ضروری کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔ خدائے حکیم و بصیر اوقات خمسہ کے اوصاف مؤثر کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۱﴾ (روم)

”یعنی صبح، شام، دوپہر کو اللہ کی تازیہ و تقدیس کیا کرو کہ زمین و آسمان میں اس وقت خدا کی خوبیاں اور تعریف کی جاتی ہے۔“

یہ آیت نماز ہنجگانہ کی فرضیت اور اس کی فوقیت کے باب میں نص صریح ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان اوقات میں آسمان و زمین کے اندر تغیرات عظیمہ رونما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا موقع آتا ہے اور ان تغیرات کا اثر انسان کے جسم و روح دونوں پر واقع ہوتا ہے اس لئے یہ اوقات مقرر کئے گئے ہیں۔ پھر نماز کے اوقات مقرر کرنا اس لئے بھی ضروری تھا کہ وقت کی تعیین سے انسانوں کے دلوں کو خدا کی طرف توجہ رہتی ہے اور جمعیت خاطر حاصل ہوتی ہے۔

### وجہ تعیین قبلہ

اسلام دنیا میں اس لئے آیا ہے کہ بنی نوع انسان کو ہر قسم کی گندگیوں، شرک آمیزیوں

اور مخلوق پرستیوں سے پاک کر کے ان میں خالص خدا پرستی کی روح پھونک دے۔ ان کے دلوں کو خدا کی طرف اور ان کے رخنوں کو ایک سمت میں پھیر دے جس میں روحانی قوتوں کو جوش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کعبہ شریف کو خدا پرستوں کا قبلہ قرار دیا۔ مگر یاد رہے کعبہ شریف کی طرف جو سجدہ کیا جاتا ہے اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں تھا اور نہ ہے کہ کعبہ کے کل مکانات یا اس کا کوئی حصہ یا ان کی کوئی اینٹ، پتھر قابل تعظیم اور لائق پرستش ہے اور نہ یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ اس مکان میں سمایا ہوا ہے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ یہ کفر و شرک کی باتیں ہیں جن کی اسلام نے اچھی طرح بیخ کنی کر دی ہے اور شریعت محمدیہ نے خالص خدا کی عبادت قائم کر دی ہے پھر خانہ خدا کو سمت قبلہ قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ سنئے مگر پہلے اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ تعین قبلہ محض راہ عبادت دکھانے کے لیے ہے دراصل عبادت میں داخل نہیں۔

۱۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو دو قوتیں مرحمت فرمائی ہیں۔ ایک قوت عقلیہ اور دوسری قوت خیالیہ۔ قوت عقلیہ کا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کا علم و ادراک حاصل کرے جو مجرد اور غیر مادی ہیں۔ جسم اور جسمانیت سے بری ہیں جیسے فرشتوں کا علم اور دیگر عام قوانین کا ادراک، قوت خیالیہ کا کام صرف محسوسات و مادیات کا سمجھنا اور ادراک کرنا ہے۔ یہ قوت قوت عقلیہ کو مدد پہنچاتی ہے۔ مثلاً ایک انجینئر کو شکل مثلث کی تعریف سمجھانی ہو تو وہ کوئی معین چیز لے کر شکل مثلث کو سمجھائے گا کہ شکل مثلث کے تین زاویے ایسے ہوتے ہیں اسی طرح بندہ خدا تعالیٰ کے حضور میں بوقت عبادت حاضر ہوتا ہے تو اس ذات مقدس کے لئے جو جسم اور عوارض سے پاک اور احاطہ حس و ادراک سے باہر ہے۔ تو اس ذات مقدس کے لئے کوئی محسوس چیز ہونی چاہئے جو اس کی تجلیات کا مظہر اور اس کے جمال کا آئینہ ہو یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کو سمت قبلہ قرار دیا گیا ہے جس میں نہ کسی قسم کی صنمیت و بت پرستی ہے اور نہ اس کی پرستش کی جاتی ہے بلکہ وہ محض ذریعہ عبادت ہے۔

۲۔ اسلام نے جو نماز کی اس قدر تاکید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو مرتبہ انسانیت پر فائز المرام کرتی ہے۔ یعنی نماز تکمیل نفس، تادیب نفس اور کسب سعادت کا



بہترین ذریعہ ہے اور انسان کے کامل ہونے کے لئے طہارت ظاہری و باطنی اور عبادت جسمانی و روحانی دونوں کا ہونا لازمی ہے ورنہ تکمیل انسانیت میں نقص رہے گا اس نقص کو دور کرنے اور اس غرض کو پورا کرنے کے لئے یعنی عبادت میں توجہ باطنی اور جوش قلبی کے برائے گنتہ کرنے کو شریعت محمدی نے سمت قبلہ مقرر کی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس مقدس مکان کو اپنا گھر فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک سچے مسلمان اور خدا پرست موحّد کو اس خیال سے کہ میں اس مکان کی طرف متوجہ ہوں جس کو خالق کون و مکان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور اپنا گھر فرمایا ہے۔ کیسا کیف و سرور، ذوق و شوق، توجہ باطنی اور جوش قلبی حاصل ہوگا اور عبادت الہی میں کیسا کچھ لطف آئے گا جو بیان نہیں ہو سکتا۔ پس سمت قبلہ مقرر کرنے سے مقصود یہی ہے کہ عابد کا دل خالق کون و مکان کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس مقام پر سمت قبلہ معلوم نہ ہو وہاں شریعت کا یہ حکم ہے کہ نمازی اپنے دل میں غور کرے اور جس طرف اس کا دل شہادت دے اسی طرف نماز پڑھے لے اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ عبادت کے لئے خانہ کعبہ مقصود بالذات نہیں بلکہ قبلہ محض توجہ الی اللہ کا ایک ذریعہ محسوس ہے۔

۳۔ اسلام ملت ابراہیمی ہے اس لئے اس کے بنائے ہوئے بیت اللہ کی طرف اس کے ماننے والوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ ان خدا پرستوں کو اس ہادی، موحّد اور خلیل خدا سے رابطہ و تعلق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تمام عالم کے لئے ہدایت کا سرچشمہ اور رہنمائی کا مرکز بنایا تھا۔

پھر اسلام کی نظر اتفاق باہمی اور قوت اتحاد پر بھی ہے اس فرض کو نماز کی حالت میں بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا اور اتحاد باہمی کو یہاں بھی ملحوظ رکھنا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی سچھتی سے اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ یہ سب یک دل ہو کر معبود یکتا کی عبادت کر رہے ہیں اور ان کا جس طرح خدا ایک ہے قبلہ بھی ایک ہے۔

ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے

تعیین قبلہ کی ان وجوہات کو مودکد اور اس کی وجہ خصوصی توجہ الی اللہ کو واضح و مبرہن

کرنے کے لئے اسلام نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے۔

وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْتُمْ وَجْهَ اللَّهِ (بقرہ: 115)

”مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے جدھر تم پھرو اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔“

وہ کسی خاص مکان یا کسی خاص جہت میں سایا ہوا نہیں ہے وہ جہت و مکان سے منزہ و پاک ہے۔ کعبہ شریف کو صرف اتنی خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تجلی گاہ ربانی اور مورد انوار یزدانی ہے نسبت حق تعالیٰ پر جمیع مکانات برابر ہیں اس کی عبادت ہر جہت اور ہر مکان میں مقبول ہے اور تصحیح عبادت کے لئے ہر سمت کفایت کرتی ہے۔ استقبال کعبہ محض عوام کے ذہنوں کی توجہ اور توجیت و تحدید کے لئے ہے چنانچہ ترمذی میں بروایت عبد اللہ بن عامرۃ بن ربیعہ وارد ہے کہ ”ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے رات کا وقت تھا اور رات بھی اتنی تاریک کہ ستارے بھی نمودار نہ ہوئے تھے اس وجہ سے لوگوں کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکی اور انہوں نے اپنے تخمین و قیاس سے ایک سمت نماز ادا کر لی اور اس طرف ایک نشان لگا دیا کہ صبح کو ہم معلوم کر سکیں کہ سمت ٹھیک تھی یا غلط؟ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمت جہت قبلہ کے خلاف تھی اس ماجرے کو لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا اور فسوس ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہوئی کہ یہ سمت غیر قبلہ نماز ادا کی اس وقت مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری نماز درست اور مقبول ہوئی۔ (17)

الغرض نسبت ظہور الہی ہر جگہ سے ہے مگر یہ ظہور عام چونکہ توجہ عبادت کا صحیح مرکز نہیں بن سکتا اس لئے ایک جہت خاص کو مقرر کیا گیا۔ علاوہ ازیں عبادت کی روح خشوع و خضوع ہے اور وہ بغیر سکون و ترک التفات، چپ و راست حاصل نہیں ہو سکتا اور سکون و ترک التفات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عابد حالت عبادت میں جہت معینہ کا التزام نہ کرے۔ کیونکہ ظاہر کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ اس بناء پر توجہ ظاہری توجہ باطنی کا موجب ہوتی ہے۔

## وجہ تخصیص خانہ کعبہ

تعیین قبلہ کی جس قدر وجوہات لکھی گئی ہیں ان سے یہ بات تو اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے اور اس امر کا یقین ہو جاتا ہے کہ عبادت کے لئے تعین قبلہ کی سخت ضرورت تھی لیکن وجہ تخصیص خانہ کعبہ کے متعلق میں نے ابھی تک کچھ نہیں لکھا۔ اس لئے اب اس تخصیص کی وجہ لکھی جاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ نوع انسانی کی اصل خاک سے ہے اور اصل کرہ خاک یہی نقطہ ہے جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ زمین کی پیدائش سے پہلے اس مکان کو پانی پر کیف جرمی کی مانند پیدا کیا گیا تھا اس کے بعد پھر تمام زمین اسی کیف سے وسیع و فراغ ہوئی۔ پس چونکہ اصل جسم انسانی اس نقطہ کی طرف راجع ہے تو اس کو چاہئے کہ جب اپنے جسم کو عبادت میں مشغول کرنے لگے تو اس اصل ترابی کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ اس بناء پر اصل قریب پر جو کہ ہر جگہ میسر ہے سجدہ کیا جاسکتا ہے اور بسوئے اصل بعید اپنے جسم کو متوجہ کیا جاتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کے وقت ملائکہ کا خلیفہ ہوتا ہے یہ شغل شریف انہیں کا کام ہے۔ غصہ و غضب کی حالت میں درندوں کا خلیفہ ہوتا ہے، شہوت کے وقت بہائم کا خلیفہ ہوتا ہے، مکر و کید کے وقت شیطان کا خلیفہ ہوتا ہے۔ چونکہ انسان عبادت کے وقت ملائکہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور عبادت گاہ ملائکہ بیت المعمور ہے اور یہ مقام بیت المعمور کے محاذ میں ہے اس لئے خانہ کعبہ کو خاص کیا گیا۔ چنانچہ ارزقی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تابعین سے روایت کرتے ہیں کہ

البیت بحذاء البيت المعمور وما بينهما بحذاءه الى السماء

السابعة وما اسفل منه بحذاءه الى الارض السابعة۔

”خانہ کعبہ ملائکہ کے قبلہ بیت المعمور کے مقابلہ میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان

ہے وہ ساتویں آسمان کے مقابلہ میں ہے اور جو اس سے نیچے ہے وہ ساتویں زمین

کے محاذ میں ہے۔“

تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مکان مقدس میں ربوبیت الہی کا عظیم الشان ظہور ہے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے لئے عجیب قدرت خداوندی کا ظہور ہوا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے آب غیب یعنی چاہ زمزم نمودار ہوا۔ پس جبکہ اولاد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام اور ان کے تابعدار حضرات رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں تو اس مکان مقدس کی سمت کو اختیار کرتے ہیں چونکہ یہ مکان ظہور تجلی الہی ہے اور معبد خلاق قبلہ عبادات مرجع عاشقان صادق اور مطاف خالص ہے اس لئے خانہ کعبہ کی تخصیص کی گئی۔

مکہ معظمہ کی فضیلت و تقدیس

مکہ معظمہ کے اطراف و جوانب کی تمام زمین گونا گوں تجلیات الہی کا مظہر ہے۔ یہاں کوہ طور اور فاران جیسے تجلی گاہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ نور حق تجلیات خاصہ الہیہ کا اس مقام سے بڑھ کر دنیا کا کوئی خطہ زمین نہیں۔ دنیا والوں کو یہیں سے ہمیشہ نور ہدایت اور آب رحمت ملتا رہا ہے اور سب سے آخر میں یہیں ہدایت کا وہ چشمہ ابلا جس سے پیاسی روہیں سیراب ہوئیں۔ ان ہی خصوصیات کی بناء پر خانہ کعبہ کو مسجودیت کا رتبہ ملا ہے۔ چنانچہ یہی شعب الایمان میں عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں۔

النَّظَرُ إِلَى الْبَيْتِ عِبَادَةٌ (18) وَالنَّاظِرُ إِلَى الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ

الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

”خانہ کعبہ پر نظر کرنا بھی عبادت ہے اور اس کی طرف نظر کرنے والا شخص اس شخص

کی مانند ہے جو اللہ کے راستہ میں ہمیشہ قائم، صائم اور جہاد میں رہے۔“

ابن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف نظر کرنا اس عابد کی عبادت سے

افضل ہے جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ قائم، صائم اور جہاد میں رہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ دن رات میں اللہ تعالیٰ ایک سو

بیس رحمتیں اس مکان مقدس پر نازل کرتے ہیں۔ ستر اس کا طواف کرنے والوں کے لئے،

چالیس اس میں نماز پڑھنے والوں کے لئے اور دس اس کی طرف دیکھنے والوں کے لئے۔

ارزتی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حج کعبہ کے لئے آئے ہوئے تھے ایک شتر سرخ پر سوار تھے اور آپ نے مقام روحاء سے احرام باندھا۔ غیب سے ان کے کان میں آواز پہنچی ”لیک عبدی انا معک“۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو سن کر بے اختیار زمین پر سجدہ میں گر پڑے۔

ابن مردویہ واسبہانی رحمۃ اللہ علیہما ترغیب وترہیب میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز فرشتے خانہ کعبہ کو دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کر کے میدان حشر میں لائیں گے۔ اٹھائے راہ میری قبر پر سے بھی گزریں گے کعبہ بزبان فصیح کہے گا السلام علیک یا محمد میں جواب میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ تیرے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا اور تو اس کے ساتھ آج کے دن کیا سلوک کرے گا۔ وہ کہے گا اے خدا۔ کے پیارے حبیب ﷺ! آپ کی امت میں سے جو شخص میری زیارت کو آیا میں اس کے لئے کافی ہوں اور اس کی شفاعت کروں گا اور جو میری زیارت کو نہیں آیا آپ اس کی شفاعت کریں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مکہ معظمہ کا ایک روزہ لاکھ روزوں کے برابر ہے اور وہاں کا ایک درم لاکھ درم کے برابر ہے۔ حاکم مستدرک میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے۔

حَسَنَاتُ الْحَرَمِ كُلُّ حَسَنَةٍ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ۔

”وہ ہر نیکی جو حرم میں کی جاتی ہے لاکھ نیکی کے برابر ہے۔“

حدیث شریف میں آیا ہے۔

مَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

”جو مکہ میں مرا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائیں گے۔“

مکہ کو اولیت و افضلیت کا شرف حاصل ہے

دنیا میں عبادت الہی کا یہ پہلا گھر ہے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے ایک عمارت بیت المعمور نامی تعمیر کی تھی اور بعض کا قول ہے کہ بیت المعمور ملائکہ کی مسجد ہے جو ساتویں آسمان

پر واقع ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو عمارت زمین پر بنائی تھی وہ بیت المعمور کے بالمقابل تھی یعنی خانہ کعبہ عالم ملکوت میں بیت المعمور کا نمونہ اور عالم ناسوت میں رئیس الموحدین حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت گاہ اور جلوہ الہی کی کرسی ہے۔ لیکن مسلمان بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جانتے ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمارت کو طوفان نوح نے منہدم کر دیا تھا اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا۔

پھر یہ پاک مقدس مکان خدا کا ایسا پیارا اور مقبول ہوا کہ کسی وقت کسی کے ہاتھ سے اس کی بربادی خدا نے پسند نہیں کی۔ یہاں تک کہ ابرہہ بادشاہ جب اس کو مسمار کرنے کے لئے آیا تو خدا تعالیٰ نے اسے غیبی طاقت سے ہلاک کر دیا۔

تاریخ عالم میں اس واقعہ کی نذر ملنا مشکل اور ناممکن ہے کہ اگرچہ وہاں بت پرستوں کے عہد میں بت رکھے ہوئے تھے مگر وہ نجاست ایک عارضی امر تھا جیسے برگزیدہ شخص کے بدن پر کوئی نجاست لگ جائے تو اس سے برگزیدہ شخص کی ذات پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی نسبت فرماتے ہیں اَنْ طَهَّرَ اَيَّتِي (بقرہ: 125)۔ اس پر ایک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنی طرف منسوب کیوں کیا ہے؟ اگر اس اضافت کی وجہ نسبت خالقیت ہے تو یہی نسبت خالقیت ہر بقعہ زمین رکھتا ہے۔ اگر نسبت سکونت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا گھر کہا ہے تو اللہ تعالیٰ جہت و مکان سے منزہ ہے اور اگر تیسری وجہ یہ ہو کہ اس مکان کی طرف عبادت کی جاتی ہے اور وہ شان معبودیت کا مظہر ہے تو اس صورت میں خانہ کعبہ مثل ہر دواریکساں ہے۔ خصوصیت کی کیا وجہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک مکان ایسا ہے جو برائے عبادت اور شوق طلب کی خاطر بنایا گیا اور کسی طرح بھی مخلوق سے کسی طرح کا علاقہ نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلہ میں کفار کے معابد یہ شان و خصوصیت نہیں رکھتے نہ وہ برائے عبادت الہی بنائے گئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح مخلوقات سے علاقہ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی رام چندرجی کی طرف منسوب ہے اور کوئی کشن کی طرف۔

## نماز کے ظاہری و باطنی ارکان

### ظاہری پہلو

نماز کے دو پہلو ہیں ظاہری اور باطنی۔ یہاں میں پہلے ظاہری پہلو کو بیان کرتا ہوں مگر پہلے ان دونوں پہلوؤں کے متعلق اسلام کے اس نقطہ نگاہ کو سامنے رکھ لیجئے کہ نماز باطنی اور ظاہری دونوں اعمال و افعال سے مرکب ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز صرف زبان سے چند کلمے دہرانے اور بعض معینہ حرکیں کرنے کا نام ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ حقیقت نماز سے نابلد اور نادان ہیں۔ نماز اسلام کی بہترین عبادت ہے اور نماز کیا ہے اللہ بزرگ و برتر کی بزرگی، کبریائی اور پاکی کا بیان اور اپنی بندگی بے چارگی اور کم مائیگی کا زبان و دل اور اعضائے جسمانی سے اقرار و اعتراف۔ اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ سے صراطِ مستقیم مانگی جاتی ہے اور اس کے رحم و کرم اور لطف و عطاء کی التجا کی جاتی ہے۔

نماز کا باطن کیا ہے؟ تکبیر و تہلیل اور خدا کی تسبیح و تقدیس اور اپنے جرم و خطا کا اقرار اور گناہوں پر استغفار۔ باقی رہے ظاہری ارکان اور جسمانی حرکات و سکنات وہ صرف اپنی عبودیت اور خدا کی خالقیت کے علانیہ اعتراف اور خشوع و خضوع کے اظہار کے لئے ہیں۔ یاد رکھئے کہ عبادات اسلامی کا بالعموم اور نماز کا بالخصوص تمام تر تعلق ہمارے دل سے ہے۔ خدا کی نظر ہمارے دلوں پر ہے اس کی نگاہ کرم خلوص قلب کو ڈھونڈھتی ہے۔ جہاں ہمارے دل میں خدا کی عظمت و کبریائی اور درگاہ الہی میں سر جھکانے کا خیال آیا اور عبادت مقبول بارگاہ ہوئی۔ اب خواہ ہماری زبان پہلے یا نہ پہلے جسم حرکت کرے یا نہ کرے عبادت کے لئے صرف اس کی تسبیح و تقدیس کی نیت اور ارادہ کافی ہے۔ خدا کے سامنے اپنی عبودیت کا اقرار کرے اور عجز و نیاز ظاہر کرنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے دل میں اس کا خیال پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی ارکان مقررہ کی بجائے آوری سے معذور رہے تو اس کی نماز بغیر معینہ الفاظ اور حرکتوں کے بھی ہو جاتی ہے۔

لیکن باوجود اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے نماز کے لئے کچھ الفاظ مقرر کر دئے

ہیں جن کو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور کچھ حرکتیں بھی مقرر کر دی ہیں جن کے بغیر عبادت مکمل اور درست نہیں ہوتی اور عبادت ظاہری کی پابندی کو بھی اسلام نے لازمی قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا اگرچہ کافی تو ہے مگر اس کا کوئی اثر ہمارے اعضاء و جوارح پر مرتب نہیں ہو سکتا اور نہ قلبی عبادت کسی نظام کے ماتحت آسکتی ہے۔ جو لوگ دل ہی دل میں خدا کی یاد کر لینے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ ان کی گمراہی ہے۔ جب ظاہر و باطن میں زبردست علاقہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باطن میں تو خدا کی یاد ہو مگر ظاہر سے اس کا ثبوت نہ ملے۔ اسلام ظاہر و باطن دونوں کو جناب الہی میں جھکانا چاہتا ہے لہذا عابد کے لئے عبادت ظاہری کی قید سے رہائی ناممکن ہے۔

### عبادت ظاہری کی پابندی کا فائدہ

یہ ہے کہ جب ہماری روح خدا سے پیوستہ ہوئی اور ہمارے دل میں خدا کی عظمت و کبریائی کا خیال آتا ہے اور ہم دن میں پانچ بار دل میں اس کی یاد کرتے ہیں تو ظاہری ارکان کی پابندی سے آہستہ آہستہ ہمارے حواس ظاہری حرکات جسمانی سے تمام اعضاء و جوارح متاثر ہو کر الہی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے اندر صفات الہیہ پیدا کرنے کے اور اپنے آپ کو خدائی رنگ میں رنگنے کے لئے نماز پنجگانہ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴿۵۰﴾

”اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کون سا اچھا رنگ ہوگا اس لئے ہم ربانی رنگ میں رنگین ہونے کے لئے خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں“۔ (بقرہ)

پس نماز کی ہیئت کذائی اگرچہ نماز کا جزو لاینفک تو ہے مگر اس سے حقیقت نماز متحقق نہیں ہوتی۔ حقیقت صلوٰۃ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صفات الہیہ پیدا کریں اور خدائے قدوس کی صفات کو اپنے سامنے رکھیں۔

پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کی ہیئت کذائی اور معینہ حرکتوں سے معبود کو نہیں بلکہ عابد ہی کو نفع پہنچتا ہے۔ ظاہری ارکان کی پابندی میں اللہ پاک نے ہمارے لئے بیٹھار انفرادی،



اجتماعی، جسمانی، روحانی، دینی اور دنیاوی فوائد و منافع رکھے ہیں جن کا بیان گزشتہ اوراق میں کسی قدر کیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان روحانی نفع کے ساتھ جسمانی و مادی نفع بھی حاصل کریں اور وہ دارین میں ہر طرح فائز المرام و شاد کام ہوں۔

تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانہ میں مسلمانوں نے نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا اور اپنے اندر صفات الہیہ کو پیدا کیا تو انہوں نے اخلاق و روحانیت میں وہ بلند مرتبہ حاصل کیا جس پر فرشتوں کو بھی رشک تھا۔ اخلاق اور روحانی اعتبار سے وہ دنیا کی تمام قوموں میں سر بلند تھے۔ حکومت ان کے قدم چومتی تھی، دولت ان کی ادنیٰ لوٹتی تھی۔ فتح و نصرت ان کے آگے آگے چلتی تھی اور ان کے طاقت و اقتدار سے دنیا کی تمام طاقتیں لرزہ بر اندام تھیں۔ نماز نے ان کو نفس اور نفسانی خواہشات پر غالب کر دیا تھا اور وہ نجات و فلاح کے صحیح معنوں میں مستحق ہو گئے تھے۔ وہ دن کو فوجوں کی کمان کرتے تھے اور رات کو تسبیح و تہلیل اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ نماز باجماعت نے ان کے اندر ہم آہنگی، یک رنگی، اتحاد، اتفاق، تنظیم، رواداری، انصاف پسندی، رعایا پروری، ایفائے عہد، رحم دلی، راست بازی اور ربط و نظم کی اعلیٰ صفات اور خوبیاں پیدا کر دی تھیں۔

لیکن جب سے ہماری نماز میں محض رسمی نمازیں بن گئی ہیں ان کی روح و حقیقت جاتی رہی ہے اور مسلمان محض اس لئے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس وقت نماز کے ان مادی و روحانی فوائد کا حصول و ظہور بھی زائل ہوتا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ زمانہ سلف کے مسلمانوں نے جو ملکی فتوحات کیں وہ ان خصائص کی بناء پر وقوع پذیر ہوئیں جن کا میں نے ذکر کیا اور یہ خصائص ان کے اندر نماز باجماعت نے پیدا کئے تھے مگر اب ایسے نمازی مسلمان کہاں جن کے اندر یہ خصائص ہوں۔

### نماز کے روحانی تاثرات

نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو انسان اور خدا کے درمیان ایک روحانی رابطہ پیدا کرتی ہے اور اس رابطہ سے روح کو حقیقی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ظاہری حقیقت ہے کہ دنیا میں جس قدر عالم و جاہل، سفیہ و عاقل اور شاہ و گدا ہیں سب مسرت و راحت کے

جو یاں اور اطمینان قلب کے متلاشی ہیں اور اس کے حصول کا ذریعہ یاد الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ كَرِهُوا اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿١٥﴾ (رعد)

”تحقیق اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوسکتا ہے۔“

اور نماز یاد الہی کی بہترین شکل ہے۔ جب ایک مسلمان بذریعہ نماز اطمینان خاطر حاصل کرے تو پھر وہ یقیناً دین و دنیا کے ہر کام میں کامیاب و بامراد ہوگا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ بدرجہا حسن واکمل پورا ہوگا کیونکہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اگر طمانیت قلب حاصل نہ ہو تو انسان کسی کام کو مرتبہ تکمیل تک پہنچا نہیں سکتا۔ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴿١٦﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٧﴾ (اعلیٰ)

”تحقیق بامراد ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے خدا کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔“

سورہ مومنوں میں فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ (مومنوں)

”بے شک ان مومنوں نے چھٹکارا پایا جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اطمینان قلب اور فلاح و نجات کا لازمی نتیجہ اور پہلا فیض و اثر ہے اب میں ذکر الہی اور فلاح کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ پر نماز کے کمال کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔

فلاح کے معنی کامیاب و بامراد ہونا ہے۔ اس مفہوم میں حسب ذیل امور داخل ہیں۔ انسان اخلاق و روحانیت کی منزلیں طے کرے۔ صدق معاملات کی ضرورت و اہمیت کا احساس کرنے لگے۔ اس میں پاکیزگی، سیرت کی سچی طلب پیدا ہو جائے۔ عقائد و عبادات اور اخلاق و معاملات کے تعلق کو سمجھ لے۔ امراض قلبی سے اس کی زندگی پاک و صاف ہو جائے اور انسان اپنی زندگی ”حسن عمل“ کی ایک زندہ مثال بنالے۔ اس بناء پر معنی یہ ہوئے کہ نمازی نماز کے ذریعہ اپنے مقصد حیات کو بدرجہ کمال حاصل کر لیتے ہیں اور پاکیزگی حیات کے نور سے ان کی زندگیاں جگمگا اٹھتی ہیں۔

## ذکر الہی کی تشریح

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی (بقرہ: 152) پس یاد کرو مجھے جس رنگ میں بھی ہو۔ مثلاً تلاوت کلام الہی اور یاد الہی کے ذریعہ ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً حلقہائے ذکر و حمد میں تسبیح و تہلیل بیان کرنا، ہر فعل محمود پر بسم اللہ پڑھنا اور دلائل نبوت و معارف ذات و صفات میں غور و فکر کرنا وغیرہ۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

”عافلوں کے جھگڑے میں ذکر الہی کرنے والا ایسا ہے جیسا سرسبز و شاداب درخت سوکھے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں۔“

ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔

”عافلوں کی جماعت میں ذکر الہی کرنے والا ایسا ہے جیسا کوئی شخص معرکہ قتال سے بھاگنے والوں کے پیچھے دشمنوں کی صف میں گھس کر جہاد کرنے اور اپنے قیمتی خون کو پانی کی طرح بہا دینے پر تیار ہو جاتا ہے۔“

اہل تصوف کہتے ہیں ذکر کی ایک ابتدا ہے یعنی سچی توبہ اور یقین رجوع۔ اس کے لئے بیچ کا درجہ ہے اور حقیقی نورانیت و چمک ہے جو ذکر کرنے والوں پر طاری ہوا کرتی ہے اور اس کے لئے ایک انتہائی درجہ ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے جلالی ناموں کی حرازت ہے جو ماسوا کو جلا کر نیست و نابود کر دیتی ہے۔ ذکر کی اصل دل کی صفائی ہے اس کی شرط حضور قلبی ہے اور اس کا اثر نیک و شائستہ عمل ہیں۔

چونکہ نماز ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے اندازہ لگائیے کہ نمازی کی زندگی میں کیا روحانی کیف و سرور پیدا ہوتا ہے۔ نماز سے ہمیں روحانی غذا ذکر الہی حاصل ہوتی ہے جس سے دلوں کو فرحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

نماز کا دوسرا اثر

نماز کا دوسرا اثر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَكْثُرُ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (العنکبوت: 45)

”یعنی نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔“

حقیقت بھی یہی ہے کہ جو شخص دن میں پانچ مرتبہ خدا کے دربار میں حاضری دیتا ہے اس کی صفات کو بیان کرتا اور اس سے طلب ہدایت کرتا ہے وہ ہرگز اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ لامحالہ اس کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آئے گا کہ مجھے نیک بننا چاہئے ورنہ میری درخواست ایک مضحکہ ہوگی اور مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہئے جس کی وجہ سے مجھے خدا کے حضور میں جاتے شرم آئے۔

فرض کیجئے ایک شخص شراب پیتا ہے اب اگر وہ نماز شروع کر دے گا تو اسے دن میں پانچ مرتبہ نیکوں کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقعہ ملے گا جس کا اثر اس کے دل پر ضرور پڑے گا۔ دوسرے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں جس خدا کے سامنے اس کی عظمت و بزرگی اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہوں اس نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے اور افسوس میں اس کا بندہ ہو کر اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی دن ضرور شراب پینا چھوڑ دے گا۔

الغرض نماز ایک روحانی انقلاب پیدا کرتی ہے۔ نفس امارہ پر غالب آنا اور نفسانی خواہشات پر قابو حاصل کرنا سکھاتی ہے اور یہی مذہب کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ نجات و فلاح کا مستحق ہو گیا۔“

اس کے معنی یہ ہوئے کہ نماز دینی و دنیاوی کامیابیوں کی ضامن ہے۔

### نماز کے لطائف باطنی کی تشریح

جب نمازی نماز کے ظاہری ارکان و شرائط پورے کر لیتا ہے اور طہارت جسمانی حاصل کر لیتا ہے تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر اور عبادت کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اس سے وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں نے دونوں عالم سے ہاتھ اٹھایا اور حق جل و علی شانہ کو سب سے اعظم و اکبر جانتا ہوں اور اس اعتقاد و خیال کا موید دعائے افتتاح کو زبان پر جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس کا قیام استقامت دین پر دلالت کرتا ہے۔

تلاوت سورہ فاتحہ جو شانے ربانی ہے اور زبان و دل کی ترجمان ہے۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں نے اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کیا اس میں سورہ مقدسہ کے الفاظ

خطاب مثل ایسا کہ نعبد وایا کہ نستعین اس میں تخصیص بعبادت واستعانت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے سبب سے کمال توجہ اور میل رتبہ و مشاہدہ حاصل ہو۔ اور اس پر کہ یہ عبادت واستعانت بنی آدم کے دو شغل ہیں میں نے اغیار سے اعراض کلی کیا۔ سوال ہدایت اور فرار راہ عمل غضب و ضلالت اس امر پر دلالت ہے کہ میرے جذبات حسد و بغض اور میل و نفرت سب کے سب جناب الہی کے تابع ہونے۔ رکوع دلالت کرتا ہے مشاہدہ عظمت خداوندی کی وجہ سے میری پشت خم ہوگئی۔ قومہ دلالت کرتا ہے کہ اس انکسار کے سبب مجھے استقامت حاصل ہوتی ہے۔ پھر جو جو کمال تذلل و انکسار کی صورت ہے۔ کمال تقرب پر دلالت کرتا ہے۔ انسان کی استطاعت میں جو تقرب ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اس کے بدن کا جو اشرف و اکرم حصہ ہے اس کو اپنی اصل خاک پر رکھ دے۔

دوسرا سجدہ رفع تکبر پر دلالت کرتا ہے جو حصول قرب کے خیال سے عابد کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور قعود اس اعزاز و اکرام پر دلالت کرتا ہے جو جناب باری تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا اور اس کے مجرے کو قبول فرما کر بیٹھنے کا حکم فرمایا اور اسلام اس سفر باطنی سے رجوع پر دلالت کرتا ہے۔

یہاں تک جو کچھ بیان ہوا وہ نماز کی صورت اور قالب کے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ نماز کی ایک حقیقت و روح بھی ہے۔ صرف نماز کی ہی نہیں بلکہ اس کے ہر ہر رکن کی ایک علیحدہ علیحدہ روح و حقیقت ہے۔ اگر نمازی نماز اور اس کے ارکان کی روح کو سامنے رکھے تو یقیناً نماز کے وہ اخلاقی و روحانی اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

### نماز کے ارکان کی روح

نماز کے لئے ہمیں جس طریقہ پر تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلاً غسل یا وضو اور کپڑوں اور جسم کی طہارت۔ اس کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ ہم پاک و صاف طریقہ سے رہیں اور گندگی و غلاظت سے نفرت کریں اور اس میں ہماری تندرستی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اس ظاہری طہارت و پاکیزگی کی پابندی کریں تو بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پاسکتے ہیں۔

قاعدہ ہے کہ جب کسی بادشاہ یا افسر کے دربار میں حاضر ہونا ہوتا ہے تو پہلے اس امر کی تیاری کی جاتی ہے کہ حسب استطاعت اچھے اور صاف کپڑے ہوں۔ صفائی اور پاکیزگی کا خاص طوڑ پر خیال رکھا جاتا ہے اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ نماز سے پہلے یہ طہارت و پاکیزگی بدرجہ اتم حاصل کرو تا کہ اس کے قرب و حضوری کے قابل بن سکو۔

اذان سن کر کیا کہنا چاہئے

پہلی صدا جو ایک مسلمان کے کان میں پڑتی ہے وہ بانگ نماز ہے۔ اس میں اللہ والوں کو عبادت الہی اور فلاح و نجات کی طرف بلایا جاتا ہے جس وقت ایک مسلمان اس بانگ فلاح کو سنے تو چاہئے کہ اسے دل کے کانوں سے سنے۔ جس کام میں مشغول ہو اسے چھوڑ دے۔ امور دنیا سے منہ موڑ لے اور خانہ خدا میں عبادت الہی کے لئے آجائے۔ ان ظاہری آداب کے علاوہ اس کی روح یہ ہے کہ اس صدا سے ندائے قیامت کو یاد کرے اور یہ سمجھ کر اپنے دل کو شاد کرے کہ جو کوئی دنیا میں ندائے اذان پر اپنے دنیاوی امور چھوڑ کر لبیک کہے گا وہ قیامت کے روز ندائے قیامت سے بشارت پائے گا اور عذاب الہی سے نجات درستگاری حاصل کرے گا۔

یاد رہے طہارت سے مقصود صرف بدن اور کپڑوں کا پاک کرنا نہیں بلکہ اس میں دل کی صفائی بھی شامل ہے یعنی برے اخلاق اور خدا کی نافرمانی سے اپنے دل کو پاک کرے۔ یہ طہارت باطنی طہارت ظاہری کی روح ہے۔ اگر یہ حاصل نہ ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ نماز کا غسل و وضو محض رسمی اور بے جان ہے۔ خدا کی نگاہ دل پر ہے اس کا پاک صاف ہونا اصل مقصد ہے۔ بدن صورت نماز کی جگہ ہے اور دل کی حقیقت نماز کی منزل ہے۔

ستر عورت

ستر عورت کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اپنے اعضائے تنہائی کو چھپایا جائے۔ اس سے مقصود صرف یہی نہیں کہ اعضائے زشت و زبوں کو خلق کی نگاہ سے چھپایا جائے بلکہ اس کی روح یہ ہے کہ جو امر باطن میں برا اور ناجائز ہے اسے ترک کر دیا جائے اور یہ جان لے کہ

حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ باطنی طہارت کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم و پشیمان ہو اور یہ عزم بالجزم کر لے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا۔ تو یہ گناہوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو ان گناہوں پر اپنے آپ کو اس قدر ذلیل و شرمسار کرے اور اس طرح اپنے پروردگار کے سامنے نماز کے لئے کھڑا ہو جیسے غلام کوئی جرم و خطا کر کے بھاگ گیا ہو اور پھر ڈرتا ڈرتا اپنے مالک کے سامنے آئے اور ذلت و رسوائی سے سر نہ اٹھائے۔ گویا اس طرح اپنے بدن پر ندامت و پشیمانی کی حالت طاری کر دے۔

### استقبال قبلہ

اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہر طرف سے اپنا منہ پھیر کر قبلہ رو ہو جائے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کرنے تاکہ ظاہر و باطن دونوں میں مطابقت ہو جائے اور دل و زبان میں یکسانیت پیدا ہو جائے جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے اسی طرح قبلہ دل بھی ایک ہے یعنی حق تعالیٰ۔ خیالات پریشان میں دل کو مشغول رکھنا ایسا ہے جیسا منہ کو ادھر ادھر پھیرنا۔ جس طرح منہ پھیرنے سے نماز کی صورت باقی نہیں رہتی اسی طرح دل بھٹکنے سے نماز کی روح و حقیقت باقی نہیں رہتی۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں:

”جو شخص نماز کے لئے کھڑا ہو اور اس کا منہ، دل اور خواہش خدا کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نماز سے اس طرح باہر آتا ہے گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے یعنی وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔“

اچھی طرح سمجھ لو کہ جس طرح قبلہ سے منہ پھیر لینا نماز کی صورت کو باطل کر دیتا ہے اسی طرح دل کا خدا تعالیٰ کی طرف سے پھیر لینا اور خیالات دنیوی میں مشغول رہنا نماز کی روح و حقیقت کو زائل کر دیتا ہے۔ پس نماز میں اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا چاہئے۔ اس مقصود کو حاصل کرنے اور دل کو مرکز اطمینان کی طرف لانے کے لئے قبلہ رو ہوتے وقت یہ قرآنی آیت تلاوت کی جاتی ہے:

إِلَىٰ وَجْهِكَ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَٰقِیًۡا وَّمَا

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (انعام)

یعنی میں نے اپنے چہرے کو خالق ارض و سما کی طرف متوجہ کیا خالص طور پر اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جس کی تفصیل ذیل میں ملاحظہ ہو۔

وعائے استقبال کی تشریح

آج سے غالباً پانچ ہزار سال پیشتر جب کہ ظلمت کدہ عالم میں ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خلاق عالم اور مسجود حقیقی کی عبادت تو کجا نام تک سے کوئی واقف نہ تھا۔ ایسے تیرہ و تار زمانہ میں ایک عظیم الشان و جلیل القدر ہستی عالم قدس سے عالم ناسوت میں جلوہ فرما ہوئی جس کا پیارا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی حَبِيبِهِ وَ خَلِيْلِهِ۔ آپ ایک ایسے زمانہ میں آئے جب ہر طرف کفر و شرک، انسان پرستی، بت پرستی اور ستارہ پرستی کی تازیکی چھائی ہوئی تھی اور ہدایت و رہنمائی کی ایک ادنیٰ سے کرن بھی موجود نہ تھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مصنوعی و فرضی خدائیوں کو ٹھکراتے ہوئے اور فریب نظر و کید تخیل کے پروں کو تار تار کرتے اپنے معبود حقیقی تک جا پہنچے اور حضرت حق جل شانہ کی درگاہ میں سر بسجود ہو کر فرمایا: اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِذِکْرِیْ (انعام: 80) یعنی میں اس قاطع السبوت و الاثر حق پر ایمان لایا جس نے باغ عالم کو آراستہ و مزین کیا جس کے دست قدرت نے ہر طرح کی گلکاریوں سے عقل انسانی کو مبہوت بنا رکھا ہے۔ میں نے اپنے دل اور دماغ کو ماسوخی اللہ اور اوہام باطلہ سے پاک و صاف کر لیا اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ نمازی کو استقبال قبلہ کے وقت اس تاریخی منظر کو اپنے سامنے رکھنا چاہئے۔

قیام

اس کا ظاہر یہ ہے کہ اپنا سر جھکا کر اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا رہے اور اس کی روح و حقیقت یہ ہے کہ دل سب حرکتوں سے ٹھہر جائے یعنی تمام خیالات سے باز رہے۔ حق تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہونا اور اپنے اعمال و افعال نا شائستہ کا ظاہر ہونا یاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر سب کچھ ظاہر و عیاں ہے۔ میرے دل میں



جو کچھ ہے خدا اس کا عالم و ناظر ہے۔ میرے ظاہر و باطن دونوں پر اس کی نگاہ ہے اور زبان سے جو کچھ کہے اس کو سمجھتا جائے اور اپنے اعمال پر نظر کرے کہ وہ کہاں تک ان الفاظ فاتحہ سے مطابقت رکھتے ہیں مثلاً نمازی سورہ فاتحہ میں اپنے خدا سے یہ وعدہ اقرار کرتا ہے کہ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (فاتحہ) یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اس کی توفیق بھی مانگتے ہیں کہ ہم راہ عبودیت پر قائم رہیں اب دیکھئے کہ میرے اعمال کہاں تک اس عقیدہ کے مطابق ہیں۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز مغرب میں امامت کر رہے تھے۔ جب مذکورہ بالا آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا اے شیخ کیا وجہ تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے فرمایا کہ جب میں نے إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (فاتحہ) کہا تو میں ڈرا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا کہ اے دروغ گو تو مجھ سے مدد مانگتا ہے تو پھر بیماری کی حالت میں طبیب کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے۔

یہ ہے قیام کا حقیقی مفہوم اور اس کا باطن جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ سے ظاہر ہے مگر یاد رہے یہ مقام انہی بزرگان دین کے لئے خاص تھا اور یہ غلبہ حال کا نتیجہ تھا۔ یہاں مقصود صرف یہ دکھانا ہے کہ نمازی کو قیام کی حالت میں اسی طرح اپنے اعمال و اقوال پر نظر رکھنی چاہئے۔

### رکوع و سجود

رکوع و سجود کی ظاہری صورت عاجزی و فروتنی ہے اور دل کی فروتنی اس کا اصلی مقصود ہے۔ رکوع و سجود اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ نمازی اپنے شریف و بہترین اعضاء کو خاک پر رکھ کر اپنے آپ کو کمزور ثابت کرے اور خدا کی عظمت و کبریائی کا عملی اظہار کرے۔ وہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے اور خاک ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رکوع و سجود سے نمازی کا تکبر و غرور خاک میں ملتا ہے اور عاجزی و انکساری کا پاکیزہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

### قراءت و اذکار نماز

نماز میں جتنے کلمے زبان سے ادا کئے جاتے ہیں نماز میں صرف ان کا دہرانا مقصود نہیں

بلکہ ان کی اصلی غرض یہ ہے کہ ان کی حقیقت اور ان کے مطالب کو بھی سمجھیں اور ان کے مطابق اپنے اعمال کریں۔ یعنی قائل کا دل اور جسم ان کلموں کے مطابق ہونا چاہئے۔ مثلاً اللہ اکبر کے یہ معنی ہیں کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ اس بڑائی کا اعتراف صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی کرنا چاہئے۔ اس طرح کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اسی کو اپنا خالق و مالک اور حاجت روا سمجھے۔ اس سے محبت کرے اور صرف اسی سے ڈرے۔ اگر نمازی کے دل میں خدا سے زیادہ اور کوئی چیز بھی بڑی اور محبوب و عزیز ہو تو وہ اللہ اکبر کہنے میں جھوٹا ہے کیونکہ جب اس کے نزدیک خدا سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہوگی اور وہ خدا اور رسول کے مقابلے میں کسی اور چیز کا بھی مطیع و فرمانبردار ہوگا تو اس کے نزدیک وہی چیز خدا سے بزرگ ہوئی اور اس کا معبود وہی ہے جس کا وہ مطیع ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (الجمہ: 23)

”کیا دیکھا تو نے اسے جس نے ٹھہرا لیا اپنی خواہش کو اپنا معبود“۔

پس ہمارا اللہ اکبر کہنا اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم خدا سے زیادہ کسی کو بزرگ نہ سمجھیں اور کسی کی ناجائز اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں۔

جب اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (فاتحہ: 1) زبان سے کہے تو چاہئے کہ اپنے خدا کے بے پایاں الطاف و اکرام یاد کرے اس کی بے انتہا نعمتوں پر نظر رکھے، اپنے دل کو شکر گزار بنائے۔ جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (فاتحہ: 4) کہے تو چاہئے کہ اخلاص کی حقیقت اپنے دل میں پیدا کرے۔ جب اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (فاتحہ: 5) کہے تو چاہئے کہ اس کا دل تضرع و زاری کرے اس لئے کہ وہ خدا سے ہدایت مانگتا ہے۔ اسی طرح تسبیح و تہلیل اور قرأت کے وقت ہر کلمے میں یہی چاہئے کہ کلمہ کی ہر صفت سے اپنے دل کو متصف کرنے کی کوشش کرے تاکہ حقیقت نماز متحقق ہو۔

## نماز کی روح

اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ نماز کے ہر ہر رکن کے متعلق تھا اب اصل نماز کی روح اور حقیقت بھی معلوم کر لیجئے۔ ہر عبادت اور ہر ذکر کی ایک روح خاص ہوتی ہے۔ اسی طرح

نماز کی بھی ایک روح ہے اگر نماز میں وہ روح نہ ہو تو وہ نماز مردہ اور بے جان ہے۔ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر تک خشوع و خضوع قلب رہے۔ اس واسطے کہ نماز سے مقصود دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ راست و درست رکھنا اور یاد الہی کو کمال تعظیم و تکریم کے ساتھ تازہ کرنا ہے۔ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو اور ظاہر اعمال و ارکان کی پوری پوری پابندی کی جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کی آنکھ تو ہو مگر اس میں بصارت نہ ہو ایسی ہی نماز کے متعلق رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو نماز سے بجز رنج و در ماندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اور یہ امر اس سبب سے ہوتا ہے کہ فقط بدن سے نماز پڑھتے ہیں اور دل غافل رہتا ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے یعنی نماز میں ماسوا اللہ کو اپنے دل سے رخصت کر دینا چاہئے اور اپنے آپ کو بالکل نماز میں مصروف کر دینا چاہئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اور رسول مقبول ﷺ باتیں کرتے ہوتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو نہ آپ ﷺ مجھے پہچانتے تھے اور نہ میں آپ کو یعنی نماز کا وقت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و ہیبت آپ کے ظاہر و باطن پر طاری ہو جاتی تھی۔

رسول اللہ فرماتے ہیں جس نماز میں دل حاضر نہ ہو حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ ابوداؤد اور نسائی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی نماز میں ہوتا ہے تو جب تک وہ التفات نہیں کرتا خدا اس کی طرف متوجہ رہتا ہے پھر جب وہ التفات کرتا ہے تو خدا اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ (19)

منطلب یہ کہ جب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف شفقت و رحمت فرماتا ہے۔ بخشش کا دروازہ اس کے لئے کھول دیتا ہے اور جب بندہ اعراض کرتا ہے تو عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔

اسی سلسلہ میں یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ نماز دراصل توجہ الی اللہ اور خشوع و خضوع کا نام ہے۔ صرف اوضاع ظاہری کو نماز نہیں کہتے۔ اگر کوئی شخص نماز سے حقیقی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے لازم ہے کہ نماز کی مذکورہ بالا روح اور حقیقت کو مد نظر رکھے اور اس طرح پڑھے جس طرح شارع علیہ السلام کا منشاء ہے۔ اگر جسم نماز میں مشغول رہے اور روح دنیا میں منہمک ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کسی طبیب کے نسخہ سے پورا پورا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس طبیب کی ہدایات پر عمل کیا جائے ورنہ وہ نسخہ کوئی فائدہ نہ دے گا۔

آج کل ہماری نمازوں سے وہ فوائد و نتائج کیوں مرتب نہیں ہوتے جو خیر القرون میں ہوتے تھے؟ یہ نماز کا تصور نہیں بلکہ خود ہمارا تصور ہے۔ نماز بے شک دل و دماغ کو روشن کرتی ہے مگر ان کی جو اس کی حقیقت کو سمجھیں اور نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں اور نماز بلاشبہ بے حیائی سے روکتی ہے بشرطیکہ اسے حقیقی معنوں میں ادا کیا جائے۔

### نماز میں حضور قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے

نماز میں دو سبب سے غفلت ہوتی ہے ایک ظاہری سبب سے اور دوسرے باطنی سبب سے۔ ظاہری سبب مانع حضور قلب یہ ہے مثلاً ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں کوئی شور و غل ہو یا کچھ دکھائی سنائی دیتا ہو اور دل کے ادھر متوجہ ہو جانے کا احتمال ہو۔ احتمال ہی نہیں بلکہ ایسا ہونا بظاہر یقینی ہے کیونکہ دل آنکھ کا تابع ہے ظاہر ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھی ہی نہ جائے جہاں یہ جاذب توجہ چیزیں ہوں۔ خالی جگہ میں نماز پڑھیے۔ یہ بھی جائز ہے کہ کسی تاریک جگہ میں نماز پڑھے یا آنکھ بند کر لے تو بہتر ہے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لئے خلوت گزینی اختیار کی ہے اور چھوٹا سا ایک مکان بنوایا ہے اس لئے کہ کشادہ مکان میں دل پراگندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا دستور تھا کہ نماز پڑھتے وقت قرآن، تلوار اور ہر چیز جدا کر دیتے تھے تاکہ ان کی طرف دل متوجہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مکان میں اور ایسی جگہ نماز نہیں ہوتی جس پر تصویریں ہوں یا

اور کوئی جاذب نظر چیز موجود ہو۔

دوسرا باطنی سبب یہ ہے کہ پریشان اور پراگندہ خیالات دل میں آجائیں۔ خیالات پر قابو پانا بہت مشکل اور دشوار امر ہے اور یہ انسان کے اختیار میں ہے بھی نہیں مگر یہ یاد رکھئے کہ خیالات کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ کسی دنیوی کام میں دل لگا ہوا ہے اس کے سبب خیالات آتے ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے اس کام سے فارغ ہو لے اور پھر اطمینان خاطر کے ساتھ نماز پڑھے۔ سچی عبدیت اور کمال تو یہ ہے کہ اپنے دل کو کوشش کر کے اس کام کی طرف سے ہٹالے اور خیالات پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء اجازت دیتے ہیں کہ اگر کھانا سامنے ہو اور اشتہاء نفس بڑی تیز ہو تو پہلے کھانا کھالے تاکہ نماز میں حضور قلب حاصل رہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کو وطیرہ بنا لیا جائے۔ صرف انتہائی شدید بھوک کے عالم میں اس مسئلہ پر عمل کیا جائے کیونکہ کمال عبدیت یہی تو ہے کہ اپنے خیالات اور خواہشات پر قابو حاصل کر کے نماز پڑھے۔ الغرض یہ بہت کمزوری کی بات ہے کہ پہلے دنیاوی کاموں اور خواہشات کی پیروی سے فارغ ہو لے اور پھر نماز پڑھے۔ اس سلسلہ میں یہ اصول یاد رکھنا چاہئے کہ اگر دنیاوی کام اور نفسانی خواہش کے پورا کرنے کا وقت ہے اور اس سے نماز کے افضل وقت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا تو پہلے ان سب سے فارغ ہو لے اور اگر افضل وقت میں تاخیر ہو تو پہلے نماز پڑھے اور خیالات پر زبردستی قابو پائے۔ بہر حال حکم الہی کو اپنے کام پر مقدم رکھنا اور سچا خدا پرست بننا چاہئے۔

دوسری قسم ان خیالات کی ہے جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں۔ واہیات عادت کے خیالات خود بخود دل پر غالب آجائیں۔ ان کو دور کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ زبان سے پڑھتا ہے اس کے معنوں کو سمجھے اور ان میں اپنا دل لگائے۔ اگر عربی زبان سے واقفیت نہیں تو کم از کم اتنا ہی دھیان رکھے کہ میں کون کون سے الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں ان کی حرکات پر نظر رکھے بغیر ان دونوں باتوں کے کسی طرح بھی حضور قلب حاصل نہیں کر سکتا۔

حضور قلب کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نماز میں اپنی طرف سے کچھ نہ سوچے کہ میں نماز

پڑھ کر یہ کروں گا وہ کروں گا اور جو خیالات دل میں بغیر مقصد کے آئیں ان سے حضور قلب میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا۔ ایسے خیالات تو صحابہ کو بھی آتے تھے اور ان کا روکنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دی جس کی وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ ہمارا خدا جس نے ہمیں مذہبی قوانین دیے ہیں وہ ہماری تمام ضرورتوں اور ہماری تمام کمزوریوں سے واقف تھا اور اس نے ہر معاملہ میں ہماری آسانی کو مقدم رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ: 185)

”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانیاں چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا۔“

### چاروں ارکان کا تقابل

آنحضرت ﷺ نے نماز کو دین اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں جس نے نماز ترک کی گویا اس نے اپنے دین کے ستون کو گرا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہے۔ یہ اہمیت بقیہ تین ارکان میں سے کسی رکن کو بھی حاصل نہیں۔ نفس امارہ پر غالب آنا اور نفسانی خواہشات پر قابو حاصل کرنا یہی مذہب کا مقصود ہے اور اس مقصود کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اگرچہ یہ غرض صیام رمضان سے بھی پوری ہوتی ہے مگر روزوں کے ذریعہ ضبط نفس کی مشق صرف سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں ہوتی ہے اور نماز کے ذریعہ یہ مشق اپنے قوی موثرات کے ساتھ دن میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں علامات تقویٰ کو بیان کیا گیا ہے وہاں باری تعالیٰ نے علامات تقویٰ کو صرف اقامت صلوٰۃ پر منحصر کر دیا ہے اور اسی کے بیان پر اکتفا فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (بقرہ: 3)

”یعنی متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں۔“

اس میں ایمان بالغیب کے بعد عبادات اسلامیہ میں سے نماز کو مقدم بیان کیا ہے اور دوسری صفت متقین کی یہ بتلائی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حصول

تقویٰ میں نماز کو بہت بڑا دخل ہے جیسا کہ گزشتہ تفصیلات سے بھی ظاہر ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا قوی تر ذریعہ ہے۔ نماز خیالات معصیت کو فنا کرتی ہے اور ہر طرح انسانیت کی تکمیل کرتی ہے۔

اسلام کے بقیہ تین ارکان سے کوئی نہ کوئی وصف خصوصی حاصل ہوتا ہے مگر نماز تکمیل انسانیت کے اعتبار سے تمام اوصاف و خصائص پر حاوی ہے۔

### نماز جامع جمیع عبادات بدنی و نفسی ہے

نماز ہمہ عبادات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ جناب رسالت مآب ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ اعمال اسلامی میں کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ معلوم ہوا کہ عبادات اسلامیہ میں سے نماز کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر دیکھئے عبادات جمادات بیٹھنا ہے۔ چرنے والے جانوروں کی عبادت رکوع ہے۔ پرندوں کی عبادت ذکر و تلاوت اسمائے الہیہ ہے۔ عبادات حشرات سجود ہے۔ عبادات اشجار و نباتات قیام ہے اور عبادت ملائکہ میں سے بھی ہر ایک کی یہی عبادتیں ہیں۔ نماز ان اقسام پر مشتمل ہے۔ بقیہ تینوں ارکان میں یہ بات نہیں۔

نماز کی فرضیت اس قدر قوی اور ہمہ گیر ہے کہ اس عبادت کی فرضیت کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتی۔ عابد و معبود کا یہ تعلق کسی حالت میں بھی منقطع نہیں ہوتا اور ہو بھی کیونکر۔ بندہ ہونے کا تعلق تو جان نکلنے پر بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ دیکھئے اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی ارکان مقررہ کی ادائیگی سے معذور ہے تو ان کے بغیر ہی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے ادا کر سکتا ہے اور اگر زبان بھی ساتھ نہیں دیتی تو اس کی ادائیگی صرف اشارہ ہی سے کافی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت نماز میں جو تعلق بندہ کو خدا کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی صورت اور کسی حالت میں بھی نہیں ٹوٹتا۔ برخلاف بقیہ ارکان تلاش کے کہ ان کے ارکان مقررہ کی معذوری اور فقدان سے وہ عبادتیں ہی نہیں ہوتیں۔ مثلاً حد سے زیادہ نالتوان بوڑھا شخص روزہ کا فدیہ دے سکتا ہے۔ ارکان حج میں سے اگر کوئی رکن اور کوئی شرط مفقود ہوگی تو سرے سے حج ہی فرض نہ

ہوگا اور اگر کوئی صاحب نصاب نہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ یعنی ان عبادات کو وہ جامعیت، ہمہ گیری اور آسانی حاصل نہیں جو نماز کو حاصل ہے۔

روزہ، زکوٰۃ اور حج میں اخلاقی، روحانی، سیاسی اور مادی فائدے کچھ نہ کچھ ضرور ہیں اور ان کی فضیلت و اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن لفظ عبادت بتلا رہا ہے کہ سب سے اچھی اور جامع عبادت وہی ہو سکتی ہے جس میں عبودیت کی سب سے زیادہ مثال پائی جائے یعنی جس میں ہمارا دل، زبان، آنکھ اور کان وغیرہ جملہ اعضاء ظاہری و باطنی شریک عبادت ہوں۔ ارکان ثلاثہ میں یہ بات صرف نماز کو حاصل ہے۔

حج و زکوٰۃ صرف مالداروں کے لئے مخصوص ہیں اور روزے سال میں ایک ماہ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ مگر نماز سب کے لئے عام ہے اس کے روحانی، مادی فوائد ہر شخص ہر حالت میں اور دن میں پانچ بار حاصل کر سکتا ہے اور اس اعتبار سے نماز دینی و دنیاوی دونوں کامیابیوں کی ضامن و کفیل ہے۔



## زکوٰۃ کا بیان

اسلام کی حقیقت کسی شخص میں اس وقت متحقق ہو سکتی ہے جب کہ اس کا وجود محض خدا تعالیٰ کے لئے وقف ہو جائے۔ اس کے تمام ظاہری و باطنی قوی خدا کی راہ میں خرچ ہوں اور وہ کلی طور پر خدا کا ہو جائے۔ نہ صرف اعتقادی اور زبانی طور پر بلکہ عملاً اور حقیقتاً خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی دو چیزیں ہیں جان اور مال اور انہیں دونوں چیزوں کو خدا تعالیٰ نے خرید کر اپنا قبضہ کر لیا ہے تاکہ اس کے بندوں میں حقیقت اسلام متحقق ہو سکے اور بندہ و خدا کے درمیان رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں راہ اطاعت سے ہٹ جائیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں جس کے عوض ان کو جنت ملے گی سو حقیقی مومن خدا کی راہ میں جنگ کرتے ہیں دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں یہ وعدہ اللہ نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے بڑا پکا اور سچا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدہ کا پورا کرنے والا ہے۔ پس اے مسلمانوں! خوش ہو جاؤ اس سودے پر جو تم نے کیا اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ (توبہ: 111)

اس آیت مبارکہ میں باری تعالیٰ عز اسمہ نے مسلمانوں کو دینی و دنیاوی ترقی و کامیابی کا ایک گرتلایا ہے اور وہ یہ کہ دین و دنیا کا ہر کام پوری توجہ یا پوری طاقت اور پورے دل کے ساتھ سرانجام دینا چاہئے۔ اگر کوئی کام ادھورے دل اور لا پرواہی سے کیا جائے گا تو اس میں کبھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوگی۔ اس آیت میں ہمیں ترقی و کامیابی کا یہ اصول بتلایا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی جانیں اور دل گویا خدا کی ہیں انہیں ان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہئے کہ جس طرح اور جہاں چاہیں خرچ کریں بلکہ ان چیزوں کے متعلق ان کی ذہنیت یہ ہونی چاہئے کہ یہ چیزیں خدا کی ہیں اور مسلمان ان کے امین ہیں۔ جب کبھی خدا تعالیٰ ان کو مانگے تو بلا چون و چرا اس کے سپرد کر دینا چاہئے۔ پس معلوم ہوا کہ

اسلام نے ترقی و کامیابی کا گرجانی اور مالی قربانی کو بتلایا ہے۔  
تاریخ گواہ ہے کہ صدر اول کے مسلمانوں کے تمام کارناموں، فتح مندیوں اور  
کامرائیوں کی روح رواں یہی جانی و مالی قربانیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام کی پہلی آواز پر ہی  
اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیا تھا اور جانی و مالی قربانیوں نے ہی ہر طرح فائز المرام و  
شاد کام کیا۔

### نماز اور زکوٰۃ کو پہلو بہ پہلو رکھنے کی حکمت عملی

اوپر کے بیان سے ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور جہد للحمیات اسلام کی روح اعظم  
ہے اور جانی و مالی قربانی ترقی کا پہلا قدم۔ اس روح قربانی کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ  
نے نماز اور زکوٰۃ کو پہلو بہ پہلو رکھا ہے۔ سارے قرآن شریف میں نماز و زکوٰۃ کا ساتھ  
ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اْتُوا الزَّكٰوٰۃَ (بقرہ: 43) کی  
تکرار اور تلازم نظر آتا ہے۔ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ نماز جانی قربانی سکھاتی ہے اور زکوٰۃ  
مالی قربانی۔ ان کے تلازم سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ نہ تنہا جانی قربانی کافی ہے اور نہ تنہا  
مالی قربانی بلکہ دین و دنیا میں فائز المرام و شاد کام ہونے کے لئے دونوں ہی قربانیوں کی  
ضرورت ہے۔ صرف ایک قسم کی قربانی سے کام نہیں چلتا۔ حق و حریت کی راہ میں دونوں  
چیزیں قربانی کرنی چاہئیں۔

### تاریخ زکوٰۃ

نماز کے بعد افضل العبادت زکوٰۃ ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے اور نماز کے بعد  
زکوٰۃ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ۲۸ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ جاننا چاہئے کہ  
ہر آزاد بالغ، عاقل، مسلمان پر جب کہ وہ نصاب کا مالک ہو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی  
فرضیت کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق۔ اسلام کے عملی احکام و حصوں پر منقسم ہیں۔  
ایک حصہ حقوق اللہ کے متعلق اور ایک حقوق العباد کے متعلق ہے۔ اسلام کے ان عملی احکام  
میں سے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ایک رکن اعظم زکوٰۃ ہے۔ محدثین کے نزدیک

مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ ماہ شوال ۳ھ میں زکوٰۃ فطر کے بعد فرض ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ دو ماہ بعد شعبان ۳ھ میں زکوٰۃ فطر کے ساتھ فرض ہوئی۔

وجوب زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے اس قول **وَأَتُوا الزُّكُوَّةَ** (بقرہ: 43) اور رسول اللہ ﷺ کے قول ادوا زکوٰۃ اموالکم سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کے وجوب قطعی یعنی فرض ہونے پر اجماع امت ہے۔

### زکوٰۃ کی تعریف

لفظ زکوٰۃ تزکیہ سے نکلا ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں چونکہ زکوٰۃ انسان کے دل کو بخل اور خود غرضی کی نجاست سے پاک و صاف کرتی ہے اس لئے اصطلاح شرع میں اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ قرآن پاک میں وارد ہے۔

**خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** (توبہ: 103)

”اے نبی لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کرو یہ صدقہ ان کے مال کو طاہر اور پاکیزہ بنا دے گا۔“

یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ انبیاء علیہم السلام پر واجب نہیں اس لئے کہ زکوٰۃ بخل و خود غرضی کی نجات سے پاک کرنے کے لئے فرض ہوئی ہے اور انبیاء علیہم السلام تمام گناہوں سے پاک و معصوم ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت قرآن پاک میں جو یہ آیا ہے۔

**وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزُّكُوَّةِ** (مریم: 31)

”یعنی مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں۔“

اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس ہے ان رذائل سے جو مقامات انبیاء کے منافی ہیں یا اس سے مراد تبلیغ زکوٰۃ ہے۔

نماز اخلاقی مصلح ہے اور زکوٰۃ مالی مصلح۔ نماز شخصی اخلاق کو بالذات درست کرتی ہے اور زکوٰۃ قومی و اجتماعی امراض کی خاص دوا ہے۔

### ترک زکوٰۃ کی سزا

ترک زکوٰۃ کی سزا، ترک نماز کی سزا سے بڑھ کر ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا۔ کیونکہ وہ اس کی فرضیت ہی کے منکر ہو گئے تھے حالانکہ بقیہ ارکان کی ادائیگی کا ان کو اقرار و اعتراف تھا۔ اللہ تعالیٰ ترک زکوٰۃ کی سزایوں بیان فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٠﴾ (توبہ)

”جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں صرف نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔“

يَوْمَ يُخْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ النَّارُ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَ  
ظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ  
تَكْنِزُونَ ﴿٣١﴾ (توبہ)

”چاندی، سونا قیامت کے دن آتش دوزخ میں لال کیا جائے گا اور پھر اس سے تمہاری پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغ لگائے جائیں گے یہ تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اس کے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“

وجوب زکوٰۃ کی شرائط

زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں۔ فرض اور واجب۔ فرض زکوٰۃ مال ہے اور واجب صدقہ فطر۔ زکوٰۃ مال کی دو قسمیں ہیں چاندی سونے کی اور اموال تجارت کی زکوٰۃ۔ دوسرے زروع و اثمار یعنی غلہ اور پھلوں کی زکوٰۃ۔ احتاف کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کی آٹھ شرطیں ہیں جن کو میں علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔

۱۔ اسلام، کافر اور مرتد پر زکوٰۃ واجب نہیں۔

۲۔ بلوغ، لڑکے پر واجب نہیں۔

۳۔ عقل، مجنون پر واجب نہیں۔

۴۔ حریت یعنی آزاد ہونا، غلام اور مکاتب پر زکوٰۃ نہیں۔

۵۔ قرض دار نہ ہو مثلاً اگر کسی کے پاس پانچ سو روپے ہیں اور وہ اتنے ہی کا قرض دار

ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ (20)

۶۔ مال نصاب پر پورا ایک سال گزر جائے۔ سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

۷۔ مال نصاب کا مالک ہو، مال وقف پر اور نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں۔

۸۔ مال بڑھنے والا یا تجارت کے لئے ہو۔

### سونے چاندی کا نصاب

جس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو اور ایک سال تک باقی رہے۔ روپے کے حساب سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس چون روپے تیرہ آنے ۲ رتی بھر چاندی ہو یا سات روپے بارہ آنے ۵ رتی بھر سونا ہو (21) اور سال بھر تک باقی رہے تو سال گزرنے پر اس کی زکوٰۃ دینی واجب ہے اگر اس سے کم ہو تو واجب نہیں۔

اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، دنبہ، گدھے اور گھوڑے پر بھی زکوٰۃ ہے مگر اس میں چار شرطیں ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جانور گھر میں نہ پلتے ہوں بلکہ چراگاہ میں پلتے ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک سال ملک میں رہیں اگر سال گزرنے سے پہلے ملکیت سے نکل جائیں تو زکوٰۃ واجب نہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس مال سے تو نگر ہو اور اس کی تصرف میں رہا ہو۔ اگر کم ہو گئے ہوں یا کوئی ظالم لے لے تو زکوٰۃ نہیں۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال نصاب اتنا جمع ہو جس سے وہ تو نگر ہو۔

### جانوروں کا نصاب

اونٹ جب تک پانچ نہ ہوں ان کی زکوٰۃ واجب نہیں اور پانچ اونٹ میں ایک بکری بطور زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور بکری ایک سال سے کم کی نہیں۔ بیل گائے جب تک تیس نہ

20۔ پانچ سو روپے کوئی معین تعداد نہیں حالات کے مطابق اس میں تبدیلی ہوگی۔

21۔ روپوں کی تعداد بھی حالات کے مطابق بدل جائے گی۔

ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ جب تمیں ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ ایک سال کا پچھڑا واجب ہے اور چالیس ہوں تو دو سال کا پچھڑا۔ چالیس بکریوں تک زکوٰۃ نہیں اگر چالیس ہو جائیں تو ایک بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی۔

غلہ اور میوہ پر بھی زکوٰۃ ہے جس کے پاس آٹھ سو من گیہوں ہوں یا اتنی ہی جو، خرما اور منقہ وغیرہ قوت حاصل کرنے والی چیزیں ہوں جیسے مونگ چنے اور چاول وغیرہ تو اس پر عشر واجب ہوگا۔ یعنی دسواں حصہ اگر پیداوار کو تالاب کے پانی سے بھی سیراب کیا گیا ہو تب بھی عشر واجب ہوگا۔

چند ضروری مسائل

اگر سال کے اول و آخر میں مالک رہا مگر درمیان میں دو تین ماہ نصاب کا مال نہ رہا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلاً کسی کے پاس چھ مہینے تک دس تولے سونا رہا درمیان میں آٹھ تولے جاتا رہا صرف دو تولے رہ گیا مگر پھر آخر سہ ماہی میں پورا دس تولے ہو گیا ہو تو اس کی زکوٰۃ دینی لازم ہے ہاں اگر سال کے درمیان میں سارا ہی مال جاتا رہے اور آخر سال اتنا ہی آجائے تو جس وقت سے دوبارہ مال حاصل ہوا ہے تو سال کی ابتدا اسی وقت سے ہوگی۔

اگر کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار چاندی کی ہو اور نہ پوری سونے کی بلکہ کچھ چاندی اور کچھ سونا اور دونوں کی قیمت ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت ملا کر بھی چاندی یا سونے کا نصاب پورا نہیں ہوتا تو پھر واجب نہیں۔

سونا چاندی کے برتن و زیور اور سچے گوٹہ وغیرہ سب پر واجب ہے چاہے یہ اشیاء استعمال کے لئے رکھی ہوں یا ویسے یہ غیر مستعمل۔ مطلب یہ ہے کہ سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جیسے لوہا، تانبہ، پیتل اور کانسی وغیرہ اور ان چیزوں کے بنے ہوئے برتن نیز کپڑا، جوتا اور دیگر سامان اگر یہ سب چیزیں بھی تجارت کے لئے ہوں اور ان کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتی ہو تو زکوٰۃ واجب ہے ورنہ نہیں۔

گھر کے اسباب پتیلی، دیگچہ، سینی، لگن، صندوق، کھانے کے برتن اور رہائش کے مکانات، پہننے والے کپڑے، موتیوں کے ہار، جواہر کار زیور، چار پائیاں اور پلنگ وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں چاہے یہ چیزیں مستعمل ہوں یا غیر مستعمل۔ دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں بشرطیکہ یہ گھریلو اشیاء تجارت کے لئے نہ ہوں اور اگر یہ چیزیں تجارت کے لئے ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔

سودا گری کا مال شرع میں وہ سمجھا جاتا ہے جو سودا گری کی نیت سے خریدا جائے۔ اب خواہ اس کو فروخت کرے یا نہ کرے زکوٰۃ دینی ہوگی اور جو مال سودا گری کے لئے نہ خریدا گیا ہو اور بعد میں اس کو فروخت کیا جائے تو وہ سودا گری کا مال نہ سمجھا جائے گا اور نہ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔

زکوٰۃ نہ دینے کی سزا

حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ نہ دے گا اس کا مال قیامت کے روز سانپ بن کر اس کے گلے میں طوق ہوگا اس کے گالوں پر کانٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہ دی تھی۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے زکوٰۃ نہ دینے والا مجھ میں داخل نہ ہو۔

مستحق زکوٰۃ کون ہیں؟

ہر مومن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب چیزوں سے زیادہ خدا کو دوست رکھتا ہے اور دعوے کے لئے دلیل و ثبوت کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کے جواب میں فرماتا ہے:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: 92)

”یعنی تم ہرگز ہرگز حقیقی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔“

سب جانتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں سب سے پیاری چیز مال ہے۔ انسان اس کی

محبت میں اندھا ہو کر بڑے بڑے جرائم کرتا اور اپنی زندگی کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور بخل و خود غرضی سے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لئے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ اپنے مال کا چالیسواں حصہ لازمی طور پر زکوٰۃ نکالا کرو اور اس میں سے زیادہ بھی اگر ممکن ہو تو خیرات کیا کرو تا کہ تمہارا دعویٰ محبت سچا ثابت ہو۔

اسلام نے جو عبادت کے طریقے ہمارے لئے مقرر کئے ہیں وہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں ان سے خود ہم کو تمام بنی نوع انسان کو اپنی قوم کو ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ ان کے ذریعے ہمارے اخلاق و عادت کی درستی و اصلاح ہے۔ ہماری دنیاوی حالت بہتر ہوتی ہے اور ہماری حیات انفرادی و اجتماعی میں توحید و انضمام پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ و خیرات کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم بخل و خود غرضی کی خبیث عادت سے پاک ہوں دوسرا قوم کے امراء و غرباء میں توازن و ہمدردی قائم ہو اور تیسرا قومی جذبات کی تکمیل ہو۔ قوم کے دولت مند غریبوں و ناداروں کی امداد و دست گیری کریں اور قوم میں کوئی بھوکا ننگا نہ رہے۔

اسلام نے مال کو قوم زندگی بتلایا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے ایک قومی بنیت المال قائم کرنا چاہا ہے جس سے قومی مصارف پورے ہوں اور مسلمان مالی، معاشی اور سیاسی اعتبار سے دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہ رہیں ان میں گداگری کی لعنت نہ پیدا ہو اور وہ اغیار و اجانب کے غلام و محکوم و دست نگر نہ رہیں۔ ان اغراض کی تکمیل کے لئے اسلام نے زکوٰۃ و خیرات کا نظام قائم کیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں زکوٰۃ حکومت کے ٹیکس کی طرح وصول کی جاتی تھی اور اس طرح جو روپیہ جمع ہوتا تھا اسے بہترین قومی مصارف پر صرف کیا جاتا تھا۔

اسلام نے جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی پر حد سے زیادہ زور دیا ہے وہاں سختی کے ساتھ اس امر کی بھی تاکید کی ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ بر محل یعنی قوم کی حقیقی ضروریات پر خرچ ہونہ کوئی انفرادی طور پر دے اور نہ لے بلکہ سب روپیہ ایک جگہ جمع ہو اور بہترین قومی مصارف پر صرف کیا جائے۔ اس لئے اسلام نے مصارف زکوٰۃ بھی کھول کر بیان کر دیئے ہیں۔

جب تک مسلمان زکوٰۃ و خیرات ادا کرتے رہے اور صحیح طور پر خرچ کرتے رہے ان کی



مالی حالت بہتر رہی اور ان میں گداگری کی لعنت پیدا نہ ہونے پائی مگر جب انہوں نے اس نظام کو چھوڑ دیا تو ان پر غربت و افلاس نے قبضہ کر لیا اور لاکھوں کی تعداد میں بھیک منگے و گداگر پیدا ہو گئے۔ زکوٰۃ و خیرات کے بے محل خرچ نے اگر سچ پوچھو تو مسلمانوں کی مالی حالت اور غیرت و خودداری کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے اس لئے زکوٰۃ دینے والوں کو چاہئے کہ وہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق و غیر مستحق کا لازمی طور پر خیال رکھیں تاکہ زکوٰۃ کے قومی و تمدنی فوائد و نتائج پیدا ہوں اور زکوٰۃ کے بے محل استعمال سے قوم تباہ نہ ہو۔

مسکین اور فقیر

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جہاں مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے وہاں سب سے پہلے فقیروں اور مسکینوں کو رکھا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبْدِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتُ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۱﴾ (توبہ)

یعنی زکوٰۃ و خیرات کے مذکورہ ذیل مصارف ہیں اول یہ کہ زکوٰۃ و خیرات کا مال فقیروں اور مسکینوں کو دیا جائے۔

اس آیت مقدسہ میں فقر کو مقدم کیا ہے کیوں کہ وہ سوائے عامل و مکاتب اور ابن سبیل کے جملہ مصارف زکوٰۃ کی شرط اول ہے۔ ردالمحتار میں ہے۔

ان المسکین من لا شیء له اصلا والفقیر من یملک

شیئا۔ (22)

”مسکین وہ ہے جو اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتا ہو اور فقیر وہ ہے جو کسی قدر کا مالک ہو۔“ بعض کہتے ہیں کہ مسکینوں سے مراد وہ نیکوکار اور حاجت مند لوگ ہیں جو کسب معاش سے واقعی معذور ہوں یعنی کمانے کھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یعنی مسکین وہ شخص ہے جو باوجود حاجت مند ہونے کے شرم و حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ باقی

اصطلاح فقہاء میں فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس خود بھی کچھ مال ہو لیکن قدر نصاب سے کم ہو اور مسکین وہ شخص ہے جو ایک دن کی خوراک اور بقدر پوشش لباس کا بھی مالک ہو اور بغیر سوال کے ایک دن بھی بسر نہ کر سکتا ہو۔

عالمین

مصارف زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجہ پر عالموں کو رکھا ہے یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ و خیرات وصول کرنے کے لئے مقرر کئے گئے ہوں ان کی تنخواہیں بھی زکوٰۃ کے مال سے دی جاتی ہیں اگرچہ عامل غنی ہی ہو۔

زکوٰۃ کا تیسرا مصرف وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو جیسے نو مسلم ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

چوتھا مصرف غلاموں کی گردنوں کو قید غلامی سے آزاد کرانا ہے یعنی زکوٰۃ کے روپے سے غلاموں کو بھی آزاد کرایا جاسکتا ہے خواہ ان کو خرید کر آزاد کر دیا جائے یا اور کسی صورت سے مال صرف کر کے انہیں آزاد کرایا جائے۔

پانچواں مصرف قرض دار ہیں یعنی قرض داروں کا قرضہ ادا کرنے میں زکوٰۃ کے مال سے مدد دی جائے تاکہ ایک مسلمان بھائی قرضہ کی مصیبت سے نجات پائے۔

چھٹا مصرف مجاہدوں کی امداد ہے جو لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں ان کے لئے ساز و سامان، ہتھیار اور ضروری مصارف زکوٰۃ کے مال سے مہیا کئے جائیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی طرح دین الہی کی خدمت کرتے ہیں مثلاً دینی مدارس، اسلامی انجمنیں، مبلغین اسلام اور مصنفین وغیرہ۔ اسی میں طلباء بھی داخل ہیں جو دینی علم حاصل کرتے ہوں۔

ساتواں مصرف مسافروں کی امداد ہے یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے مسافروں کا زادراہ اور ضروری سامان خور و نوش دیا جاسکتا ہے اگرچہ مسافر اپنے وطن میں مالدار ہی ہو مثلاً اگر کوئی مال دار شخص سفر میں بے خرچ ہو جائے تو زکوٰۃ کے روپے سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔

## وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا منع ہے

۱۔ سادات کرام کو زکوٰۃ دینا منع ہے اس کا سبب ان کی شرافت نفس اور خاندانی اعزاز ہے۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْسَاحِ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔

”یعنی یہ صدقات لوگوں کا میل ہوتا ہے اس لئے یہ نہ محمد ﷺ کے لئے حلال ہیں اور نہ آل محمد ﷺ کے لئے۔“

۲۔ جو شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہو اس کو بھی زکوٰۃ دینا منع ہے کیونکہ ایسا شخص شرعاً غنی اور مالدار ہے ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں۔

۳۔ مالدار شخص کے مفلس نابالغ بچہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

۴۔ شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔

۵۔ کافر کو بھی زکوٰۃ دینا منع ہے۔

۶۔ اپنی اصلی دادی، دادا، پردادا، نانا، نانی، والدین اور وہ تمام رشتہ دار جن کی اولاد

میں زکوٰۃ دینے والے داخل ہوں ان سب کو زکوٰۃ دینا منع ہے اور جو لوگ اس کی اولاد میں داخل ہیں مثلاً پوتا، پوتی، پرپوتی، نواسا، نواسی اور بیٹا، بیٹی وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا ناجائز ہے یعنی اپنی اصل و فرع میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔

۷۔ زکوٰۃ کے روپے سے بیل، کنواں اور مسجد نہیں بنوائی جاسکتی نہ لاوارث مردہ کا گورو

کفن کرنا جائز ہے اور نہ مردے کی طرف سے اس کا قرض ادا کیا جاسکتا ہے۔

نیز جو گداگری کو اپنا پیشہ بنالے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔

## کس کس کو زکوٰۃ دینا افضل ہے؟

اسلام نے سب سے پہلے زکوٰۃ و خیرات کا مستحق ذوی القربی یعنی اپنے نزدیک رشتہ

داروں کو قرار دیا ہے۔ اس لئے رشتہ داروں کی مدد کرنی سب سے مقدم ہے اس سے دو

ثواب حاصل ہوتے ہیں ایک تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے کا اور دوسرا زکوٰۃ کا۔ بس عزیز و اقربا کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ثواب زیادہ ہونے کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے معاشرتی فائدے ہیں اس سے کنبہ میں باہمی محبت اور رواداری پیدا ہوتی ہے اور فتنہ و فساد کی جڑ کٹتی ہے اسلام کی تعلیم ہے کہ ذوی القربیٰ کا ہر حال میں خیال رکھو۔

ذوی القربیٰ سے مراد باشندے بھی ہیں یعنی اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے مسلمانوں کی اصلاح و فلاح پر زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کرنا بھی افضل ہے۔ پہلے اپنے شہر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرو پھر دوسری جگہ کے باشندوں کا خیال رکھو یہ نہ ہو کہ تمہارے شہر کے دینی کام تو ادھورے پڑے رہیں اور تم دوسرے شہر والوں کی امداد کرتے رہو۔

فقراء اور مساکین میں یتیمی بھی داخل ہیں اور فقراء و مساکین میں سب سے پہلے امداد کے مستحق یتیم ہیں۔ یتیم اس نابالغ بچہ کو کہتے ہیں جو ہنوز تعلیم و تربیت کا محتاج ہے اور کسب معاش پر قادر نہ ہو جو سن رشد کو بھی پہنچ گیا ہو مگر اپنا نفع و نقصان سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کا باپ چھوڑ کر مر جائے تو وہ بھی یتیم ہے۔ اگر باپ کا سایہ سن بلوغ کے بعد سر سے اٹھا ہے تو وہ یتیم نہ کہلائے گا۔ باقی ماں کا زندہ رہنا یا نہ رہنا دونوں برابر ہیں۔ ایسے یتیم بچے سلوک و امداد کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کو زکوٰۃ دینا بہت ہی افضل ہے۔

## ضمناً روزوں کا بیان

نماز کے علاوہ اسلام نے اپنے معتقدین کے لئے اور بھی چند عبادتیں مقرر کی ہیں جن میں نماز کی سی جامعیت تو نہیں لیکن ان میں سے ہر ایک کسی خاص صفت کے حصول کے لئے فرض کی گئی اور یوں بالواسطہ اس کا اثر بہ ہیئت مجموعی انسان کے اخلاق اور طرز معیشت و معاشرت پر پڑتا ہے۔ ان میں سے زکوٰۃ کا بیان ضمناً ختم ہوا اب روزوں کا بیان شروع کیا جاتا ہے۔

### روزہ کی تاریخ

روزہ کی ابتداء نہ معلوم کب ہوئی۔ جہاں تک پتہ لگ سکا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اس سے زیادہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم علیہ التحیۃ والتسلیم تک کوئی آسمانی یا غیر آسمانی مذہب اور کوئی مذہب اور کوئی قوم ایسی نہیں جس میں روزہ کا مفہوم نہ پایا جاتا ہو اور تزکیہ نفس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نہ مقرر کیا گیا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ایام بیض یعنی ہر ماہ کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کے روزے فرض تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر ہماری طرح رمضان کے روزے فرض تھے۔ ہندو دھرم اور بدھ مت میں بھی برت مذہب کا رکن ہے اور پارسیوں کے ہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت و اہمیت پائی جاتی ہے۔

اسلام کا پہلا رکن نماز ہے۔ دوسرا زکوٰۃ اور تیسرا روزہ۔ یہ اعظم ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزہ کی تکلیف چونکہ نفوس پر شاق گزرتی ہے اس لئے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام اسلامیہ کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا اس کے بعد زکوٰۃ کو اور زکوٰۃ کے بعد روزوں کو۔ حدیث شریف میں بھی یہی ترتیب نظر آتی ہے۔

رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے ابتدائے اسلام میں جو چاہتا تھا روزہ کے بدلہ دونوں وقت ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا مگر جب آیہ شہرہ رَمَضَانَ الذِّمِّي (بقرہ: 185) نازل ہوئی اور اس میں حکم دیا گیا کہ جو تم میں سے یہ مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ کے بدلہ مسکین کو کھانا کھلانا موقوف ہوا اور روزہ رکھنا فرض ہو گیا اس سے پہلے کوئی روزہ فرض نہ تھا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔

### روزہ کی فرضیت

روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور فرض ہے۔ رمضان کے روزے فرض عین ہیں جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۴﴾ (بقرہ)

”اے ایمان والو! حکم ہوا تم پر روزوں کا جیسا حکم ہوا تھا تم سے پہلوں پر شاید تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔“

رسول خدا ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا ”اے لوگو! رمضان کا با برکت مہینہ آ پہنچا۔ اس میں روزے رکھنے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کئے ہیں چونکہ روزہ کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے قطعی طور پر ثابت ہے اس لئے اس کا منکر کافر ہے۔“

### روزہ کی تعریف

روزہ کے لغوی معنی تو صرف رک جانے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں روزہ کے معنی یہ ہیں کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکا رہے۔ روزے کی تین قسمیں ہیں۔ فرض، واجب اور نفل۔ رمضان کے روزے اور کفارہ کے روزے فرض ہیں۔ نذر معین یا غیر معین کے روزے واجب ہیں ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں سب نفل ہیں۔

روزہ کا وقت صبح صادق کے نکلنے کے وقت سے غروب آفتاب تک ہے۔ روزے کی

نیت فرض ہے زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں بلکہ دل میں صرف یہ نیت کر لینا کافی ہے آج میرا روزہ ہے اگر کوئی شخص زبان سے بھی کہہ دے کہ میں آج کے روزہ کی نیت کرتا ہوں تو مستحب ہے۔

روزہ کی فرضیت کی شرطیں تین ہیں۔ اسلام، بلوغ اور درستی ہوش و حواس، نابالغ اور مجنون پر روزے فرض نہیں اور فرضیت ادا کی دو شرطیں ہیں۔ تندرستی اور اقامہ۔ بیمار کو حالت بیماری میں اور مسافر کو حالت سفر میں افطار کر لینا جائز ہے مگر پھر قضا دینی لازم ہے۔ روزہ صحیح ادا ہونے کے وقت عورت کے واسطے حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے جو عورت حائضہ ہو یا نساء ہو یا روزہ کی حالت میں حیض و نفاس آجائے تو اس کا روزہ نہ ہوگا۔ قضا لازم ہے۔

### فلسفہ صیام

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اور اس کی رفعت و عظمت اور تسلط و اقتدار کے آگے تمام کائنات سرنگوں اور انگشت بدنداں و حیراں ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے اس شرف و اعزاز اور عظمت و اقتدار کا معیار اور سبب کیا ہے۔ سو جاننا چاہئے کہ انسان کا شرف اور اعزاز اس بات میں ہے کہ وہ نفس سرکش کو قابو میں لا کر اور اپنی خواہشات پر غالب آ کر فرائض عبدیت بجالائے اور اپنا منشائے تخلیق پورا کرے۔ تقرب الہی و رضائے خداوندی کی تلاش و جستجو اس کا مقدم و اہم فرض ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اس فرض عبدیت سے غافل اور نابلد ہے تو وہ ارذل المخلوقات ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ ۝ (الشمس)

”جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی اور جس نے ایسا نہ کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔“

اس سے معلوم ہوا کہ شریف و معزز اور سعادت مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو حاصل کرے اور اسے پاکیزہ بنائے۔

نفس کو رام کرنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول یہ کہ نفس کو تمام شہوتوں

اور لذتوں سے روک رکھا جائے۔ کیونکہ جب سرکش گھوڑے کو دانہ گھاس نہ ملے تو وہ تابع ہو جاتا ہے اسی طرح نفس کی سرکشی بھی دور ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر عبادت کا بہت سا بوجھ لاد دیا جائے۔ جس جانور کو دانہ گھاس کم ملے اور اس پر بوجھ بہت سا لاد دیا جائے تو نرم ہو جاتا ہے۔ یہی حال نفس کا ہے۔ تیسرا یہ کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے مدد چاہے۔ یہی تین باتیں روزہ میں بدرجہ اتم و اکمل رکھی گئی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نفس کی قوت توڑنے کے لئے اور اپنی تمام قوتوں کو اعتدال پر لانے کے لئے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم ہوا۔ چونکہ روزہ مکسر شہوت و مقلل لغویات ہے اس لئے روزہ سے صفت تقویٰ حاصل ہو جاتی ہے۔

### روزہ کے جسمانی و روحانی فوائد

اگر دنیوی اور جسمانی اعتقاد سے دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ روزے مسلمانوں کو چست و چالاک صابر و شاکر، ایک دوسرے کے ہمدرد و نمکسار اور ایک مضبوط و باضابطہ قوم بنانے کا بہترین ذریعہ اور آلہ ہیں۔ اگر وہ حقیقت صوم کو مد نظر رکھ کر پابندی اور خلوص دل کے ساتھ روزے رکھیں تو حریص و طامع اور بندہ شکم ہونے کا مادہ ان میں سے بالکل جاتا رہتا ہے اور وہ انسانی لباس میں فرشتے نظر آئیں اور وہ جسمانی ضبط و قوت حاصل کریں کہ دنیا کی تمام قوتیں و شوکتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔

اصول طب کی رو سے روزہ صحت جسمانی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ اس طرح کہ گیارہ مہینے تک جو ردی اور فاسد رطوبتیں بدن میں پیدا ہوتی ہیں اور جمع ہوتی رہتی ہیں وہ ایک ماہ کے روزوں سے سب خشک ہو جاتی ہیں۔ صحت و توانائی میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں روزوں کے اور بہت سے روحانی، جسمانی و مادی فوائد ہیں۔ یہاں نمونہ کے طور پر صرف چند فوائد و منافع کو بیان کر دیا گیا ہے اب روحانی فوائد بھی سنئے۔

فرشتے کھانے پینے اور جماع کرنے سے پاک و منزہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان خواہشات سے پاک و منزہ ہے۔ اس لئے روزے رکھنے سے انسان ملکی صفات سے متصف اور متخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔ اخلاق و روحانیت کی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بھوک پیاس کی تکلیف گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور انسان ضبط نفس



کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔

روزہ سے مزاج میں عجز و انکساری آجاتی ہے۔ بھوکوں کی مصیبت و تکلیف کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس اندازہ کی وجہ سے بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی اور غربا کی امداد کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ الغرض روزہ ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ ایک اہل حقیقت کا قول ہے روزہ مرض گناہ کی دوا ہے اور اس سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ ایک اور اہل ریاضت نے کہا ہے روزہ بد اعمالی کے لئے ڈھال ہے اور نیک اعمالی کے لئے باغ ہے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس کو محض ایک فاقہ کشی سمجھ رکھا ہے اور اس کی حقیقت پر نظر نہیں۔ جیسی تو یہ اخلاقی روحانی اور مادی فوائد و نتائج حاصل نہیں ہوتے اور وہ بغیر بھوک و پیاس کی تکلیف کے روزوں سے اور کچھ حاصل نہیں کرتے۔

روزہ کی فضیلت و ثواب

رمضانِ رمض سے مشتق ہے جس کے معنی جلانے کے ہیں یعنی رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ نفس کی سوختگی و تکلیف سے۔ بخاری کی حدیث میں آیا ہے۔

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ۔ (23)

”جس شخص نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

کے لئے رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔“

حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک دن بھی خدا کے واسطے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دے گا جیسا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ (24)

مصائب کی حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور

23۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد 1 صفحہ 325، دار المعرفۃ للطباعة وزارت تعلیم والنشر بیروت لبنان۔

24۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصوم صفحہ 173۔

دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، تمام شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ کو وہ تمام اسباب حاصل ہو جاتے ہیں جن سے رحمت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔  
ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ

ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ (25)

”خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی پر دس گنا سے سات سو گنا تک ثواب ملتا ہے اور روزہ صرف میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کا ثواب بے حساب ہے کیونکہ روزہ بغیر صبر کامل کے ادا نہیں ہو سکتا اور قرآن شریف میں صاف طور پر آیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

روزہ دار صرف خوشنودی باری تعالیٰ حاصل کرنے کے لئے خواہشات نفسانی پر قابو حاصل کرتا ہے۔ ممنوعات الہی سے باز رہتا ہے، بھوک و پیاس کی تکلیف سختی پر صبر کرتا ہے اور مادیات کو ترک کرتا ہے اس لئے وہ صفات الہی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ رکھنے سے بندہ کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ صبر سے کام لیتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی اس کے ثواب کے متکفل ہوں اور بے حساب اجر عطا فرمائے۔

ترمذی میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک خوشی تو روزہ افطار کے وقت اور دوسری خوشی دیدار الہی کے وقت۔ (26)

نیز صحیحین میں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ

25۔ ترمذی شریف، کتاب الصوم، جلد 3 صفحہ 136، حدیث 764، دارالکتب علیہ

26۔ ترمذی شریف، کتاب الصوم، جلد 3 صفحہ 138، حدیث 764، دارالکتب علیہ

ہے جس کا نام ریان ہے اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ (27)

## روزہ کے مختصر مسائل

### مسائل رویت ہلال

شعبان کی ۲۹ تاریخ کو رمضان کا چاند دیکھنا مسلمانوں پر واجب کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی کے ایک مسلمان نے بھی چاند دیکھنے کی کوشش کی تو چاند دیکھنے کا حکم سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر ۲۹ تاریخ کو گردوغبار کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو دوسرے دن شک کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شک کے روز نفل کی نیت سے روزہ رکھنا جائز ہے مگر رمضان کی نیت سے رکھنا ناجائز ہے۔

آسمان پر گردوغبار کی وجہ سے صرف ایک دیندار اور عادل مسلمان کی گواہی مقبول ہے اور اگر آسمان غبار آلود نہ ہو اور مطلع صاف ہو تو رمضان اور شوال دونوں میں ایک بڑی جماعت کی شہادت معتبر سمجھی جائے۔ اس کے لئے کم از کم پچاس آدمیوں کی تعداد مقرر ہے۔

### روزہ کی نیت

روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں۔ فرض، واجب، سنت، نفل، مکروہ، حرام، فرض معین اور فرض غیر معین۔ رمضان شریف کے روزے فرض معین کہلاتے ہیں اور اگر یہ کسی عذر شرعی کی بناء پر چھوٹ جائیں تو اس کی تظاہیر یعنی ایک روزے کے بدلہ میں ایک روزہ رکھنے کو فرض غیر معین کہتے ہیں۔ کسی کام کے پورا ہو جانے پر خاص دن یا خاص تاریخ میں روزہ رکھنے کو واجب معین یا نذر معین کہتے ہیں اور بلا تعین تاریخ اور بلا تخصیص دن کسی منت پر روزہ رکھنا واجب غیر معین ہے۔ جو روزے خود رسول اللہ ﷺ نے رکھے ہیں یا جن کی بابت آپ نے اپنی امت کو ترغیب و تحریص دلائی ہے ان روزوں کو مسنون یا سنت کہا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایام بیض کے روزے اور عاشورہ و عرفہ کا روزہ ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں مثلاً دو شنبہ کا روزہ، بیچ شنبہ کا روزہ اور شوال کے چھ روزے یہ سب نفل روزے کہلاتے ہیں۔ شوہر کی بلا اجازت

27۔ صحیح بخاری کتاب الصوم جلد 1 صفحہ 324، دار المعرفۃ للطباعة والنشر بیروت لبنان۔

روزہ رکھنا یا بلا افطار و ودن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے اور ایام تشریق کے تین روزے حرام ہیں۔ ان روزوں میں سے فرض، واجب اور نفل روزوں کے لئے رات سے لے کر دوپہر تک اگر نیت کرے تو درست ہوں گے ان تینوں قسموں کے سوا اور روزوں کے لئے رات ہی سے نیت کرنا لازمی ہے ورنہ درست نہ ہوں گے۔

رمضان کے روزوں کی نیت عربی میں یہ ہے:

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔

”یعنی میں نے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کی“۔

**مسئلہ:** اگر کسی نے دن بھر نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اور نہ کوئی خلاف روزہ فعل کیا لیکن روزہ کی نیت نہ تھی تو اس طرح روزہ نہ ہوگا کیونکہ بغیر نیت و قصد کے روزہ نہیں ہوتا۔ رمضان کے روزہ کی نیت رات ہی سے کرنا افضل و مسنون ہے اگر رات سے نیت نہ کی بلکہ صبح ہوگئی اور صبح کو روزہ کا ارادہ کر لیا تب بھی روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح دوپہر سے قبل ایک گھنٹہ نیت کرنا درست ہے بعد دوپہر کے صحیح نہیں۔ رمضان کے روزہ میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہوگا۔

### سحری کھانا

سحری کھانا مسنون ہے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں ”یہود و نصاریٰ کے اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے“ یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم کھاتے ہیں اور بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لئے دو ایک چھوہارے کھالے یا صرف پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں سحری کھانے میں برکت ہے یعنی بدن میں چستی اور نشاط و قوت قائم رہتی ہے۔

سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سحری کھائی اور پھر صبح کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو اس وقت تک

کھاتے پیتے رہنا چاہئے۔ اور جب صبح صادق نمودار ہو جائے تو پھر کھانا پینا ترک کر دینا چاہئے۔ صبح صادق کی پہچان یہ ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہوتی ہے تو مشرق میں سیاہی اور روشنی کی دو دھاریاں نمایاں ہوتی ہیں اور پھر روشنی غالب آ کر تاریکی مٹا دیتی ہے یہی صبح صادق ہے۔

کسی نے اس خیال سے کہ ابھی رات باقی ہے کچھ کھا پی لیا بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی یا اسی طرح سورج غروب ہو جانے کے بعد گمان سے روزہ افطار کر لیا بعد میں معلوم ہوا کہ دن ابھی باقی تھا تو ان دونوں صورتوں میں روزہ نہ ہوگا۔ قضا دینی پڑے گی مگر دن بھر کھانے پینے سے بوجہ حرمت رمضان رکے رہنا چاہئے۔

### افطار کے مسائل

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہئے اور افطار میں جلد کرنے والے بندے خدا کو بہت پیارے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تک مسلمان روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین کو غلبہ رہے گا۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب کا غروب ہونا متحقق اور یقینی ہو جائے تو پھر افطار میں محض شبہ اور وہم کی بناء پر افطار میں دیر نہیں کرنی چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”میرے بندوں میں زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرے“ روزہ کھولنے کی دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُومْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ  
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ۔

”الہی میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تجھی پر میرا یقین ہے اور تیرے رزق ہی سے میں نے روزہ کھولا“۔

افطار کرنے میں حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہئے یعنی صرف اپنی کمائی کی حلال

شے سے روزے کو افطار کرے۔ چھوہارے یا کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے اور باعث ثواب ہے اگر یہ میسر نہ آئیں تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے اور اگر دودھ شربت یا اور کسی چیز سے بھی افطار کرنے تو کوئی حرج نہیں اور نہ ہی روزہ کا ثواب کم ہوتا ہے۔

جہلاء میں مشہور ہے کہ نمک کی کنکری سے روزہ کھولنے کا بہت ثواب ہے یہ بالکل غلط اور خود ساختہ عقیدہ ہے اسی طرح بعض جہلاء کا خیال ہے کہ اگر کسی دوسرے کی دی ہوئی چیز سے روزہ کھولا جائے تو ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیا کرتے ہیں کہ روزہ کھلوانے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ یہ خیال بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

### روزہ کھلوانے کا ثواب

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کا روزہ افطار کرادے تو اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملتی ہے اور اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو روزہ رکھنے کا۔ اس پر مزید لطف اور خدا تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا حضور! اگر کسی میں روزہ کھلوانے کی گنجائش نہ ہو تو وہ کیسے ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص دودھ کے گھونٹ یا چھوارے کے ایک ٹکڑے یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ کھلوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا اور اگر کوئی ہمت و گنجائش والا پیٹ بھر کر روزہ دار کو کھانا کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خاص میرے حوض سے پانی پلائیں گے۔ جس کی ادنیٰ تاثیر ہوگی کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو۔

### مفسدات صوم

جن باتوں سے قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ قبل یا دبر میں عدا جماع کرنا، فاعل اور مفعول دونوں پر، جان بوجھ کر کچھ کھاپی لینا۔ مختصراً یہ کہ جو شخص عدا کچھ کھاپی لے یا جماع کرے تو قضا و کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ (28)

جن باتوں سے صرف قضا دینی پڑتی ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈالی گئی اور وہ حلق سے اتر گئی۔

۲۔ روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ حلق میں پانی چلا گیا۔

۳۔ آئی ہوئی قے قصداً حلق میں لوٹادی۔

۴۔ قصداً منہ بھر کے قے کر ڈالی۔

۵۔ کنکری یا پتھر یا مٹی یا کاغذ نکل گیا۔

۶۔ دانتوں میں انگی ہوئی چنے کے برابر کوئی چیز نکل گیا۔

۷۔ کان میں تیل ڈالنے یا عمل پچکاری سے دوا پیٹ میں پہنچ گئی۔

۸۔ نسوار سونگھ لی۔

۹۔ دانتوں سے نکلے ہوئے خون کو نکل گیا۔

۱۰۔ بھولے سے کچھ کھاپی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا قصداً کچھ کھاپی لیا۔

۱۱۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی سحری کھالی اور پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی۔

۱۲۔ ابرو غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں

معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا تو ان سب صورتوں میں قضا دینی پڑے گی۔ (تعلیم الاسلام)

وہ باتیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا

بھول کر کچھ کھاپی لینا یا جماع کر لینا، خواب میں احتلام ہو جانا، شہوت سے دیکھنے کے

سبب منی کا نکل آنا۔ تیل ملنا، سچھنے لگوانا، سرمہ لگانا، بوسہ لینا بشرطیکہ جماع کر بیٹھنے اور انزال

ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ روزہ نہ رکھنے کی نیت کر کے پھر رکھ لینا۔ حلق میں دھوئیں غبار یا

آٹے کا چلا جانا۔ حلق میں دوا کا اثر محسوس ہونا۔ بحالت جب صبح ہو جانا، خواہ سورج ہی نکل

آئے، مکھی کا منہ میں چلا جانا، سوراخ ذکر میں پانی ڈالنا یا دوا کا ڈالنا، نہریا حوض میں غوطہ

مارنے کے سبب ناک یا کان میں پانی چلا جانا، کان کھجانے یا لکڑی کرنے سے پیپ نکل

آنا۔ ناک میں ہتی ڈال کر چھینک لینا یا قے کا ہو جانا بشرطیکہ منہ بھر کر نہ ہو۔ دامت کی انگی

ہوئی چیز کا نکل لینا بشرطیکہ وہ گہیوں کے دانہ سے کم ہو۔ ان سب باتوں سے روزہ فاسد نہیں

## قضا اور کفارہ کی تعریف

جس شخص کا روزہ مجبوری یا غلطی یا کسی کی زبردستی کی وجہ سے رہ گیا یا ٹوٹ گیا تو اسے صرف ایک روزہ رکھنا۔ اگر کسی کے کئی روزے قضا ہو جائیں تو اسے اختیار ہے کہ جب چاہے اور جس طرح چاہے رکھے۔ پے در پے اور لگاتار رکھنا شرط نہیں۔

روزہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اگر درمیان میں ایک بھی ترک ہو جائے گا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے اگر دو مہینے کے روزے رکھنے کی بھی قوت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلا دینا چاہئے یا ہر فقیر کو نصف صاع گیہوں کا آٹا یا ستودے دے۔

## مکروہات صوم

ان باتوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کا چکھنا، مصطکی وغیرہ کا بلا ضرورت چبانا۔ جس کا نفس پر قابو نہ ہو اس کا بوسہ لینا اور اختلاط کرنا۔ تھوک کا منہ میں جمع کر کے نگل جانا۔ روزہ دار کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہئے تاکہ روزہ مکروہ نہ ہو۔

ان باتوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نفس پر قابو ہونے کی صورت میں بوسہ لینا اور اختلاط کرنا۔ تیل ملنا۔ سرمہ لگانا۔ سچھنے لگوانا۔ ظہر کے بعد مسواک کرنا خواہ تر ہو یا خشک۔ وضو کے علاوہ کلی کرنا۔ نہانا اور بدن پر بھیگا ہوا کپڑا ڈالنا۔

## آداب روزہ

روزہ کا مطلب محض بھوکا مرنا نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا وجہ اور بلا نتیجہ کھانے پینے اور جماع کرنے سے روکا ہے بلکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں اور اپنی خواہشات پر اپنا نظم و ضبط قائم رکھیں۔ پس اصلی روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفسانی اور تمام اعضاء جسمانی کو گناہوں سے روک کر ہمہ تن خدا



تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

اہل معرفت نے روزہ کے تین درجے قائم کئے ہیں ایک عام لوگوں کا روزہ اور دوسرا خاص لوگوں کا روزہ اور تیسرا خاص الخاص حضرات کا روزہ۔ عوام کا روزہ صرف کھانا پینا اور جماع ترک کرنا ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ان پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دیں اور اپنی زبان کو روک لیں اور خاص الخاص حضرات کا روزہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے رکھیں اور سب چیزوں کو ترک کر دیں۔

روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی بد اخلاقیوں اور لغویات و فضولیات سے کلی طور پر احتراز کیا جائے کیونکہ روزہ کا مقصد اعظم تادیب نفس ہے۔ اگر نفس کھانے پینے اور جماع کرنے کے علاوہ اور دنیاوی جھگڑوں اور برائیوں و بد اخلاقیوں میں بدستور پڑا رہے تو روزہ کا کچھ فائدہ نہیں۔ لڑائی جھگڑے، غیظ و غضب، سب و شتم اور غیبت و چغلی سے روزہ دار کو بچے رہنا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بہت سے روزہ داروں کو روزہ سے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ترمذی میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل نہ کرنا چھوڑے تو خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو ترک کر دے (30)۔ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ بہت سے روزہ داروں کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس جان لینا چاہئے کہ روزہ سے مقصود صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ شہوت کو توڑنا اور نفس امارہ کو مغلوب کرنا ہے۔ جب یہ مقصود حاصل نہ ہو تو پھر کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ۔

## ضمنائے حج کا بیان

حج چونکہ مرکب ہے مالی اور بدنی عبادت سے، تمام عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس کا سب سے بڑا منشاء یہ ہے کہ دلوں میں اسلام کی عظمت اور بانی اسلام کی محبت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تمام عبادات میں سب سے مؤخر اور مشروط رکھا ہے تاکہ جب مسلمان دیگر فرائض بجالا کر تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کے مختلف مدارج طے کر لیں تو پھر ان سب باتوں کے اثر سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت و عظمت پیدا ہو اور تمام دنیا کے مسلمانوں میں باہمی رشتہ اخوت و اتحاد مضبوط و مستحکم ہو۔

### تاریخ حج

بانی اسلام ﷺ نے بھی ارکان اسلامی میں حج کو مؤخر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس (31)۔ اس میں حج کو آخر میں بیان فرمایا ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض عین ہے جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا  
”جو شخص استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کے لئے حج کرنا فرض ہے۔“

(آل عمران: 97)

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! ہم پر حج کرنا ہر سال فرض ہے یا تمام عمر میں ایک مرتبہ؟ آپ نے فرمایا صرف ایک مرتبہ۔

حج غالباً ۷ھ میں فرض ہوا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے حج محض ایک رسمی اور خیالی فریضہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل اور ایسا فعل ہے جو سراسر عملی اور نتیجہ خیز ہے چونکہ حج تمام ارکان کے بعد

31۔ صحیح المسلم شرح نووی، کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 158، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

فرض ہوا ہے اس لئے اس کے اندر عملیت اور حقیقی رنگ سب سے زیادہ غالب ہونا چاہئے۔  
حج کیا ہے؟

لفظ حج کے لغوی معنوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حج ایک ایسا عمل اور ایک ایسا فعل ہے جو اپنے اندر عملی رنگ رکھتا ہو اور یہ اس وقت صحیح طور پر ادا ہوتا ہے کہ مسلمان صحیح عزم اور صحیح رنگ میں اس کو ادا کریں۔ اس کے اندر تمام روحانی، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور فطری فرائض کی ادائیگی مضمر ہے اور اس کے اندر بیشتر مادی و روحانی فوائد و منافع پنہاں ہیں۔ سو حج صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ تمدنی بھی ہے، اخلاقی بھی، مذہبی بھی ہے، سیاسی بھی اور مادی بھی ہے، معاشی بھی۔ حج کیا ہے؟ مجمل طور پر اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حج سنت ابراہیمی ہے۔ روحوں میں جولانی اور جذبات میں ہیجان پیدا کرنے والا مذہبی فریضہ ہے۔ ایک فرزند توحید کی عملی یادگار قائم کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام بالخصوص مخصوص ہے۔

اس کا مقصد یہ ہے کہ فرزند ان توحید دنیا کے مختلف حصوں سے ایک وقت مقررہ پر اسلام کے ابتدائی وطن اور مرکز توحید پر جمع ہو کر شعائر اللہ اور ہدایت کے سرچشمہ کی زیارت کریں۔ ان کی زیارت سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں اور ان مذہبی رسوم کو بجلائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے اہل ایمان ادا کرتے رہے ہیں اس طرح ہدایت و معرفت اور رحمت و رافت کے چشمہ کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عشق الہی کی آگ بھڑکے، دلوں میں صداقت کی روشنی چمکے، روہیں بیدار ہوں، طبیعتوں میں نیکی اور نیکو کاری کی امنگ پیدا ہو اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح صحیح طور پر اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کریں۔

حج کے دینی و مذہبی فرائض

حج کے دو پہلو ہیں۔ دینی و دنیاوی۔ ان دونوں اعتبار سے حج میں بیشتر اسرار و فوائد مضمر ہیں۔ اس کا دینی و مذہبی فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام ﷺ کی محبت و عقیدت پیدا ہوتی ہے اور یہی چیز اسلام کی روح اور عبدیت کا خلاصہ ہے۔

اس کے ضمن میں اور بھی بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔  
 اللہ کے گھر میں پہنچ کر ہیبت و جلال ربانی اور رحمت و رافت الہی کا جو گہرا نقش دل پر  
 قائم ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت کسی دل محبت آئین سے پوچھئے۔ اس کی کیفیت و سرور کا  
 جواب کچھ وہی خوش قسمت انسان دے سکتے ہیں جو مادۃ الفت سے مخمور اور نشہ محبت میں  
 چور ہو کر سر و پا برہنہ مستانہ و اروادی بطحا میں یہ کہتے ہوئے دوڑتے ہیں۔

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔

”حاضر، حاضر، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے کہ تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر  
 ہوں۔“

صحرائے حجاز کی ایک ایک چیز اور حج کے ایک ایک فعل سے محسن حقیقی کے احسان کا صحیح  
 احساس پیدا ہوتا ہے۔ خشوع و خضوع کی روح پیدا ہوتی ہے۔ مذہب کی عظمت دل کی  
 گہرائیوں میں پنہاں ہو جاتی ہے۔ عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ بے ثباتی عالم کی تصویر آنکھوں  
 میں پھر جاتی ہے۔ اخروی ثواب و عذاب کی اہمیت نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ معاصی و  
 منہا ہی سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی عجز و بیچارگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقی  
 عیوب سے قدرتنا تنفر پیدا ہوتا ہے اور ابراہیمی یادگار کو دیکھ کر اسلام کے حقیقی معنی سمجھ میں  
 آ جاتے ہیں۔ اسلام میں ایمان و ایقان کی قوت بڑھانے کا اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔  
 دنیوی فوائد

اب اگر حج کو دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو اس اعتبار سے بھی اس میں بے شمار فوائد و  
 مصالح نظر آتے ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ  
 وسیع پیمانہ پر اور بالکل صحیح طور پر عالم اسلام کی ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوتی ہے اور ایسے  
 قومی اجتماعات کی افادہ حیثیت آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور کانفرنسوں کے اس دور میں  
 تو یہ امر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ تہذیب و ترقی کا تمام تر دار و مدار اسی بات پر ہے کہ مختلف  
 خیالات کے لوگ ہر گوشہ دنیا سے آ کر کسی ایک جگہ پر جمع ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو  
 اپنی رائے اور خیالات سے مطلع کریں اور قومی فلاح و بہبود اور دینی و دنیاوی ترقی کی نئی نئی

راہیں نکالیں اور بہترین تدبیریں سوچیں۔

ذرا غور کیجئے روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا وقت مقررہ پر ایک ہی جگہ، ایک ہی شہر، ایک ہی لباس، ایک جذبہ، ایک ہی خیال، ایک ہی رنگ اور ایک ہی حالات میں اور ایک ہی مقصد کے لئے باہم جمع ہونا اخلاقی، ملی، معاشرتی، معاشی، تاریخی، اقتصادی، تجارتی، مذہبی، دینی، دنیوی، بین الاقوامی اور سیاسی اعتبار سے کتنا اہم اور نتیجہ خیز امر ہے اور کیسی کیسی سود مند فائز المرامیوں و کامرانیوں کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہر بالغ نظر اس کی اہمیت و فائدہ مندی کو بیک نظر محسوس کر سکتا ہے۔

حج کے موقع پر تجارت کرنے اور اس سے نفع اٹھانے کی خدا تعالیٰ نے حاجیوں کو خاص طور پر اجازت دی ہے کیونکہ تجارت کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ. (بقرہ: 198)

”پروردگار کے فضل و کرم سے تجارت وغیرہ کرنا چاہو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تجارت کی اجازت دے کر اپنے بندوں کے یہ امر اچھی طرح ذہن نشین کر دینا چاہا ہے کہ اتنے بڑے اجتماع سے حتی الامکان خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جائے۔ حج سے دنیا کے تمام مسلمانوں میں باہمی ربط و ضبط پیدا ہوتا ہے اور محبت و اخوت میں ترقی ہوتی ہے اور یہی چیز تمام ترقیات کی بنیاد و اصل ہے۔ تجارتی و کاروباری اغراض پوری ہوتی ہیں۔ سفر اور قدرتی مناظر کے مشاہدے سے عقل بڑھتی اور تجربہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو فکری ترقی کی اساس ہے۔ صعوبت سفر سے نفس کشی و جفاکشی کی عادت پختہ ہوتی ہے اور تمام اخلاقی جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض حج بی شمار تمدنی، اخلاقی اور مذہبی و سیاسی منافع پر مشتمل ہے۔

عبادات کی دو قسمیں

اسلام نے ہمیں جتنی عبادات کا حکم دیا ہے انہیں ہم دو قسموں پر منقسم کر سکتے ہیں۔ ایک عاجزانہ اور دوسری عاشقانہ۔ ان میں سے حج عاشقانہ عبادت ہے یعنی ایک مسلمان حج کے ذریعہ اپنے معبود و محبوب کے عشق و محبت کا عملی ثبوت دیتا ہے اور اس پر خمار عشق و مدہوشی کا

عالم طاری ہوتا ہے۔

جس وقت حرم پر نظر پڑتی ہے اس وقت قلب و روح دونوں پروانہ بن جاتے ہیں۔  
برق شوق ہر رگ و پے میں دوڑتی پھرتی ہے۔ تمام مطائف نہ صرف یہ کہ بیدار ہو جاتے ہیں  
بلکہ وہ روشنی و حرارت کے تنور بن جاتے ہیں۔ ہر طرف روشنی، ہر طرف انوار، اور ہر طرف  
بہار ہی بہار ہوتی ہے۔ انوار الہی کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ ایک بے خودانہ کیف  
طاری ہوتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ عارف وہاں کیا پاتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں اور  
وہاں سے کیا لے کر آتے ہیں۔

دیار محبوب کے قریب عبادت عاشقانہ کے مظاہر ہوتے ہیں۔ جسمانی افعال کا اثر روح  
پر مرتب ہوتا ہے۔ روح محبوب حقیقی پر قربان ہونے کے لئے بیقرار ہوتی ہے۔ اللہ والوں  
میں دربار الہی کی درباری شان پیدا ہوتی ہے اور جانی و مالی قربانی کی وہ روح تازہ ہو جاتی  
ہے جو دارین کی فائز المرامی و کامرانی کی ضامن و کفیل ہے۔

### احکامات حج

جاننا چاہیے کہ جو شخص وقت پر حج کرے گا اسی کا حج درست ہوگا۔ یہ وقت تمام ماہ شوال  
و ذیقعد و ذی الحجہ کے نو دن ہیں۔ جب عید الفطر کی صبح طلوع ہو اس وقت سے حج کے لئے  
احرام باندھنا چاہئے۔ اگر اس سے پہلے احرام باندھ کر حج کیا تو وہ حج نہیں بلکہ عمرہ ہوگا۔ حج  
کی درستگی کی تین شرائط ہیں۔ اول حج کا وقت ہو یعنی وہ زمانہ جس میں احرام باندھنا بغیر  
کراہت کے صحیح ہے یہ وقت یکم شوال سے ۱۰ ذی الحجہ تک ہے۔ شوال سے قبل احرام باندھنا  
مکروہ ہے۔ دوم مقام حج ہو یعنی مکہ معظمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر حج نہیں ہو سکتا۔ سوم  
احرام باندھا ہوا ہو بغیر احرام کے حج صحیح نہیں ہے۔

### شرائط وجوب

حج واجب ہونے کی چھ شرطیں ہیں:

۱۔ مسلمان ہونا۔

۲۔ بالغ ہونا۔

۳۔ عاقل ہونا۔

۴۔ آزاد ہونا۔

۵۔ بدنی تندرستی اور صحت جسمانی کا ہونا۔

۶۔ استطاعت ہونا۔

بچہ پر، دیوانہ پر، غلام پر اور اپاہج یعنی لنگڑے لو لے اور بیمار پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح اس شخص پر فرض نہیں جو اتنی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ سفر خرچ اور اپنے پیچھے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکے۔ چھٹی شرط کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال ہو کہ راستہ کی آمد و رفت اور زمانہ حج میں مکہ میں قیام بہولت ہو سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ پسماندگان کے خورد و نوش کا انتظام بھی کر جائے۔

استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ تندرست و توانا ہو اور یہ استطاعت تین چیزوں میں کسی قسم کا جانی و مالی خطرہ نہ ہو اور تیسرے مالدار ہونے سے تاکہ مصارف حج برداشت کئے جاسکیں۔ دوسری قسم استطاعت کی یہ ہے کہ خود حج نہ کر سکے۔ مثلاً فالج پڑ گیا ہے اور یا ایسا صاحب فراش ہے کہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے ایسے شخص کی استطاعت یہ ہے کہ اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو مصارف حج دے کر حج کرائے۔

جب ان تفصیلات کے مطابق حج کی استطاعت ہو تو چاہئے کہ حج کرنے میں تاخیر نہ کرے کیونکہ اگر حج کرنے سے پہلے مر گیا تو گناہ گار مرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک حدیث کے راوی ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کی قدرت و استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ (32)

حج کے ارکان و شرائط

حج کے یہ ارکان ہیں:

۱۔ احرام باندھنا شرط ہے۔

32۔ ترمذی شریف، کتاب الحج، جلد 3 صفحہ 176 حدیث نمبر 812، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

۲۔ طوائف زیارت یعنی درمیانی طوائف کرنا۔

۳۔ ٹھہرنا، نویں کے زوال سے لے کر دسویں کی فجر صادق کے طلوع ہونے کے

درمیان۔

۴۔ بال موٹنا۔

ان میں سے اگر کوئی رکن فوت ہو جائے گا تو حج باطل ہو جائے گا اور آئندہ سال قضا

کرنا واجب ہوگی۔

وہ واجبات جن کے ترک کرنے سے حج باطل نہیں ہوتا صرف ایک بکرا ذبح کرنا لازم

آتا ہے وہ یہ ہیں:

۱۔ میقات سے احرام باندھنا۔ اگر وہاں سے بغیر احرام کے گزرنے کا تو ایک بکری

واجب ہوگی۔

۲۔ غروب آفتاب تک کنکریاں پھینکنا۔

۳۔ عرفات میں شام تک ٹھہرنا۔

۴۔ رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا۔

۵۔ منیٰ میں قیام کرنا۔

۶۔ طواف زیارت ایام حج میں کرنا۔

۷۔ بال نہ موٹنا حتیٰ کہ ایام نحر گزر جائیں۔

۸۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔

حج میں یہ چیزیں منع ہیں

پہلا، سلا ہوا لباس پہننا، کیونکہ احرام میں پیرا، ہن شلوار، دستار اور موزہ وغیرہ پہننا جائز

نہیں بلکہ بے سلا ایک ہی کپڑا باندھے وہی اوڑھے اور نعلین پہنے۔ اگر نعلین میسر نہ ہو تو کفش

درست ہے۔ سر کھلا رہے اور عورت کو چاہئے کہ عادت کے موافق لباس پہنے لیکن منہ نہ

چھپائے۔ اگر عورتیں محمل یعنی عماری میں رہیں تو درست ہے دوسرا یہ کہ خوشبو نہ لگائے۔ اگر

عطر میں بسا ہوا کپڑا پہنا تو ایک بکری یا بھیڑ واجب ہوگی۔ تیسرا یہ کہ بال نہ موٹے اور نہ



ناخن تراشے۔ اگر بال موٹڈے یا ناخن تراشے تو ایک بکری واجب ہوگی۔ سرمہ لگانا، حمام میں جانا، حجامت کرنا اور بالوں میں گنگھی کرنا جائز ہے تاکہ جوئیں نہ پڑیں اور بدن و کپڑے صاف رہیں۔ چوتھا جماع کرنا منع ہے اگر وقوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو حج فاسد ہو جائے گا وہ ایک بکری ذبح کرے گا اور حج کے باقی افعال کرتا رہے گا اور اگلے سال قضا بھی کرے گا اور اگر وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارت اور حلق کرانے سے پہلے جماع کیا تو ایک اونٹ یا ایک گائے دے گا اور اگر حلق کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے جماع کیا تو ایک بکری دے گا۔ آخری دو صورتوں میں حج فاسد نہ ہوگا یعنی قضا لازم نہ ہوگی۔ پانچواں عورت کو چھونا اور اس کا بوسہ لینا بھی منع ہے۔ یہ جماع کرنے کی پیش بندی کی وجہ سے ہے۔ اگر بغیر جماع عورت سے کسی طرح لطف و سرور حاصل کرے گا تو ایک بکر واجب ہوگا۔ چھٹے یہ کہ کسی جانور کو نہ مارے۔ شکار کھانا تو درست ہے مگر شکار کا مارنا جائز نہیں اگر مارے گا تو اس مانند واجب ہوگا۔

### ممنوعات احرام

احرام کے دور کن ہیں۔ نیت کرنا اور لبیک پڑھنا۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وضو یا غسل کرے۔ سینے ہوئے کپڑے اتار ڈالے صرف چادر اور تہ بند دو کپڑے پہن لے۔ یہ دونوں نئے ہوں تو بہتر ہے اگر نئے نہ ہوں تو دھلے ہوئے ہی کافی ہیں۔ مونچھیں کتر دا ڈالے، ناخن بھی ترشوائے اور اصلاح بھی کرائے۔ جب ان امور سے فارغ ہو لے تو دو رکعت نماز پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد کہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي۔

”یا اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں تو مجھ پر حج آسان کر دے اور اس کو قبول فرمایا۔“

اس کے بعد یہ کلمات کہے:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ۔

اس عبارت میں سے کچھ کم کر دینا جائز ہے ہاں اگر اس میں کچھ دعائیہ الفاظ اور بڑھا

دیئے جائیں تو کچھ حرج نہیں۔

لبیک کہنے کے بعد احرام مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد حسب ذیل امور سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ فحش کلامی، بدکاری کا ارتکاب، لڑائی جھگڑا اور فساد و قتل کرنا، خود شکار کرنا، شکار کو چھیڑنا، کسی شکار کی طرف اشارہ کر کے بتانا یا زبان سے شکار کا پتہ بتانا یا شکار کرنے میں مدد کرنی، سلا ہوا کپڑا پہننا، بال کٹوانا یا منڈوانا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانی، کھٹل، پسوا اور جوں وغیرہ مارنا یا سرمہ لگانا۔ یہ تمام آداب احرام کے خلاف ہیں ان امور کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے۔

حج کا مقصد طبیعتوں میں نیکی اور نیکوکاری کی امنگ پیدا کرنا ہے اس لئے ان امور سے منع کیا گیا ہے۔ جنگ و جدال اور فسق و فجور سے تو حاجیوں کو خصوصیت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

فَلَا مَرَاةَ وَلَا فُسُوْقٍ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (بقرہ: 197)

”حج میں نفسانی خواہش گناہ اور جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہئے۔“

حج مبرور

حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ تمام آداب دارکان ظاہری و باطنی کو ملحوظ رکھ کر کیا جائے اور اس میں حتی الامکان کسی قسم کا نقص و کمی نہ رہے۔ رسول کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے محض خدا کے لئے حج کیا وہ ایسا پاک ہو کر واپس آئے گا جس طرح پیدائش کے دن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دوران حج فحش و بدکاری، جنگ و جدل تمام قولی و فعلی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے تمام لوازم حج ادا کئے اور تمام مسلمان اس کی زبان و ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کے گرد ستر ہزار فرشتے ہیں جو طواف کرنے والوں کے لئے مغفرت چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص مکہ کے راستہ میں آتے جاتے ہوئے مرجائے تو اللہ تعالیٰ ہر سال اس کے لئے ستر حج اور ستر عمرہ کے ثواب لکھتا رہے گا۔

### حج کو جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے

جو شخص حج مبرور کرنا چاہے اور مذکورہ بالا ثواب حاصل کرنا چاہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ حج کا ارادہ کرنے سے پہلے ہی گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں سے حتی الامکان اجتناب کرے، بری عادتوں کو چھوڑ دے اور نیکی و پاکبازی اختیار کرے۔ حج کے فرائض واجبات اور سنن سے واقفیت بہم پہنچائے اور بوقت حج ان سب امور کا خیال رکھے۔ حالت احرام میں تمام ممنوعات سے بچا رہے۔

حج کرنے سے قبل گناہوں سے توبہ کر لے اور درود و استغفار کی کثرت کرے۔ حقوق العباد کی اچھی طرح حفاظت و نگہداشت کرے یعنی جن لوگوں کے حقوق واجب الادا ہوں ان کو ادا کرے تاکہ اگر راستہ میں موت آجائے تو کسی بندہ کا حق واجب الادا نہ رہے۔

حج کے لئے جتنا خرچ لے وہ اپنی حلال کمائی کا ہو۔ حرام یا مشتبہ مال نہ ہو ورنہ حج قبول نہ ہوگا۔ اپنے ساتھ اتنا زاد راہ بھی رکھے کہ فقیروں اور محتاجوں کی بقدر گنجائش امداد و دستگیری کر سکے۔ اپنے ساتھ ایسے رفیق صالح کو لے جو راستہ کے امور سے اچھی طرح واقف ہو اور حقیقی غم خوار اور دردمند ہو۔

### حج کی کیفیت

جب گھر سے نکلے تو دو رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد فاتحہ کے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① (الکافرون) اور دوسری میں بعد فاتحہ کے قُلْ هُوَ اللَّهُ (اخلاص: 1) پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد یوں دعا مانگے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَأَنْتَ الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ

وَالْمَالِ إِحْفَظْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ كُلِّ آفَةٍ أَلَلَّهُمْ إِنَّا نَسْتَلُكَ فِي

مَسِيرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى۔

اس کے بعد حج کو روانہ ہو۔ جس وقت ملک حجاز میں قدم رکھے اور بطحا کی مقدس زمین پر پہنچے تو حاجی کو لازم ہے کہ کسی ٹیلہ پر چڑھتے اور اترتے وقت لبیک بلند آواز سے پڑھے۔ اگر راستہ میں کوئی شخص ملے تو تب بھی لبیک پڑھے۔ صبح و شام بھی لبیک کہے۔ الغرض لبیک کی کثرت رکھے۔ جب مکہ میں داخل ہو تو اول مسجد حرام میں جائے اور جس وقت بیت اللہ پر نظر پڑے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے پھر یہی کلمات کہتا ہوا دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حجر اسود تک پہنچنا ممکن ہو اور کسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچے تو اس پر دونوں ہتھیلیاں ٹیک کر بوسہ دے اور اگر وہاں تک پہنچنا ممکن ہے، دوسروں کو دھکے لگتے ہیں اور ایذا پہنچنے کا احتمال ہو تو کسی لاکھی یا لکڑی کو سنگ اسود پر لگا کر اس کو چوم لے۔ خود لوگوں کو دھکے دے کر اور ہٹا کر چومنے کی کوشش نہ کرے۔ حجر اسود کو چومنا سنت ہے اور کسی کو ایذا نہ دینی واجب ہے اس لئے واجب کا خیال مقدم رکھنا چاہیے۔ یعنی لوگوں کو ایذا دے کر حجر اسود چومنے کی کوشش نہ کرنی چاہیے۔ اگر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑا ہو جائے اس کی طرف منہ کر کے شانوں تک دونوں ہتھیلیاں اٹھالے اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرتا ہو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھے۔

طواف کا طریقہ

جب حجر اسود کو بوسہ دینے کی سنت ادا کر چکے تو اپنی چادر دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے کنارے بائیں موٹدھے پر ڈال لے اور طواف شروع کرے۔ طواف کرتے وقت حطیم کعبہ کو اندر لینا بھی ضروری ہے کیونکہ حطیم بھی کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ طواف کی ابتداء دروازہ کی دائیں جانب حجر اسود کے پاس سے کرے اور سبات چکر لگائے۔ پہلی تین گردشوں میں اکڑ کر چلے اور باقی چار معمولی رفتار سے پوری کرے۔ ہر چکر کے اختتام پر رکن یمانی کا بوسہ دے۔ جب اس طرح ساتواں چکر ختم کر چکے تو حجر اسود کو بوسہ دے کر

مقام ابراہیم میں جائے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھے اور اگر اڑدھام زیادہ ہو تو وہاں نماز پڑھنی ضروری نہیں مسجد کے کسی گوشہ میں پڑھ لے یہ نماز ساتویں چکر کے بعد پڑھنی واجب ہے۔ اس کے بعد مسجد سے نکل کر صفا پہاڑی پر چڑھتے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے اور درود شریف پڑھے۔ پھر ہاتھ اٹھا کر جو کچھ چاہے دعا مانگے اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف معمولی چال سے چلے۔ جب ”وادی بطن“ میں پہنچ جائے ”میلین اخضرین“ کے درمیان دوڑ کر چلے یہاں تک کہ وادی کے درمیان سے گزر جائے۔ اس کے بعد مروہ تک معمولی رفتار سے پہنچے۔ مروہ پر چڑھ کر وہی عمل کرے جو صفا پر کیا تھا یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے تکبیر و تہلیل اور حمد و صلوة پڑھے۔ اس کے بعد مروہ سے اتر کر صفا پر آئے اور اسی طرح صفا سے مروہ کی طرف جائے اور سات چکر لگائے۔

### قیام مکہ

جب ان امور سے فارغ ہو لے تو حالت احرام میں یہ مکہ میں قیام پذیر ہو اور جب بیت اللہ کی طرف گزر رہا کرے تو طواف کر لیا کرے کیونکہ یہ مسنون ہے۔ ۸ ذی الحجہ کو بعد نماز صبح منیٰ میں جا کر قیام کرے یوم عرفہ یعنی ۹ ذی الحجہ کی فجر تک منیٰ میں ٹھہرا رہے پھر قیام عرفات میں جا کر سوائے مقام بطن عرنہ کے جس جگہ چاہے قیام کرے۔ عرفات میں اس تاریخ کو نماز ظہر اور عصر ملا کر یکے بعد دیگرے پڑھے۔ نماز کے بعد غسل کر کے موقف میں چلا جائے اور وہاں غروب آفتاب تک رہے۔ جب آفتاب غروب ہو جائے تو مزدلفہ میں جا کر قیام پذیر ہو۔ یہاں سوائے وادی محسر کے جس جگہ چاہے ٹھہرے۔ جبل قزح کے پاس ٹھہرنا مسنون ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھے۔ ان نمازوں کے لئے اذان اور تکبیر بھی کہنی چاہئے۔

۱۰ ذی الحجہ کو صبح کو اندھیرے اندھیرے ہی نماز فجر پڑھ کر تکبیر و تہلیل اور حمد و صلوة پڑھے اور جو چاہے دعا مانگے۔ جب صبح خوب روشن ہو جائے تو منیٰ میں آ کر بطن وادی سے نیچے نکل کر جمرۃ العقیقی پر سات کنکریاں مارے اور ہر کنکری مارتے وقت زبان سے یہ کلمات ادا کرے۔ بسم اللہ واللہ اکبر دل میں یہ نیت کرے کہ میں شیطان اور اس کے گروہ کو سنگسار

کرنے کے لئے یہ کنکریاں مارتا ہوں اور دعائے مانگے الہی! تو میرا حج میری کو شش مشکور اور میرے گناہ معاف فرما۔ اس کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس سے فارغ ہو کر سر کے بال کتر واڈالے لیکن منڈوانا افضل ہے۔

ان امور سے فارغ ہونے کے بعد تمام ممنوعات احرام جائز ہو جاتے ہیں۔ سوائے عورتوں کے اس کے بعد اسی تاریخ کو یا ۱۱ یا ۱۲ ذی الحجہ کو طواف زیارت کرے لیکن درمیانی رفتار سے اکڑ کر نہ چلے اور نہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے۔ ۱۱ ذی الحجہ کو دو پہر ڈھلنے کے بعد منیٰ میں آجائے اور کنکریاں پھینکنی شروع کرے۔ اول اس جمرہ پر سات کنکریاں مارے جو مسجد خیف کے برابر ہے پھر درمیانی جمرہ پر اور آخر میں جمرہ عقبہ پر۔ کنکریاں مارنے میں یہ ضروری ہے کہ پہلے اور دوسرے جمرہ پر کنکریاں مارنے کے بعد کچھ دیر توقف کرے اور دعا مانگے مگر جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے کے بعد نہ ٹھہرے۔ ہر دفعہ کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہے اس کے بعد اگر مکہ میں قیام رہے تو اس طرح دوسرے اور تیسرے دن بھی کنکریاں پھینکتا رہے اور منیٰ میں رات کو قیام کرے۔ ان امور کے ادا کرنے کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔

### واپسی کے آداب

ان امور سے فارغ ہونے کے بعد اگر واپسی کا ارادہ ہو تو سات مرتبہ پھر طواف کرے لیکن حسب معمول چال سے نہ اکڑ کر چلے اور نہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے۔ طواف سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے پھر چاہے زمزم کا پانی پی کر کعبہ معظمہ کے پاس آئے۔ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے اپنا سینا اور منہ مقام ملتزم پر رکھے اور کعبہ کا پردہ پکڑ کر انتہائی عاجزی اور تضرع کے ساتھ دعائے مانگے پھر اٹھے پاؤں مسجد سے نکل جائے۔

### عورتوں کے چند مخصوص مسائل

حج کی جو کیفیت اوپر بیان کی گئی ہے اس میں عورت کی حالت بھی مرد کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سیاہوا کپڑا پہنے اور سر نہ کھولے صرف منہ کھولے رکھے۔ آہستہ اور پست آواز سے لبیک کہے۔ حجر اسود کے پاس اس وقت جائے جب وہاں مجمع نہ ہو۔

طواف کے وقت اکڑ کر نہ چلے۔ میلین اخضرین کے درمیان نہ دوڑے۔ معمولی رفتار سے چلے سر نہ منڈوائے صرف ایک لٹ کٹوا دینی چاہئے۔ اگر احرام سے قبل حائض ہو جائے تو غسل کر کے احرام باندھ لے اور صرف طواف نہ کرے باقی تمام امور بدستور ادا کرتی رہے اور اگر طواف زیارت کے بعد حائض ہو تو طواف صدر نہ کرے۔

## تمتع اور قرآن

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حج مفرد کا بیان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سال میں صرف حج کرے عمرہ نہ کرے اگر عمرہ بھی کرے تو ایام حج یعنی شوال سے قبل یا ۱۰ ذی الحجہ کے بعد۔ الغرض ایام حج میں صرف حج کرنے کو حج مفرد کہتے ہیں۔

تمتع کے معنی یہ ہیں کہ ایام حج میں اول عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر یا بغیر احرام کھولے حج کے امور کی تکمیل و تکمیل شروع کر دے اور قرآن کے معنی یہ ہیں کہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ ہی احرام باندھ لیا جائے اور میقات سے دونوں کے لئے ساتھ ساتھ کہے۔ جب کوئی حاجی حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرنا چاہے تو چاہئے کہ غسل کر کے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھے۔ مکہ سے نکل کر میقات عمرہ تک چلا جائے جو تنعیم بعرانہ اور حدیبیہ ہے یہاں آ کر عمرہ کی نیت کرے اور کہے لبیک بعمرة پھر مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں جائے اور دو رکعت نماز ادا کرے۔ واپسی میں مکہ کو آئے تو راہ میں لبیک کہے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد سر منڈوا دے۔ بس عمرہ تمام ہو جائے گا۔ اس کا نام عمرہ ہے۔

عمرہ ہر سال کر سکتے ہیں اور جو لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ جتنی بار چاہے عمرہ بجالا سکتے ہیں۔

## تمتع اور قرآن کا فرق

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تمتع کرنے والا عمرہ سے فارغ ہو کر حج سے قبل ممنوعات احرام سے بہرہ مند ہو سکتا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ عمرہ کے بعد احرام کھول کر حلال ہو جائے اور ہر اس شے سے نفع پذیر ہو سکے جس کی حالت احرام میں ممانعت تھی البتہ اگر تمتع

کرنے والے کے ساتھ قربانی ہو تو حج سے قبل حلال ہونا جائز نہیں اور قرآن کرنے والا اگر حج سے قبل کوئی قصور یا جنایت کرے گا تو قربانی لازم ہوگی تاکہ ارتکاب ممنوع کا کفارہ ہو جائے۔ حنفیہ کے نزدیک قرآن سب سے اعلیٰ ہے اس کے بعد تمتع کا درجہ ہے اور آخر میں مفرد کا۔

### قرآن کا طریقہ

جو شخص حج قرآن کرنا چاہے اس کے لئے لازم ہے کہ احرام کا ارادہ کرتے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ نیت کرے۔

إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي۔

”یعنی اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں پس میرے لئے دونوں کو آسان کر اور میری طرف سے دونوں کو قبول فرما“۔

اس کے بعد جب مکہ پہنچے تو عمرہ کے لئے سات طواف کر لے۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو کیفیت حج کے بیان میں مذکور ہوا۔ اس کے بعد سر منڈائے حج کرنا شروع کر دے۔ اس کے بعد نحر کے دن یعنی ۱۰ ذی الحجہ کو جب رمی سے فارغ ہو جائے تو قربانی کرنی لازم ہے۔ اگر قربانی کرنے کی توفیق نہ ہو تو دس روزے رکھنے واجب ہیں۔ تین ۷ ذی الحجہ سے ۹ ذی الحجہ تک اور سات روزے ایام تشریق کے بعد اگر شروع کے تین روزے فوت ہو جائیں تو لا محالہ قربانی کرنی ہوگی۔

### ایک ضروری مسئلہ

اگر قرآن کرنے والا مکہ میں نہ گیا اور عرفات میں جا کر پہلے ہی سے قیام پذیر ہو گیا تو اس کا عمرہ باطل ہو گیا اور بطور کفارہ قربانی کرنی لازم ہے اور پھر آئندہ سال عمرہ ہی صحیح نہیں ہو تو قرآن کس طرح صحیح ہو سکتا ہے اور قرآن کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کی قربانی بھی ساقط ہوگی۔



## زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت کرنا ہر وقت مستحب ہے اور اگر سچ پوچھے تو عاشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو یہ عاشقانہ فرض ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری وفات کے بعد میری زیارت کرے گا اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی۔ نیز فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی اور جس نے میری قبر کی زیارت نہ کی بے شک اس نے مجھ پر جفا کی۔ نیز فرمایا کہ جو کوئی مدینہ میں آئے اور سوائے زیارت کے اس کی اور کوئی غرض نہ ہو تو حق تعالیٰ کے نزدیک اس کا حق ثابت ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کا شفیق کر دے۔

مذکورہ بالا احادیث سے صاف طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر خلوص قلب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی جائے تو حصول جنت یقینی ہے کیونکہ علمائے امت کا اس عقیدہ پر اتفاق ہے کہ جو شخص دلی ایمان اور قلبی اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے دیدار پر انوار سے فیض یاب ہو اس کے لئے جنت یقینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو اس نے گویا میری حیات میں زیارت کی۔

## ایک حکایت

ایک بزرگ حضرت شیخ صالح سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ عشق نبوی میں تڑپتے اور ہر سال حاجیوں کی معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام بھیجتے اور فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے کھڑے ہو کر میرا سلام عرض کرنا۔ جب تک آپ میں حج کرنے کی قدرت نہیں تھی یہی دستور رکھا اور اپنے بے قرار دل کو یونہی تسکین دیتے رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی توفیق و قدرت دی اور آپ مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی۔

فِي حَالَةِ الْبُعْدِ رُوِّحِي كُنْتُ أُرْسِلُهَا تَقْبَلُ الْأَرْضَ وَهِيَ نَائِبِي

جب میں آپ سے دور تھا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا کہ وہ میری قائم مقام ہو کر میری طرف سے اس زمین کو بوسہ دیتی تھی۔

وَهَذَا دَوْلَةُ الْأَشْبَاحِ قَدِمَ حَضْرَتُ فَاْمَدُّ بِيَمِينِكَ كَيْ تَحُظَّ بِهَا شَفَتِي  
اب چونکہ حضوری کی دولت میسر ہوئی تو آپ اپنا داہنا ہاتھ پھیلائیے تاکہ میرے ہونٹ اسے بوسہ دے کر تسکین حاصل کر لیں۔

جو نبی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے فوراً جناب رسول اللہ ﷺ کا دست مبارک قبر شریف سے ظاہر ہوا اور شیخ نے پروانہ وار آگے بڑھ کر چوم لیا۔

جاننا چاہیے کہ دست مبارک کا قبر شریف سے ظاہر ہونا کوئی مستبعد بات نہیں مگر ان کے لئے جو یقین و ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اور جو اولیائے کاملین سے حسن عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ عقل و نقل کی رو سے اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے اور حضور سرور کائنات ﷺ قبر شریف میں زندہ ہیں۔

قبر شریف کے پاس درود شریف پڑھنے کی فضیلت

اکثر علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر  
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (احزاب: 56) پڑھے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے  
شخص خدا نے تجھ پر اپنی رحمت نازل کی اور اس شخص کی کوئی حاجت نہیں رہتی جو بر نہ آئے۔

یہ تو آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ روضہ پاک حضور اکرم ﷺ کی زیارت افضل  
مستحبات سے ہے اور اگر خلوص قلب کے ساتھ روضہ پاک کی زیارت کی جائے تو حصول  
جنت یقینی ہے۔ اب اس کا طریقہ معلوم کر لیجئے اگر حج کرنا ہو تو اولیٰ یہ ہے کہ پہلے فریضہ حج  
کی ادائیگی سے بطریق احسن واکمل فارغ ہو اور اس کے بعد روضہ پاک کی زیارت کی  
جائے اور اگر حج نفل کرنا مقصود ہو تو حاجی کو اختیار ہے کہ خواہ پہلے حج کرے یا زیارت۔

مدینہ میں داخل ہونے کے آداب

جس وقت روضہ پاک کا ارادہ ہو تو گھر سے نکلتے ہی روضہ پاک کی زیارت کی خالص  
نیت کرے اور راستے میں ہر وقت درود شریف کا ورد رکھے۔ حتی الامکان کوئی بات سنت

نبوی کے خلاف نہ کرے۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو روضہ مبارک میں داخل ہونے سے قبل غسل کر کے اپنے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوتا کہ تعظیم نبوی کا جسم و روح دونوں سے کامل مظاہرہ ہو۔ جب مدینہ میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاَرْزُقْنِيْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ يَا خَيْرَ مُسْتَوِلٍ۔

جب مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہو تو باب جبرائیل علیہ السلام سے داخل ہو اول داہنا پاؤں مسجد میں رکھے اور اس وقت یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَفْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ الْيَوْمَ مِنْ اَوْجِهٍ مَنْ تَوَجَّهَ اِلَيْكَ وَاَقْرَبُ مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْكَ وَابْتَغَى مَرْضَاتِكَ۔

اس کے بعد مستحب ہے کہ قبر شریف اور ممبر کے درمیان محراب کے سامنے کھڑا ہو کر دو گانہ تحیۃ المسجد ادا کرے۔ کیونکہ یہ مقام جنت کے باغوں میں سے ایک تروتازہ اور شاداب باغ ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ مقام جنت کے سبز باغ ہونے کا استحقاق رکھتا ہے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ بیت الحرام کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے اور میری مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر ہے۔ الغرض یہ مقام روضہ اطہر میں داخل اور رسول اکرم ﷺ کا موقف ہے۔ یہاں سجدہ شکر ادا کرنا چاہئے۔ خدائے قدوس نے یہ دولت عظمیٰ نصیب کی کہ مہبط قرآن و وحی اور احکام اسلامیہ کے سرچشمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر مزار مبارک کے پاس آئے، قبلہ کی طرف پشت کرے اور دیوار مزار کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ  
 عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ.  
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَيْرُهُ اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ. السَّلَامُ  
 عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ آدَمَ.  
 السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ  
 وَرَسُولُهُ. أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ  
 الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا  
 جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَاكَ الْأَنْبِيَاءَ عَنْ أُمَّتِهِمْ. اللَّهُمَّ  
 أَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ  
 وَالشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ  
 الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ سُبْحَانَكَ  
 إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.

یہ دعا پڑھ کر بوسیلہ نبی اکرم ﷺ خدا سے اپنی دینی و دنیوی حاجات کے لئے دعا مانگے۔ یہ نیت اور خیال کر کے کہ حضور ﷺ زندہ موجود ہیں اور میرے کلام کو سنتے ہیں۔ انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔ جب اپنے اور متعلقین کے لئے دعا کرنے سے فارغ ہو چکے تو جن لوگوں نے سلام بھیجا ہو ان کی طرف سے بارگاہ نبوی ﷺ میں سلام عرض کر دے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس آ کر یہ الفاظ کہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ  
 أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزار کے پاس جا کر یوں خطاب کرے۔  
 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ الْفَارُوقِ الَّذِي

أَعَزَّكَ اللَّهُ بِكَ الْإِسْلَامَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا:

پھر ممبر اور روضہ پاک کے درمیان حضور ﷺ کے سر ہانے کھڑے ہو کر دعائے مانگے  
اپنے اور اپنے والدین کے لئے شفاعت کا طلب گار ہوں اور دعا ختم کرنے کے بعد آمین  
کہے اور بکثرت درود سلام بھیجے۔

## بیان نماز

### ترغیب و ترہیب

چونکہ ہماری یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہے جو ایماندار ہیں اس لئے انہی کے مسلمات پر ہمارا یہ مضمون ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ انسان کا مقصد حیات عبادت ہے اور عبادت کے معنی کسی بالاتر ہستی کی عظمت و کبریائی تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے اور اس کے سامنے سر نیاز جھکانے کے ہیں۔ انسانی فطرت اور اس کی بناوٹ صاف طور پر بتلاتی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ساری دنیا اس کے لئے ہے اور وہ خود خدا کی عبادت و پرستش کے لئے۔ جہاں کائنات ارضی و سماوی کا ذرہ ذرہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگا ہوا اپنے منشاء تخلیق کو پورا کر رہا ہے۔ وہاں انسان کے شرف و مجد کا زبردست اور بدرجہ اولیٰ تقاضا ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کی عبادت و پرستش کر کے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک ظاہر بات ہے کہ انسان ایک نفع پسند ہستی ہے۔ یہ بات اس کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ نفع بخش چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ضرر رساں چیزوں سے بھاگتا ہے۔ اس بناء پر اس کی فطرت کا زبردست تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق و معبود کی عبادت سے ابدی راحت پائے۔ کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز عبادت الہی ہے۔ اس فطرت انسانی کو ملحوظ رکھ کر قرآن حکیم ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰﴾ (بقرہ)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ رب جس نے تم کو اور تمہارے آباؤ اجداد کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

یعنی عبادت الہی سے تم متقی بن جاؤ گے جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری تمام حرکات و

سکنت اور خواہشات احکام اسلامیہ کی روشنی میں ایک ضبط و نظام کے ماتحت آجائیں گی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اس دنیا میں بھی راحت و اطمینان پاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ پھر دوسری جگہ انسانی خلقت کی علت غائی بھی عبادت بتلائی۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾ (الذاریات)

”میں نے جن و انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“

تو چونکہ انسانی فطرت کا زبردست اقتضاء عبادت الہی ہے اس لئے اس کے قوی کی اندرونی ساخت زبردستی اس کے منہ سے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ (فاتحہ: 4) کہلوا دیتی ہے اور انسان اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے بھجور ہے کہ خدا کی عبادت کرے۔ اس فطرت انسانی کا اعلان قرآنی زبان میں یوں ہوا ہے۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

لَا تَبَدِّلْ رِخْلًا وَلَا سِيفًا ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (روم: 30)

”یعنی ان تمام عقائد و اعمال پر اپنے آپ کو اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کو قائم کرو۔ اس طرح کہ ہر پہلو سے اسی کی طرف جھک جاؤ کیونکہ یہ فطرتی دین ہے جس پر نیک سرشت انسان پیدا کیے گئے ہیں سو تم ایسی چیز کو مت بدلو جو بوجہ فطرتی ہونے کے غیر متبدل ہے۔“

انسانی فطرت عبادت کے لئے بنائی گئی ہے

مذکورہ بالا امور سے بخوبی روشن و مبرہن ہو گیا ہے کہ فطرت انسانی عبادت کے لئے بنائی گئی ہے اور اس لئے اس کو اس قسم کے قوی اور سامان بھی مولائے کریم نے دیے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ رسی طور پر چند رٹے رٹائے الفاظ دن میں پانچ بار دہرائے جائیں اور سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اپنے منشاء فطرت کو پورا کر لیا۔ ایسا سمجھنا عبادت کی توہین ہے۔ سنئے عبادت سے مراد توحید ہے جس کی تین اقسام ہیں۔ توحید الذات، توحید الاسماء والصفات اور توحید الافعال۔ عبادت کے مفہوم میں توحید کی یہ تینوں اقسام داخل ہیں۔

عبادت کی حقیقت لفظ ”عبد“ سے صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے جس کے معنی پامال زمین کے ہیں۔ سو عبادت کی حقیقی غرض یہ ہے کہ انسان الوہیت کے مقابلہ میں اپنے آپ کو حقیر و ناچیز اور لاشے سمجھے۔ جو اس طرح مسلک عبادت پر قدم رکھتا ہے وہ خدا کا عبد کہلاتا ہے۔

### قرآن شریف میں عبادت کے مختلف مدارج

قرآن حکیم نے عبدیت کی تکمیل و ترفیع کے لئے مختلف احکامات و ہدایات دی ہیں اور عبادت کے مختلف مدارج و اصول بیان کئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ نہایت مہتمم بالشان اور اہم ہیں لیکن ان سب سے مقدم و اہم اور ان سب کی روح رواں نماز ہے جس کو قرآن پاک میں لفظ ”صلوٰۃ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نماز کیا ہے؟ نماز ایک دعا ہے جو انسان کی جمیع مشکلات کی کلید ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مغز نماز دعا ہے۔

### نماز کا سب سے بڑا فائدہ

نماز کو عموماً ایک بوجھ اور محض رسمی طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس طرح نماز کی پابندی کرنے والے نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ اس غنی و حمید اور غنی العالمین خدائے کریم کو اس بات کی کیا حاجت کہ انسان دعا تسبیح و تہلیل اور عبادت و ریاضت میں مصروف ہو یا نہ ہو۔ اس کو انسان کی عبادت کی مطلق ضرورت نہیں وہ تو بے نیاز ہے اگر اس نے ہمیں عبادت کا تاکید اور بار بار حکم دیا ہے تو اس میں سراسر انسان ہی کا فائدہ مد نظر ہے۔ وہ صحیح معنوں میں عبادت کر کے متقی یعنی سچا عامل کامل مومن بن جاتا ہے۔ جو عبد مومن بن گیا وہ دارین میں فائز المرام و شاد کام بن گیا۔

چونکہ نماز انسانی خلق کی غایت اور مقصد اعظم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جاریہ کے مطابق نماز میں ایک لذت و سرور اور اطمینان قلب رکھ دیا ہے جیسا کہ فرمایا۔

اَلَا يَذُكُرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنًا الْقُلُوْبُ ﴿۱۰۱﴾ (الرعد)



”جان لو کہ اطمینان قلب ذکر الہی میں ہے۔“

اس دنیا میں انسان کی ساری تگ و دو جہد اور سعی و کوشش اس لئے ہے کہ اسے اطمینان قلب میسر آجائے مگر یہ چیز سوائے ذکر الہی کے کسی طرح بھی میسر نہیں آسکتی خواہ انسان ہفت اقلیم کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سچ پوچھو تو اطمینان کامل ہی حقیقی راحت اور لذت کا حقیقی مفہوم ہے۔

چونکہ زمانہ کی رسم پرستی آداب نماز اور حقیقت صلوٰۃ سے ناواقفی کی وجہ سے لوگوں کو نماز میں لطف و سرور نہیں آتا اور اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا اس لئے وہ اپنی نا سمجھی سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نماز میں کوئی لذت و سرور نہیں مگر اس قسم کے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مریض ایک عمدہ سے عمدہ اور خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور اسے بالکل تلخ یا پھیکا سمجھتا ہے حالانکہ نفس الامر میں وہ چیز مزہ سے خالی نہیں ہوتی حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ حقیقت نماز سے نا آشنا ہوتے ہیں اور نماز کو محض رسمی طور پر ادا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اس بیماری کا علاج کرنا چاہئے۔

### نماز کا حظ و سرور

خالق ارض و سما نے دنیا میں جس قدر اشیاء انسان کے لئے بنائی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی قسم کی لذت بھی رکھ دی ہے جو انسان کی توجہ کو اپنی طرف جذب کرتی ہے مثلاً دیکھئے خالق کائنات نے اناج اور تمام خوردنی و نوشیدنی اشیاء انسان کے لئے پیدا کی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ان سے لذت و حظ پاتا ہے اور ان کے لئے حریص ہے۔ ان مادی چیزوں کے مزہ اور ذائقہ کے احساس کے لئے قدرت نے اس کے منہ میں زبان دی ہے وہ خوبصورت اشیاء کو دیکھ کر خواہ وہ نباتات ہوں یا جمادات اور حیوانات حظ و سرور پاتا ہے۔ دلکش اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح عورت و مرد کے تعلقات میں ایک خاص حظ و سرور رکھا گیا ہے جس کا لطف سب چیزوں سے زیادہ سمجھا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس چونکہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا حظ و سرور رکھا ہے۔ اگر اس کا احساس ہو جائے تو انسان پھر دنیا و مافیہا

سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ غایت انسانی ہستی کی لازوال اور دائمی ہے اس بناء پر دنیا کی تمام چیزوں کی لذتیں فانی، عارضی اور لاشے ہیں اور عبادت کا سرور و راحت مستقل اور ابدی ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کے لئے بڑی کوشش اور مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ عبادت کا لطف و سرور عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ پر موقوف ہے۔ اس رشتہ و تعلق میں جس قدر صلاحیت، استواری اور عمدگی ہوگی اسی قدر عبادت میں حظ و سرور حاصل ہوگا لیکن جب اس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر نظام عبودیت بگڑ جاتا ہے اور تمام عبادتیں ایک بوجھ معلوم ہونے لگتی ہیں۔

خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ جب تک عبودیت والوہیت کے ساتھ سچا اور مستحکم رشتہ رکھتی ہے اس وقت تک وہ ان فیضانوں اور برکات و انوار سے بہرہ ور ہوتی رہتی ہے جو الوہیت کے چشمہ سے نازل ہوئے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو حظ اس تعلق میں موجود ہے اگر ساری عمر میں ایک بار بھی مل جائے تو وہ اس میں فنا ہو جائے لیکن ایک عالم اس لذت سے نا آشنا اور بے خبر ہے یہی وجہ ہے کہ نمازوں میں عام طور پر بے دلی اور بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے۔

### ذوق نماز کے حصول کا طریق

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نماز سے بے دلی اور بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں عبودیت والوہیت کا سچا و مضبوط رشتہ قائم نہیں رہا تو یہ غفلت و سستی و بے ذوقی کیسے دور ہو؟ اور ذوق نماز کے حصول کا طریق کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مسلمان دل سے توجہ کریں کیونکہ اس کتاب کی اصل روح اور مقصد اعظم بھی یہی چیز ہے۔

اس سوال کا جواب کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس کا مختصر جواب تو صرف اتنا ہے کہ عبودیت اور الوہیت کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو از سر نو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ رشتہ مضبوط اور استوار ہوتا ہے یقین و ایمان سے۔ ایمان باللہ ہی عبادت کی جان اور عبودیت کی روح ہے۔ اس کے بعد تفصیلی جواب بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز میں بے ذوقی و بے لطفی ہو تو اس کا بار بار اعادہ کیا جاتا ہے یعنی اس میں دوام کیا جاتا ہے۔ مثلاً دیکھئے

ایک نشہ باز اور شرابی کو جب شراب میں سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے ساغر کے ساغر چڑھائے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سرور نشہ میں آجاتا ہے۔ یہاں سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ نماز میں بے ذوقی کا علاج بھی نماز پر دوام ہے اگر نمازی دل سے نماز پر دوام کرے تو اسی بے ذوقی سے ذوق پیدا ہو جانا یقینی ہے۔ اپنے ذہن کا رجحان خدا کی طرف اور ذوق نماز کے حصول کی طرف رکھو پھر دیکھو ذوق نماز حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس میں شرط خلوص اور جوش و استقامت ہے۔

### حضورِ حاصل کرنے کا طریق

نماز میں حضورِ قلب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں اپنے لئے دعا کرتے رہو۔ سرسری رکی اور بے حضوری و خیالی نماز کو کافی نہ سمجھو۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو نماز کو دلی توجہ سے ادا کرو اگر دلی توجہ باوجود کوشش اور خیالی کش مکش کے پیدا نہ ہوتی ہو تو بیچ وقتہ نمازوں کے بعد سجدہ میں یا کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور میں تضرع و زاری کے ساتھ یوں دعا کرو کہ اے خدائے قادر ذوالجلال! بندوں کی فلاح و کامرانی صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں گناہ گار ہوں سراپا غریق بحرِ معصیت ہوں۔ گناہوں نے مجھے اپنا بنا لیا ہے میں معصیت و سیہ کاری کے سیلاب میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ گناہوں کے زہر نے میرے دل اور رگ و ریشہ میں ایسا اثر کیا ہے کہ مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہوتی۔ عاجز نواز خدائے قدوس! مجھے محض تیرے فضل و کرم کا سہارا ہے، تیری رحمت و بخشش پر نظر ہے۔ میرے گناہوں کو بخش دے میری تقصیرات اور نافرمانیوں کو معاف فرمادے، میرے دل کو نرم کر دے، مجھ میں ایسی صلاحیت و استعداد پیدا کر کہ میں عبودیت کے رشتہ کو قائم رکھ سکوں اور میرے دل میں اپنی عظمت اپنا خوف اور اپنی محبت پیدا کر دے تاکہ میری سخت دلی بے رغبتی اور کور ذوقی دور ہو اور نماز میں حضوری اور لطف و سرور حاصل ہو۔

اگر اس طرح پورے صبر اور استقامت کے ساتھ دعا کی جائے خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد ان شاء اللہ یقیناً حضوری حاصل ہو جائے گی۔ الغرض حضوری حاصل کرنے کے لئے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ موت کو یاد رکھیں۔ دنیا

کی زندگی کو آخرت کی کھیتی سمجھیں اور موت کو بالکل قریب سمجھیں۔ حضوری حاصل کرنے کا یہی طریق ہے۔ یاد رکھو گناہوں کے باعث دل سخت ہو جاتا ہے اگر اس سختی کو دور کرنا ہو تو توبہ و استغفار کرو۔ اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت نماز یہیں بیان کر دی جائے۔

### حقیقت نماز

یہ زمانہ دہریت و زندقہ کا زمانہ ہے۔ انسان کی نظر صرف ظواہر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور وہ سرے سے خدا ہی کے وجود کا منکر ہے۔ مگر دہری انسان کی یہ حماقت و نادانی انسانی فطرت پر پردہ ڈال کر آقائے حقیقی کے تصور کو مٹا نہیں سکتی خواہ ساری دنیا زبان سے خدا کی ہستی کا انکار کر دے۔ لیکن اس کی روح برابر خدا کا اقرار و اعتراف کرتی رہے گی۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے مذہب پر غور کرنے، کل اقوام عالم کو ایک مرکزی قوت کے سامنے سر بسجود دیکھنے، قانون قدرت کے مطالعہ کرنے، فطرت سلیم، قوت ایمانی اور نور فراست کے اتفاق سے یہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن و مبرہن ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایک خالق و مالک اور معبود ضرور ہے خواہ اس کا وجود ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں ہمیں خود اپنے وجود میں شبہ ہو سکتا ہے لیکن ایک خالق و مالک ہستی کے وجود میں ہرگز ہرگز شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔

کائنات کا ذرہ ذرہ بزبان حال اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ خالق ارض و سما کی قدرت کاملہ کل عالم پر محیط اور تمام اشیاء میں جاری و ساری ہے۔ الغرض ایک ہمہ قدرت فوق الکل وجود کا خیال و اعتقاد کل اقوام دنیا میں پایا جاتا ہے اور یہ فطرت کا اشتراک اور قوائے باطنی کی اضطراری توجہ ایک اعلیٰ و برتر ہستی کے وجود کی ایک عجیب دل نشین دلیل ہے۔

### قلبی شکر گزاری کا مرکزی نقطہ

جب ہم عالم اسباب پر غور و نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کون و مکان کے انقلابات میں انسان ہمیشہ مجبور و معذور رہتا ہے اگرچہ وہ اشرف المخلوقات ہے لیکن تمام اختیارات کے مواد اور مقدمات کے اسباب اس کی قدرت سے باہر ہیں۔ دوسری طرف

ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے قوائے طبعی مثلاً سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل وغیرہ اسی مجبور و معذور اور بے مقدر و انسان کے بے مزہ خدمت گار اور مطیع ہیں۔ تیسری طرف جب ہم اپنے اسباب قریبہ یعنی جسم کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہمیں قدرت نے نہایت ہی مناسب اعضاء و جوارح اور آلات و ادوات دیئے ہیں اگر ان آلات میں سے ایک بھی مفقود ہو جائے تو اس کے مثل بے نقص ایک آلہ کا موجود کرنا اس کے امکان سے خارج ہے۔ یہ تصورات انسان کے دل میں یقیناً نور ایمان پیدا کرتے ہیں ساتھ ہی عجیب لگن سخت جوش اور پاکیزہ جذبات بھی پیدا کرتے ہیں اور دلی نیاز و شکرگزاری کے ساتھ انسان کو منعم و محسن حقیقی کی حمد و ستائش کی طرف خود بخود دل کو مائل کرتے ہیں۔ انسان کو جس قدر زیادہ اپنی احتیاج و اقتصاد کا علم اور فوق القدرت سامانوں کے باسانی بہم پہنچ جانے کا یقین ہو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دل منعم کے احسانات کی شکرگزاری کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ یہی علم یا یہی یقین دلی نیاز اور قلبی شکرگزاری جو نور فراست صحیح علم، سچی محبت اور باطنی اخلاص سے پیدا ہوتی ہے عبادت کی اصل اور حقیقت نماز ہے۔

اچھا بیچ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے یعنی جو کچھ ہمارے قلب میں ہے وہی ظاہری اقوال و افعال اور حرکات سے بھی ظاہر ہوتا ہے اسی طرح ہماری ظاہری حرکات و سکنات کا بھی اثر قلب پر پڑتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ تمام واردات اور عوارض مثلاً انبساط و انقباض، یاس و رجا، فرحت و غم اور محبت و عداوت اعضاء ظاہری کو باطنی اعضا سمیت یکساں متغیر و متاثر کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دلی نیاز اور قلبی شکرگزاری کے ساتھ ظاہری اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کو بھی نماز میں ملحوظ رکھا ہے۔

یہ ناممکن ہے کہ ایک خالق، مالک، رازق اور منعم کا تصور انسان کے قلب میں گزرے اور اس کے انعامات و عطیات کی تصدیق دل و جان سے ہو مگر ظاہری اعضاء متحرک نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم میں جوش، قلبی تحریک اور حمد و ستائش کی آگ بھڑکانے کے لئے ظاہری اعمال کا التزام بھی پایا جاتا ہے۔

## تقسیم احکام

مذہب کیا ہے؟ عبد و معبود کا رشتہ۔ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اس لئے کہ عبد و معبود کے رشتہ کو قائم و برقرار رکھے اور انسان کو حقیقی نجات و کامرانی اور ابدی راحت و آرام کا راستہ بتلائے۔ اس کی غرض بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ خالق و مخلوق کا رشتہ استوار و محکم رہے اور بندے اپنے خود ساختہ قانون کی بجائے قانون الہیہ کے ماتحت زندگی بسر کریں۔ اسلام نے اس تعلق کو باقی رکھنے اور یہ مقصود حاصل کرنے کے لئے پانچ نمازوں کا حکم دیا ہے۔

یہاں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلامی احکام دو قسم کے ہیں۔ ایک تو احکام اصلی اور دوسرے تابع یا محافظ اصلی۔ مقصود بالذات اصلی احکام ہیں اور احکام تابع صرف اس لئے دئے گئے ہیں کہ احکام اصلی باقی رہیں اور ان کی حفاظت۔ نماز کے ارکان ظاہری احکام تابع یا محافظ ہیں اس امر کا روشن ثبوت یہ ہے کہ یہ ارکان عذر کی حالت میں انسان کے ذمہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز میں بحالت مرض علی اختلاف الاحوال قومہ، تعدہ، سجدہ، جلسہ اور قیام وغیرہ سب معاف ہو جاتے ہیں لیکن وہ اصلی حکم اور حقیقی فرض یعنی قلبی خشوع و خضوع جو مقصود بالذات چیز ہے بہر حال انسان کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ انسان کے سانس کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے یہ فرض کبھی نہیں ٹلتا۔ صرف یہی نماز ہے جو خدا کے نزدیک لائق اعتبار اور مستحق ثواب ہے۔

## نماز کی علت غائی اور قرآن

نماز تمام دینی و دنیوی کامرانیوں و فائز المرامیوں کی کفیل، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی ضامن اور شادابی روح و پختگی ایمان کا یقینی ذریعہ ہے اس کی علت غائی خدا کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا اور عبدیت کا کامل مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اذْكُرْ تَرَابِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ

النُّقُولِ بِالْعُدْوَةِ وَ الْاَصْبَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿١٠١﴾ (اعراف)

”اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور

زبان سے بھی چلائے بغیر (یوں یاد کرو) صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی اور نہ ہو جاؤ (یاد الہی سے) غافل رہنے والوں سے۔“

یعنی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ خدا کی یاد سے غافل ہونا روحانی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ روحانی موت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔

أَثَلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ  
تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا تَصْنَعُونَ ﴿۷۶﴾ (عنکبوت)

”آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور نماز صحیح صحیح ادا کیجئے بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔“

ان آیات سے نماز کی علت غائی بخوبی ظاہر ہوتی ہے یعنی نماز منکرات و فواحش سے محفوظ رہنے کے لئے فرض کی گئی ہے یعنی نماز کی اقامت و مداومت سے صفت پرہیزگاری اور تصفیہ باطن حاصل ہوتا ہے۔ اگر نماز کی پابندی سے روحانی ترقی حاصل نہ ہو اور اخلاقی خوبیوں پیدا نہ ہوں تو سمجھ لینا چاہئے کہ ایسی نماز رکھی اور بے جان ہے۔

## نماز اور قرآن و حدیث

### نماز کے معانی

نماز کو عربی زبان میں ”صلوٰۃ“ کہتے ہیں اور یہ لفظ صلی سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں کسی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا۔ چونکہ نماز انسان کی تمام علمی و عملی بکریوں اور کمزوریوں کو دور کر کے اسے منشاء فطرت کے مطابق مقصد حیات کے لئے تیار کرتی ہے اس لئے نماز کو ”صلوٰۃ“ کہا گیا ہے یعنی نماز میں نفس کی ٹیڑھی لکڑی کو طاعت و عبادت کی آگ پر سینک۔ سینک کر سیدھا کیا جاتا ہے اور اس سے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے اور عشق الہی کی آگ ماسویٰ اللہ کی خس و خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔

جب ایک نمازی دنیا کی تمام چیزوں سے کنارہ کش اور دست بردار ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے اور اپنی عبودیت کا کامل اور شاندار مظاہرہ کرتا ہے تو دل کی کجی دور ہوتی ہے اور اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستی اور استقامت عطا ہوتی ہے جس کو وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہہ کر مانگتا ہے پھر اس استقامت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے دونوں شعبے:

۱۔ شفقت علی خلق اللہ۔

۲۔ تعظیم لامر اللہ۔

نشوونما پانے لگتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ نماز وہ طریق مستقیم ہے جو عبودیت اور الوہیت کے درمیان واقع ہے جب انسان اس پر چلنے لگتا ہے تو اسے الوہیت کا فیضان پانے کے لئے ایک صعود ہوتا ہے پھر رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور الوہیت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہادی کامل نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”نماز مومن کی معراج ہے۔“

میں بیاگ دہل بڑی جرأت اور قوی ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلامی عبادت نماز کی مثال یا اس سے بڑھ کر مقبول و مطبوع صورت نہ تو کسی مذہب میں رائج ہے اور نہ اور کوئی صورت عقل میں آسکتی ہے۔ یہ جامع و مانع طریق ان تمام عمدہ اصولوں اور مسلمہ خوبیوں پر حاوی ہے جو دنیا کے اور مذاہب میں فرداً فرداً موجود ہیں اور دلی نیاز مندی و شکر گزاری کے ان تمام آداب کو شامل ہے جو معبود حقیقی کے سامنے قوائے انسانی میں پیدا ہونے ممکن ہیں۔ اس سے بہتر عبادت کی عاجزانہ صورت نہ وجود میں آئی اور نہ تصور میں، عجز و خشیت الہی کی پوری شان صرف اسلامی عبادت میں پائی جاتی ہے۔

سات سو مقامات پر فریضہ نماز کی تاکید

آپ نے گزشتہ تفصیلات سے بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نماز ایک نہایت ہی مہتمم بالشان عبادت ہے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پاک میں پورے سات سو مقامات پر باری تعالیٰ نے اس فریضہ مہمہ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں ہم چند جامع آیات کو پیش کرتے ہیں۔



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَمُوا بِرِجْلَيْكُمْ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ ۚ وَارْتَمُوا بِرِجْلَيْكُمْ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ ۚ وَارْتَمُوا بِرِجْلَيْكُمْ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ ۚ

(بقرہ)

”نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔“

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ ۝

”اے میرے رسول! میرے جو بندے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ

دیجئے کہ وہ نماز برابر ادا کرتے رہیں اور ہم نے جو دولت انہیں عطا کی ہے اس

سے ہماری راہ میں بھی خرچ کریں ایسا نہ ہو وہ غفلت میں ہی پڑے رہیں اور وہ دن

آپہنچے جس دن نہ بیع و شرا ہوگی اور نہ وہ دوستیاں قائم رہیں گی۔“ (ابراہیم)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (الانفال)

”سچے اور حقیقی ایماندار وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس

میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی پکے مومن ہیں۔“

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝

”نماز کی پوری حفاظت و پابندی کرو خصوصاً نماز عصر کی اور اپنے اللہ کے احکام

ماننے اور ان پر عمل کرنے کے لئے مستعد رہو۔“ (بقرہ)

نماز کا اجر و ثواب

نماز کی پابندی کرنے والوں کی تعریف سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں اور نماز

پر جو اجر و ثواب ملنے کا خدائے کریم نے وعدہ کیا ہے ان کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے اور نیکو کار بندے وہی ہیں جو ایمان بالغیب کا یقین

حاصل کرتے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اس اجر و ثواب کی یوں تصریح کی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

## يَحْزَنُونَ ﴿٤٠﴾

”جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کا اجر و ثواب اللہ کے پاس جمع رہے گا اور نہ انہیں کوئی رنج و غم اور حزن و الم ہوگا“۔ (بقرہ)

اللہ اللہ نماز کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اور کتنی اعلیٰ ترغیب ہے۔ نمازی سے زیادہ کس کی زندگی کامیاب اور ہشاش بشاش ہو سکتی ہے ان کے لئے نہ کوئی رنج ہے نہ فکر، مسرت و اطمینان انہیں کا حصہ ہے۔ دین و دنیا کے سارے عیش انہیں کے لئے ہیں اور ان کے لئے دین و دنیا میں نعماء و اکرام کی بشارت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ نوازی کا لطف انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی عبدیت کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب احادیث رسول ﷺ سے نماز کا اجر و ثواب معلوم کیجئے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا: **أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِلَ بِهَا.** یعنی اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں بہتر کون سا عمل ہے؟ حضور ﷺ نے جواب دیا وقت پر نماز پڑھنا۔ (بخاری و مسلم)

نماز تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے

صحاح میں ایک حدیث آئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا نماز کی مثال اس نہر کی سی ہے جو تمہارے دروازہ پر بہ رہی ہے اور تم روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتے رہو۔ اب بتلاؤ کہ کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا اس طرح نماز بدن سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ سے سب سے پہلے قیامت کے دن توحید کے بعد نماز کا حساب لیا جائے گا اگر اس نے نماز اچھی طرح ادا کی ہوگی تو حساب میں آسانی ہو جائے گی اگر کچھ کمی کی ہے تو خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس شخص کے اعمال میں کچھ نفل ہوں گے تو فرض کی کمی نفل سے

پوری کر دو کیونکہ اعمال کی جزا بقدر اعمال کے ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا بندہ جب نماز میں اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے وقت تھا اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلہ میں ایک سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور اس کی قبر میں وسعت ہوتی ہے پھر جب اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھتا ہے تو اس پر موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے چار ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور چار ہزار گناہ معاف ہو کر چار ہزار مراتب بڑھتے ہیں۔ پھر سورہ الحمد پڑھنے سے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ رکوع کرنے سے کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان ربی العظیم پڑھنے سے وہ اجر ملتا ہے جو خدا کی تمام نازل کردہ کتابوں کی تلاوت کرنے سے ملتا ہے۔ پھر جب بندہ سراٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے۔ سجدہ کرتا ہے تو گویا قرآن کے حرفوں کے برابر غلام آزاد کرتا ہے۔ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لئے تمام انسانوں، شیطانوں اور جنوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے جب التحیات پڑھنے بیٹھتا ہے تو جہاد کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے جب سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لئے دوزخ کے ساتوں دروازے بند کر کے آٹھوں جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ (یہ حدیث ضعیف ہے)

نماز کی بدولت بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں

حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے برابر کسی اور چیز سے حاجات کی طلب نہیں ہوتی۔ یعنی نماز سے بڑھ کر قضائے حاجت کے لئے کوئی چیز نہیں اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعہ مدد مانگو۔

بزرگان دین کے واقعات تاریخ اسلام سے بھرے پڑے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی بدولت ان سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئی ہیں۔ جس وقت ان پر کوئی مصیبت آفت اور بلا آتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور ان کو نجات مل جاتی تھی۔ پس جو

شخص پانچ وقت کی نمازیں پوری پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے تو خدا تعالیٰ اس کو تمام دینی و دنیوی مصائب و آلام سے نجات دیں گے اور وہ دارین میں فائز المرام و شاد کام ہوگا۔ باری تعالیٰ عز اسمہ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں فرماتا ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک ان کو خلاصی نہ ملتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام نماز نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلانے والی نماز تھی۔

بریدہ اسلمی کی روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لئے قیامت کے دن ایک چمکتا ہوا نور ہے۔

نماز دین کا ستون ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور کائنات حضور ﷺ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس عمدہ باتیں ہیں۔

۱۔ دین و دنیا میں چہرہ کا نور۔

۲۔ نیک کاموں میں دل کی سوز و تڑپ۔

۳۔ تمام بیماریوں سے بدن کی حفاظت۔

۴۔ خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کا سبب اور عبادت کے آسمان پر پہنچنے کی کنجی۔

۵۔ قبر کی تاریکی اور تنہائی میں بہترین مونس و مددگار۔

۶۔ نیکی کے پلہ کا بھاری وزن۔

۷۔ نعمائے جنت کے حصول کا سبب۔

۸۔ آتش دوزخ سے نجات اور مصائب و آلام سے رہائی۔

۹۔ قیامت کے دن پروردگار عالم کی خوشنودی کا سبب۔

۱۰۔ دیدار خداوندی کا حصول۔

صاحب تنبیہ الجہال فرماتے ہیں کہ جو شخص دلی نیاز اور قلبی شکرگزاری کے ساتھ پانچوں نمازیں ٹھیک وقت پر پڑھتا رہے گا تو اس کو تیرہ بزرگیاں اور نعمتیں عطا ہوں گی۔

۱۔ اسکے دل میں خدا کی محبت و عظمت پیدا ہو جائے گی اور یہی چیز ایمان کی روح ہے۔

۲۔ اس کی جسمانی صحت اچھی رہے گی۔

۳۔ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔

۴۔ اس کے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت نازل ہوگی۔

۵۔ اس کے چہرہ سے بزرگی اور نیک بختی کے آثار ظاہر ہوں گے۔

۶۔ خدا تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔

۷۔ وہ پل صراط سے تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا۔

۸۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

۹۔ اس کو میدان محشر کی بختی سے نجات ملے گی۔

۱۰۔ رب العزت اس کو امراء کے سامنے تاج و خلعت عطا فرمائے گا۔

۱۱۔ قیامت کے دن اس کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال۔

۱۲۔ وہ خدا تعالیٰ کے دیدار سے فیض یاب و شاد کام ہوگا۔

۱۳۔ حضور اکرم ﷺ اس کی شفاعت کریں گے۔

اللہ! اللہ! نماز کی کیسی خوبیاں اور عظمتیں ہیں۔ سچ پوچھو تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی

خوبی اور نیکی نہیں۔ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے دونوں جہان کی بھلائیاں اور خوبیاں

حاصل کر لیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے رسول

کریم ﷺ کی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ لوگ ایسی پانچ نمازیں پڑھتے

ہیں کہ جن کو اگر قوم نوح پڑھتی تو غرق نہ ہوتی اگر قوم عاد پڑھتی تو اس پر آندھی مسلط نہ کی

جاتی اگر قوم ثمود پڑھتی تو چیخ سے بے ہوش نہ ہو جاتی۔

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی شخص کو دو رکعت نماز کی اجازت دے

دی جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بات اس کو نہیں مل سکتی۔

## تمام آیات و احادیث اور اقوال کا خلاصہ

ان تمام آیات و احادیث اور آثار و اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ عبدیت و الوہیت کا رشتہ، غذائے روح، مومن کی پہچان، خدا تعالیٰ کی خوشنودی، فرشتوں کی محبت، انبیاء کا طریقہ، عبادت و معرفت، پختگی ایمان اور صحیح علم و عمل کی اصل دعا اور اعمال کی قبولیت کا سبب، رزق میں برکت دینے والی، صحت و تندرستی کو قائم و برقرار رکھنے والی، دشمنوں پر ہتھیار کا کام دینے والی، شیطان سے نفرت پیدا کرنے والی، قبر کی مونس، قیامت میں شفاعت کرنے والی، ملک الموت کے آنے کے وقت انسان کی رفیق، منکر نکیر کو صحیح جواب دینے والی، پل صراط سے پار اتارنے والی، دوزخ سے آڑ و حجاب، جنت کے دروازہ کی کنجی، سر کا تاج، بدن کا لباس، نیکی کے پلہ کو بھاری کرنے والی ہے۔

خلاصہ یہ کہ نماز نیکیوں، بھلائیوں اور سعادتوں کا خزانہ اور تمام اعمال و عبادات سے افضل و اکرم ہے۔

لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے کھڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک نور کا پرندہ کیچڑ میں غوطہ کھانے لگا اور پھر پانی میں نہا کر پاک و صاف ہو گیا اور اپنے اصلی حسن و جمال پر آ گیا۔ اسی طرح اس نے پانچ مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حرکت کو دیکھ کر متعجب ہوئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے عیسیٰ! حق تعالیٰ نے اس پرندہ کو اس شخص کی مثال بنا کر آپ کو دکھایا ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ کی امت میں سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اسی طرح ہر قسم کی جسمانی و روحانی کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

### حکایت

یہ ایک مشہور حکایت ہے جس کو عام طور پر واعظ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کسی امام مسجد کی عورت پر عاشق ہو گیا اور اس کو اپنے دام عشق میں لانا چاہتا تھا۔ بہر اوقات اپنے معشوق تک رسائی حاصل کی اور اپنا عشق ظاہر کر کے اپنا مطلب بیان کیا۔ عورت تھی عفت تاب اور پارسا اس نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو تیرے حوالہ کرنے کے لئے تیار ہوں

مگر ایک شرط سے وہ یہ کہ پہلے تو چالیس یوم متواتر میرے خاوند کے پیچھے پانچوں وقت کی نمازیں باجماعت پڑھ لے پھر میں تیری ہوں۔ اس شخص نے اس شرط کو منظور کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ چالیس یوم کے بعد عورت نے بلایا اور کہا اب میں حاضر ہوں مگر وہاں نماز اپنا کام کر چکی تھی اور نفس شیطان کے بچھائے ہوئے جال کو تار تار کر چکی تھی۔ مرد نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ضرورت نہیں میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں اور تمہاری جگہ اور ہی کسی پر عاشق ہو گیا ہوں۔ الغرض نماز نے اس شخص کو فسق و فجور سے بچالیا اور نیکی کا سیدھا راستہ بتلا دیا۔ اگر نماز کو دلی نیاز کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ اسی طرح انسان کو گناہوں سے بچا کر پرہیزگار بنا دیتی ہے۔

نماز کی برکت سے شیر ادنیٰ پہرہ دار بن گیا

وعظ کی ایک کتاب میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار ایک بزرگ عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا گزر کسی جنگل میں ہوا جہاں سانپ بکثرت تھے آپ نے اسی سانپوں کے جنگل میں اقامت کی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ شام کے وقت ایک نصرانی عابد آیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں ایک مسافر ہوں۔ نصرانی نے کہا یہ جنگل سانپوں کا ہے رات کو یہاں قیام نہ کیجئے گا۔ میرا مکان حاضر ہے آپ وہاں آجائیں ہر قسم کی ایذا سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا آپ کی اس اخلاقی ہمدردی کا شکریہ لیکن آپ اطمینان رکھیں میرا خالق خود میری حفاظت کرے گا اور وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ نصرانی یہ جواب سن کر چلا گیا اور اپنے مکان میں جا کر سو رہا۔ آدھی رات کے وقت اتفاقاً اس کی آنکھ کھل گئی اور چھت پر گیا کہ عامر بن قیس کو دیکھے۔ قدرت خداوندی کا عجیب تماشا نظر آیا کہ وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہیں اور ایک شیر ان کی حفاظت کر رہا ہے اور ایک سپاہی کی طرح ٹہلتا جا رہا ہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو شیر سے مخاطب ہو کر کہا سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میرے لئے یہ پہرہ کی تکلیف کیوں گوارا کر رہے ہیں۔ معاف فرمائیے مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہاں جو کچھ میرے لائق کام ہو وہ شوق سے فرمائیے ورنہ رخصت ہو جائیے ناحق میری نماز میں خلل انداز نہ ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر سلام کر کے دم ہلاتا ہوا چل

دیا۔ نصرانی عابد نے جب ان کی یہ کرامت دیکھی تو حیران رہ گیا اور تعجب سے پوچھا آپ کیا مذہب رکھتے ہیں؟ کہا میں ایک گنہگار مسلمان ہوں۔ نصرانی نے کہا سبحان اللہ! جب اس مذہب کے گنہگار ایسے باکمال خدا پرست اور فرشتے ہوتے ہیں تو اس مذہب کے اچھوں کا تو کہنا ہی کیا ہوگا یہ کہتے ہی مشرف بہ اسلام ہو گیا۔

## ترک صلوة پر وعید

جب نماز کے دینی و دنیوی محاسن اور بزرگوں کی تیز روشنی دل کی آنکھوں کو خیرہ کئے دیتی ہے۔ اس کی برکات و حسنات کے دفتر بھرے پڑے ہیں اور وہ ہر ایک عمل سے افضل ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کا ترک کرنا بھی زیادہ خراب اور بدتر عمل ہوگا جس طرح نماز انسان کو نیکی و سعادت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچاتی ہے اسی طرح اس کا ترک کرنا بھی انتہائی پستی و ذلت میں لے جاتا ہے۔ جو مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا باغی اور نفس و شیطان کا دوست ہے۔ بے نمازی کو اسلام کا دعویٰ کسی طرح زیب نہیں دیتا جب وہ خدا کے حکم میں نماز خمسہ کی پابندی تک نہیں کر سکتا جس میں نہ کچھ خرچ ہے اور نہ تکلیف تو وہ خدا کے لئے جہاد و قربانی کیا خاک کر سکتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو تارک صلوة کا خدا تعالیٰ پر صحیح ایمان نہیں ہے ورنہ یہ ناممکن ہے کہ ایک مسلمان خدا پر ایمان لائے اور اس کے حکم کی تعمیل سے انحراف کرے۔ اس میں شک نہیں کہ بے نمازی مسلمان بھی ہے اور کلمہ بھی پڑھتا ہے مگر اس کی مسلمانی رسمی اور اس کا کلمہ پڑھنا زبان تک محدود ہے۔ اس کا دل کافر اور نافرمان ہے اور ایمان کا تعلق دل ہی کے ساتھ ہے اس تعلق کا پتہ اعمال سے چلتا ہے۔ یہ تعلق جتنا زیادہ قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اعمال صالحہ کی پابندی ہوگی اور یہ تعلق جتنا زیادہ کمزور اور رسمی ہوگا اتنا ہی زیادہ احکام اسلامیہ کی بجا آوری میں غفلت و کوتاہی ہوگی۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے پاس اسلام کا عملی ثبوت کوئی نہیں رکھتا۔ اس کا زبانی دعویٰ ایک دھوکہ اور فریب ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے۔



## تارکِ صلوٰۃ واجب القتل ہے

یہ وعید سن کر ہر مسلمان بے نمازی کو لرزنا چاہئے کہ بہت سے صحابہ تابعین اور ائمہ امت کے نزدیک جو شخص قصداً نماز ترک کرے وہ واجب القتل اور کافر ہے۔ بہت سی حدیثوں سے اس کا خارج اسلام ہونا ثابت ہے اس کے تمام اعمال باطل ہیں وہ رسول اللہ ﷺ کے ذمہ سے خارج ہے اور نہ اس کا کوئی دین ہے نہ ایمان۔

مخاطب علماء ان احادیث کا مطلب یہ لیا کرتے ہیں کہ بے نمازی کافر اور خارج اسلام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ کامل مومن اور عملی مسلمان نہیں۔ بہر حال اس میں تو شک نہیں ہے کہ ترکِ صلوٰۃ اسلامی نقطہ نگاہ سے سخت جرم اور بہت بڑا گناہ ہے اور بے نمازی خدا کا سب سے بڑا نافرمان ہے۔ فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے جو شخص قصداً نماز ترک کر کے قضا کا ارادہ نہ کرے اور خدا کے عتاب سے نہ ڈرے وہ کافر ہے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک تارکِ صلوٰۃ کو جس دوام کیا جائے گا اور اس وقت تک رہا نہ کیا جائے گا جب تک وہ خالص توبہ نہ کر لے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ

”یعنی ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے صلوٰۃ کو ضائع کیا اور خواہشات کی

پیروی کی“۔ (مریم: 59)

مفسرین کہتے ہیں من بعدہم سے مراد بعد النبیین ہیں۔ سدی کہتے ہیں اس میں یہودیوں کی مذمت ہے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قصداً نماز ترک کی۔

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

قال صلى الله عليه وسلم ان بين الرجل و بين الشرك

والكفر ترك الصلوة۔ (رواه مسلم) (33)

”رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان ترک صلوٰۃ ہے۔  
(روایت کیا اس کو مسلم نے)۔“

یعنی مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان نماز ہے گویا تارک صلوٰۃ بوجہ ترک صلوٰۃ کے کفر  
و شرک سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۰﴾ (روم)

”نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔“

یعنی ترک صلوٰۃ ایسی بری بلا ہے کہ مسلمان کو شرک بنا دیتی ہے نیز رسول اللہ ﷺ  
فرماتے ہیں۔

من حافظ علی الصلوة كانت له نورا و برهانا و نجاته يوم

القيمة و من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا

ولا نجاته و كان يوم القيامة مع قارون و فرعون و هامان

و ابی بن خلف۔ (رواہ احمد) (34)

”جس شخص نے نماز کی حفاظت کی قیامت کے دن اس کے لئے ایک نور و

برہان ہوگا اور وہ نجات حاصل کرے گا اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی اس

کے لئے نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات اور قیامت کے روز اس کا حشر قارون،

فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔“

اس حدیث کی تصریح میں علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں مال حاصل کرنے کے جائز

طریقے چار ہیں۔

۱۔ بادشاہت و ریاست، نوکری، عہدہ اور وزارت وغیرہ۔

۲۔ زراعت۔

۳۔ صنعت و دستکاری۔

۴۔ تجارت۔

34۔ مشکوٰۃ شریف، کتاب الصلوٰۃ، 59، نور معراج، المطابع کراچی۔

جو شخص سبب ریاست و امارت اور نوکری و ملازمت نماز سے غافل رہا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا اور ہامان وزیر کے ساتھ جو صنعت و حرفت کے سبب نماز سے غافل رہا وہ قیامت کے روز قارون کے ساتھ ہوگا کیونکہ قارون دستکار تھا اور جو شخص تجارت و زراعت کے سبب نماز چھوڑے گا وہ ابی بن خلف کے ساتھ دوزخ میں جائے گا کیونکہ وہ سوداگر تھا۔

قیامت کے روز بے نمازیوں کی رسوائی

لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں ریاست و ملازمت کے سبب ادائے نماز سے غافل رہا ہوگا قیامت کے روز نماز چھوڑنے کے اس عذر کو پیش کرے گا تو باری تعالیٰ حکم دے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاضر کرو جب یہ حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھا یہ بھی تو بادشاہ تھے ان کی عظیم الشان سلطنت نے ان کو نماز سے کیوں نہ روکا۔ تیرا یہ عذر ناقابل سماعت ہے۔ سلطنت و ملازمت کسی کو نماز سے نہیں روکتی بلکہ خود غافل تھا ملائکہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح اگر کوئی بیماری کا عذر کرے گا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور اسی طرح آخر میں جہنم میں ڈال دیے جانے کا حکم ہوگا اگر کوئی اولاد کی محبت و پرورش کا عذر کرے گا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان کو دکھا کر جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ظلم یا کوئی غلام اپنے آقا کے ظلم و ستم کا عذر کرے گا تو حضرت بی بی آسیہ فرعون کی بیوی کو بلایا جائے گا جب وہ حاضر ہوں گی تو ارشاد ہوگا کہ وہ دیکھو اس مومنہ کا خاوند فرعون نہایت ظالم اور قہرمان تھا مگر یہ ہماری یاد سے غافل نہ رہی۔ یہ سب تمہارا فریب نفس ہے لے جاؤ ایسی بے نماز عورت اور غلام کو جہنم میں جھونک دو۔

ایک دن نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا لوگو رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ راستہ میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص ہاتھ میں پتھر لئے کھڑا ہے زور سے پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، پتھر دور جا کھلتا ہے اور سر چور چور ہو جاتا ہے وہ شخص پتھر لینے جاتا ہے کہ اتنے میں اس کا سر پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے اور پھر اس طرح سر چور چور ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دردناک عذاب دیکھ کر فرشتوں سے پوچھا کہ اس شخص کا کونسا ایسا سخت گناہ ہے جس کی

پاداش میں ایسی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ شخص تارک الصلوٰۃ تھا۔  
ایک وقت کی نماز ترک کرنے کا عذاب

ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص عمداً ایک وقت کی نماز ترک کر دے گا تو اس ایک نماز کے لئے تین ہتھ دوزخ میں عذاب پائے گا ایک ہتھ انسی ہزار برس کا ہوتا ہے اس حساب سے تین ہتھوں کے دولاکھ چالیس ہزار برس ہوئے۔ بے نمازیو! ذرا غور کرو اور خدا کے لئے ہوش میں آؤ کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا دولاکھ چالیس ہزار برس تک دوزخ کی آگ میں جلتے رہنا ہے۔ چنانچہ بخدا یہ وہ دردناک اور ہولناک عذاب ہے کہ اگر پہاڑ بھی سینے تو خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر جس شخص نے عمر بھر نماز ہی نہیں پڑھی اس کو لاکھوں کروڑوں برس دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ پس اے بے نمازو! توبہ کر کے جلد از جلد نماز پر قائم ہو جاؤ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور تمہارا قرآن و سنت و حدیث پر یقین ہے اور ایمان ہے اگر کوئی بے نمازی اس دردناک عذاب کو سن کر بھی نماز پر قائم نہ ہو تو سمجھ لینا چاہئے کہ ان کا عذاب دوزخ پر اعتقاد نہیں اور وہ اپنے نفسوں کے بدترین دشمن ہیں۔

منقول ہے کہ قیامت کے روز گناہگاروں کا منہ کالا ہوگا مگر ان بے نمازیوں کا منہ سب سے زیادہ کالا ہوگا۔

رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص نماز صبح ادا نہ کرے گا اس کے رزق میں برکت نہ ہوگی جو ظہر کی نماز ترک کرے گا اس کے دل سے نور الہی جاتا رہے گا۔ جو عصر کی نماز ترک کرے گا اس کے اعضاء میں نیک اعمال کرنے کی قوت باقی نہ رہے گی۔ مغرب کی نماز چھوڑنے والے کو کھانے میں مزہ نہ ملے گا اور عشاء کی نماز چھوڑنے والا دنیا و آخرت میں مومن نہ سمجھا جائے گا۔

اللہ اللہ! آج مسلمان بے نمازوں کے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ ان وعیدات شدید کو سنتے ہیں اور پھر نماز پر قائم نہیں ہوتے معلوم ہوا واقعی ان میں سے اثر پذیری کا مادہ اور عمل کی قوت جاتی رہی ہے وہ گویا اسلام کی طرف سے مر گئے ہیں انہیں غفلت و معصیت نے اپنا بنا لیا ہے ان کی رو حیں فنا ہو گئی ہیں اور ان کو بد اعمالیوں نے اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیا

ہے۔ کیا اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ہماری ساری تباہیوں اور بربادیوں کا باعث ہماری غفلت و معصیت ہے۔ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلباڑی ماری ہے اور ہم نے اپنی زندگی جان بوجھ کر وبال جان بنائی ہے۔

### بے نمازوں کی ڈھٹائی

ذرا بے نمازوں کی ڈھٹائی، بے حیائی، گستاخی، نافرمانی اور بے پروائی تو دیکھئے کہ اول نمازوں کے نزدیک نہیں جاتے اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو نماز کی تاکید کرے تو نمازیوں میں کیڑے نکالے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نمازیوں کی حالت بھی ہماری جیسی ہے۔ یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ اول جرم کریں اور پھر طرح طرح کے عذر، حیلے، بہانے اور توجیہیں کرتے پھریں اور اپنے معاصی و جرائم پر اظہارِ عنادمت کی جگہ التماس کے منہ میں آئیں۔ یہ قلوب کج اور ذہنیتیں تاریک ہو جانے کی علامت اور بربادی کی دلیل ہے۔

آج اسلام کی اکثریت اسلام سے بے تعلقی پر استوار ہے۔ اس کی عملی حالت نہایت ستیم و زار ہے۔ غفلت و معصیت کے نشہ میں سرشار ہے۔ مسلمان ہو کر اور کہلا کر اپنی مسلمانی کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ بے نمازیوں کو ذرہ برابر شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ان کے اس فعل سے اسلام اور دین الہی کی عظمت و جلالت پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور وہ کیونکر مغضوب الہی بن رہے ہیں۔

مسلمانوں کی اکثریت اس اہم ترین فریضہ اسلام سے غفلت برت کر دنیا جہان کی نحوستوں اور بربادیوں کا شکار ہے۔ سب کے سب قومی وبال میں گرفتار ہیں مگر یاد رکھئے جب کشتی ڈوبتی ہے تو نیک و بد دونوں ہی ڈوب جاتے ہیں جو نمازی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ذاتی فکر میں مبتلا ہیں اپنی نماز پڑھ لی اور مطمئن ہو گئے۔ دوسرے مسلمانوں کو نصیحت کرنا تو کجا اپنے گھر والوں کو تاکید بھی نہیں کرتے اور ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ انہوں نے اپنا فرض عبودیت تو پیشک ادا کر دیا لیکن دوسروں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ہدایت نہ کرنے کا وبال ان پر ضرور ہے۔

## بے نمازیوں کے نامعقول عذرات

نماز اسلام کا ایک ایسا اہم اور اہل فریضہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان کے جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک سوائے شرعی عذرات کے کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ کوئی عذر اور مجبوری ایسی نہیں مسلمان اس فرض اتم سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ مگر اس کا کیا علاج کہ نفس پرست مسلمان عبادت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ذرا آپ بے نمازیوں کو ہدایت کر کے دیکھیں نئے نئے عذرات اور عجیب عجیب مجبوریاں پیش کریں گے اور ہر طرح اپنی بے دینی کا ثبوت دیں گے۔ حالانکہ خود اسلام نے کسی سختی، عذر اور مجبوری کو روا نہیں رکھا اور اس میں اس قدر سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ ان کے بعد حقیقتاً کوئی مسلمان بھی مجبوری کا عذر پیش نہیں کر سکتا۔ وہ حکم جو تلوار کے سائے میں بھی نہ ٹل سکے اس کے متعلق کوئی عذر اور مجبوری بھی قابل سماعت نہیں۔

اس سے زیادہ اس فریضہ کی بجا آوری کی تاکید اور اہمیت کیا ہوگی کہ جہاد کی حالت میں بھی جب کہ سردھڑ کی بازی لگ رہی ہو یہ فریضہ ساقط نہیں ہوتا۔ ذرا غور کرو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر کتنا سخت وقت تھا۔ آگ کا سمندر چاروں طرف لہریں مار رہا تھا۔ دشمن سر پر موجود تھا اور تین دن کی بھوک پیاس تھی لیکن خاندان رسالت کے کسی فرد نے بھی ان ہولناک ایام میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کی اور دنیا والوں کے سامنے اپنی عبدیت کا ایک ایسا شاندار نمونہ قائم کیا جس کی نظیر لانا محال ہے۔

الغرض مسلمان، مسلمان ہو کر اور بندہ، بندہ ہو کر نماز اور بندگی کے متعلق کوئی عذر اور مجبوری پیش نہیں کر سکتا۔ اس کا کوئی عذر ہرگز قابل سماعت نہیں جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا وہ خدا کا بہت بڑا نافرمان اور نمک حرام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے قلب تاریک ہو گئے ہیں ان میں احساس فرض باقی نہیں رہا۔ خوف خدا ان میں ذرا بھی نہیں اور وہ اللہ کے نہیں بلکہ وہ نفس و شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو خود وبال جان بنا رکھا ہے۔ ہم ذلیل و پسماندہ ہیں، مفلس و فلاش ہیں، منتشر اور متفرق ہیں اور دنیا کی دوسری قوموں کے سامنے عاجزانہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم

اسلامی فرائض کی بجا آوری سے آزاد ہیں ہم نے خدا کو اور اس کی عبادت کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے سامنے سر جھکانا ترک کر دیا۔ پھر ہم دین و دنیا میں کیونکر فلاح یاب ہو سکتے ہیں۔

## نماز کی حفاظت

اللہ کا ہزار ہزار شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم اس کے حبیب کی امت میں ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نماز کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ہمیں جگہ جگہ نماز کی حفاظت و نگہداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم ہی انصاف سے کہو کہ کیا یہ مسلمانی ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں تو ہر وقت سرگرم و مصروف رہتے ہیں اور ذرا ذرا سے کام بڑی توجہ سے کرتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی دیکھ بھال رکھتے ہیں لیکن نماز کی ذرا پرواہ نہیں کرتے یہ اچھی مسلمانی ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو چست و چالاک مگر دین کے کاموں میں غافل اور لا پرواہ۔ پس غور سے سن لو کہ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

”بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری عبادت کرو

اور میری یاد قائم کرنے کے لئے نماز قائم کرو۔“ (طہ)

یعنی نماز اللہ کو یاد کرنا ہے جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے خدا کو بھلا دیا اور خدا تعالیٰ کو بھلانا ہلاکت آفرین ہے۔ قرآن پاک میں گزشتہ امتوں کا ذکر ہے ان کی سرگزشتوں سے ہمیں عبرت دلائی ہے۔ گزشتہ امتوں کی سرگزشتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انہوں نے اللہ کو یاد رکھا وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہیں اور جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں سزا دی اپنی دی ہوئی تمام نعمتیں ان سے چھین لیں طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوئیں اور بالآخر فنا ہو گئیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض قومیں ہم سے طاقت اور فضیلت میں زیادہ تھیں لیکن جب انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو ان کی طاقت و فضیلت اور تہذیب و ترقی کام نہ آئی اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئیں۔

کیا ہم اب بھی خدا کی یاد کرنے کے لئے نمازوں کو قائم نہ کریں گے اگر ہم اب بھی نماز کی حفاظت نہ کریں تو انہیں قوموں کی طرح مٹنے کے لئے تیار رہنا چاہئے مگر آہ! ہمیں اس کی کیا پروا خواہ مٹیں یا باقی رہیں جب کسی قوم میں احساس زیاں باقی نہ رہے تو اسے نقصان و ضرر اور تباہی کا کیا خطرہ۔ جیسی تو ہم برابر غافل ہیں۔ ہم پر عذاب الہی نازل ہے اور ہم اپنی قسمتوں کو رو رہے ہیں۔

کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز کی بڑی تاکید آئی ہے اور وہ دین کا ستون اور کفر و ایمان کی عملی نشانی ہے لیکن حالت یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس سے غافل ہیں ان میں بہت سے ایسے بھی فرعون بے سامان ہیں جنہوں نے ساری عمر اس معبود حقیقی کے سامنے سر نیاز کو خم نہیں کیا انہیں میں ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ جاننے کے باوجود کہ نماز فرض موکدہ ہے نماز نہیں پڑھتے۔ انہیں ان کی بدبختی یا خوشحالی نے خدا کی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔

مسلمانو! اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، خدا کی یاد سے غافل ہو کر شقی نہ بنو اور احکام الہی بجالاؤ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ یہ اسلامی احکام کی بجا آوری ہی تو تھی جس نے عرب کے مٹھی بھر مسلمانوں کو تمام دنیا کے کفار پر غلبہ دیا تھا اور وہ تمام دنیا پر چھا گئے تھے۔ اس کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی تاریخ کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اگرچہ ہم اس مشروعیت کی تاریخ پچھلے ابواب میں لکھ چکے ہیں تاہم یہاں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ فرضیت صلوٰۃ کے متعلق تدریجی احکام بیان کئے جاتے ہیں۔

### فرضیت صلوٰۃ اور اس کے تدریجی احکام

نماز صرف مسلمانوں پر فرض نہیں بلکہ اگلی تمام امتوں پر بھی فرض تھی۔ ہاں نماز کی یہ کامل و مکمل صورت جو ہماری نمازوں میں ہے ان امتوں میں نہ تھی۔ دنیا میں جس قدر انبیاء و مرسلین وقتاً فوقتاً مبعوث ہوئے وہ برابر اپنی امتوں میں نماز کی تاکید و ہدایت کرتے رہے اور خود بھی نمازیں پڑھتے رہے۔ جب تک گزشتہ امتوں نے نماز کے ذریعہ یاد الہی کو قائم رکھا وہ راہ راست پر قائم رہیں اور جب خدا کو بھلا دیا اور نمازوں کو چھوڑا تو وہ راہ راست سے بھٹک کر فنا ہو گئیں۔



اسلام کے تمام احکام و اوامر تدریجی طور پر آئے کیونکہ اسلام اپنے ہر حکم کا مسلمانوں کو پابند بنانا چاہتا تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ اس نے عرب جیسی وحشی اور اکھڑ قوم کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک باخدا اور خدا رسیدہ قوم بنا دیا۔ اسلام کے احکام کچھ ایسی ترتیب کے ساتھ نازل ہوتے گئے کہ ان کے دل وماغ میں پیوست ہوتے گئے۔ تدوین شریعت کا کام ایسی خوبصورتی سے تکمیل پذیر ہوا اور صدیوں کی بگڑی ہوئی طبائع کو اس طرح اصلاح پذیر کیا کہ عقل انسانی وجد میں آجاتی ہے یعنی جیسے جیسے حالات درست ہوتے گئے فرائض و احکام نازل ہوتے گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے عذاب و ثواب کی آیتیں نازل ہوئیں جن کا مقصد یہ تھا کہ دلوں میں رقت و استعداد پیدا ہو جائے۔ جب دلوں میں رقت و استعداد پیدا ہو گئی تو پھر احکام و اوامر کا نزول شروع ہوا۔ گویا پہلے زمین ہموار کی گئی اس کے بعد تخم عمل کاشت کیا گیا۔ روزہ مدینہ میں جا کر فرض ہوا اور زکوٰۃ اس کے آٹھ سال بعد لیکن نماز اسلام کے وجود ہی کے ساتھ فرض ہو گئی تھی البتہ اس کی تکمیل بتدریج ہجرت کے آٹھ سال بعد ہوئی۔

ابتدائے اسلام میں چونکہ کفار درپے آزار تھے اور وہ گویا مسلمانوں کے لئے ایک طوفانی دور تھا اس لئے مسلمان دو تین برس تک اعلانیہ نماز نہ پڑھ سکے اس وقت تک صرف رات کو نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ چنانچہ سورہ منزل کی ابتدائی آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اے کملی اوڑھ کے سونے والے رات کو تھوڑی دیر کے سوا اٹھ کر نماز پڑھا کر۔ آدھی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس سے بھی کچھ زیادہ بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ اس حکم کے مطابق دو تین سال نماز کی یہی کیفیت رہی۔

جب اس حکم میں پختگی ہو گئی تو کچھ مدت کے بعد صبح و شام کی دو دور کعتیں فرض ہوئیں

چنانچہ ارشاد ہوا۔

وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرًا وَّ اٰخِرًا وَّ مِنْ الْاَيْلِ قَاسِمًا وَّ

سَبَّحَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا (الذھر)

”صبح و شام اپنے رب کا نام لیا کر اور رات کے وقت دیر تک اسے سجدہ کیا کر اس کی تسبیح بیان کر۔“

رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا حکم صرف ایک برس تک قائم رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ کا اور آپ ﷺ کے صحابہ کا عمل اس حکم پر زیادہ برس تک رہا۔ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پیر تورم ہو جاتے تھے۔ ایک سال کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَتَصُفُّهُ وَتُكَلِّمُهُ  
كَأَنَّكَ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَيِّمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِيمٌ  
أَن لَّنْ تُخْصَوْنَ فَتَكُنَّ عَلَيْكُمْ فَاقِرٌ عُوا مَلِكَيْسِرٍ مِّنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِيمٌ  
أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۗ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
فَأَقْرَعُوا مَلِكَيْسِرَهُ (حل: 20)

”تیرا پروردگار واقف ہے کہ دو تہائی رات سے کم اور آدھی رات اور ایک تہائی رات تک تو نماز پڑھا کرتا ہے اور کچھ اور لوگ بھی تیرے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ خود بھی رات کا اعجازہ کرتا ہے اس لئے جان لیا اور سمجھ لیا کہ تم اسے گن نہیں سکتے اس لئے تم پر مہربانی کی اب تم سے جتنا ہو سکا اتنی قرآن نماز میں پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان لیا کہ تم بیمار بھی ہو گے، مسافر بھی ہو گے جو خدا کا فضل بڑھو گئے اور معاش تلاش کرنے کے لئے سفر کریں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا اس لئے اب تم سے جتنا ہو سکا اتنی پڑھ لیا کرو۔“

تجدد کی نماز کے بعد تین نمازیں

آپ معلوم کر چکے ہیں کہ پہلے صبح و شام کی دو رکعتیں فرض ہوتی تھیں پھر رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا حکم ایک سال تک قائم رہا اس کے بعد فجر، مغرب اور عشاء کی تین نمازیں فرض

لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جب کوئی کھیل تماشا ہوتا ہے یا تجارتی قافلہ نظر آتا ہے تو اس کی طرف دوڑتے اور اس پر ٹوٹ کر گرتے ہیں اور تجھے اپنی جگہ کھڑا چھوڑ دیتے ہیں ان سے کہہ دے کہ جو جو کچھ خیر و برکت اور اجر و ثواب خدا کے ہاں ہے وہاں کھیل تماشاؤں اور قافلوں سے بہتر ہے۔

قرآن پاک کے یہ سارے الفاظ صحابہ کے دل میں اتر گئے یا تو ان کی یہ حالت تھی کہ نماز کو چھوڑ کر تجارتی قافلہ میں چلے گئے یا اس آیت کے نزول کے بعد ان کے شروع و محویت کی یہ حالت ہوئی کہ نماز میں تن بدن کا ہوش نہ رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حالت نماز میں مجروح ہوئے اور تڑپے مگر اس دل دوز منظر کو دیکھ کر پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی ان کی طرف حوجہ نہ ہوا۔ یعنی نماز کی محویت و استراق اور لطف و لذت کی وجہ سے کسی کو کچھ خیر بھی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک اور تاریخی واقعہ ہے کہ نصاریٰ نماز پڑھ رہے تھے اسی حالت میں ان کے جسم پر تین تیرا کر لگے مگر آپ پر بدستور استراق و محویت کی حالت طاری رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جسم مبارک میں ایک تیرا اس طرح بیوست ہو گیا تھا کہ کھینچنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو لوگوں نے آسانی کے ساتھ اس تیر کو کھینچ لیا اور آپ کو خیر تک نہ ہوئی۔

الترغیٰ جب صحابہ کی نمازوں میں استراق و محویت کا یہ عالم ہو گیا تو خود باری تعالیٰ عز اسمہ نے اپنے ان پاک بندوں کی یوں تعریف و تحسین فرمائی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا بُيُوتَكُمْ وَلَا بُيُوتَ آبَائِكُمْ وَلَا بُيُوتَ إِخْوَانِكُمْ وَلَا بُيُوتَ نِسَائِكُمْ وَلَا بُيُوتَ آبَائِكُمْ وَلَا بُيُوتَ إِخْوَانِكُمْ وَلَا بُيُوتَ نِسَائِكُمْ وَلَا بُيُوتَ آبَائِكُمْ وَلَا بُيُوتَ إِخْوَانِكُمْ وَلَا بُيُوتَ نِسَائِكُمْ (النور: 38)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کوئی نفع خیر خیال بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔“

نماز اور خدا کی یاد

حقیقت یہ ہے کہ نماز سے بڑھ کر خدا کی یاد کا کوئی طریقہ نہیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندہ کو خدا سے وابستہ کرتی اور اس کے دل و دماغ پر محویت کا عالم طاری کرتی ہے۔ بشرطیکہ ایک نمازی حقیقت نماز سے باخبر ہو اور ولی نیاز و قلبی شکر گزاری کے ساتھ نماز پڑھی

جائے۔ نماز پڑھنے والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازوں سے ان کے دلوں میں خدا کی یاد کا کتنا زبردست اثر ہوتا ہے۔ نماز کا یہ یقینی اثر ہوتا ہے کہ مصیبت و تکلیف کے وقت ان کے دل عاجزی کے ساتھ خدا کی طرف جھکتے ہیں۔ خوشی اور راحت و آرام کی حالت میں ان کی رگ رگ منعم حقیقی کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ بہت سی برائیوں سے خود بخود بچ جاتے ہیں۔ مگر یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دلی رجوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں ورنہ انہیں نمازیوں میں ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ نیت باندھنے کے بعد زبان کا لہجہ برابر چل رہا ہے اور مشین کی طرح اعضائے جسمانی حرکت کر رہے ہیں مگر دل کچھ بھی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ زبان کہتی ہے دل کو اس کی مطلق خبر نہیں۔ نماز میں ہوتا ہے اور دل کہیں اور ہی کی سیر کرتا ہے۔

سناغ میں عجیب عجیب منصوبے بندھتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ بیرونی باتوں کے خیالات یکے بعد دیگرے آتے اور چلے جاتے ہیں۔ ایسے بے نمازیوں کے رکوع و سجود محض عادتاً ہوتے ہیں۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ کے بعد نمازی کو ہمہ تن خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کے دوسرے رکوع میں فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ (الحج)

”اور آدمیوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارہ پر (یعنی بے اطمینانی کی حالت میں) کرتا ہے پس اگر اسے کوئی فائدہ پہنچ گیا تو اس سے خوش ہو گیا اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اپنے منہ پر لوٹ گیا۔ اس نے دنیا و آخرت کا نقصان اٹھایا۔ یہی صریح نقصان اٹھانا ہے۔ اللہ کے سوا ایسے کی عبادت کرتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع دے سکے۔ یہی بڑی گمراہی ہے۔“

اس آیت مبارکہ سے ایسے نمازیوں کی نماز کے متعلق معلوم ہو گیا کہ ان کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے۔ ان کی نمازوں کا حال کھلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ

اپنی عادت کو پورا کرتے ہیں۔

منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ

سب جانتے ہیں کہ حضرت منصور علیہ الرحمۃ نہایت ہی باخدا بزرگ تھے۔ جس وقت ان کو دار پر چڑھانے کے لئے لوگ لئے جا رہے تھے تو اس وقت ایک مؤذن اذان کہہ رہا تھا جب اس نے اذان میں کہا اللہ اکبر تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کہا چپ رہ کیوں بڑائی کر رہا ہے تیرا خدا تو میرے پاؤں کے نیچے گڑا ہوا ہے۔ اس کفریہ کلمہ پر لوگوں نے ان کو مارنا پھینا شروع کیا لیکن ان میں سے بعض لوگوں کو خیال آیا کہ منصور فقیر کامل مشہور ہے اس کی بات میں کوئی بھید اور اصلیت ضرور ہے۔ معلوم تو کرنا چاہئے کہ آخر اس نے یہ کیا بات کہی ہے؟ انہوں نے مؤذن سے پوچھا کہ اذان دیتے وقت تیرا کہاں خیال تھا؟ اس نے کہا ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت مجھے بار بار خیال آرہا تھا کہ لڑکی جو ان ہو گئی ہے اگر کہیں سے روپیہ آئے تو کام بنے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس جگہ کو کھودا جہاں منصور رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کہی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا دھینہ ظاہر ہوا اور منصور کی بات پوری ہوئی۔

یاد رکھئے ایسی نمازیں جن میں دل حاضر نہ ہو کسی کام کی نہیں۔ نماز میں پراگندہ خیالات دل و دماغ کو کندہ کر دیتے ہیں۔ اگر دل لگا کر اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو عجیب لطف آتا ہے۔ دل لگا کر نماز پڑھنے سے اتنا بڑھتا ہے۔ دل و دماغ نور ایمان سے منور ہوتے ہیں اور نماز کے اثرات و کمالات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

نماز میں توحید کے اسرار و نکات

مذہب کے متعدد اغراض و مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقدم و اہم غرض یہ ہے کہ وہ انسان کو حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ کی ذات و صفات کے متعلق ایسی اعلیٰ و اکمل، جامع و مانع اور فطری و عقلی تعلیم دے جو اس کی ذات اقدس کے شایان شان ہوتا کہ اس کی ذات و صفات کا صحیح اور یقینی علم حاصل کر کے انسان کو خدا سے وابستگی پیدا ہو۔ وہ خدا سے محبت

کرے۔ صفات الہیہ کا اعلیٰ تخیل اس کے دل و دماغ میں گھر کر لے وہ شراب معرفت سے مدہوش ہو جائے۔ وہ نہایت ذوق و شوق اور دلی توجہ سے قرب الہی کے وسائل و ذرائع اختیار کرے، صفات الہیہ کا رنگ اختیار کرے اور وہ خدا کی محبت میں فنا ہو جائے۔

خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا صحیح علم توحید پر موقوف ہے۔ جب تک کوئی مذہب اعتقادی و عملی طور پر اپنے اندر توحید کی تعلیم نہ دکھائے اس وقت تک وہ ہرگز ہرگز خدائی مذہب ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ حقیقی توحید کی تعلیم کسی مذہب نے نہیں دی۔

اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو اعتقادی و عملی رنگ میں توحید کامل کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں سب سے اعلیٰ اور ممتاز خصوصیت یہی ہے کہ اس نے توحید خالص کا مسئلہ رائج کیا اور ہر قسم کے شرک کی قطعی طور پر بیخ کنی کر دی۔ اسلام اسی مقصد کو لے کر دنیا میں آیا ہے اور توحید کا اعتقاد دلوں میں راسخ کرنا چاہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور نمایاں خدمت یہی ہے کہ اس نے توحید کی نشر و اشاعت کی۔ توحید کی اس شدت و تکرار کے ساتھ تعلیم دی کہ آج ساری دنیا نے اس اعتقاد کو زبانی طور پر تسلیم کر لیا۔ آج ہندوستان کی وہ قومیں جو شرک و بت پرستی اور تثلیث کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں توحید کا زبانی اقرار و دعویٰ کر رہی ہیں۔ اسلام نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ توحید کا اقرار کریں ورنہ اسلام کے مقابلہ میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتیں۔

اسلام نے توحید کامل کی جو تعلیم دی ہے وہ اعتقادی اور عملی رنگ میں نماز میں موجود ہے اس کا ہر لفظ اور ہر عمل توحید کا شاندار اور مسحور کن مظاہرہ ہے۔

نماز کے لئے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا قبلہ کی طرف منہ کرے۔ اس پران کی کم فہم اور نادان لوگوں نے جن کے دل و دماغ میں شرک و بت پرستی جمی ہوئی ہے اعتراض کئے ہیں کہ یہ قبلہ یا کعبہ پرستی ہے۔ اگرچہ اس اعتراض کے جواب پر ہم اجمالی روشنی پچھلے کسی عنوان کے ماتحت ڈال چکے ہیں۔ تاہم یہاں مزید واقفیت اور اطمینان کے لئے نماز کے توحیدی اسرار و لطائف کو بیان کرتے ہیں تاکہ نماز کی شان و اہمیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ لیکن اس سے پیشتر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے معنی بتا دیئے جائیں۔

## شُرک کیا ہے؟

شُرک کے معنی ہیں سا جھی بنانا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ہستی کو ملا دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی ایک میں ملا دینا۔ شُرک کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ اعتقادی

۲۔ عملی

اعتقادی شُرک یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اسماء و افعال میں دوسرے کو شریک مانا جائے اس شُرک کی اسلام نے یہاں تک بیخ کنی کی ہے کہ ریا کو بھی اس میں داخل کر دیا ہے اور عملی شُرک یہ ہے کہ ان افعال و اعمال میں جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے کئے جانے چاہئیں کسی دوسرے کو ملا دیا جائے۔ یہ شُرک کبھی عبادت کے رنگ میں پیدا ہوتا ہے کبھی شُرک فی الطاعت کی صورت میں اور کبھی شُرک فی المحبت کی صورت میں جلوہ گری کرتا ہے۔ اسلام نے ان سب صورتوں سے شُرک کو اڑا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تعظیم میں، عبادت میں، طاعت میں اور محبت میں کسی غیر کو خدا کا شریک نہ کیا جائے۔

اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شُرک پیدا کیونکر ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی غیر کو اللہ کے سوا کامل علم، کامل تصرف اور کامل قدرت والا جانا جائے۔ پس جو انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کامل علم، کامل تصرف، اور کامل قدرت والا مانتا ہے تو وہ مشرک ہے مگر یہاں یہ بھی یاد رکھئے کہ دنیاوی مطالب کے حاصل کرنے اور کمزور ہات سے بچنے کے لئے مسبب الاسباب نے جو امید و بیم کا سلسلہ انسان میں جاری کیا ہے وہ شُرک میں داخل نہیں کیونکہ اس میں علم کامل اور تصرف کامل کا اعتقاد نہیں ہوتا۔

پس اس طرح کی مطلب برآری میں کسی کا علم و تصرف کیونکر خدا کے علم و تصرف میں مزاحم ہو سکتا ہے۔ محتاج انسان اپنی مطلب برآری کے لئے جس علم و تصرف والے کے آگے کامل محبت اور سچی ارادت سے بہ تعظیم تمام پیش آتا ہے وہ صرف خدائے واحد ہے جس کے علم و تصرف میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

## عبادت کیا ہے؟

عبادت یا پرستش چار چیزوں کے مجموعی مفہوم کا نام ہے۔

۱۔ کسی ہستی کی نسبت کسی قسم کی امید و بیم کا پیدا ہونا۔

۲۔ اس ہستی کی صفات کاملہ کا اعتقاد اور اس کا علمی و عملی اظہار۔

۳۔ امید و بیم کے باعث اس ہستی کی حمد و ثناء بیان کرنا اور اس کی صفات کاملہ پر توجہ کرنا۔

۴۔ حمد و ثناء کے بعد اس ہستی سے کچھ مانگنا۔

یہی چار چیزیں نماز میں بدرجہ اتم و اکمل پائی جاتی ہیں جس سے نتیجہ نکل آیا کہ نماز اسلامی توحید کا کامل مظاہرہ ہے۔ یہیں سے اس اعتراض کا جواب بھی نکل آیا جو قبلہ پر کیا جاتا ہے یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنے میں عبادت و پرستش کا کوئی مفہوم بھی نہیں پایا جاتا۔ ساری نماز میں مکہ معظمہ کا نام تک نہیں آتا چہ جائیکہ اس کی تعریف کی جائے یا اس سے کچھ مانگا جائے۔ معلوم ہوا کہ جو نادان سمت قبلہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ نہ توحید کو جانتے ہیں نہ شرک کو اور نہ ہی عبادت و پرستش کے مفہوم سے آشنا ہیں بلکہ وہ تو صرف آفتاب پر خاک ڈالنا جانتے ہیں۔

اسلام نے صاف اور کھلے لفظوں میں اپنے متبعین کو یہ حکم دیا ہے **فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ** **هَذَا الْبَيْتِ** (قریش) یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اب بغور ان لطائف کو سنئے جو نماز میں توحید کے متعلق ہیں۔

## لطیفہ اول وضو

نماز کا مقدمہ وضو ہے جیسے یہ سمجھا گیا ہے کہ طہارت کاملہ کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں اگرچہ وضو کو صرف طہارت ظاہری تک محدود سمجھا جاتا ہے لیکن درحقیقت وہ طہارت باطنی کو بھی شامل ہے ظاہری شست و شو تو طہارت باطنی کا پیش خیمہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وضو کے بعد ہمارے ہادی نے جو دعا سکھائی ہے اس میں طہارت باطنی کو اور اس کے حصول کو صاف طور پر بیان کر دیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔



اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔

”اے اللہ مجھے اپنی طرف خالص رجوع کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک رہنے والوں کی جماعت میں شامل کر دے۔“

ایک دوسری جگہ ہمارے ہادی نے صاف لفظوں میں بتلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور پکاروں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پاک ہیں یا نہیں۔ ان دونوں باتوں سے معلوم ہوا کہ اسلام ظاہری شست و شو طہارت باطنی کے حصول کا پیش خیمہ ہے۔ پھر دیکھئے وضو کی دعا کا ایک ایک لفظ توحید کامل کا مظہر ہے۔

### لطیفہ دوم اذان

وضو کے بعد اذان کا نمبر ہے۔ یہ نماز کے لئے ایک بلاوا ہے اور ہر نماز سے پہلے ضروری ہے تاکہ نماز میں جماعت کا حتی الامکان کامل مظاہرہ ہو اور اللہ والے جماعتی حیثیت سے زمین پر سجدہ ریز ہو کر دنیا کے سامنے عبدیت اور توحید الہی کا ایک ولولہ انگیز اور شاندار نقشہ کھینچ دیں۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی توحید ہی سے شروع ہوتی ہے توحید ہی پر ختم ہوتی ہے۔ اذان کا ایک ایک لفظ توحید الہی کی منادی اور پکار ہے۔ بتلائے دنیا کے کسی اور مذہب نے بھی عبادت کے لئے بلانے کا ایسا اعلیٰ اور سادہ طریقہ مقرر کیا ہے اور اس میں توحید کو مد نظر رکھا ہے۔

### لطیفہ سوم تکبیر

اذان کی غرض تو یہ ہے کہ محلہ کے تمام لوگ عبادت الہی کے لئے مسجد میں جمع ہو جائیں تاکہ ان کی عبادت میں بھی توحید و یکجہتی کا رنگ ہو اور انفرادیت کو اجتماعیت کا سبق دیا جائے۔ اس کے بعد تکبیر کی غرض یہ ہے کہ مسجد میں جمع شدہ نمازی عبادت الہی ادا کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اپنے مقصد اصلی کو حاصل کرنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ تکبیر میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔

یعنی نماز قائم ہو گئی ہے اب اللہ والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سروں کو معبود حقیقی کے سامنے جھکائیں تکبیر اور اذان کا مضمون اور الفاظ تقریباً ایک ہی ہیں۔ صرف مذکورہ بالا

الفاظ زائد ہوتے ہیں اور تکبیر بھی اذان کی طرح توحید سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہوتی ہے۔

لطیفہ چہارم سمت قبلہ

تکبیر سنتے ہی تمام نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ قیام ان کو ہر دعوت پر لبیک کہنا سکھاتا ہے اور مادیت کے جراثیم کو فنا کر کے روحانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب نماز کے لئے نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قرآنی آیت پڑھی جاتی ہے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ① (انعام)

”بے شک میں اپنا منہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس کی طرف منہ کرنے کے وقت میں دنیا اور اس کی مشغولیتوں سے الگ اور یکسو ہوتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور افعال و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔“

اس آیت مبارکہ سے جو توحید ظاہر ہوتی ہے وہ تو ظاہری ہی ہے ساتھ ہی ان الفاظ سے دنیا کے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا نقشہ بھی ذہن میں پھر جاتا ہے اور نمازی اپنے سینے میں توحید کا ایک جوش بے پایاں پاتا ہے اور محویت اور استغراق کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔

لطیفہ پنجم نماز

ان خارجی اعمال کے بعد اب اصل نماز پر غور کرو۔ وہ تو سراسر خدا کی حمد و ثناء تعظیم و تکریم اور طلب اعانت سے بھر پور ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر خدا کی حمد و ثناء بیان کرنا اپنے حقیقی مطالب کو اس کے حضور پیش کرنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور تکبیرات انتقالی کہنا یہ سب امور توحید کامل کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ الغرض ساری نماز خدا کی حمد و ثناء، توحید اور اپنی عبودیت کے اقرار و اعتراف سے بھری ہوتی ہے۔

پھر اسلام کی توحید پرستی دیکھئے عین نماز کی حالت میں نمازی کی زبان سے لازمی طور پر

دنیا کے ہادی اعظم نبی اکرم ﷺ کی عبودیت کا اقرار کرایا جاتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دنیا میں بنیادی اور سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ دنیا میں جس قدر ہادی خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ توحید ہی کی تعلیم لے کر آئے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی امتیں توحید پر قائم رہیں لیکن جب دنیا سے اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے اور ان کی تعلیم کا سرچشمہ شرک و بدعت کے غبار سے اٹ گیا۔ اسلام دنیا میں آیا اور اس لئے آیا کہ وہ کامل طور پر قیامت تک کے لئے اس گمراہی کی جڑ کاٹ دے۔ اس لئے اس نے آخری نبی کی عبودیت کو عین حالت نماز میں لازمی طور پر رکھ دیا تاکہ تمام اندیشوں اور تصوروں کی جڑ کاٹ جائے اور مسلمانوں کے لئے شرک میں ملوث ہونے کا احتمال و امکان ہی باقی نہ رہے۔ الغرض نماز سراسر توحید کامل کو اپنے اندر رکھتی ہے اور یہی وہ روح ہے کہ اگر مسلمان آج اس کو حاصل کر لیں تو ایک دم خاک سے اٹھ کر افلاک پر پہنچیں۔ دنیا ان کے قدم چومے، آسمان سے ان پر رحمتوں کی بارش ہو، زمین اپنے خزانے اگل کر ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے اور کائنات ارضی و سماوی پر ان کی حکومت و سرداری ہو۔

یہ نمازوں ہی کی تو پابندی تھی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے عظمت و اقتدار کو دنیا سے تسلیم کرایا اور اونٹوں کے چرانے والوں نے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دئے۔ دنیا کے بد قسمت اور پریشان حال مسلمانو! اگر دنیا میں عزت و ترقی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ مسجدوں کو آباد کرو اور کائنات ارضی و سماوی کے مالک بن جاؤ۔ صرف اکیلی نماز تمہارے عقائد و اعمال کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنا دے گی اور تمہاری جھولیوں کو دارین کی دولتوں اور نعمتوں سے بھر دے گی بشرطیکہ نماز کی حقیقت کو سمجھ لو۔

نماز کی اصل غرض و غایت

مسلمانو! تمہیں جس نور حق جس آب حیات اور جس قانون امن و حیات کی ضرورت ہے۔ وہ نماز کے اندر موجود ہے۔ اسلام دنیا میں اس لئے آیا ہے کہ تمہیں دین و دنیا کا مالک بنا دے اور تمہارے قدموں میں تسخیر کائنات کی کنجیاں ڈال دے۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لئے اس نے نماز کو ایک اتم و اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ نماز کے اندر وہ روح بند ہے جس کو

حاصل کر کے تم دین و دنیا کے مالک بن سکتے ہو۔ نماز کی اصل غرض و غایت ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو اعلیٰ مدارج ترقیات پر پہنچا دے۔ چنانچہ رسول خدا ﷺ کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نماز کے ہر رکن میں اخلاقی و روحانی ترقی کے لئے اعلیٰ درجہ کے حقائق روحانی رکھے گئے ہیں جن کے سمجھنے کے لئے نماز کی مداومت ضروری ہے۔

ایک نمازی جس قدر زیادہ نماز کے اغراض و مطالب سمجھ سمجھ کر اور سنوار سنوار کر پڑھے گا اسی قدر وہ حقائق اس کے سامنے شہودی مرتبہ میں نظر آتے جائیں گے۔ نماز کی روح الہی رنگ اختیار کر جائے گی۔ اس کی زندگی اسلامی قالب میں ڈھلتی جائے گی اور اس میں سکینیت، طمانیت اور قوت آتی جائے گی یہاں تک کہ مقصود بالذات شئی یعنی دلی نیاز، قلبی شکرگزاری یعنی خشوع و خضوع حاصل ہو جائے گا۔ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے:

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاِصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿۵﴾ (اعراف)

”اور اپنے رب کو اپنے جی میں خشوع و خضوع سے یاد کرو اور ایسی آواز سے کہ پکارنے سے کم آواز میں صبح و شام کے وقتوں میں غرض یہ کہ کبھی غافل نہ ہو۔“

افسوس صد ہزار افسوس کہ اول تو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں تو نماز کے اغراض و مطالب کو نہیں جانتے اور نہ اس کے روحانی حقائق کو شہودی رنگ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی توجہ ہے کہ ہماری بے جان نمازوں سے وہ اخلاقی اور روحانی اثرات و نتائج مرتب نہیں ہوتے جو شارع کا مقصود اصلی ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ نماز منکرات و فواحش سے محفوظ رکھنے کے لئے فرض کی گئی ہے یعنی نماز کا سب سے بڑا اثر یہ ہونا چاہئے کہ نمازی منکرات و فواحش سے رک جائے۔ اب اگر نماز کی اقامت و مداومت کا یہ اثر نہ ہو اور اس کے اقوال و افعال میں روحانی ترقی نہ ہو تو اس نماز کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری نماز ریکی نماز ہے۔

## قرآن کی تعلیم خیالی اور وہی تعلیم نہیں

جو لوگ نماز کے اغراض و مطالب سمجھے بغیر نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے روحانی حقائق حاصل نہیں کرتے اور یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس فریضہ کو ادا کر دیا۔ ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام نے کوئی حکم بھی اس لئے نہیں دیا کہ اس کی یونہی اندھا دھند پیروی کی جائے اور اس سے کوئی روحانی اور اخلاقی نتیجہ حاصل نہ ہو۔ قرآن کی تعلیم خیالی اور وہی تعلیم نہیں اس نے کوئی عمل ایسا نہیں بتلایا جس کا ثمرہ اور نتیجہ واقعی اور عملی طور پر اس جہان میں ظاہر نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نماز محض اس لئے نہیں پڑھواتا کہ اس کے عوض میں جنت کے اندر ستر ستر حوریں مل جائیں بلکہ اس لئے پڑھواتا ہے کہ ہم واقعی سچے مسلمان اور کامل مومن بن جائیں اور جو کامل مومن بن گیا اس نے دارین کی تمام بھلائیاں اور کامرانیاں حاصل کر لیں۔ پس نماز پڑھنے والو! نماز کے اغراض و مطالب کو اچھی طرح سمجھ لو اور پھر نماز میں پڑھو تاکہ صرف نماز ہی ہماری تمام بگڑی کو بنا دے۔

## نماز کی بے اثری

آج ایک دنیا اپنی نمازوں کی بے اثری کی شاکہ ہے کچھ تو ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہی نہیں رہا کہ ہماری نماز میں بے اثر ہیں یا بااثر اور کچھ تھوڑے سے مسلمان ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع اور کیفیت و سرور پیدا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی نماز ہم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا ہاں جو اللہ کے خاص خاص اہل دل بندے جو ابھی اس دنیا میں موجود ہیں ان کو اس سے مستثنیٰ سمجھنا چاہیے اور جو لوگ اپنی نمازوں کی بے اثری کی شاکہ ہیں وہ صرف تمنا تو ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں کیف و سرور پیدا ہو مگر اس کے حصول کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنا نہیں چاہتے پھر صرف تمنا سے کیا بنتا ہے۔

اس بے اثری کی عام وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں اس لئے ہم نمازوں میں جو کچھ زبان سے پڑھتے ہیں دل کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی لاکھوں نمازی تو

ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے ساری عمر نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں مگر ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** (فاتحہ) کے کیا معنی ہیں وہ جانتے ہیں ہی نہیں کہ ہم نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں کس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں۔ بتلائیے ایسی نمازوں کا روح و دل پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔

شاید اب یہ کہا جائے کہ جناب سب نمازی عالم تو بننے سے رہے کہ وہ نماز کی ساری باتیں سمجھنے لگیں اور پھر ان کی نمازوں میں اثر پیدا ہو مگر یہ لازم مالا یلزم ہے اور نامعقول بات ہے آپ سے یہ کون کہتا ہے کہ پہلے عالم بنو اور پھر نمازیں پڑھو۔ مطلب تو صرف یہ ہے کہ نمازی نماز کے متعلق ضروری باتیں، ظاہری آداب و ازکان اور اس کے اصلی اغراض و مطالب معلوم کر لیں اور اتنی معلومات ان کو صرف چند ماہ میں ہو سکتی ہے اگر وہ نماز کو با معنی سیکھنا چاہیں تو چند روز میں سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لئے صرف قلب کو خدا کی طرف رجوع کرنے کا سوال باقی رہ جاتا ہے اور اس کے چند قاعدے ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نماز کی بے اثری کا شاکا کی رہے تو یہ خود اس کا قصور ہوگا۔

اللہ کا شکر ہے کہ یہ زمانہ پریس کا زمانہ ہے۔ دینی تعلیم کے متعلق اس قدر آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہی دین کی ضروری معلومات چند پیسے خرچ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ پس نماز کی بے اثری دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کو نماز کا ترجمہ جاننے اور سیکھنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم نمازوں کو دلی شوق و رغبت کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ اپنے سر سے فرض کا بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں جو بلا سوچے سمجھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کا ترجمہ تک نہیں جانتے ان کی تو شکایت کیا مگر رونا تو یہ ہے کہ جو عربی زبان اور ترجمہ سے بھی واقف ہیں وہ بھی معانی و مفہیم کا خیال نہیں رکھتے۔ نماز میں اول سے لے کر آخر تک کوئی نصور قائم نہیں کرتے۔ غرض نہ جہلاء کی حالت اچھی ہے اور نہ علماء کی۔ بات یہ ہے کہ ہم نماز کے اثرات و کمالات حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے ورنہ یہ ناممکن ہے کہ نمازی پر نماز کے الفاظ ان کی فصاحت و بلاغت کلام الہی معانی و مفہیم کا اثر نہ ہو۔ کلام الہی کا اثر تو وہ زبردست اثر ہے

جس کو عرب کے کفار نے جادو سمجھا تھا۔ واقعی کلام الہی دلوں پر جادو سے زیادہ کام کرتا ہے۔

### الفاظ کے خاص اثرات

یوں تو تمام قرآن کریم فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر ہے جس کے لفظ لفظ میں جادو سے زیادہ تاثیر ہے۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت ہی تو تھی جس کو سن کر اور دیکھ کر فصحاء عرب انگشت بدنداں رہ گئے اور اسلام کی پہلی آواز پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر خاص کر نمازوں میں جو صورت رکھی گئی ہے یعنی سورہ فاتحہ وہ تو فصاحت و بلاغت میں اپنی نظر آپ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنی جگہ ایک عبادت اور تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے اگر اس کے مفہوم کو ایک نمازی مد نظر رکھے تو اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ انسان کو سرشار و بے خود بنا دیتی ہے۔ اسی طرح نماز کے تمام الفاظ اپنے اندر بے پناہ کشش و تاثیر رکھتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے اور قرآن پاک کی فصیح معجز کار اور جادو بھری زبان اپنا اثر نہ کرے۔ اسکے پہلو میں دل ہو اور وہ رقص بسمل کا نظارہ بن کر نہ جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان پر اللہ کا کلام ہو۔ حضور قلب سے نماز پڑھی جائے اور اثر نہ ہو۔ ہاں اگر پہلو میں بجائے دل کے پتھر کا ٹکڑا ہو تو یہ دوسری بات ہے۔

صحابہ کرام جو نماز پڑھتے وقت دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے اور معبود حقیقی کے جمال جہاں آرا کے مشاہدہ میں محو و مستغرق ہو جاتے تھے اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ قرآنی الفاظ کا اثر ان کے دل و دماغ اور جسم پر پورا پورا اثر کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں مرضات اللہ کے لئے وقف ہو گئی تھیں وہ احکام الہیہ کی پوری پوری پابندی کرتے تھے اور نماز نے انہیں دین و دنیا میں ہر طرح فائز المرام و شاد کام کر دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بندگی اور بندہ نوازی کے مزے انہیں بزرگوں نے اٹھائے تھے۔

### نماز اور خشیت الہی

اسلامی تعلیم کا خلاصہ اور مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات پر احکام الہیہ کے مطابق ضبط و نظام قائم رکھیں۔ یہی وہ روح اتقا ہے جس کے حصول پر تمام مراتب روحانیہ موقوف ہیں۔ خواہشات میں ضبط و نظام قائم رکھنے کے لئے خشیت الہی اور خدا ترسی کی ضرورت

ہے اگر دل میں خشوع اور خدا ترسی کا مادہ نہ ہو تو ایک مسلمان کبھی بھی صفت اتقا سے متصف نہیں ہو سکتا اور احکام الہیہ کی پوری پوری پابندی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں آتے ہی احکام پیش نہیں کئے کیونکہ صدیوں کی بگڑی ہوئی طبائع اور سہل پسند عادتیں یکبارگی احکام کی پابندی کی خوگر نہیں ہو سکتی تھیں اس لئے پہلے عذاب و ثواب کی آیتیں نازل ہوئیں تاکہ دلوں میں رقت و استعداد کا مادہ پیدا ہو جائے۔ جب اس طرح دلوں میں عاجزی اور نرمی پیدا ہو گئی تو پھر احکام و اوامر کا نزول ہوا۔ پس جب تک خدائے قدوس کی ہیبت و جلالت کا تصور قلب کی گہرائیوں میں راسخ نہ ہو جائے اس وقت تک اعمال صالحہ اور تقویٰ و پرہیزگاری کی اصلی روح پیدا نہیں ہوتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ۝۲

”تحقیق فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں“۔ (المومنون)

یعنی فلاح و کامیابی انہیں بندوں کو حاصل ہوتی ہے جنہیں انکی نمازوں میں خشیت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہی بندے اس قابل ہیں کہ آسمان ان کے قدم چومے۔ دوسری جگہ فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا ۝۱ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۝۲ (الشمس)

”جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اس نے فلاح پائی اور جس نے اپنے نفس کو برائی کی کچڑ میں دھنسا دیا وہ برباد ہوا“۔

خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں نرمی اور عاجزی پیدا کر دے اور آہستہ آہستہ دل کو پگھلائے۔ جب دل میں خشوع اور خدا ترسی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے معاصی اور بد اعمالیوں پر نگاہ پڑتے ہی ایک شدید ندامت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ندامت کی آگ بدکاری کے جراثیم کو کھا جاتی ہے۔ غرور و تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ واقعات بعد الموت کا ہولناک تصور سامنے آ کر دنیا سے دل ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اکثر فرط تاثر سے آنسو نکل آتے ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی ہر قسم کے نقص و کمزوری سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہ



بات آپ پر اچھی طرح واضح ہوگئی ہوگی کہ نماز ہمیں منکرات و فواحش سے محفوظ رکھتی ہے اور ساتھ ہی اس کا سبب بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری نمازیں کیوں منکرات و فواحش سے نہیں روکتیں۔ اس لئے کہ ہمارے دلوں میں خشیت الہی کا مادہ نہیں اس لئے ہماری نمازیں بے روح اور بے اثر ہیں۔ اگر نمازوں میں روح و اثر پیدا کرنا ہے تو دلوں میں خشوع اور خدا ترسی کا مادہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَا كَرَّمَ اللَّهُ وَ مَا نَزَلَ  
مِنَ الْحَقِّ ۗ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ  
عَلَيْهِمْ إِلَّا مَذْفُوقَاتُ قُلُوبِهِمْ ۗ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَيَسْقُوتُونَ ۝

”کیا ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب خوف الہی سے لرزنے لگیں۔ اللہ کے ذکر اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کا اقتضاء تو یہ ہے کہ خشوع و خوف پیدا ہو مگر ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مدت گزرنے پر ان کے قلوب میں سختی و قسادت پیدا ہوگئی اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فسق و فجور میں گرفتار ہیں۔“ (الحدید)

آہ ہماری حالت کس قدر رومی اور ناقابل اصلاح ہوگئی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں مگر معاصی و منافیہ کے ارتکاب سے باز نہیں آتے دل کھول کر خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ندامت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ چاہئے تو یہ تھا کہ نماز جو ذکر الہی کی بہترین صورت ہے اس سے ہمارے قلوب خوف الہی سے لرزنے لگتے اور ہم خالص مومن بن جاتے۔ مگر ہمارے قلوب میں اور بھی زیادہ سختی آگئی ہے۔ اگر ہماری غفلت و بے پروائی کی یہی حالت رہی تو ایک روز ہم خدا کو بالکل ہی بھول جائیں گے اور ہمارے چشم و قلب پر مہر لگ جائے گی۔ پس کیا ہمارے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل خوف الہی سے لرزنے لگیں۔

نماز کی روح

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ انسان کو خدا کی نافرمانیوں اور بد اعمالیوں سے روکنے والی اور اس کو صحیح معنوں میں نیک اور باخدا انسان بنانے والی چیز خشیت الہی یا خدا ترسی ہے

اور یہی چیز نماز کی روح ہے۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد ایک مسلمان کے ظاہر و باطن پر خدا کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اخلاق و روحانیت کے جذبات پختہ ہو جاتے ہیں۔

ذرا غور کرو کہ اسلام کی گرفت کتنی مضبوط ہے۔ قانون، حکومت اور سوسائٹی کی حکومت صرف ظواہر تک محدود رہتی ہے یعنی حکومت اور قانون کا خوف صرف اسی وقت تک ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو۔ قانون ہمیں اس جرم پر پکڑتا ہے جو علانیہ طور پر کیا جائے اور جس پر قانون کی نظر پڑ جائے۔ لیکن اسلام کی گرفت جسم و روح دونوں پر اتنی مضبوط ہے کہ ایک سچا مسلمان اور خاص کر نمازی نہ علانیہ گناہ کر سکتا ہے اور نہ خفیہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کی نظر دل کی گہرائیوں پر بھی ہے۔ وہ ہمارے ارادہ اور لغزش کا نگران ہے۔

درحقیقت خوف خدا دینی زندگی کی بنیادی اینٹ ہے جب تک دل میں خوف خدا نہ ہو ایک مسلمان کبھی سچا مسلمان نہیں بن سکتا۔ آج دنیا میں کیوں گناہوں کا سمندر لہریں مار رہا ہے اور وہ مسلمان جو کبھی اپنے اعمال و اخلاق کے اعتبار سے خیر الامم تھے کیوں ارذل الامم بن گئے ہیں؟ اس لئے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ خدا ترسی و خشیت کے فقدان نے دنیا والوں کو نفس و شیطان کے چنگل میں بری طرح پھنسا رکھا ہے۔

مذکورہ بالا بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ نماز وہی ہے جو خشوع و خوف کی حامل ہو ورنہ نماز ایک جسد بے روح کی مانند ہے۔ وہی نماز انسان کو معراج ترقی پر پہنچاتی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہے تو ہماری نمازیں ہی فضول و بیکار ٹھہریں کیونکہ ہمیں کسی نے خشوع حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں بتلایا کہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع کا مظہر بن سکیں۔

نمازیوں کا یہ عذر کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ نماز کسی حال میں بھی فضول و بیکار نہیں۔ اگر نمازوں میں روح نہیں جھکتی تو ظاہری جسم تو سب کا جھکتا ہے اور بحالت موجودہ یہ بھی غنیمت ہے اور نمازی بہر حال اپنے پاس اپنے مسلمان ہونے کا ایک عملی ثبوت رکھتے ہیں۔ پس نماز کسی حال میں بھی بیکار و فضول نہیں۔ بہر حال پڑھتے رہو مگر اتنی بات ضرور ہے کہ نماز کے اغراض و مقاصد کو سمجھ لو اور دل سے پڑھو۔

ہر مسلمان نمازی کو چاہئے کہ وہ نماز کی حقیقت معلوم کرے۔ اس کے الفاظ و عبادت کا پورا ترجمہ و مطلب سیکھے اور اس کے ظاہری و باطنی آداب و ارکان کو ملحوظ رکھے۔ پھر نماز پڑھتے وقت نماز کے ہر لفظ و جملہ کے معانی کو پیش نظر رکھے دل لگا کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اگرچہ پریشان حالات اس میں خلل انداز ہوں گے تاہم مستقل مزاجی اور دلی شوق سے تمام خارجی تصورات و خیالات کا مقابلہ کرے۔ انشاء اللہ کچھ دنوں کے بعد نماز میں دل لگے گا اور خشوع بھی پیدا ہو جائے گا۔ باقی رہا محویت و استغراق کا حصول تو یہ چیز مامور بہ نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے۔ آپ مذکورہ بالا طریق پر عمل کریں ایک نہ ایک دن شہود کا یہ درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔

یہاں تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ نماز کے اثرات و کمالات کے متعلق تھا اس کے بعد اب ہم مختصر طور پر اوقات نماز کا روحانی فلسفہ بیان کرتے ہیں۔

### اوقات نماز کا روحانی فلسفہ

تعیین اوقات کی ضرورت اور اس کے فوائد پر ہم کسی دوسری جگہ روشنی ڈال چکے ہیں مگر مقصود نہیں یہاں صرف اتنا کہنا ہے کہ اوقات نماز سے انسان کے اندر وقت کی پابندی اور اس کی قدر و قیمت کا جو ہر پیدا ہوتا ہے جو تمام تمدن اور شائستہ قوموں کا پہلا اصول ہے۔ علاوہ بریں ذرا صحیفہ فطرت پر نظر غور ڈالو تو تمہیں اس میں تغیر اوقات کا عام اصول کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ دن اور رات اوقات مقررہ کا نمونہ ہیں۔ تبدیلی موسم سے بھی سبق ملتا ہے اور کائنات کی ہر چیز ایک نظام میں جکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب یہ فطرتی نظارہ تعین اوقات کو چاہتا ہے تو دین فطرت کیوں نہ اس کی پابندی کرے۔ پھر دیکھو انسان کے لئے تمام کاموں کے لئے ایک انضباط اوقات ہے پس اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی حاضر ہونے کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو پانچ وقت نماز کے لئے مقرر کئے ہیں یہ پانچ تغیرات ہیں جن سے دنیا کی کوئی چیز بھی خالی نہیں۔ انسان میں بھی یہ پانچ تغیرات ہوتے ہیں۔ کم فہم اور محدود نظر انسان کی آنکھ دنیا کی اور چیزوں کے تغیرات کا تو ذرا مشکل سے مشاہدہ کر سکتی ہے البتہ

آفتاب کے تغیرات کو نہایت آسانی اور صفائی سے محسوس کر سکتی ہے۔ ان تغیرات کو دیکھ کر ایک عارف صادق کے دل میں ایک ہیبت الہی پیدا ہوتی ہے گونادان انسان جس کی آنکھ پر غفلت و جہالت کے موٹے موٹے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کی طرف نظر بھی نہیں کرتا اور ان تغیرات کے مطالعہ سے اس کا ذکر خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی طرف منتقل نہیں کرتا۔ لیکن ایک صحیح نظر رکھنے والا سعادت مند اور عاقل انسان ان کی طرف نظر کر کے عظمت الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور جوں جوں وہ ان پر غور کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا رعب پیدا ہوتا جاتا ہے۔

اب ہم آفتاب کے ان تغیرات خمسہ کو بیان کرتے ہیں ذرا غور سے سنیے کیونکہ اوقات نماز کو آفتاب کے انہی تغیرات خمسہ پر رکھا گیا ہے۔

### پہلا تغیر

پہلا تغیر آفتاب کا وقت زوال ہے۔ یہ وقت مشابہ ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ اس مصیبت پر جو اقبال کے بعد آئے۔ اس میں اقبال کے آثار زوال شروع ہو جاتے ہیں اور مصیبت و ادبار کے کچھ نشان پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن شک کی حالت ہوتی ہے یعنی اقبال و زوال کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔ یہ ظہر کا وقت ہے۔ یہ وقت قوموں کے عروج و زوال پر غور کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر مسلمان اپنے نور بصیرت سے اس تغیر کا مطالعہ کریں اور اس سے کچھ درس عبرت لیں تو آج ہی ان کی بگڑی بن جائے۔

### دوسرا تغیر

دوسرا تغیر یا وقت، وقت عصر ہے۔ عصر تنگی اور تکلیف کو کہتے ہیں اس وقت نورانیت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ وقت اس مصیبت سے مشابہ ہے جب مصیبت کے ایسے آثار ظاہر ہو جائیں کہ دل کو تنگ کرنے لگیں۔ زوال کے وقت تو گویا نزول مصیبت کا اندیشہ تھا اور اس وقت ظن غالب پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا آنے والی ہے۔

### تیسرا تغیر

آفتاب کا غروب ہو جانا ہے۔ یہ وقت مغرب ہے۔ آفتاب کا زمانہ نورانیت ختم ہو جاتا

ہے لیکن اس کے آثار و علامت باقی رہتے ہیں جو اس کی نورانیت کا پتہ دیتے ہیں اور رات کی تاریکی ان کو بھی دبا دینا چاہتی ہے۔ یہ وقت مشابہ ہے اقبال کے اس زوال سے کہ اس میں اقبال کے کچھ کچھ آثار باقی ہوں اور زوال کی تاریکی چھا جائے۔

### چوتھا تغیر

آفتاب کی نورانیت کا بالکل زائل ہو جانا ہے۔ یہ وقت عشاء ہے اس وقت دن کی نورانیت جاتی رہتی ہے اور رات کی تاریکی کائنات ارضی پر اپنا قبضہ جمالتی ہے۔ گویا اقبال کے اثرات بھی مٹ جاتے ہیں اور زوال کے اثرات کامل طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

### پانچواں تغیر

پانچواں تغیر ڈوبے ہوئے آفتاب کی نورانیت کے آثار کا ظاہر ہونا ہے یعنی آفتاب اقبال کے طلوع ہونے سے پہلے اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور پتہ دیتے ہیں کہ اب آفتاب نکلنے والا ہے اور دنیا کی تمام چیزیں تاریکی سے نکل کر روشنی میں آنے والی ہیں۔ یہ صبح کی نماز کا وقت ہے۔

ان تغیرات سے ایک عارف اور مرد مومن جو سبق حاصل کر سکتا ہے اس کے بیان کرنے کے لئے تو ایک دفتر درکار ہے۔ یہاں مختصر طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ ان اوقات خمسہ یا تغیرات خمسہ سے کسی وجود کو چھٹکارا نہیں اور یہ اوقات اپنے اندر مادیت اور روحانیت کا ایک زبردست سبق پنہاں رکھتے ہیں۔

### تعداد رکعت

یہاں تک ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطالعہ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کے تمام ارکان اپنے اندر بے شمار دینی و دنیوی اور اخلاقی و روحانی فوائد رکھتے ہیں۔ صرف ایک چیز کے فوائد بتلانے رہ گئے ہیں اور وہ تعداد رکعت ہے۔ یہ بھی ایک قابل قدر شے ہے اس باب میں اس چیز کو بھی ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بعض نادان کہا کرتے ہیں کہ تعداد رکعت نماز میں حضور قلب کے لئے حارج ہے۔ یہ خیال نہایت بودا اور کمزور

ہے جیسا کہ آئندہ تفصیلات سے ظاہر ہوگا۔

ہر سلیم العقل جانتا ہے کہ ہر چیز کی حد ضروری ہے اگر یہ نہ ہو تو کسی چیز کی خاطر خواہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ اس بناء پر نماز کے لئے متعدد رکعتوں کا ہونا ضروری تھا کہ کم از کم فرض نمازوں میں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ان میں تعداد رکعت کا ہونا نہایت ہی ضروری تھا۔ اگر ان میں تعداد رکعت نہ ہوتا تو نماز باجماعت کی اصل غرض اتحاد اور وحدت و یکجہتی فوت ہو جاتی ہے اور ہر شخص اپنے دخل و مشورہ سے کچھ کا کچھ قائم کرنا چاہتا۔

تعداد رکعت سے حضور قلب میں اس لئے فرق نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قوی کو کچھ ایسی صلاحیت و قوت دی ہے کہ وہ باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے حسب حال جن باتوں کو پاتے ہیں ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ امور ان سے بلا تکلف بھی صادر ہونے لگتے ہیں۔

تعداد رکعت کی وجہ سے نمازی کو حاجت نہیں رہتی کہ رکعت شماری کرے۔ نماز کی مداومت اس کے جسم کے اندر یہ قوت و صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ تمام ارکان قیام، قعدہ، رکوع اور سجود وغیرہ اپنے محل اور اپنے اپنے موقع پر خود ادا کرتا جاتا ہے اور اس طرح تعداد رکعت سے حضور قلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔

### تعیین کعبہ کے بعض اسرار

نماز کی یہ غرض ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان اور جہت کی قید سے مقید کر دے یا کوئی خاص مکان اس کے لئے تجویز کرے۔ اسلام خدائے قدوس کو جہت و مکان سے منزہ قرار دیتا ہے وہ کہتا ہے

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيُّ مَكَانٍ لَّوِاقِفُكُمْ ۗ وَجْهَ اللّٰهِ (بقرہ: 115)

”اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے جدھر منہ کروادھر ہی اللہ موجود ہے۔“

اور ایک دوسری جگہ فرمایا ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (بقرہ: 177)

”اس بات کا نام نیکی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔“

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ سمت قبلہ کی طرف متوجہ ہونا مقصود بالذات نہیں بلکہ اس کی غرض کچھ اور ہی ہے۔ وہ عظیم الشان غرض کیا ہے؟ سنئے

بیت اللہ، اللہ کی ہستی کا ثبوت ہے

یعنی اس مادی دنیا میں بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک روشن اور نمایاں ثبوت ہے اور اس کے عالم غیب السموات والارض ہونے کی بے نظیر دلیل ہے۔ اگر بیت الحرام کے وجود پر غور کیا جائے تو ایک دہریہ کو بھی لازمی طور پر خدا کی ہستی کا اقرار و اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کو ”مقام امن“ قرار دیا ہے۔ اب ہم جب اس قرآنی پیش گوئی کو تاریخی واقعات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو ہر جو یائے حق کے دل میں قرآنی عظمت قائم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک مکان بناتا ہے جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی اور ہی اس کا وارث ہو جاتا ہے۔ جس غرض کے لئے وہ مکان بنایا جاتا ہے وہ غرض فوت ہو جاتی ہے اور وہ مکان کسی اور ہی غرض کے لئے استعمال ہونے لگتا ہے۔

دنیا کی تاریخ سے واضح ہے کہ جس طرح دنیا کی اور چیزوں کو تغیر و انقلاب کے دور سے گزرنا پڑا ہے اور بے شمار مذہبی و ملکی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اسی طرح مکانات بھی تغیر و انقلاب کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ نہیں رہتے۔ ہزار ہا منادر کسی وقت مسجد بنا لئے گئے اور ہزاروں مسجدیں دھرم سالوں میں تبدیل کر دی گئیں۔ ایسے نظارے تقریباً ہر بڑے شہر میں موجود ہیں۔

اس کے مقابل مکہ معظمہ پر غور کرو کہ آج سے کئی ہزار برس پیشتر ابوالہملہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں مکہ معظمہ کی نسبت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت سے لے کر اب تک اس کے معزز و مکرم ہونے میں کسی طرح کا فرق نہیں آتا۔ یہ فخر دنیا میں کسی مذہبی عمارت کو حاصل نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

مکہ معظمہ رحمانیت کا مظہر ہے

نماز کا لازمی جزو قرأت سورۃ فاتحہ ہے اور اس صورت میں نمازی خدا کی الوہیت، رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت اور مالکیت کا اقرار کرتا ہے اور خارجی طور پر مکہ معظمہ رحمانیت کا

مظہر ہے اس طرح کہ یہیں رحمانیت کاملہ کا نزول ہوا۔ یعنی قرآن کریم جیسی نعمت افضل اور رحمت کا نزول ہوا اور یہیں ہمارے آقا و مولیٰ رحمۃ اللعالمین محمد مصطفیٰ ﷺ پیدا ہوئے۔ ان دو چیزوں سے بڑھ کر رحمانیت کا مظہر اور کیا ہوگا۔

اسی طرح مکہ معظمہ رحیمیت کا مظہر بھی ہے۔ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار کو قبول فرما کر ان کی اولاد کو ایسی ایسی نعمتوں اور خیر کثیر سے سرفراز کیا کہ ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مکہ معظمہ سے خدا تعالیٰ کی مالکیت کا بھی پوری طرح اظہار ہوتا ہے۔ الغرض بیت اللہ کی طرف منہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے نمازی کی روح آستانہ الہی پر جھکے اور جو ارجح پر بھی بیت اللہ کی ان خصوصیات سے خدا تعالیٰ کی ہیبت و جلال طاری ہو جائے۔

نماز کے ظاہری و باطنی آداب و ارکان کے متعلق بقدر امکان کافی مواد فراہم کر دیا گیا ہے۔ بقیہ ارکان کے متعلق انشاء اللہ آئندہ ان کی جگہ پر روشنی ڈالی جائے گی۔

## نماز پڑھنے کی ترکیب

مردوں کے لئے حنفی مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کا وہ طریقہ لکھا جاتا ہے جو منقول متواتر ہے اور جس میں فرض، واجب، سنت اور مستحب تمام ہی امور آجاتے ہیں۔

وضو کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے قبلہ رو کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں قدموں کے درمیان صرف چار انگشت کا فاصلہ رکھو۔ پھر دل میں نماز پڑھنے کی نیت کرو اور زبان سے بھی کہو۔ مثلاً اگر کوئی صبح کی فرض نماز پڑھتا ہے تو یوں نیت کرے ”نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فجر کی خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف“ پھر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں انگلیاں جدا جدا ہوں اور انگوٹھے کانوں کی لو تک پہنچ جائیں اس وقت فوراً تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھ لو کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو۔ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھنگلیاں سے بائیں ہاتھ کے پینچے کا حلقہ کر لو اور باقی تین انگلیاں کلائی کے اوپر رکھو اور کمال ادب اور



تذلل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گویا تم خدا کے حضور میں حاضر ہو اور اس کی جناب میں اپنی یہ عبادت پیش کر رہے ہو۔ اسی کا نام قیام ہے۔ قیام میں سب سے اول یہ دعا پڑھو۔  
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى  
 جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”اے اللہ تیری ذات ہر قسم کے نقص اور کمزوریوں سے پاک اور خوبیوں والی ہے اور تیرا نام مبارک اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے حضور شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو نہایت مہربان اور بخشش والا ہے۔“

اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف خوب سوچ سمجھ کر پڑھو۔ اس طرح کہ اپنی عبدیت کا اعتراف کرو۔ دعا کے لئے قلبی جوش سے التجا کرو۔ سورہ فاتحہ اور ترجمہ یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ  
 الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ  
 الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ امین (فاتحہ)

”سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سب جہانوں کا پیدا کرنے والا پالنے والا، بن مانگے اور بن کئے دینے والا اور مانگنے پر عمدہ دینے والا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ بتا اور اسی پر چلا جو کہ انعام پانے والوں کی راہ ہے۔ نہ غضب شدہ لوگوں کی اور نہ گمراہوں کی (یعنی نہ یہود کی اور نہ نصاریٰ کی)۔“

یہ سورہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو اور اس کے بعد قرآن کی جوئی سورت اور آیت بھی اچھی طرح یاد ہو پڑھو اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ۔ رکوع میں پہنچنے سے پہلے تکبیر پوری ہو جانی چاہئے۔ اگر تکبیر رکوع میں پہنچ کر ختم ہو تو اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔

رکوع کی صورت یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوط پکڑ لو۔ پنڈلیاں سیدھی رکھو۔ دونوں ہاتھ بھی بالکل تنے رہیں۔ پشت بالکل سیدھی رہے اور سر اس کے برابر۔ رکوع میں کم از کم تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ (میں اپنے رب کو سب نقصوں سے پاک یقین کرتا ہوں) کہو اس کے بعد امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (اللہ سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے) کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب تیرے ہی لئے سب تعریف ہے) کہتا ہوا کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جاؤ۔

سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں زانوں زمین پر ٹیکو، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھو اور پھر پہلے ناک اور اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھو۔ کہنیاں بغلوں اور زمین سے علیحدہ رکھو۔ اس طرح سجدہ میں جا کر کم از کم تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (میں اپنے رب کو پاک یقین کرتا ہوں جو بہت بلند ہے) کہو سجدہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملائے رکھو تاکہ سب کے رخ قبلہ کی طرف رہیں۔ چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھو پھر پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں کم از کم اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک بار سبحان اللہ پڑھا جائے اگر جلسہ میں یہ دعا پڑھے تو مسنون ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي۔

”اے اللہ میری کمزوریوں کے بدنتائج سے اور آئندہ کمزوریوں سے مجھ کو بچا اور مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھ اور مجھے ہر ایک امر کی سیدھی راہ بتا اور مجھے پاک و حلال رزق عطا فرما۔“

پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ۔ دوسرے سجدے کے بعد ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لئے اٹھو یعنی گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاتھ زمین پر ٹیک کر اور بغیر عذر کے اٹھنا صحیح نہیں۔

دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور قرآن کی کوئی سورہ یا تین آیتیں پڑھو۔ بشرطیکہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں صرف ثنا

پڑھ کر خاموش ہو جاؤ خواہ امام بلند آواز سے قرأت پڑھے خواہ آہستہ اور دوسری میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو خاموش کھڑے ہو جاؤ ورنہ مذکورہ بالا سورتیں اور آیتیں پڑھ کر رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ حسب طریقہ مذکور کرو۔ دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر قعدہ میں اس طرح بیٹھو کہ دایاں پیر کھڑا رکھو اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھو۔ قعدہ میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنی چاہئیں ہاتھوں کو زانوؤں پر رکھ کر یہ تشہد پڑھو۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ  
اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

”سب تحفے اور نمازیں اور پاکیزہ اعمال اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

التحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے حلقہ باندھ لو، چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو اور کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو۔ لا الہ پر انگلی اٹھاؤ اور لا اللہ پر جھکا دو اور اس طرح آخر تک حلقہ باندھے رکھو۔ تشہد ختم کر کے اور دو رکعت والی نماز ہے تو دونوں درود شریف اور دعا پڑھو کر سلام پھیر دو۔ وہ درود شریف یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔  
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  
إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ  
أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

”اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر جس طرح  
کہ تو نے رحمت نازی فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کی آل  
پر بے شک تو صفت کیا گیا اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت  
محمد ﷺ پر اور ان کی آل پر جیسی تو نے برکت نازل فرمائی ہے حضرت ابراہیم  
علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر بے شک تو صفت کیا گیا اور بزرگ ہے۔“

”اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر تیری نافرمانی کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور سوائے  
تیرے کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ پس اپنی مغفرت سے مجھے بچا  
اور میری حالت پر رحم فرما۔ بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔“

اسی طرح کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتا ہے مثلاً رَبِّ اجْعَلْنِي.....

اور اگر نماز تین رکعت یا چار رکعت والی ہے تو تشهد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے  
کھڑے ہو جاؤ اور بقیہ ایک یا دو رکعتیں حسب طریقہ سابق پڑھ کر آخر میں درود شریف اور  
دعا پڑھ کر سلام پھیرو۔ داہنی طرف سلام پھیرتے وقت داہنی طرف کے فرشتوں اور  
مقتدیوں کی نیت کرو یعنی السلام علیکم ورحمة اللہ کہو اور بائیں طرف کے سلام  
سے بائیں طرف کے فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرو۔

نماز سے فارغ ہونے کے بعد کی مسنون دعائیں

سلام پھیرنے کے بعد ذرا اونچی آواز سے تین بار استغفر اللہ کہو اور ان مسنون دعاؤں  
میں سے جو کسی چاہو پڑھو۔

دعائے اول

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ  
السَّلَامُ حِينَمَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ

رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

”خداوند! تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی آتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی رجوع کرتی ہے اے ہمارے پروردگار! ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر میں داخل فرما اے ہمارے پروردگار، اے بزرگی و بخشش والے تو بڑا بابرکت ہے۔“

دعائے دوم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا  
اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ  
الْجَدُّ۔

”خدا کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں وہ تنہا اور اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے سلطنت اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خداوند! جو چیز تو عطا کرے اس کا منع کرنے والا کوئی نہیں اور جو چیز تو منع کرے اس کا دینے والا کوئی نہیں اور تیرے قہر سے دولت مند کو اس کی دولت مندگی کبھی فائدہ نہیں دیتی۔“

دعائے سوم

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلَى  
اَرْضِ الْعُمْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

”خداوند تعالیٰ! میں نامردی اور بخیلی اور ان کی عمر کی طرف لوٹ جانے پر دنیاوی فتنے اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

دعائے چہارم

نماز سے فارغ ہو کر ایک بار آیۃ الکرسی، ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر پڑھیں۔ نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہ جاتی ہے یعنی مرنے کے بعد یہ شخص فوراً جنت میں داخل ہوگا۔

ان دعاؤں میں سے جوئی چاہو پڑھو اختیار ہے۔ سب کا ثواب ہے۔

## تزکیہ نفس کے متعلق چند خاص وظائف

مومن کا مطہر قلب اسرار الہی کا خزینہ ہے اور وہ ایک آئینہ خدا نما ہے۔ لیکن جب انسان بمقتضائے بشریت ارتکاب معاصی کرتا ہے اور برابر گناہ پر گناہ کئے جاتا ہے۔ توبہ و استغفار کرنے کا خیال تک نہیں آتا تو دل پر سیاہ رنگ کا داغ بیٹھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس پر نادوم و شرمسار ہو کر توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنا گناہوں پر اصرار کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ سیاہی تمام دل کو گھیر لیتی ہے اور وہی قلب جو ابتداً خشیت الہی سے گداز اور شفاف آئینہ خدا نما تھا سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ قلب کی روحانی موت ہے۔ لیکن قدرت نے انسان میں جہاں یہ کمزوری رکھی ہے وہاں اس نے اس حالت کی اصلاح کے لئے بھی ایک آسان تدبیر بتلا دی ہے کہ اگر انسان اس سے کام لے تو اپنے قلب کو مصفیٰ و مجلیٰ کر سکتا ہے۔ اگر سچ پوچھو تو تمام اسلامی عبادات و ریاضات کا مقصود مفاد یہی ہے کہ انسان تزکیہ نفس و تصفیہ قلب حاصل کرے۔

چنانچہ جو نہی انسان اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو اور اس کی قساوت و سیاہی دور کرنا چاہے اور شب و روز نماز و دعا اور استغفار و زاری میں مشغول رہے تو خدائے قدوس اس پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرماتے ہیں اور تجلیات الہی اپنے فضل کے پانی سے قلب کی سختی، ناپاکی اور سیاہی کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان ایک نئی روحانی زندگی حاصل کرتا ہے۔

انسان اس دنیا میں دو لشکروں کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے ایک رحمن کا لشکر ہے اور دوسرا شیطان کا۔ اگر وہ حصول سعادت کی طرف جھکے اور لشکر رحمن سے دوا کا طالب ہو تو اس کو مدد دی جاتی ہے اور نفس و شیطان کی دشمنیوں اور زبردست حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور اگر وہ نیکی اور حصول تقویٰ کا طالب نہ ہو، غفلت و معصیت سے نکلنے کی کوشش نہ کرے اور لشکر شیطان کی طرف رجوع کئے رہے تو گناہوں کے سیلاب میں بہتا چلا جاتا ہے۔

معصیت و سیاہ کاری کا زہر اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے اس کی روح مردہ اور قلب تاریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حالت سے محفوظ رکھے۔

معلوم ہوا کہ انسان کو ہلاک کرنے اور دین و دنیا میں ذلیل و رسوا کرنے والی چیز خدا کی نافرمانی اور گناہ ہے جو اس سے بچ گیا وہ اپنے مقصد حیات کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی گود میں پناہ لی اور جس نے گناہ گارانہ زندگی بسر کی اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی وہ برباد ہوا اور شیطان کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔

گناہ سے بچنے کے طریقے

گناہ سے انسان صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کی خود کوشش کرے۔ اگر وہ خود گناہ سے بچنا نہیں چاہتا تو ہزاروں برس کی نمازیں اور کروڑوں اوراد و وظائف بھی اس کو گناہ سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا ہے کہ

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۱۰۱﴾ (انجم)

”انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ سعی و کوشش کرے۔“

صرف تمناؤں اور دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا۔ دعاؤں کے ساتھ کوششوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر وہ خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور پھر اوراد و وظائف سے بھی کام لے تو بیشک وہ حصول تقویٰ و پرہیزگاری میں یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ پس اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اول خود بچنے کی کوشش کرو اور پھر خدا سے مدد مانگو۔ تزکیہ نفس کا یہی طریقہ ہے۔ جو لوگ شب و روز اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں لیکن خود گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے لوازمات زندگی و حقوق العباد کو بھی تلف کرتے ہیں ان کے تمام اوراد و وظائف فضول و بیکار ہیں۔ وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع اور خدا داد و ماغی استعداد کو تباہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حالت ایسے پھوڑے سے مشابہ ہے جو اندر سے تو پیپ سے بھرا ہوا ہے اور باہر سے شیشے کی طرح چمکتا ہے۔ یعنی وہ زبان سے تو اوراد و وظائف کرتے ہیں گویا شیشہ کی طرح نظر آتے ہیں اور باطن میں گناہ و بدکاری کی پیپ بھری ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت: 69)

”یعنی جو کوئی ہماری راہ میں چلنے کی کوشش کرے ہم اپنا راستہ دکھلا دیتے ہیں“۔

صاحبو! ہماری عقل پر کیسے پتھر پڑے ہیں کہ دنیا کے ذرا ذرا سے کاموں میں تو بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں مگر مغفرت و ہدایت کے لئے چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت ہی کے محض زبان ہلانے سے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی خیال خام کے جواب میں فرماتا ہے کہ ہم تو اپنی راہ سے دکھایا کرتے ہیں جو اس میں کوشش کرے۔ پس بغیر سعی و کوشش کے صرف وظائف اور دعائیں کسی کام کی نہیں۔

پھر ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو کہ انسان دنیا میں محض اس لئے نہیں آیا کہ لمبی تسبیح لے کر ہر وقت اللہ اللہ اور سبحان اللہ کرتا رہے اور دیگر حقوق اللہ، حقوق العباد اور لوازمات زندگی کا خیال نہ رکھے۔ اپنے اوقات گرامی کو تباہ کرے اور اوروں کو تباہ کرنے میں کوشاں رہے۔ اللہ بچائے اس دینداری اور زبانی اللہ اللہ سے وہ تو دنیا میں اس لئے آیا ہے کہ حقوق العباد، حقوق اللہ اور تمام لوازمات زندگی کا پورا پورا فکر و اہتمام کرے اور فارغ اوقات میں اوراد و وظائف کے ذریعہ تزکیہ نفس کی کوشش کرے۔ حقیقی پرہیزگاری اور دینداری یہ ہے کہ انسان مرضیات الہی پر چل کر اپنے مقصد حیات کو پورا کرے۔

بہترین وظیفہ کیا ہے؟

جو اوراد و وظائف خلاف شریعت، مسنون دعاؤں اور وظیفوں کے علاوہ لوگوں نے بنا لیے ہیں مثلاً واہیات اور فضول دم کشی وغیرہ ہم ایسے منتر جنتر کے قائل نہیں۔ ان ڈھکوسلہ بازیوں نے مسلمانوں کو شیطان کی غلامی میں دے دیا ہے۔ ہم تو صرف ان دعاؤں اور وظیفوں کے قائل ہیں جو خدا اور خدا کے رسول نے قرآن و حدیث میں بتلائے ہیں اور ہر مسلمان کو بھی انہیں کا قائل اور عامل ہونا چاہئے۔

بہترین وظیفہ خدا کی دل اور زبان سے یاد ہے اور دعا خواہ کسی زبان میں کرو مگر سچے اضطراب اور سچی تڑپ سے جناب الہی میں گداز ہو کر کرو اور اس طرح کہ وہ قادر و قیوم خدا دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس طرح کی یاد اور دعا کرے تو وہ کبھی بھی گناہ پر دلیری نہیں کر



سکتا۔ جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے اس سے زیادہ گناہ سے ڈرنا چاہئے۔ گنہگارانہ زندگی انسان کے لئے دنیا میں مجسم دوزخ ہے جس پر غضب الہی کی بادِ سموم چلتی ہے اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔

گناہ سے بچنے کی خود بھی کوشش کرو اور پھر نمازیں پڑھ کر اور رورو کر خدا سے دعائیں مانگو پھر دیکھو کہ کیونکر تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے اور زندگی کیونکر خالص کندن بنتی ہے۔ پہلے نماز اور دعا کا وظیفہ پورا کرو پھر اوراد و وظائف کی طرف توجہ کرنا جب کہ سلوک کے مقامات طے کرنے ہوں۔

یاد رکھو نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں کیونکہ اس میں بہترین حمد الہی ہے۔ دعا استغفار ہے اور رورو شریف ہے اور یہ سب خدا کی فرمودہ چیزیں ہیں۔ نماز تمام اوراد و وظائف کا مجموعہ ہے۔ اس سے گناہ کا زہر دور ہوتا ہے۔ نفس و شیطان پر موت طاری ہوتی ہے۔ ہر ایک قسم کے رنج و غم دور ہوتے ہیں اور دونوں جہان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بتلائیے اس سے بہتر وظیفہ اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے دوسرے وظیفہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔

دیکھئے انسان کی سب سے بڑی حاجت اور کوشش یہ ہے کہ اسے غم و فکر سے نجات مل جائے اور اس کی دونوں جہان کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ جب یہی دو باتیں اسے نماز کے ذریعہ حاصل ہو جائیں تو پھر اور کیا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ کو اگر ذرا بھی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح تمام صحابہ، تابعین، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین کا یہی طریق رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعہ مدد چاہو۔ سو دنیا میں ایک سچے مسلمان کی مددگار یہی دو چیزیں ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿۲۸﴾ (الرعد: 28)

”اطمینان قلب صرف ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔“

اور اطمینان قلب کے لئے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ خلاف قرآن و حدیث و وظائف نے دنیا کو ایسا گمراہ کیا ہے کہ مسلمان خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام ہی کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور نظام شریعت میں ہر طرف سے فتور آ رہا ہے۔ پس مسلمانو! اگر دین و دنیا میں فلاح و

کامیابی چاہتے ہو تو نماز ہی کو سمجھ کر، دل لگا کر اور سنوار سنوار کر پڑھو۔ اس کے بعد مسنون دعائیں کیا کرو۔ بہترین وظیفہ یہی ہے۔ اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات انشاء اللہ حل ہو جائیں گی۔

اطمینان قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟

انسان کے لئے اصل چیز کیا ہے؟ اطمینان قلب کا حصول، قلب مطمئن ہفت اقلیم کی بادشاہی سے بھی زیادہ دقیع ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر اس کے واسطے صبر اور محنت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان گھبراتا اور تھک جاتا ہے تو پھر اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو ایک کسان کس قدر محنت اور صبر کرتا ہے۔ نہایت حوصلہ افزا صبر کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے کہ کب فصل پکے اور میں اپنی کوٹھیاں بھروں۔ آخر وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی محنت اور صبر کا پھل پاتا اور پکی ہوئی فصل کو اپنے گھر لاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کر کے نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے اور صبر و استقامت کا نمونہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر مہربانی کرتا اسے ذوق و شوق اور معرفت عطا کرتا ہے اور اطمینان قلب کی لازوال دولت سے مالا مال کرتا ہے۔

یہ لوگوں کی بڑی غفلت ہے، نادانی اور عہدی پن ہے کہ وہ سعی و کوشش کرتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ذوق، معرفت اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجِ ثریا پہ مقیم

پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلبِ سلیم

ذرا غور کرو کہ جب دنیوی امور کے لئے محنت اور صبر کی ضرورت ہے تو خدا تعالیٰ کو کیسے صرف تمناؤں سے پایا جاسکتا ہے۔ لوگ بھی عجیب ذہنیت کے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو چست و چالاک اور سرگرم سعی مگر دین کے کاموں میں سست و کاہل اور عہدی انہیں تو کوئی آسان سا عمل اور چٹکلہ بتلا کر جنت میں ستر ستر حوریں دلا دے اس سے زیادہ کچھ نہ کہے۔ اگر کوئی اصلاح حال کی طرف توجہ دلائے اور احکام الہیہ کی تعمیل کو کہے تو انتہائی بے پروائی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے وہ آپ سب کام بنا دے گا۔

واہ رے عہد یو! کیا کہنا ہے تمہاری دینداری اور مسلمانی کا۔ یاد رکھو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے وہ خیال خام میں مبتلا ہیں اور یہ غفلت و تساہل کی بنا ان کو شیطان نے پڑھائی ہے۔

قوے بہ جدوجہد گرفتند وصل دوست

قوے و گر حوالہ بہ تقدیر می کند

ترکیہ نفس کے متعلق قرآن و حدیث سے جتنی ضروری باتیں اور ہدایتیں تھیں ہم نے ان کو اپنے فہم ناقص اور نامکمل معلومات کے مطابق لکھ دیا ہے۔ طالب صادق کے لئے اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ اب ہم اس عقلی اور تقریری سلسلہ کو ختم کر کے اپنے اصل مطلب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

### حنفی مذہب کے مطابق عورتوں کے نماز پڑھنے کا قاعدہ

عورتوں کی نماز کی ترکیب بھی وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کی۔ اس کے علاوہ عورتوں کی نماز مرد کی نماز سے ۲۱ باتوں میں مختلف ہے۔ وہ باتیں یہ ہیں:

۱۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت صرف شانوں تک ہاتھ اٹھائے۔

۲۔ استینوں یا دوپٹے کے اندر سے ہاتھ باہر نہ نکالے۔

۳۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے۔ بائیں ہاتھ کی کلائی پر نہ رکھے۔

۴۔ سینہ پر ہاتھ رکھے۔

۵۔ مرد کی نسبت رکوع میں کم جھکے۔

۶۔ رکوع میں انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے۔

۷۔ رکوع میں ہاتھوں پر سہارا نہ دے۔

۸۔ رکوع میں گھٹنوں کو جھکالے۔

۹۔ رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ لے زور سے نہ پکڑے۔

۱۰۔ رکوع میں سمٹی رہے۔

۱۱۔ سجدہ میں بغلیں نہ کھولے بلکہ سمیٹے رہے۔

- ۱۲۔ سجدہ میں دونوں ہاتھ کہنیوں تک زمین پر بچھا دے۔
- ۱۳۔ قعدہ میں دونوں پاؤں کو باہر نکال کر سرین پر بیٹھے کوئی پاؤں کھڑا نہ رکھے۔
- ۱۴۔ قعدہ اور جلسہ میں ہاتھوں کی انگلیاں ملائے رکھے۔
- ۱۵۔ عورت کی نماز کے سامنے سے اگر کوئی گزرے تو یہ ہاتھ پر ہاتھ مارے زبان سے کچھ نہ کہے اور مرد زبان سے سبحان اللہ کہے۔
- ۱۶۔ عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی۔ البتہ مرد عورت کی امامت کر سکتا ہے۔
- ۱۷۔ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اور مردوں کی جماعت واجب۔
- ۱۸۔ اگر عورتیں مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود پھر جماعت کرنا چاہیں تو عورت امام بیچ میں کھڑی ہو مردوں کی طرح آگے نہ کھڑی ہو۔
- ۱۹۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں اور مردوں پر یہ نمازیں واجب ہیں۔
- ۲۰۔ عورتوں پر ایام تشریق میں تکبیریں واجب نہیں اور مردوں پر واجب ہیں۔
- ۲۱۔ عورتوں کے لئے فجر کی نماز اندھیرے میں مستحب ہے اور مردوں کے لئے اجالا ہونے کے بعد۔

## احکامات کا بیان

### کتاب الطہارت

#### اسلام اور طہارت

اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو بہت بڑی عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جس طرح توحید مذہبی اعتقادات کا اصل اصول ہے اسی طرح عبادات میں طہارت اصل اصول ہے۔ طہارت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ رسول کریم ﷺ کو خدا کی طرف سے ابتدائی وحی میں یہ صدا آئی تھی۔

”یعنی اپنے لباس کو پاک رکھو اور ہر قسم کی نجاست سے الگ رہو“۔

(المدثر: 4-5)

اسلام دنیا میں انسان کی نجات کے لئے آیا اور بباگ و بل اعلان کیا کہ میرا اولین مقصد دنیا سے اخلاقی و روحانی خجالتیں اور کثافتیں دور کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن کا اعلان ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ  
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعة: 2)

”اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہیں میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے“۔  
دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرہ)

”تحقیق اللہ تائب اور طاہر لوگوں سے محبت کرتا ہے“۔

تو ابین کے معنی ہیں بہت توبہ کرنے والے اور متطہرین کے معنی ہیں پاک و صاف رہنے والے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے جسم و روح دونوں کو ہر قسم کی غلاظت و ناپاکی اور عیب و

نقص سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اس آیت میں جو متطہر کا لفظ آیا ہے وہ ہر قسم کی ظاہری اور باطنی صفائی پر حاوی ہے جس سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی غلاظت اور عیب سے پاک و صاف رکھیں۔

پھر تیسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے۔

وَيُجَلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ (الاعراف: 157)

”یعنی وہ ان کے واسطے تمام پاک اشیاء ہر طرح سے صاف و ستھری اور پسندیدہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ان پر تمام ناپاک اشیاء حرام کرتا ہے۔“

اس آیت میں طیبات سے مراد وہ تمام افعال اور اشیاء ہیں جو بذات خود پاکیزہ اور خوشگوار معلوم ہوتی ہوں اور اپنے نتائج بھی مفید اور صحت بخش رکھتی ہوں اور خبائث سے مراد وہ تمام افعال و اشیاء ہیں جو بذات خود نفرت انگیز اور ناپسندیدہ ہوں اور ان کے نتائج بھی نقصان دہ اور قبیح ہوں۔ پس اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طیبات کو اختیار کرو اور خبائث سے بچو۔ اللہ اللہ کیا قرآنی فصاحت و بلاغت ہے۔

اسلام نے صرف یہیں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مکانات، محلہ، شہر اور گردونواح کو پاک و صاف رکھنا قرآن مجید کی روح سے اعلیٰ درجہ کی نعمتوں میں سے ایک خدا کی نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَّرَ بِكُمْ (الانفال: 11)

”یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تا کہ تمہاری بستیوں کو پاک و صاف کر دے۔“

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو تمام درختوں اور مکانات کی بیرونی سطح کو کس طرح صاف کر دیتی ہے۔ زور کی بوچھاڑ تمام جھے ہوئے گرد و غبار اور میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے، پانی زور اور افراط کے ساتھ بہتا ہوا گلیوں اور نالیوں کی تمام گندگی و غلاظت کو بہا لے جاتا ہے۔ غرض شہروں کی تمام غلاظت بارش کے پانی سے دھوئی جاتی ہیں۔ نیز اس کی

اور بھی بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن کی تفصیل کے یہ اوراق متحمل نہیں ہو سکتے۔  
اسی طرح ہواؤں کی گردش بھی ہمارے لئے صفائی کا موجب ہے جس کا ذکر قرآن  
کریم میں موجود ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (الاعراف: 31)

”یعنی کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو اور فضولیات میں نہ پڑو“۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حظ نفس اور زندگی باقی رکھنے کے لئے ضروری ہے وہ کھاؤ  
مگر ایسی چیزیں نہ کھاؤ جن کا اثر نتیجہ مضر ہو۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ان تفصیلات سے ثابت  
ہوا کہ اسلام اور طہارت دو مترادف الفاظ ہیں۔ جسم، پارچہ جات، ظروف اور مکانات  
وغیرہ کی صفائی اور پاکیزگی کی نسبت تمام اقوام مذاہب میں طرح طرح کے احکامات و  
رسومات پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ طبعاً ہر ایک سلیم الفطرت انسان صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا  
اور غلیظ و بدبودار اشیاء سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اسلام کی طہارت کامل کا مقابلہ دنیا کا کوئی  
مذہب نہیں کر سکتا۔ اس نے صفائی و پاکیزگی کو انتہائی نقطہ پر پہنچا دیا ہے۔ اس نے طہارت  
جسمانی و روحانی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا جس کی نوع انسان کو  
ضرورت تھی۔ یہ ایک علیحدہ امر ہے کہ مسلمان طہارت کے اصلی معنی نہ سمجھ سکیں اور محض رسمی  
طور پر اس کو کرتے رہیں۔

طہارت کے معنی اور اقسام

طہارت کے معنی پاکی، پاکیزگی اور صفائی ہیں۔ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی  
صفائی شامل ہے۔ اسلام جہاں دل کی صفائی پر زور دیتا ہے وہاں لباس اور جسم کی صفائی بھی  
لازمی طور پر چاہتا ہے۔ اس نے جسم و لباس کی صفائی کو داخل عبادت رکھا ہے اور دل کی  
صفائی کے لئے جو باتیں ضروری تھیں ان کو تو اس نے اپنی عبادت میں خاص طور پر ملحوظ رکھا  
ہے۔ اسلام دین فطرت ہے وہ اس راز فطرت کو جانتا ہے کہ دل کی پاکیزگی جسم کی صفائی  
کے بغیر ممکن نہیں۔ اب دیکھئے اسلام نے ظاہری و باطنی صفائی و پاکیزگی کے کیسے کیسے

اہتمام کئے ہیں۔

واضح ہو کہ اسلام نے عبادت کے ساتھ طہارت کو لازم کیا ہے اور اس کی بہترین عبادت پنج وقتہ نماز ہے جس میں طہارت روحانی و جسمانی کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ نماز سے پہلے وضو فرض ہے۔ وضو صرف ظاہری شست و شو کا نام نہیں بلکہ اس میں طہارت باطنی بھی شامل ہے۔ وضو میں چہرہ ہاتھ اور پاؤں کو دھویا جاتا ہے جسم کے یہی حصے ہیں جن پر زیادہ سے زیادہ گرد و غبار پڑتا اور میل کچیل جمتا ہے۔ ہر وقت برہنگی کی وجہ سے ان پر طرح طرح کی غلاظت و گندگی لگنے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ان کا دھویا جانا شریعت نے فرض کیا ہے۔

خراب اور متعفن ہوائیں چونکہ ناک، منہ اور آنکھ کے اندر وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی ہیں اس لئے ہر وضو کے ساتھ ناک کو اندر سے دھونا اور غرغره کرنا سنت ہے۔ جو خراب ذرات یا بیماریوں کے ذرات ناک میں داخل ہوتے ہیں ان کی صفائی کے لئے ہر وضو کے ساتھ ناک کو اندر سے دھونا حفظ صحت کا نہایت اچھا انتظام ہے۔

منہ کے اندر جو کثافت و غلاظت جمع ہو اس کے لئے کلی اور مسواک تجویز کئے گئے ہیں۔ آج ڈاکٹری تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام بیماریاں دانتوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن ہمارے حضور آقائے نامدار ﷺ نے آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ہی اس ضروری اور لازمی صفائی کا انتظام کلی اور مسواک تجویز کر دیا تھا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں جو نماز مسواک کرنے کے بعد پڑھی جائے اس سے بدرجہا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

کان کے اندر بھی اکثر میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے اس لئے وضو میں انگلی سے اسے بھی صاف کرنا مستحب ہے۔

چونکہ وضو میں چہرہ اور ہاتھ پاؤں وغیرہ دھوئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان حصوں کو ٹھنڈک پہنچا کر سر کی طرف خون کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے اس کا مسح کرنا بھی ضروری رکھا گیا ہے تاکہ سر کو بھی ساتھ یہ ہلکی ٹھنڈک پہنچا کر خون کی میزان برابر ہو جائے۔

وضو کے علاوہ جسم اور لباس کو پاک و صاف رکھنا بھی لوازمات نماز میں سے ہے اور جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔ مساجد میں جہاں نمازیوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کی پاکی و صفائی کا



بھی شریعت نے اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ اس کے اندر تھوکنہ اور ناک صاف کرنا منع ہے۔ کسی بدبودار چیز کا کھا کر آنا بھی منع ہے بلکہ گاہے بگاہے اس میں خوشبودار چیزیں جلائی جاتی ہیں۔ عام اور بڑے بڑے مجموعوں میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور عطر لگانا سنت ہے اور طرح طرح کی خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں۔ یہ انتظام و التزام شریعت نے اس لئے کیا ہے کہ غلیظ اور مضر ہواؤں کی صفائی ہو اور لوگوں کو ان کے مضر نقصانات پہنچنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اسلام نے حفظ صحت اور صفائی کا یہاں تک خیال رکھا ہے کہ جمعہ میں چونکہ شہر کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ہجوم زیادہ ہوتا ہے، کاربالک ایسڈ گیس جو ایک زہریلی ہوا ہے بکثرت جمع ہو کر تمام ہوا کو ناقص و مضر بنا دیتی ہے اس نماز کے فرض نصف کردئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ ”جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو“ یعنی گھٹے ہوئے ایک ہی جگہ نہ بیٹھے رہو۔ عیدین کی نمازوں میں چونکہ تمام گرد و نواح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور مجمع کثیر ہوتا ہے اس لئے اس کی نسبت یہ حکم ہے کہ شہر سے باہر ادا کی جائے اور حج میں چونکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع و اثر دہام ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے مکہ سے نو کوس کے فاصلہ پر ایک ریٹلا میدان تجویز کیا گیا۔

الغرض اسلام نے نماز میں جس قدر ظاہری پاکیزگی و صفائی اور تدابیر حفظ صحت کا اہتمام کیا ہے اس کو کہاں تک بیان کیا جائے اور یہ سارا انتظام اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو باطنی طہارت و پاکیزگی حاصل ہو۔ ہر سلیم العقل انسان جانتا ہے کہ ظاہری صفائی کا دماغ، روح، عقل اور اخلاق پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ مشاہدہ و تجربہ بتلاتا ہے کہ جو انسان اپنے جسم و لباس کو پاک و صاف رکھتا ہے اور جو نفاست پسند ہوتا ہے اس کے خیالات بھی عموماً نیک اور اچھے ہوتے ہیں اور جو شخص گندہ رہتا ہے اس کے خیالات بھی عموماً گندے ہوتے ہیں۔ چنانچہ سائنس کی جدید تحقیق نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ دل و دماغ کی حالت صحت جسمانی کی کیفیت پر موقوف ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ صحت و تندرستی میں دماغ کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں اور دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور جب طبیعت اچھی نہیں ہوتی تو مزاج چڑچڑا، دماغ پر اگندہ، خیالات پریشان اور دل مشوش ہوتا ہے۔

اللہ اللہ! اسلام کی نگاہ کتنی حقیقت و فطرت شناس ہے اور مستقیم ہے کہ جس نتیجہ پر آج دنیا کے سائنس داں پہنچے ہیں اس کو اسلام کی نگاہ اولین نے دیکھ لیا تھا اور پہلی وحی میں ہی انسان کو یہ نکتہ سمجھا دیا گیا تھا کہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن بغیر جسمانی و ظاہری صفائی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے نماز میں جن جن چیزوں کو پاکیزگی و صفائی اور حفظ صحت کی تدابیر رکھ دیں اور عملاً ثابت کر دیا کہ دنیا کا آخری نجات دہندہ اور پاک و مطہر مذہب صرف اسلام ہے۔

### ایک سوال

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ طہارت کامل کی ایسی پر حکمت تعلیم ایک امی انسان کی زبان سے کیسے جاری ہوئی جو ایک ریگستان کی سخت جاہل، وحشی اور اکھڑ قوم میں پیدا ہوا اور جس کے زمانہ میں علم و عقل کی روشنی تھی اور نہ کوئی یونیورسٹی و کالج۔ بلکہ ساری دنیا جہالت و حماقت کے سخت اندھیرے اور داہیات رسومات کی ظلمات میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی امی دنیا کے لئے نور ہدایت بن کر آیا جس نے آتے ہی تاریک دنیا کو روشن کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۵﴾ (المائدہ)

”خدا کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آئی۔“

رحمت کی گھٹائیں پھیل گئیں افلاک کے گنبد گنبد پر

وحدت کی تجلی کوندگئی آفاق کے سینہ زاروں میں

اس نور نے ظلمات کے تمام پردوں کو چاک کر کے دنیا والوں کو مشاہدہ جمال حقیقی کر دیا اور تمام تاریکیاں اس خورشید وحدت کے قدموں پر آرہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تعلیم اور انتظام محض وحی الہی کا نتیجہ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو کشفی حالت میں تمام اشیاء کی حقیقت کھول دی جاتی ہے۔

اب ہم اسلامی طہارت و پاکیزگی کی بقیہ صورتیں اور انتظامات بتلاتے ہیں تاکہ ناظرین پر اسلامی طہارت کی عظمت و شان اچھی طرح واضح ہو جائے۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے جسم اور کپڑوں کو پاک و صاف رکھنا ہمیشہ کے لئے ضروری

ہے۔ اس کے علاوہ بعض حالتوں میں اسلام نے غسل کو بھی فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ جماع یا احتلام کے بعد تمام جسم کو دھونا فرض ہے جو بڑی بڑی اخلاقی و طبی مصلحتوں پر حاوی ہے۔ غسل میں صحت و حکمت یہ ہے کہ ہر انزال کے ساتھ اجتماع خون ہو تمام اعضاء و قویٰ کا خلاصہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جس سے تمام عضلات و اعصاب کو خفیف سا ضعف پہنچتا ہے۔ غسل کرنے سے خون منتشر ہو کر تمام جسم میں پھر برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور ضعف رفع ہو کر پوری تازگی و بشاشت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہفتہ میں کم از کم ایک بار جمعہ کے دن نہانا صاف اور پاکیزہ لباس پہننا اور عطر وغیرہ لگانا سنت ہے۔

لباس کی صفائی پر بھی اسلام نے زور دیا ہے وہ کہتا ہے خواہ تمہارا لباس پر تکلف اور بیش قیمت ہونہ ہو مگر اس کو پاک و صاف ضرور رکھو۔ اگر کھدر کے کپڑے بھی ہوں تو کم از کم آٹھویں دن ایک بار دھولیا کرو پھر پیشاب اور پاخانہ کے بعد استنجا کرنے کا حکم ہے جس میں اچھی طرح صفائی حاصل ہوتی ہے اور گندگی و غلاظت کا اثر تک نہیں رہتا۔

اسلام نے ختنہ کرانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں میل کچیل جمع ہوتا رہتا ہے اور طرح طرح کے امراض کا باعث ہوتا ہے۔ سر کے بالوں کی نسبت یہ حکم ہے کہ تمام بال موٹے اور تمام بال چھوڑ دو۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ سر کی تمام سطح یکساں رہنے سے تمام دماغ کو یکساں حرارت یا سردی پہنچے۔

پاخانوں کی نسبت حکم یہ ہے کہ مکانوں میں نہ ہو بلکہ اوپر یعنی چھت پر ہوں تاکہ متعفن ہوائیں جلد ادھر ادھر پھیل جائیں۔ ایام حیض و نفاس میں جماع کی قطعی ممانعت ہے۔ زیر ناف اور بغلوں کے بال صفا کرانے کا تاکید حکم ہے ان تمام احکامات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس قدر صفائی و پاکیزگی چاہتا ہے۔

تمام بحث کا خلاصہ

یہاں تک ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جسم، لباس، مکان، ماحول، دل و دماغ اور روح کو ہر طرح پاک و صاف رکھو اور ہر قسم کی نجاست سے الگ رہو۔ طہارت کا مفہوم ہے کہ پاکیزگی اور صاف رہنا اور چونکہ یہ پاکیزگی و صفائی جسم اور روح دونوں کی

ہوتی ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے طہارت جسمانی و روحانی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح بدن، لباس اور مکان کو گندگی و غلاظت سے پاک رکھنا اسلامی فرض ہے اسی طرح ہر قسم کے کفریہ و شرکیہ اور بیہودہ عقائد، لغو و بیکار رسومات، بد خیالات اور اخلاق ذمیرہ سے اپنے دل و دماغ اور روح کو بچانا طہارت باطنی بھی فرض اتم ہے۔ اگر جسمانی طہارت میں کوئی نقص رہ جائے تو یہ چیز ناقابل گرفت اور موجب تباہی ہے۔ پس مسلمان کے لئے سب سے زیادہ فکرو اہتمام کرنے کے قابل دل و دماغ اور روح کی صفائی ہے اس کے بغیر صفائی فضول ہے۔

اسلام کا مقصد طہارت یہ ہے کہ اپنے جسم و لباس کو پاک رکھو۔ پھر اخلاق رذیلہ کی کثافت دور کر کے اخلاق، اعمال، فضائل حمیدہ اور عبادت و ریاضت سے اپنی روحوں پر جلا کرو اور پھر اس تسلیم و رضا، صبر و استقامت اور محبت الہی کے زیور سے آراستہ کر کے جناب الہی میں پہنچاؤ۔ عبودیت، تضرع، انکسار، یاد الہی اور دعا میں ہمیشہ مشغول رہو۔ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھو، جذبات و شہوات پر قابو حاصل کرو اور اس طرح خدا کے بن کر کائنات ارضی و سماوی پر حکومت کرو۔

اے چودھویں صدی کے سادہ لوح اور کور بصیرت مسلمان! ایسی صفائی اور پاکیزگی حاصل کر پھر دیکھ تجھ پر کیونکر خدا اپنی رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھولتا ہے۔

## باب الانجاس

### احکام شرعیہ کی اقسام

جاننا چاہئے کہ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں ایک امر دوسرے نہی۔ یعنی شرع کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ احکام جو کسی چیز کے کرنے کے متعلق ہوں ایسے احکام کو اوامر کہتے ہیں یہ جمع ہے امر کی۔ امر وہ حکم شرعی ہے جس سے کسی فعل کی طلب ثابت ہو۔ دوسرے وہ احکام جو کسی چیز کے ترک کرنے کے متعلق ہوں ایسے احکام کو نواہی کہتے ہیں۔ یہ جمع ہے نہی کی اور نہی وہ حکم شرعی ہے جس سے کسی فعل کی ممانعت ثابت ہو۔

### اوامر کی قسمیں اور ان کی تعریف

اوامر کی تین قسمیں ہیں۔ فرض، واجب، سنت۔ پھر ان میں سے واجب اور سنت کی دو قسمیں ہیں۔ واجب عین اور واجب علی الکفایہ، یہ دو قسمیں واجب کی ہیں۔ سنت کی دو قسمیں یہ ہیں۔ موکدہ اور غیر موکدہ، ان سب کی علیحدہ علیحدہ تعریف ہے۔

۱۔ فرض وہ ہے جو قرآن کریم یا حدیث متواتر سے قطعی طور پر ثابت ہو یعنی جس امر کا حکم قرآن یا حدیث متواتر نے قطعی طور پر دیا ہو وہ فرض ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جو شخص فرض ادا کرے وہ ثواب پائے اور اپنا فرض منصبی ادا کرے اور اگر غفلت و سستی کی وجہ سے نہ ادا کرے تو خدا کا سخت نافرمان اور عذاب کا مستحق ہے اور اگر کوئی اس کی فرضیت ہی کا انکار کر دے مثلاً یوں کہہ دے کہ میں بیچوقتہ نماز کو فرض نہیں مانتا یا زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا تو وہ کافر ہے بشرطیکہ اس کی فرضیت بہ نص قرآن یا حدیث متواتر اور یا اجماع امت سے ثابت ہو اور اس کی فرضیت کے جملہ مجتہدین قائل ہوں ورنہ اگر بعض مجتہدین اس کی فرضیت کے قائل ہوں اور بعض منکر تو ایسے فرض کا منکر کافر نہیں بلکہ فاسق ہے۔

فرض کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ فرض عین

۲۔ فرض کفایہ

فرض عین وہ ہے جو ذاتی طور پر سب کو اپنی جگہ ادا کرنا پڑے۔ مثلاً پنجوقتہ نماز اور فرض کفایہ وہ ہے کہ ایک یا زیادہ کے کرنے سے سب کے ذمہ سے ساقط ہو جائے مثلاً نماز جنازہ ہے فرض عین فرض کفایہ سے افضل ہوتا ہے۔

۲۔ واجب وہ ہے جس کا ثبوت وجوباً دلیل ظنی یعنی حدیث غیر متواتر وغیرہ سے ہو اس کا منکر فاسق و گمراہ ہے۔ جاننا چاہئے کہ دلائل شرعیہ سمعیہ چار ہیں۔

ا۔ قطعی الثبوت والدلالة یعنی وہ دلائل جو اپنے ثبوت اور دلالت میں قطعی ہوں جیسے نصوص قرآن، آیات محکمہ اور سنت متواتر کہ ان کا مفہوم قطعی ہے۔

ب۔ قطعی الثبوت ظنی الدلالة یعنی ثبوت میں قطعی اور دلالت میں ظنی جیسے آیات مؤولہ۔

ج۔ اس کے برعکس جیسے خبر احاد۔ جن کا مفہوم قطعی نہ ہو اس کا ثبوت ظنی ہوتا ہے اور دلالت قطعی۔

د۔ ثبوت اور دلالت دونوں ظنی ہوں جیسے وہ اخبار احاد جن کا مفہوم ظنی ہو اور ثبوت بھی۔ واضح ہو کہ یہاں دلالت سے مراد مفہوم ہے۔

پس اب جاننا چاہئے کہ پہلے قسم کے دلائل سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے اسی طرح دوسرے قسم کے دلائل سے بھی فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے مگر وہ ثبوت میں اتنا قوی نہیں ہوتا جتنا قسم اول میں ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے دلائل سے وجوب اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے اور چوتھے قسم کے دلائل سے سنت و مستحب۔ (35)

۳۔ سنت وہ ہے جو رسول خدا ﷺ سے قولاً وفعلاً ثابت ہو۔ اگر حضور ﷺ نے ہمیشہ کیا ہو کبھی ترک نہ کیا ہو اور وہ حضور کے مخصوصات سے بھی نہ ہو ایسی سنت کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا منکر اور تارک بدعتی و گنہگار ہے بشرطیکہ اس کا ثبوت خبر واحد

سے ہوتا ہو۔ خبر واحد اس کو کہتے ہیں جس حدیث کا راوی صرف ایک ہو اگر سنت خبر مشہور سے ثابت ہو تو اس کا منکر فاسق ہے۔ خبر مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی دو سے زیادہ ہوں اور اگر اس کا ثبوت خبر متواتر سے ہوتا ہو تو اس کا منکر کافر ہے۔ سنت کے قبول اور اعتقاد کے بعد اگر کوئی اس کا تارک ہو آخرت میں اس کی سرزنش ہوگی اور کرنے والا ثواب پائے گا۔ دوسری قسم سنت کی غیر موکدہ ہے اسی کو مستحب بھی کہتے ہیں۔ سنت غیر موکدہ و مستحب وہ ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو۔ مستحب کا منکر کافر ہے نہ فاسق و گنہگار اور کرنے والا ثواب کا مستحق اور فضیلت حاصل کرنے والا ہے۔

### منہیات کی تعریف اور قسمیں

منہیات یعنی جن امور سے خدا اور خدا کے رسول نے روکا ہے ان کی تین قسمیں ہیں۔ حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی دلیل سے وجوباً ثابت ہو۔ حرام کو ترک کرنے والا ثواب پائے گا کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا اور اس کی حرمت کا منکر کافر ہے۔

مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے وجوباً ثابت ہو۔ مکروہ تحریمی کا نہ کرنے والا ثواب پائے گا اور کرنے والا مستحق عتاب ہے۔

مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کی ممانعت شفقاً یا ادباً ہو اس کا ترک کرنے والا فضیلت حاصل کرنے والا ہوگا اور کرنے پر نہ عذاب اور نہ عتاب اور مباح کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔


فائدہ:- مکروہ تحریمی بھی حرام کے نزدیک ہوتا ہے اور مکروہ تنزیہی بھی حلال کی طرف مائل ہوتا ہے لہذا مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی میں صرف اعتقادی فرق ہے یعنی حرام کو جائز سمجھنے والا کافر ہے اور باقی عمل میں دونوں برابر ہیں۔

فرض اور حرام کی دو قسمیں ہیں ایک اعتقادی دوسرے عملی۔ اعتقادی وہ ہے جس پر عمل کے ساتھ اعتقاد بھی فرض ہو اس اعتقاد کا منکر کافر ہے اور عملی وہ ہے جس کا صرف عمل ہی فرض ہو۔ اس کے فوت ہو جانے سے عمل کی صحت فوت ہو جائے۔

## نجاستوں کا بیان

انسان کی بناوٹ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے ایک تو نجاستیں وہ ہیں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں اور ایک وہ ہیں جو باہر سے اس کو نجس و ملوث کرتی ہیں اس اعتبار سے نجاست کی دو اصولی قسمیں ہوتیں۔ داخلی اور خارجی۔ پھر ان کی بھی دو اقسام ہیں بعض نجاستیں حقیقی ہیں اور بعض غیر حقیقی۔ جو غیر حقیقی ہیں ان کو شارع علیہ السلام نے اپنے حکم سے داخل نجاست کیا ہے اس لئے اس قسم کی نجاستوں کو حکمی نجاست کہتے ہیں۔ ذیل میں ہم نجاستوں کا ایک شجرہ دیتے ہیں جس سے نجاستوں کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

### شجرہ نجاست



طہارت اور ازالہ نجاست دو جدا جدا چیزیں ہیں

یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ ”طہارت“ اور ”ازالہ نجاست“ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ طہارت اور ازالہ نجاست ایک چیز کا نام نہیں۔ طہارت ازالہ نجاست سے بڑھی ہوئی ہے۔ نماز کے لئے صرف ازالہ نجاست کافی نہیں بلکہ طہارت بھی ضروری چیز ہے۔

عربی زبان میں نجاست کا مفہوم ادا کرنے کے لئے تین لفظ ہیں۔ ”نجث“ ”حدث“ ”نجث کا اطلاق نجاست حقیقی پر ہوتا ہے۔ حدث کا نجاست حکمی پر اور نجاست کا ان دونوں پر۔ تطہیری النجاستہ یعنی ازالہ نجاست کے مفہوم میں تین چیزیں داخل ہیں۔ بدن کپڑے اور مکان کی طہارت کا وجوب عبارة النص سے یعنی قرآن پاک سے صاف و صریح



الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَثِيَابِكُمْ فَكُفُّوهَا (المدثر) اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، بدن اور مکان کا پاک رکھنا بھی اسی آیت سے بطریق دلالت النص ثابت ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بدن اور مکان پاک و صاف ہوں۔ اس دلالت کی تفصیل یہ ہے کہ کپڑوں کی پاکی نماز کے لئے واجب ہے اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا۔ پس نمازی کو چاہیے کہ وہ حالت نماز میں احسن احوال میں ہو اور یہ احوال کی اچھائی اس وقت حاصل ہوگی جب کہ نمازی سے متعلق اور متصل تمام چیزیں پاک ہوں۔ نمازی سے متعلق و متصل تین ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ بدن، کپڑے اور مکان۔ اور مقصود آیہ کا انہی تینوں کی پاکیزگی حاصل کرنا ہے علاوہ ازیں قرآن پاک کی اور آیتوں سے بدن اور مکان کا صاف رکھنا عبارت النص سے ثابت ہے۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ نمازی کے کپڑوں، بدن اور نماز پڑھنے کی جگہ کو پاک کرنا یعنی ان تینوں کی پاکی واجب ہے۔

### نجاست حکمی و حقیقی

نجاست دو طرح کی ہوتی ہے ایک نجاست حکمی، دوسری نجاست حقیقی۔ نجاست حکمی وہ ہے جو نظر سے محسوس نہ ہو صرف شرعی حکم کی وجہ سے اس کو ناپاک کہا جاتا ہو۔ اس نجاست کا دور کرنا واجب ہے۔ کسی قسم کا کوئی عذر اس کے ازالہ سے روکنے کے لئے کافی نہیں۔ تندرست ہو یا بیمار، بوڑھا ہو یا جوان، طاقتور ہو یا کمزور، بہر حال اور بہر صورت ہر شخص پر اس کا دور کرنا واجب ہے۔ اس سے طہارت حاصل کرنا نماز کی شرط مقدم ہے جو کسی عذر سے بھی ساقط نہیں ہوتی۔ بخلاف دوسری شرط کے مثلاً استقبال قبلہ، بدن کا ڈھانکنا اور لباس و مکان کا پاک ہونا۔ یہ سب شروط عذر سے ساقط ہو جاتی ہیں مگر ازالہ نجاست حکمی ایسی کڑی شرط ہے جو کسی عذر سے بھی ساقط نہیں ہوتی ہاں اس میں شریعت نے اتنی آسانی ضرور کر دی ہے کہ اگر غسل و وضو سے ضرر کا اندیشہ ہو یا پانی نہ مل سکے تو تیمم کر لیا جائے۔

نجاست حکمی کی دو صورتیں ہیں۔ حدث اکبر اور حدث اصغر۔ جس کو نہانے کی حاجت ہو اس کی حالت کو حدث اکبر کہتے ہیں اور بے وضو ہونے کی حالت کا نام حدث اصغر ہے۔

یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں کہ اگرچہ بظاہر بدن پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہوتی لیکن شریعت نے ان دونوں حالتوں کو ناپاک قرار دیا ہے۔

نجاست حکمی خالص پانی سے دور ہوتی ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو مٹی سے بھی دور ہو جاتی ہے جیسے پانی نہ ملنے کی وجہ سے یہ طہارت مٹی یعنی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نجاست حکمی مطلق پانی سے دور ہو جاتی ہے نہ کہ مقید پانی سے۔ مطلق اور مقید پانی کی تعریف یہ ہے کہ مطلق یا خالص پانی اس کو کہتے ہیں جس میں یہ چار اوصاف ہوں۔

۱۔ سیال یعنی بہنے والا ہو۔

۲۔ اس میں پیاس بجھانے کی صلاحیت ہو۔

۳۔ سبزہ و نباتات میں روئیدگی پیدا کر سکتا ہو۔

۴۔ شفاف ہو یعنی اس میں کوئی رنگ ملا ہوا نہ ہو۔

خالص پانی کی مثالیں یہ ہیں جیسے دریا، نہر، ندی، چشمہ، کنویں، بارش، تالابوں اور جھیلوں کا پانی۔ ان سب پانیوں میں یہ چار اوصاف ہوتے ہیں۔ یہ پانی ناپاک بھی ہوتے ہیں جن کی پاکی و ناپاکی کا بیان آگے آئے گا۔

مقید پانی وہ ہے جو بغیر قید کے نہ بولا جائے یعنی لفظ پانی کے ساتھ اور کوئی لفظ بھی لگایا جائے یا مذکورہ بالا چار اوصاف میں سے کوئی وصف نہ ہو مثلاً عرق گلاب، عرق کیوڑہ اور تربوز کا پانی وغیرہ، ان میں پانی کا مفہوم تو پایا جاتا ہے مگر اس کو ادا کرنے کے لئے اور لفظ بھی بڑھائے جاتے ہیں۔

### نجاست حقیقیہ کا بیان

نجاست حقیقیہ اس کو کہتے جو نظر سے محسوس ہو جیسے پیشاب و خون وغیرہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست غلیظہ دوسری نجاست خفیفہ۔ یعنی جو نجاست سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں اور جس کی نجاست ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔

## نجاست غلیظہ

نجاست غلیظہ کی اس تعریف کو بھی یاد رکھئے کہ نجاست غلیظہ اس کو کہتے ہیں جس کے ناپاک و نجس ہونے کی صراحت قرآن و حدیث میں موجود ہو اور کئی اہل اس کی ناپاکی کے خلاف موجود نہ ہو اور سب ائمہ مجتہدین کے نزدیک وہ نجس ہو۔

نجاست خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس کا ناپاک ہونا بعض آیات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور بعض آیات و احادیث سے پاک ہونا ثابت ہوتا ہے اور اسی بناء پر اس کی پاکی کے متعلق ائمہ مجتہدین میں اختلاف ہو۔

مندرجہ ذیل اشیاء نجاست غلیظہ میں داخل ہیں۔ لحم خنزیر اور اس کے تمام اجزاء، مردہ کا گوشت اور اس کا چمڑہ دباغت کرنے سے پہلے، کتے کا جھوٹا، شراب، خون جاری، ان جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ جن کا گوشت حرام ہے خواہ وہ درندے ہوں جیسے بلی، بھیڑیا اور شیر وغیرہ یا چرندے ہوں جیسے گدھا، بٹخ، چونک، سانپ وغیرہ کا پیشاب، پاخانہ، گھوڑے، خچر اور گدھے کی لید، گائے بھینس کا گوبر، آدمی کا پیشاب خواہ جوان آدمی کا ہو یا بوڑھے کا اور شیر خواہ بچے کا ہو یا کھانے والے بچے کا۔ پاخانہ، منی، مذی، ودی، کچھو، پیپ، منہ بھر کے، خون حیض، خون نفاس، خون استحاضہ (انوار الساطعہ)۔

نجاست غلیظہ اگر گاڑھی ہو تو ساڑھے چار ماشہ کا وزن اور اگر تلی ہو تو تھیلی کے گڑھے کے برابر معاف ہے۔ گاڑھی نجاست غلیظہ اگر ایک درہم سے زیادہ بدن یا کپڑے پر لگی ہو تو وہ جواز نماز کے مانع ہے یعنی اس کی نماز نہ ہوگی اور پر لکھا گیا ہے کہ چار ماشہ وزن معاف ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کو دور نہیں کرنا چاہئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اتنی نجاست کا دور کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار مجبوراً رہ جائے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے اگر بلا عذر اور مجبوری کے اتنی نجاست بغیر دور کئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اگر اس مقدار سے کم نجاست ہو تو اس کا دور کرنا مستحب ہے اگر اس کو دور نہ کیا جائے تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی اور مقدار معاف سے زیادہ ہو اس کو دور نہ کیا جائے اور نماز اس حالت میں پڑھ لی جائے تو نماز بالکل نہ ہوگی۔

بلی اور چوہے کے پیشاب سے چونکہ احتیاط ناممکن ہے اس لئے معاف ہے البتہ اگر پانی یا برتن میں بلی یا چوہا پیشاب کر دے تو پانی اور برتن نجس ہو جاتے ہیں۔ (36)

نجاست خفیفہ

مندرجہ ذیل اشیاء نجاست خفیفہ ہیں۔ حلال جانوروں کا پیشاب، حرام و حلال جانوروں کی بیٹ اور گھوڑے کا پیشاب ولید اور بیٹ ان پرندوں کی جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ مثلاً اگر نجاست ہاتھ پر لگی ہوئی ہے یا کمر پر یا پیٹ پر اور ان اعضاء کے چوتھائی سے کم پر ہے تو معاف ہے اسی طرح اگر کوٹ کی آستین نجاست آلود ہو گئی مگر چوتھائی سے کم پر ہے تو معاف ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تمام بدن اور تمام کپڑے کی چوتھائی معاف نہیں بلکہ ان کے مختلف حصوں کی چوتھائی مراد ہے۔ یعنی ہر عضو اور حصہ کی چوتھائی مجموعہ بدن یا مجموعہ لباس کا اعتبار نہیں یہاں بھی معاف ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اتنی مقدار اگر کسی وجہ سے بھول جائے یا کپڑے یا بدن پر لگی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے قصداً چھوڑ دینے سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

### نجاست حقیقیہ کیسے دور ہوتی ہے؟

نجاست حقیقیہ چاہے غلیظ ہو یا خفیف کپڑے پر ہو یا بدن پر، پانی سے تین بار دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کپڑے کے لئے ضروری ہے کہ اس کو تین بار دھو کر نچوڑ بھی لیا جائے۔ نجاست حقیقیہ کو آب مطلق اور آب مقید دونوں دور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اشیاء کو پاک کرنے کے مختلف طریقے اور مختلف صورتیں ہیں جن کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔

۱۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو رگڑنے اور پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں جیسے آئینہ اور روغنی برتن وغیرہ ان کو اگر اس طرح پونچھ دیا جائے کہ نجاست باقی نہ رہے تو ایسی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ رگڑنا خواہ لکڑی سے ہو یا ناخن سے یا پتھر سے تینوں صورتیں برابر ہیں۔

۲۔ خشک ہونے سے جو چیزیں زمین پر قائم اور ثابت ہیں وہ خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہیں جیسے زمین، زمین کی ناپاکی اور ان چیزوں کی ناپاکی جو زمین پر ثابت اور قائم ہوں آفتاب کی حرارت اور ہوا پاک کر دیتی ہے۔

۳۔ بعض چیزیں چھلنے سے پاک ہو جاتی ہیں مثلاً اگر کوئلہ لکڑی کی چیز ناپاک ہو گئی تو اس ناپاکی کو کھرچ دینے یا چھیل دینے سے لکڑی پاک ہو جائے گی۔

۴۔ ذات بدل دینے سے بھی بعض چیزیں پاک ہو جاتی ہیں جیسے اگر شراب سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔

۵۔ بعض چیزیں آگ میں تپانے سے پاک ہو جاتی ہیں مثلاً اگر کسی مٹی یا برتن کے اجزاء میں نجاست جذب ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ اس کو آگ میں خوب تپالیا جائے اور اگر نجاست اس کے اجزاء میں جذب نہ ہوئی ہو تو صرف دھو ڈالنا کافی ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کی بناء پر یہ فتویٰ ہے کہ جو برتن نجس مٹی سے بنائے جائیں یا اینٹیں اور پھر اس کو آگ میں پکالیا جائے تو یہ پاک ہو جاتی ہیں۔ گوبر اور لید کی راکھ پر بھی طہارت کا فتویٰ ہے۔


۶۔ اکثر میں سے بعض کے نکال دینے سے جیسے اناج کو اگایا جاتا ہے تو اس میں نیل گوبر اور پیشاب کر دیتے ہیں پھر یہ کیا جاتا ہے کہ بھوسہ الگ نکال لیا جاتا ہے اور اناج الگ۔ چونکہ اکثر میں سے بعض حصہ بھوسہ نکال دیا جاتا ہے اور اناج الگ اس لئے سب اناج پاک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر روٹی کا کچھ حصہ ناپاک ہو گیا اور وہ ناپاک حصہ توڑ کر الگ پھینک دیا تو روٹی کا بقیہ حصہ پاک ہو گیا۔ (در مختار۔ انوار الساطعہ) (37)

نجاست حقیقیہ کا نقشہ

نجاست اور ازالہ نجاست کا تفصیلی بیان کرنے کے بعد مزید تفہیم کے لئے ان کا ایک نقشہ ذیل میں دیا جاتا ہے جس سے آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ کون سی نجاستیں کس

کس طرح دور ہوتی ہیں۔ پہلے اس نقشہ سے نجاست کی قسمیں ذہن نشین کر لو۔

### نجاست



اس نقشہ سے آپ نجاست حکمی و حقیقی کے اقسام کو اچھی طرح ذہن نشین کر سکتے ہیں اس کے بعد اب نجاستوں کے ازالہ کا نقشہ بھی دیکھ لیجئے۔

### نجاست حقیقی داخلی

نمبر شمار	قسم نجاست	نجاست نکلنے کی جگہ	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۱۔	پیشاب پاخانہ	مخرج براز	ڈھیلوں اور پانی کے ساتھ یا صرف پانی سے دور کرنا یعنی دھو ڈالنا۔	ہڈی، کونکہ، گوبر، لکڑی کام نہیں دے سکتی۔
۲۔	منی	مخرج بول	کھرچ کر جرم منی کو دور کرنا اگر غلیظ ہو تو پانی سے خوب مل کر صاف کرنا اور اگر رقیق ہو تو پانی سے دھونا۔	
۳۔	مدی	ایضاً	ایضاً	
۴۔	ودی	ایضاً	ایضاً	
۵۔	خون حیض	اندام نہائی	پونچھنا یا دھو ڈالنا	
۶۔	خون نفاس	ایضاً	ایضاً	

۷۔	خون استحاضہ	ایضاً	ایضاً
۸۔	خون سیال	بدن کے کسی حصے سے	
۹۔	پیپ		

یہ نقشہ صرف نجاست حقیقی داخلی کا ہے جن کی ضرورت ہر مسلمان مرد و عورت کو پڑتی ہے۔ نجاست حقیقی خارجی کو کسی نقشہ میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔

### چند خاص اور ضروری مسائل

یہاں ہم نجاست حقیقی دور کرنے کیلئے چند خاص قواعد کلیہ لکھتے ہیں جن کو یاد رکھنا چاہئے۔

۱۔ جن چیزوں میں چکنائی ہو ان سے نجاست حقیقی دور نہیں ہو سکتی مثلاً دودھ، چھاچھ

اور تیل وغیرہ۔ (38)

۲۔ مستعمل پانی سے نجاست حقیقیہ تو دور ہو سکتی ہے مگر نجاست حکمیہ دور نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر کسی پانی سے وضو کیا اور وہ پانی کسی برتن میں جمع ہو گیا تو ایسے پانی کو مستعمل کہتے ہیں اس سے دوبارہ غسل یا وضو نہیں کیا جاسکتا ہاں اس سے نجاست حقیقی کو دور کر سکتے ہیں۔ پانی مستعمل کس وقت ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ہدایہ میں ہے کہ اس وقت تک مستعمل نہیں ہوتا جب تک کسی جگہ ٹھہر کر ساکن نہ ہو جائے۔ اس پر فتویٰ ہے۔ ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستعمل پانی نجس خفیف ہے (39)

۳۔ اگر بدن یا کپڑے پر نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں لگ جائیں اور ہر ایک کی مقدار معافی سے کم ہو تو اس صورت میں نجاست خفیفہ نجاست غلیظہ کے تابع ہو جائے گی یعنی دونوں کی مقدار ملا کر دیکھا جائے اگر غلیظہ کی مقدار کو پہنچ جائے تو غلیظہ ہی کا حکم ہوگا۔

۴۔ جو نجاست کپڑے پر نمایاں نہ ہو اس جگہ کو دھو دینا چاہئے اگر پاک ہونے کا گمان

38۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 41 مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ پاکستان۔

39۔ ہدایہ شریف کتاب الطہارہ 37/1 مکتبہ رحمانیہ لاہور۔

غالب ہو تو اس کو پاک سمجھو پھر اس میں دوسوہ وتر دونہ کرو۔ اگر کسی کی طبیعت زیادہ خشکی ہو تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس کپڑے کو سات بار دھو کر نچوڑ دے مگر یہ حکم اس نجاست کا ہے جس کا رنگ اور اثر کپڑے پر نمایاں نہ ہو جو نجاست نمایاں ہو اس کو بالکل دور کرنا چاہئے خواہ رگڑ کر یا چھیل کر اور دھو کر۔ بہر حال نجاست کو بالکل دور کرنا چاہئے۔

۵۔ اگر کسی چیز پر کوئی بدبودار نجاست لگ جائے اور دھونے سے بھی نہ جائے یا ناپاک تیل اور مردار کی چربی لگ جائے اور وہ دھونے سے زائل نہ ہو سکے تو اس کو تین بار دھو ڈالنا چاہئے اس کے بعد بھی اگر بدبو یا تیل یا چربی کے آثار باقی رہیں تو کچھ حرج نہیں اس چیز کو پاک سمجھنا چاہیے اور زیادہ وہم نہیں کرنا چاہیے۔

۶۔ اگر تیل میں چوہے کی قلیل بیگنیاں گر جائیں تو تیل پلید نہیں ہوتا کیونکہ اس سے احتیاط ناممکن ہے اگر اسی طرح مرغی کے پیٹ سے بیضہ پانی یا شوربے میں گر پڑے تو وہ پانی اور شور بانا پاک نہیں ہوتا۔

۷۔ تمام چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان سے نماز جائز ہے سوائے آدمی اور خنزیر کے چمڑے کے۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جس چمڑے کو دباغت کیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دباغت کے معنی ہیں بدبو اور رطوبات نجاست کو دور کرنا اور یہ کبھی تو ادویہ کے ذریعہ ہوتا ہے اور کبھی خاک کے ذریعے اور حرارت شمس کے ذریعے۔ لیکن جو چمڑہ ادویہ کے ذریعے مدبوغ کیا جاتا ہے اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی اور جو مٹی کے آفتاب سے مدبوغ کیا جاتا ہے اس پر پانی پڑنے سے بدبو عود کر آتی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں عود کرتی۔

۸۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے بخارات اور دھواں اگر کپڑے پر لگ جائے اور اس کا رنگ یا بو کپڑے میں پیدا ہو جائے تو وہ ناپاک ہے اور اگر رنگ یا بدبو پیدا نہ ہو تو پاک ہے۔ قاعدہ: طہارت اور نجاست کا اعتبار و یقین علم پر موقوف ہے پس اگر نجاست کا علم ہی نہ ہو اور نہ اس بات کا یقین ہو کہ کس جگہ لگی ہے تو طہارت کا حکم ہوگا۔ اگر کسی کپڑے پر نجاست لگی اب بات کا تو یقین ہے کہ کپڑا نجاست آلودہ ہوا ہے مگر اس بات کا یقین نہیں کہ نجاست



کہاں لگی ہے تو جس جگہ کے متعلق یقین غالب ہو اس جگہ کو دھو ڈالنے کیڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر تو اس کیڑے کو ناپاک سمجھنا چاہئے اور دوبارہ اس جگہ کو دھونا چاہئے۔

قاعدہ: جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد جو خون رگوں میں باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے کیونکہ وہ خون جاری نہیں ہوتا پس اگر ذبح کئے ہوئے جانور کا خون کیڑے اور بدن پر لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے۔

قاعدہ: وہ تمام حیوان جو بسم اللہ کے ساتھ ذبح کئے جاتے ہیں تو ان کے گوشت و پوست جلد اور تمام اجزاء پاک ہو جاتے ہیں سوائے آدمی اور خنزیر کے۔

قاعدہ: جس جانور کا پیشاب نجاست غلیظہ اور جس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اس کا پتا بھی نجاست خفیفہ ہے جس جانور کا پاخانہ نجس ہے اس کا جگال بھی نجس ہے۔ آدمی کے سر کے بال پاک ہیں۔ مردہ جانور کے بال، ہڈی، لکڑی، پٹھا، سم، سینگ، دانت، پر، چونچ اور ناخن پاک ہیں۔

مسئلہ: اگر چوہے کی میٹنیاں گیہوں کے ساتھ پس جائیں مگر قلیل مقدار میں ہیں تو آٹا پاک ہے اگر کثیر مقدار میں ہوں کہ آٹے کا مزہ بھی بدل جائے تو ناپاک۔ جگر اور تلی کا خون پاک ہے۔ مردہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ (40)

مسئلہ: اگر دودھ دھوتے وقت بکری کی میٹنگی دودھ میں گر جائے جب تک سالم ہے دودھ پاک ہے میٹنگی کو نکال کر پھینک دینا چاہئے اور اگر ٹوٹ جائے تو دودھ ناپاک ہے۔ مچھلی، پسو، کھٹل، مچھر اور ہر دریائی جانور کا خون پاک ہے۔

مسئلہ: اگر گھی جما ہوا ہو یعنی ایسا جما ہوا ہو کہ اگر اس میں سے کچھ حصہ نکال لیا جائے تو فوراً مل کر برابر نہ ہو جائے ایسے جھے ہوئے گھی میں چوہا مر جائے یا اور کوئی نجس چیز پڑ جائے تو مردہ چوہے کو نکال کر پھینک دینا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا گھی آس پاس سے بھی نکال دینا چاہئے باقی گھی پاک ہے۔

اگر پتلا گھی یا تیل ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو اس کو پاک کرنے کی ترکیب

یہ ہے کہ اس میں ۵/۱ پانی ڈال کر جوش دینا چاہئے جب پانی خشک ہو جائے تو پھر دوسری اور تیسری مرتبہ اسی طرح کرنا چاہئے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ (41)

**مسئلہ:** بڑی دری، فرش اور دوسرے بھاری کپڑے جن کا نچوڑنا ناممکن ہو ان کے پاک کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ جاری پانی سے ان کی نجاست دور کر دی جائے پس وہ پاک ہے نچوڑنے اور سکھانے کی ضرورت نہیں۔

اگر خشک ناپاک پانی سے تر ہو جائے اور یہ بھیگا ہو انا پاک کپڑا کسی دوسرے خشک پاک کپڑے سے لگ جائے اور اس میں اتنا اثر اور تری پیدا کر دے کہ نچوڑنے سے قطرے نکل آئیں تو یہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا اور اگر صرف معمولی نمی پہنچی ہو تو کچھ حرج نہیں پاک سمجھنا چاہئے۔ (42)

**مسئلہ:** اگر لوٹے میں مردہ چوہا اور کوئی نجاست پائی جائے اور وہ پانی حمام یا مٹکے سے لیا جاتا ہو اور یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ چوہا مٹکے میں مرایا حمام یا کنویں میں تو اس صورت میں اس برتن ہی کو ناپاک سمجھا جائے گا جس میں وہ نجاست یا چوہا نکلا۔ مٹکہ، حمام یا کنویں کے نجس ہونے کا حکم نہ دیا جائے گا۔

**مسئلہ:** منی نجس ہے اگر وہ تر ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے اور اگر وہ کپڑے پر لگ کر خشک ہو جائے تو رگڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔

احناف نے منی کو اس حدیث کی بناء پر ناپاک قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا۔

فَاغْسِلِيهِ اِنْ كَانَ رَطْبًا وَاْفْرِكِيهِ اِنْ كَانَ يَابِسًا۔

”یعنی اگر وہ تر ہے تو دھو دے اور اگر خشک ہے تو رگڑ دے۔“

اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی اس حدیث کی بناء پر پاک ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمایا تھا اَلْمَنِيُّ كَالْمُنْحَاطِ یعنی

41۔ در مختار کتاب الصلوٰۃ 1/543-544، دار لکتاب العلمیہ بیروت۔

42۔ عالمگیری کتاب الطہارہ 1/471، مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ۔

منی تھوک کی مانند ہے۔ دوسرے اس بناء پر کہ یہ آدمی کی اصل ہے جیسے مٹی پاک ہے اسی طرح یہ بھی پاک ہے لیکن ہمارے امام صاحب کا دار و مدار حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہے جس کی تائید عقل و نقل سے ہوتی ہے۔

## جوٹھے پانی کے احکام

اس کے متعلق مختصر طور پر اتنا یاد رکھو کہ آدمی کا جوٹھا پاک ہے خواہ کافر ہو یا مسلمان سب انسانوں کا جوٹھا پاک ہے چاہے دیندار ہو یا بے دین، مرد ہو یا عورت جب ہو یا حائضہ، البتہ غیر عورت کے لئے اجنبی مرد کا جوٹھا مکروہ تو ضرور ہے بشرطیکہ علم ہو لیکن اصلاً پاک ہے۔ بہت ممکن ہے یہاں کسی سخطی النظر کو یہ شبہ ہو کہ قرآن پاک میں کفار کو نجس کہا گیا ہے پھر ان کا جوٹھا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ سو جاننا چاہیے کہ قرآن پاک میں کفار کو بے شک نجس بتلایا گیا ہے مگر اس سے مراد روحانی نجاست ہے یعنی ان کے اعتقاد گندے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بدن ناپاک ہیں خواہ ان کے بدن پر نجاست ظاہری لگی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ کفار کا جوٹھا بھی پاک ہے اور ان کا بدن بھی یہی وجہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے کفار کو مسجد میں آنے کی اجازت دی اگر حسی نجاست ہوتی تو آپ ان کو مسجد میں شب بائیں نہ ہونے دیتے۔

یاد رہے کہ ان مسئلہ کا منشاء محض اجازت و ضرورت ہے یعنی اگر کہیں ضرورت لاحق ہو جائے تو اس کے جوٹھا پانی کو استعمال کیا جاسکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خواہ مخواہ کافروں کا جوٹھا بلا ضرورت کھانے پینے لگیں۔

حسب ذیل جانوروں کا جوٹھا پاک ہے۔ گھوڑا، گدھا، خچر، مرغی، کوچہ گرد اور نجس خوار، گائے کا تمام، حلال پرندے اور چرندے سب کا جوٹھا پاک ہے۔

ان جانوروں کا جوٹھا ناپاک ہے۔ سور، کتا، ہاتھی اور تمام حرام گوشت والے درندے و چرندے ان سب کا جوٹھا ناپاک ہے۔

ان جانوروں کا جوٹھا مکروہ ہے۔ چوہا، چھپکلی، تمام خانگی جانور، چیل، کوئے، باز، بلی

اور ان تمام جانوروں کا جوٹھا جن کا گوشت حرام ہے مکروہ ہے۔  
 گدھے اور خچر کا جوٹھا پاک ہے مگر دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا۔ پس اگر کہیں گدھے  
 اور خچر کے جوٹھا پانی کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو اور تیمم دونوں کا حکم ہے۔ یہ اختیار ہے خواہ  
 تیمم پہلے کیا جائے یا وضو۔ (43)

### جانوروں کے پسینے اور لعاب

جس طرح ہر آدمی کا جوٹھا پاک ہے اسی طرح ہر آدمی کا پسینہ بھی پاک ہے خواہ انسان  
 کسی حالت میں بھی کیوں نہ ہو انسان کی کوئی حالت ایسی نہیں کہ اس کا پسینہ ناپاک ہو۔  
 پسینہ کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ آئے نہ اس سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اور نہ بدن۔  
 جانوروں کے پسینے کے متعلق یہ یاد رکھو کہ ان کا پسینہ جوٹھا کے حکم میں ہے یعنی جس  
 جانور کا جوٹھا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے اور جس کا جوٹھا ناپاک ہے اس کا پسینہ بھی  
 ناپاک ہے اور جن کا جوٹھا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ لعاب دہن کا بھی یہی حکم ہے  
 جو پسینہ کا ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی کتے نے کسی برتن میں منہ ڈال دیا تو اس کو تین بار دھو لینا چاہیے وہ برتن  
 پاک ہو جائے گا خواہ وہ مٹی کا ہو یا تانبے کا یا کانسی کا۔ برتن خواہ کسی چیز کا ہو تین بار دھو لینے  
 سے پاک ہو جاتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً سات بار دھولیا جائے۔

## کنویں کے احکام

### اصول و قواعد

کنویں میں اگر کوئی نجس چیز گر جائے تو اس کو پاک کرنے کی تین صورتیں ہیں یعنی بعض اشیاء تو ایسی ہیں جن کے کنویں میں گرنے سے کل پانی نکالا جاتا ہے تب کنواں پاک ہوتا ہے۔ بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کے گرنے سے پانی کی ایک معین مقدار نکالی جاتی ہے اور بعض چیزوں کے گرنے سے کنویں کا پانی نکالنا مستحب ہے۔ کنویں کے پاک کرنے کی یہ تین صورتیں ہیں۔ ان کو ہم علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ جن کا اور پر بیان ہوا۔

### ان صورتوں میں کنویں کا کل پانی نکالا جائے گا

- ۱۔ بڑے جشہ والے جاندار کے گر کر مر جانے سے مثلاً آدمی، بکری، گدھا اور خچر وغیرہ اگر ایسے جشہ والے جانور کنویں میں گر کر مر جائیں تو کل پانی نکالا جائے گا۔
- ۲۔ وہ جانور جن میں خون جاری ہوتا ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے یا درمیانی جیسے چڑیا، چوہا، مرغی، بطخ وغیرہ ایسے جانور اگر کنویں میں گر کر پھٹ جائیں یا پھول جائیں یا باہر ہی سے پھولے اور پھٹے ہوئے گرے ہوں تینوں صورتوں میں کنویں کا کل پانی نکالا جائے گا۔
- ۳۔ خنزیر نجس العین ہے اس کا اگر ایک بال بھی گر جائے گا تو کل پانی نکالنا پڑے گا۔
- ۴۔ مردہ کافر کے گر جانے سے یعنی اگر کنویں میں کوئی مردہ کافر گر جائے خواہ قبل غسل کے گرا ہو یا بعد غسل کے دونوں صورتوں میں کل پانی نکالنا واجب ہے۔
- ۵۔ رہ جانور جن کا جو ٹھانا پاک ہو یا مشکوک ہو اگر کنویں میں گر جائیں تو کل پانی نکالنا واجب ہے خواہ وہ زندہ برآمد ہوں یا مردہ دونوں صورتوں میں کل پانی نکالنا واجب ہے۔
- ۶۔ نجاست حقیقی خواہ نلیظہ ہو یا خفیفہ اگر کنویں میں گر جائے تو کل پانی نکالنا واجب ہے۔
- ۷۔ آدمی یا بھینس وغیرہ کے پیشاب کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو کل پانی نکالنا واجب

ہے۔

**قاعدہ:** جو جانور دموی ہیں یعنی جن میں خون جاری ہو وہ اگر کنویں میں گر کر پھولے پھٹے نہ ہوں مردہ برآمد کر لئے جائیں تو کل پانی نکالنا واجب نہیں ہے بلکہ پانی کی کچھ مقدار نکالنا کافی ہے۔

**قاعدہ:** جن جانوروں میں خون جاری نہیں ہوتا جیسے مچھر، مچھلی، اور پسو وغیرہ اگر یہ کنویں میں گر کر مر جائیں تو کنواں نجس نہیں ہوتا۔

**قاعدہ:** اگر کسی کنویں کی سوتیں ایسی ہوں کہ جتنا پانی نکالا جائے اتنا ہی پھر آجائے اور کل پانی نکالنے کی ضرورت ہو تو اسے پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ دو معتبر اور پرہیزگار مسلمانوں سے کنویں کے موجودہ پانی کا اندازہ کرایا جائے پھر ان کے اندازہ کے مطابق پانی نکال ڈالو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی رسی سے موجودہ پانی ناپ لیا جائے پھر ایک گھنٹہ بھر پانی نکالنے پر جتنا پانی کم ہو اسی قدر گھنٹوں کے حساب سے پانی نکال ڈالو۔ مثلاً ایک کنویں میں دس گز پانی ہے اور متواتر پانی ایک گھنٹہ پانی نکالنے سے دو گز پانی کم ہو تو متواتر پانچ گھنٹے پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا خواہ نیا پانی آتا رہے اور ختم نہ ہو۔

جو کنواں ایسا ہو کہ باوجود متواتر پانی کھینچنے کے کم نہ ہو تو ایسے کنویں کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ کنویں میں جس قدر پانی ہو اس کے مطابق ایک گڑھا لہبا چوڑا کھودا جائے اور پھر اس کنویں سے پانی نکال نکال کر بھردیا جائے۔

ایک غلط مسئلہ کی تصحیح

بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ دو سو ڈول کھینچ دینے سے کنواں بالکل پاک ہو جاتا ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ فتویٰ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسرے یہ مسئلہ صرف بغداد کے کنوؤں کے ساتھ مخصوص تھا ہر جگہ اور ہر کنویں پر یہ مسئلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دو سو ڈول کا فتویٰ اس بناء پر دیا تھا کہ بغداد کے کنوؤں میں دو سو ڈول سے زیادہ پانی نہ ہوتا تھا۔

ان صورتوں میں پانی کی معین مقدار نکالی جاتی ہے

۱۔ اگر کبوتر، مرغی، بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور کنویں سے مردہ برآمد ہوا اور پھولا پھٹا نہیں تو چالیس ڈول نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے اور ساٹھ مستحب ہیں۔

۲۔ اگر کنویں میں سے مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا اور پھولا پھٹا نہیں لیکن یہ معلوم نہیں کہ کب کا گرا ہوا ہے تو جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے ان کو ایک شبانہ روز کی نمازیں لوٹانی چاہئیں اور اس پانی سے جو برتن اور کپڑے دھوئے گئے ہوں ان کو دوبارہ دھونا چاہیے اور اگر مردہ جانور پھول کر پھٹ گیا ہو تو تین شبانہ روز کی نمازیں لوٹانی چاہئیں۔ دونوں صورتوں میں نمازیں لوٹانے کا حکم صرف احتیاط پر مبنی ہے ورنہ بعض علماء کا صحیح فتویٰ یہ ہے کہ نمازیں دہرانے کی ضرورت نہیں جس وقت کنویں کا پانی ناپاک ہونا معلوم ہوا اسی وقت سے اس کو ناپاک سمجھنا چاہئے۔

۳۔ اگر چوہا، چڑیا یا ان کی برابر کوئی اور جانور کنویں میں گر کر مر گیا، یا مرا ہوا گر گیا اور پھولا پھٹا نہیں تو بیس ڈول نکالنے واجب ہیں اور تیس ڈول نکالنے مستحب ہیں۔

۴۔ اگر کبوتر یا چڑیا کی بیٹ کنویں میں گر گئی تو کنواں اس سے نجس نہیں ہوتا بلکہ مرغی اور بطخ کی بیٹ سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اور کل پانی نکالنا واجب ہے۔

**مسئلہ:** اگر کنویں میں بکری، بلی اور چوہا وغیرہ گر کر زندہ نکل آیا تو کنواں نجس نہیں ہوگا بلکہ پاک ہے۔ چوہے کو بلی نے پکڑا اور اس کے دانت لگنے کی وجہ سے چوہا زخمی ہو کر بھاگا اور خون آلود حالت میں کنویں میں گر پڑا تو کل پانی نکالنا واجب ہے اسی طرح اگر چوہے کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہو اور وہ کنویں میں گر پڑے تو کل پانی نکالنا واجب ہے۔

**مسئلہ:** اگر تین چوہے یکدم کنویں سے برآمد ہوں تو اتنا پانی کھینچنا چاہیے کہ جتنا ایک مردہ بلی کے برآمد ہونے کی حالت میں کھینچا جائے یعنی تین چوہے ایک بلی کے حکم میں ہیں اگر چوہے مردہ نکلیں تو کل پانی کھینچا جائے۔

**مسئلہ:** اگر کنویں میں اونٹ اور بکری کی مینگنیاں یا گوبر یا لید گر جائے تو اب اگر زیادہ مقدار میں ہیں تو کنواں نجس ہوگا ورنہ پاک۔ خواہ یہ مینگنیاں ٹوٹی ہوں یا سالم اور خواہ خشک

ہوں یا ترسب کا یہی حکم ہے۔ ان نجاستوں میں اگر کوئی نجاست پانی کے مٹکے میں گر جائے تو مٹکے کا پانی نجس ہو جائے گا۔

مذکورہ بالا حکم صرف جنگل کے کھلے ہوئے کنوؤں اور ان کنوؤں کے متعلق مخصوص ہے جہاں مویشیوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ شہر کے کنویں ان نجاستوں کے گرنے سے نجس ہو جائیں گے

**مسئلہ:** اگر کسی مٹکے یا گھڑے میں کوئی جانور مر گیا اور اس مٹکے یا گھڑے کا پانی کنویں میں ڈال دیا گیا تو جیسا جانور ہوا اسکے مطابق پانی کی مقدار نکالنی چاہئے۔ مثلاً اگر مردہ کا پانی ڈال دیا گیا تو ۲۰ ڈول نکالنے چاہئیں اور اگر پھولا پھٹا ہوا تھا تو کل پانی نکالنا لازم ہوگا۔ (44)

**مسئلہ:** اگر کنواں ایسے گھڑے کے قریب ہو جس میں نجاست بھری ہوئی ہے اور نجاست کا اثر کنویں میں معلوم ہو تو کنواں ناپاک ہے اور اگر اثر معلوم نہ ہو تو پاک ہے۔

### چند ہدایات

۱۔ جن جانوروں کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو پانی نکالنے سے قبل ان جانوروں کو نکال لینا چاہئے اس کے بعد جیسا حکم ہو اسی کے مطابق پانی نکالنا چاہئے ورنہ پانی کے کھینچنے کا اعتبار نہ ہوگا۔

۲۔ جس کنویں کا پانی بالکل توڑ دیا جائے تو اس کے آس پاس کے کنکر و دیوار کے اور سی کے ڈول کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں یہ سب چیزیں خود بخود پاک ہو جاتی ہیں۔

۳۔ جن چیزوں کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے اگر وہ چیزیں کوشش کے باوجود نہ نکل سکیں تو دیکھنا چاہیے وہ چیزیں کیسی ہیں اگر ایسی ہوں کہ خود تو پاک ہوں مگر کسی ناپاک چیز کے لگنے سے ناپاک ہو جاتی ہیں مثلاً ناپاک کپڑا، جوتا اور گیند وغیرہ تو ان کا نکالنا معاف ہے صرف پانی نکال ڈالنا چاہئے کیونکہ یہ چیزیں دراصل خود تو پاک ہوتی ہیں لیکن کسی نجاست کے لگ جانے سے ناپاک ہو جاتی ہیں اور اگر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ خود ناپاک ہیں جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ سڑگل کر مٹی ہو گئی ہیں



اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر سڑنے گلنے اور مٹی میں مل جانے کا یقین ہو جائے تب صرف پانی نکال ڈالنا چاہئے۔

۴۔ کنویں سے جتنا پانی نکالنا ہو اس کے متعلق اختیار ہے یکدم سب نکال ڈالو اور چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالو۔ دونوں صورتوں میں کنواں پاک ہو جائے گا۔

۵۔ کسی جانور کا بچہ اس کے بڑے کے حکم میں ہے یعنی اگر بکری کا بچہ بھی گر پڑے تو کل پانی نکالنا واجب ہے۔

کونسا ڈول معتبر ہے

جو ڈول جس کنویں پر ہمیشہ پڑا رہتا ہو اور جس سے عام طور پر لوگ پانی بھرتے ہوں اسی ڈول سے پانی نکالنا چاہیے اور کسی ڈول کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی کنویں پر کوئی ڈول نہ رہتا ہو تو اس کے لئے تین سیر پانی کا ڈول معتبر ہے اور اگر بجائے ڈول کے چرسے سے پانی کھینچا جائے تو اس چرسے میں جتنے ڈول پانی آتا ہوا تھے ہی کا حساب کر لیا جائے مثلاً اگر کسی کنویں سے ۶۰ ڈول پانی نکالنے ہوں اور چرسے میں دس ڈول آتے ہیں تو چھ چرسے نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔

مسئلہ: اگر کوئی درندہ قلیل پانی کے پاس سے گزرے اور جنگل میں سوائے اس پانی کے اور پانی دستیاب نہ ہوتا ہو اور یقین بھی ہو کہ درندے نے اس میں سے پانی نہیں پیا ہے تو اس پانی سے وضو درست ہے۔ اگر پانی مل سکتا ہو تو پھر درست نہیں (در مختار)۔

## پانی کے احکام و مسائل

جاننا چاہیے کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے جاری اور بند۔ ان دونوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہر شخص جانتا ہے کہ جاری پانی کے لئے ایک شرط شرعی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اتنا گہرا ہو کہ چلو بھر کر اٹھانے کے بعد زمین دکھائی نہ دے۔

### اصول

پانی کے تین اوصاف ہیں رنگ، بو اور مزہ۔ اگر جاری پانی میں کوئی نجس چیز گر جائے اور پانی کے ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف بھی نہ بدلے تو ناپاک نہیں ہوتا ہاں اگر ان تین اوصاف میں سے کوئی وصف جاتا رہے رنگ بو اور مزہ میں تغیر آ گیا تو پھر جاری پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔

### بند پانی

بند پانی دو قسم کا ہوتا ہے۔ قلیل اور کثیر۔ بند پانی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی نجاست پڑی ہوئی ہو اور دوسری طرف اس کا اثر نہ پہنچے یہ کثیر پانی ہے اس کی مقدار علماء نے چالیس مربع گز یا اڑتالیس گز مربع بیان کی ہے اور گہرائی اتنی ہو کہ چلو بھر سے زمین نہ کھلے۔ اس بند کثیر پانی کا وہی حکم ہے جو جاری پانی کا ہے۔ یعنی بند کثیر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک اس کا بو یا مزہ یا رنگ تبدیل نہ ہو جائے اس کثیر پانی کو حوض کبیر بھی کہتے ہیں۔

قلیل پانی وہ ہے جو دس دروس سے کم ہو۔ اس میں اگر اتنی نجاست گر جائے کہ اس کے گرنے سے پانی کو حرکت ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا خواہ پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف تبدیل نہ ہو (45)۔

45۔ درمختار کتاب الطہارہ 1/44-44، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

## قلتین کی بحث

پانی کے احکام کے ضمن میں قلتین کی بحث ایک بڑی معرکہ کی بحث ہے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور مباحثے ہوتے رہتے ہیں حالانکہ یہ بحث اس قابل نہ تھی کہ اس پر اس قدر دماغی کاوشوں اور جدل آرائیوں کا ثبوت دیا جاتا۔ یہاں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہندوستان میں اللہ کے فضل سے ہر کہیں پانی بہ افراط میسر آجاتا ہے اور قلتین کی حقیقت پر غور کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

بہر حال قلتین کی نسبت ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْخُبْثَ۔ (46)

اس حدیث کے معنوں نے صورت نزاع پیدا کی ہے اس بارے میں اہل حدیث حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جب دو قلعے پانی ہو اور اس میں کوئی نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا بشرطیکہ اس کا رنگ، مزہ اور بو تبدیل نہ ہو اس کے خلاف حضرات فقہاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ رنگ، مزہ اور بو تبدیل ہو یا نہ ہو نجاست پڑتے ہی وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس بحث پر اگر نظر غور ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کے ہاں نفاست و اتقاء کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور اہل حدیث نے قلت آب کے سوال کو مد نظر رکھا ہے۔

کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے

بارش، ندی، نالے، چشمہ، کنویں، تالاب اور دریا کے پانی سے وضو اور غسل کرنا

درست ہے چاہے بیٹھا ہو یا کھارا۔

مسئلہ: اگر پانی میں کوئی چیز ڈال کر پکائی جائے اور پانی کا رنگ، مزہ وغیرہ تبدیل ہو جائے تو اس سے وضو وغسل درست نہیں ہاں اگر پانی میں کوئی ایسی چیز پکائی گئی جس سے میل کچیل خوب صاف ہوتا ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا بھی نہ ہوا ہو تو اس سے وضو درست ہے جیسے مردہ کو نہلانے کے لئے پانی میں بیری کے پتیاں ڈال کر پکائی جاتی ہیں

یابیمار کے نہانے کے لئے بعض دواؤں کو ڈال کر پانی کو گرم کر لیتے ہیں۔ البتہ اگر پانی گاڑھا ہو جائے تو پھر اس پانی سے وضو غسل درست نہیں۔

**مسئلہ:** جس پانی میں کوئی اور چیز مل گئی یا پانی میں کوئی چیز پکائی گئی اور اب اس کو پانی نہیں کہا جاسکتا بلکہ اس کا کچھ اور ہی نام ہو گیا تو اس سے وضو غسل درست نہیں جیسے شربت، شیرہ، شوربا، سرکہ، گلاب اور عرق وغیرہ۔

جس پانی میں کوئی پاک چیز مل گئی اور پانی کے اوصاف تبدیل ہو گئے لیکن وہ چیز پانی میں پکائی گئی نہ اس کے ملنے سے پانی کے پتلے ہونے میں کچھ فرق آیا یا پانی میں زعفران پڑ گیا اور اس کا بہت خفیف سارنگ آ گیا یا صابن وغیرہ کوئی اور چیز پڑ گئی تو ان سب صورتوں میں اس پانی سے وضو غسل درست ہے۔ کپڑا رنگنے کے لئے پانی میں زعفران گھولی یا کوئی رنگ ڈالا تو اس سے وضو درست نہیں۔

**مسئلہ:** اگر پانی میں دودھ مل گیا اور دودھ کا رنگ پانی پر غالب آ گیا تو اس سے وضو درست نہیں اور اگر دودھ کا رنگ پانی میں نہ آیا تو درست ہے۔ جنگل میں اگر تھوڑا سا پانی مل گیا مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ پاک ہے یا ناپاک تو جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقینی علم نہ ہو جائے اس وقت تک اسے پاک سمجھا جائے۔ اس سے وضو درست ہے اس وہم میں نہ پڑے کہ شاید یہ پانی نجس ہے۔

**مسئلہ:** کسی کنویں میں اگر درخت کے پتے گر پڑے اور پانی میں بدبو آنے لگی اور رنگ مزہ بھی بدل گیا تب بھی اس کے پانی سے وضو درست ہے جب تک کہ پانی پتلا ہے جو حوض ۲۰ گز لمبا اور پانچ گز چوڑا یا ۲۵ گز لمبا اور چار ہاتھ چوڑا ہو تو وہ دس دروس کے حکم میں ہے۔

**مسئلہ:** اگر چھت پر نجاست پڑی ہے مینہ برسا اور پانی پر نالہ سے جاری ہوا اب اگر وہ چھت آدھی ناپاک ہے تب تو وہ پانی نجس ہے اور اگر آدھی سے کم ناپاک ہے تو پانی پاک ہے اور اگر نجاست پر نالہ کے پاس ہی ہو اور وہ پانی اس سے مل کر آ رہا ہو تو بہر حال نجس ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی تالاب یا جوہڑ میں ناپاک پانی بھرا تھا اور وہ خشک ہو گیا اور پھر دوبارہ بارش کے پانی سے بھر گیا تو یہ پانی پاک ہے کیونکہ پہلے پانی کی ناپاک کو آفتاب کی حرارت نے

پاک کر دیا تھا اور جو ہر پاک ہو گیا تھا۔

اگر کسی پانی میں بدبو آ رہی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بدبو کسی نجاست کی ہے یا کسی پاک چیز کی تو اس پانی سے وضو اور غسل درست ہے کیونکہ پانی ایک جگہ ٹھہرے رہنے کی وجہ سے بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی چھوٹے یا بڑے حوض میں اس قدر کائی جی ہو کہ ہلانے سے اس میں حرکت پیدا نہ ہوتی ہو اور پانی بالکل نظر نہ آوے تو اس سے وضو و غسل درست نہیں اور اگر کائی ہلانے سے اہل جاتی ہو اور نیچے کا پانی نمودار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وضو و غسل درست ہے۔

**مسئلہ:** اگر چھت پر نجاست پڑی ہو اور بارش ہو جائے اور چھت ٹپکنے لگے تو بارش کے بند ہو جانے کے بعد بھی اگر پانی ٹپک رہا ہے تو یہ پانی پاک ہے اگر بارش کے دوران میں ٹپک رہا ہے تو اس کا حکم آب جاری جیسا ہے یعنی بالکل پاک ہے بشرطیکہ پانی کے تینوں اوصاف میں سے کسی میں تغیر نہ آیا ہو اور اگر ان میں سے کسی وصف میں تبدیلی ہو گئی تو پانی بہر حال ناپاک ہے۔

### ضروری ہدایات

- ۱۔ دھوپ میں رکھے ہوئے پانی سے وضو و غسل نہ کرنا اولیٰ ہے کیونکہ دھوپ کے رکھے ہوئے پانی سے برص کے سفید داغ پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ جس پانی میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں بہتا ہو خون نہیں ہوتا یا باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتا جیسے مچھر، بھڑ، مکھی اور بچھو وغیرہ۔
- ۳۔ جس جانور کی پیدائش پانی میں ہی ہو اس کے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا جیسے مچھلی، کیکڑا، آبی مینڈک، خشکی کے مینڈک وغیرہ۔ اگر خشکی کے مینڈک میں خون ہو تو پھر پانی نجس ہو جائے گا۔

۴۔ جن جانوروں کی پیدائش پانی کی نہ ہو وہ اگر پانی میں مر جائیں یا مر کر پانی میں گر جائیں تو پانی نجس ہو جاتا ہے جیسے مرغابی، قاز اور بٹخ وغیرہ۔

۵۔ مینڈک، کچھوا اور کیکڑا وغیرہ اگر پانی میں مر کر گل بھی جائیں اور ریزہ ریزہ

ہو جائیں تب بھی پانی پاک رہے گا لیکن اس پانی کا کھانا پینا درست نہیں صرف وضو غسل کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ اگر جاری پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہو تو جلدی جلدی وضو نہ کرنا چاہیے تاکہ جو دھون پانی میں گرتا ہے وہی ہاتھ میں نہ آجائے۔

۷۔ جنبی آدمی اگر ڈول وغیرہ ڈھونڈنے اور نکالنے کے لئے کنویں میں اترے اور اس کے بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ یہی حکم غیر مسلم کے لئے ہے البتہ اگر بدن یا کپڑوں پر نجاست لگی ہو تو پانی نجس ہو جائے گا اور سب پانی نکالنا پڑے گا۔ اگر کنویں میں اترنے والے کی نسبت یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے کپڑے پاک تھے یا ناپاک تب بھی کنواں پاک سمجھا جائے گا لیکن اس صورت میں بیس بیس ڈول نکال دینے مستحب ہیں۔

۸۔ اگر کنویں میں بکری یا چوہا یا بلی وغیرہ گر کر زندہ نکل آیا تو کنواں پاک ہے۔

۹۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں کنویں کا پانی نکالنا صرف مستحب ہے واجب نہیں۔ زندہ چوہا پانی میں گر جائے تو ۲۰ ڈول نکالنے مستحب ہیں۔ بلی یا کوچہ گرد مرغی گر کر زندہ نکل آئے تو ۴۰ ڈول نکالنے مستحب ہیں۔

جنبی اور بے وضو شخص کے کنویں میں گرنے یا اترنے سے ۴۰ ڈول نکالنے مستحب ہیں (47)۔

۱۰۔ مستعمل پانی کو پینا مکروہ ہے۔ (48)

۱۱۔ نہاتے یا وضو کرتے وقت اگر مستعمل پانی کی چھینٹیں پاک پانی میں کسی قدر پڑ جائیں تو اس سے وضو غسل درست ہے۔ (49)

47۔ فتاویٰ عالمگیری، باب المیاء جلد 1 صفحہ 21، مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ۔

48۔ ایضاً صفحہ 25۔ 49۔ ایضاً صفحہ 23۔

## کنویں کا پانی نکالنے کی حکمت

شارع علیہا الصلوٰۃ والسلام نے جو مختلف صورتوں میں پانی نکالنے کے مختلف احکام دیے ہیں ان میں بظاہر یہ حکمت نظر آتی ہے کہ اگر جانوروں اور نجاست میں کوئی زہریلا اثر ہو تو وہ پانی نکالنے سے کم ہو جائے اور اس کے نجاست آلود یا کراہت بخش اجزاء نکل جائیں۔ بہر حال مقصود یہ ہے کہ پانی کو ہر قسم کے زہریلے اثرات اور نجس اجزاء سے پاک کر دئے جانے کی یہی وجہ ہے کہ اشیاء کی نجاست و جنسامت اور مضرات اثرات کی مناسبت سے احکام میں اختلاف ہے۔

## استنجا کے احکام و کیفیت

اسلام کی خصوصیت

اسلام نے پاکیزگی و طہارت کا ایک ایسا کامل و مکمل انتظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر عمل کرنے تو اس کے دل، دماغ، روح، بدن اور کپڑوں پر کسی قسم کی روحانی و جسمانی نجاست کا اثر باقی نہیں رہتا اور وہ انسان پاکی کے اعتبار سے فرشتہ بن جاتا ہے۔ اسلام کی اس خصوصیت کی خاک پا کو بھی دنیا کا کوئی مذہب نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام کی وہ خصوصیت جو اس کو مذاہب عالم میں ممتاز و نمایاں کرتی ہے اور جس سے آنحضرت ﷺ کی قوت قدسی اور تقرب الی اللہ کا پتا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی طبعی حاجات کو بھی ایک نظام کے ماتحت لے آتا ہے اور تمام امور میں روحانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی امر میں ایک صحت بخش، پاکیزگی، پرور، نفع رساں اور روحانیت خیز قانون عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا روشن ثبوت یہ ہے کہ اس نے پیشاب پاخانہ کے بھی آداب و احکام دیئے ہیں اور ان کے اندر بھی ایک روحانی رنگ اور اخلاقی اثر پیدا کر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس امر میں اسلام کے معیار پر نہیں آسکتا۔ اب ذرا ان احکام و آداب کو ملاحظہ فرمائیے۔

بیت الخلا میں داخل ہونے کا طریقہ

بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے اس انگشتری اور تعویذ وغیرہ کو اپنے بدن سے دور کر دینا چاہئے جس میں آیات و احادیث اور اسماء لکھے ہوں تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو پھر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّجْبِ وَالنَّجَائِثِ۔ (50)

”اے اللہ! میں تجھ سے پلیدیوں اور ناپاکیوں کی پناہ چاہتا ہوں۔“

گویا اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند! جس طرح تو نے میرے اندر یہ طبعی تقاضا پیدا

50۔ ترمذی جلد 1 ابواب الطہارہ صفحہ 10، حدیث نمبر 5، دارالکتب العلمیہ۔



کر دیا ہے کہ میں اپنے اندر کی ناپاکیوں اور غلاظتوں کو اس طرح باہر نکال دوں ایسی ہی راز فطرت اور نیکی و بدی کا احساس میرے اندر پیدا کر دے کہ میں روحانی و اخلاقی نجاستوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکوں، اخلاق فاضلہ کو حاصل کر لوں۔ میرا باطن ہر طرح پاک و صاف ہو جائے اور میری روحانیت کو نقصان دینے والی چیزیں مجھ سے دور ہو جائیں۔

بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ اول بایاں پاؤں داخل کرے اور نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں کو باہر نکالے۔ کھڑے ہوتے ہی پا جامہ نہ اٹھا دے کہ اس کے اندر بے پردگی کا احتمال ہے بلکہ جب بیٹھنے کے قریب ہوتے اٹھائے۔ جب فارغ ہو چکے تو باہر آکر یہ دعا پڑھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي۔ (51)

”تمام حمد و ستائش کا مستحق وہی ہے جس نے مجھ سے تکلیف اور دکھ کو دور کیا اور مجھ کو صحت عطا فرمائی۔“

دیکھو یہ دعا کیسی بر محل اور موزوں ہے جس کا ایک ایک لفظ روحانیت خیز اور واقعہ پر مبنی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر باقاعدہ رفع حاجت نہ ہو اور قبض ہو جائے تو اسے بیسیوں امراض پیدا ہو کر بعض اوقات ہلاکت تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ اس لئے دنیا کے محسن اعظم نے یہ دعا قبول فرمائی کہ جب انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رفع حاجت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے خدائے قدوس کی حمد و ثناء بیان کر کے جس کے فضل و کرم اور انتظام ربوبیت سے اس نے نجات اور ایک دکھ سے بھی نجات پائی۔ اس دعا کے ذریعہ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام مسلمانوں کو اس روحانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح انسانوں کو روحانی امراض اور اذیتوں سے نجات حاصل کرنے کی تمنا و کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ جسمانی قبض تو صرف ہلاکت تک بعض اوقات نوبت پہنچا دیتی ہے اور روحانی قبض انسان کو دائمی طور پر جہنمی بنا دیتی ہے۔

## ایک لطیف نکتہ

پاخانہ میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں اَعُوذُ كَالْفِظِ آيا ہے اور نُحْبِثُ كَا۔ یہ دونوں لفظ ظاہری خباثتوں اور آلودگیوں سے پناہ کو ظاہر کرتے ہیں اور فلوغ ہونے کی دعائیں ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ صرف ”غُفْرَانِكَ“ کہے۔ یہ لفظ ان ناجائز خواہشوں، ناپاک ارادوں اور بے جا جوشوں کے استیصال اور ٹھنڈا کر دینے پر دلالت کرتا ہے جو روحانی امراض یا نجاستوں اور دکھوں سے وابستہ ہوں۔ اللہ! اللہ! شارع علیہ السلام کی کیسی قوت قدسی اور پاک و بلند نظر تھی کہ چونکہ پاخانہ پھرنے کے بعد انسان نے جسمانی دکھ سے نجات پائی تھی۔ اس لئے روحانی نجاستوں کی دعا بھی ساتھ ہی تعلیم فرمادی۔

## رفع حاجت اور پیشاب کرنے کے آداب

پیشاب پاخانہ کرنے کے لئے قبلہ رو نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس سے شعائر اللہ کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ان کی عظمت و تکریم کرنا مسلمانوں کا قومی فرض ہے۔ پردہ دار جگہ ہونی چاہیے بے پردگی سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ استنجا کرتے وقت یا پیشاب کرتے وقت پیشاب گاہ کو داہنے ہاتھ سے پکڑنا منع ہے ایسے کام بائیں ہاتھ سے کرنے چاہئیں۔ رفع حاجت میں نجاست دور کرنے کے لئے کم از کم تین ڈھیلے استعمال کرنے چاہئیں۔ زیادہ کی حد نہیں کیونکہ اصل غرض ازالہ نجاست ہے وہ جتنوں سے بھی ہو۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَيْتُمُ  
الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا  
وَعَرِّبُوا۔ (52)

”جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! جب تم قضائے حاجت کے لئے آؤ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف پشت کرو البتہ مشرق کی طرف

کر لو اور چاہے پچھتم کی طرف کر لو۔

(ہمارے ملک میں چونکہ مغرب کی سمت ہے لہذا ہمیں مشرق و مغرب کی طرف سے اجتناب کرنا چاہیے)۔

ان چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے۔ پختہ اینٹ، ٹھیکری، ہڈی، کونکہ، کاغذ، جانوروں کا چارہ اور گوبر وغیرہ کیونکہ ظاہر ہے گوبر سے ازالہ نجاست نہیں ہو سکتا۔

بہتر یہ ہے کہ صرف مٹی سے استنجا کیا جائے کیونکہ مٹی میں قوت جذبہ ہوتی ہے جو نجاست کو دور کر دیتی ہے اور استنجا کا یہی مقصود ہے۔

پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے اور ایسی جگہ جہاں چھینٹے پڑنے کا احتمال نہ ہو۔ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے استنجا کرنا بہتر و اولیٰ ہے کیونکہ اس میں زیادہ پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد پانی سے دھولینا چاہیے۔

ایک عام بے حیائی

ہمارے ملک میں اور ان لوگوں میں جو اپنے آپ کو زیادہ دیندار سمجھتے ہیں یہ عام بے حیائی اور ناشائستہ حرکت پھیل رہی ہے کہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلے سے استنجا کرتے ہوئے عورتوں، بچوں، اور مردوں کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور ٹہلتے رہتے ہیں وہ اپنی اس بے حیائی اور ناشائستہ و غیر مہذب حرکت پر ذرا بھی نام نہیں ہوتے۔ اس پر مزید ستم ظریفی یہ کہ وہ عجیب عجیب قینچی جیسی بے ہودہ حرکتیں کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی نفاست و دینداری سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ اور حرکت نہایت ہی حیا سوز اور بے ہودہ ہے۔ بلکہ ان لوگوں کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکہ۔ اس لئے ایسی بے ہودہ حرکت کو قطعاً چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں بیٹھ کر پیشاب کیا ہے اسی جگہ مٹی کے ڈھیلے سے قطرات کو خشک کر لو اگر کہیں علیحدگی میسر ہی نہ آئے اور پیشاب کا تقاضا سخت ہو تو تب بھی بے ہودہ حرکتیں تو نہ کرنی چاہئیں۔

ذرا اسلام کی پاکیزگی اور وسیع النظری تو دیکھئے کہ اس نے عام گزرگاہوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایسی بے حیائی اور بیہودہ حرکت سے روکا جائے۔ مگر افسوس کہ لوگ احکام شرع کی محض رسما پابندی کرتے ہیں اور دوسروں پر

اپنی دینداری کا سکہ جمانے کے لئے مقصود و حقیقت کو نہ وہ جانتے ہیں اور نہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

ان مقامات پر پیشاب اور رفع حاجت کرنا منع ہے۔ مسجد و عید گاہ کے آس پاس، قبرستان میں، چوپایوں کے درمیان، جاری اور بند پانی کے اندر، حوض، تالاب اور کنویں کے کنارہ پر، راستہ میں، سوراخوں اور بلوں میں، غسل اور وضو کرنے کی جگہ پر، درختوں کے نیچے، اس سایہ دار درخت کے نیچے جس کے سایہ میں لوگ آکر بیٹھتے ہوں، ان سب مقامات میں پیشاب اور پاخانہ کرنا منع ہے۔

تنبیہ

دو مرد یا دو عورتیں ایک ہی جگہ پیشاب یا پاخانہ کے لئے نہ بیٹھیں۔ نہ کوئی کسی کا ستر دیکھے اور نہ باہم باتیں کریں۔ یہ بے حیائی ہے۔ علاوہ ازیں وہ امور جو پیشاب اور پاخانہ کے وقت مکروہ ہیں یہ ہیں ننگے سر پیشاب یا پاخانہ کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، باتیں کرنا، چھینک یا اذان کا جواب دینا، پاخانہ میں بہت دیر تک بیٹھے رہنا، بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، شرم گاہ کو بلا ضرورت دیکھنا، تھوکننا، سکننا، ادھر ادھر خواخواہ بار بار دیکھنا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنا، نیچے کی جگہ سے اوپر کی طرف پیشاب کرنا، یہ سب امور سخت مکروہ اور منع ہیں۔

جن امور سے شریعت نے منع کیا ہے ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے ایک دفتر درکار ہے۔ مختصر طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ طہارت و پاکیزگی کے سلسلہ میں جو جو احکام و آداب اسلام نے دیئے ہیں اور جن جن امور سے منع کیا ہے ان میں ہماری ہی دینی و دنیوی اور جسمانی و روحانی فلاح و بہبود مضمر ہے۔ ان تمام باتوں میں شریعت نے تین چیزوں کو مد نظر رکھا ہے۔ ازالہ نجاست جسمانی نجاست سے روحانی طہارت کی تعلیم اور صحت جسمانی۔ کاش ہم ان تمام احکام پر عمل پیرا ہوں۔

## باب الوضو

اسلام نے دنیا میں آتے ہی اعلان کیا تھا:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى النِّظَافَةِ۔

”یعنی اسلام کی بنائیں طہارت و پاکیزگی کی اساس پر اٹھائی گئی ہیں۔“

اس بناء پر اسلام نے پاکی و پاکیزگی کے لئے جو شعائر مقرر کئے اس میں وضو و غسل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہاں ہم صرف وضو کے مسائل و احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور دوسرے شعائر کا بیان اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

وضو کا فلسفہ

وضو کے متعلق یہاں صرف شروع ہی میں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ وضو کا مقصد صرف اتنا نہیں کہ آپ مخصوص اعضاء کو دھولیں بلکہ یہ تو اس کا مقصد ظاہری ہے لیکن وہ اس مقصد میں ایک خاص روحانی رنگ اور اخلاقی روح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وضو سے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ وضو میں چار اعضاء کا دھونا فرض ہے۔ ہاتھ، چہرہ، پیر اور سر، یہ وہ اعضاء ہیں جو کثرت و عجلت سے معصیت و سیہ کاری کا آلہ کار بن جاتے ہیں اور اوامر الہی کی خلاف ورزی میں سرعت سے کام لیتے ہیں۔ اس لئے جس طرح ان کو بار بار ہر نماز سے پیشتر دھو کر ظاہری نجاست و آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے اسی طرح ان کو نجاست باطنی میں یعنی گناہ سے بھی پاک کرو۔ یعنی ان کو گناہوں سے روک کر احکام الہیہ کی اطاعت میں لگا دو۔

چہرہ جسم انسانی میں باطنی اور دلی حالات کا آئینہ ہوتا ہے اور تمام حواس کا قریب قریب مرکز ہے اس لئے اس کا دھونا ضروری رکھا گیا ہے۔ چہرہ میں ناک، آنکھ، کان اور منہ ایسے اعضاء ہیں جن سے کثرت کے ساتھ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ باطن کو غلیظ نجس اور دل کو زنگ آلود کرتے ہیں۔ آنکھ نامحرموں پر پڑتی اور زنا کی جاسوسی کرتی ہے۔ جیہی تو رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے کہ نگاہیں زہر میں بچھے ہوئے تیر ہیں۔ کانوں میں نامحرموں کے خلخال

کی آواز، دوسروں کی برائی، بدگوئی اور سب و شتم کی صدائیں پڑتی ہیں۔ گانے بجانے کی ناجائز آوازیں پڑتی ہیں۔ ناک سے ناجائز خوشبوئیں سونگھی جاتی ہیں اور منہ سے ناجائز مال کھاتے ہیں۔ زبان کے تمام گناہ تو الامان بہت ہی زیادہ خطرناک اور فتنہ انگیز ہوتے ہیں۔ اس زبان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ یہ تلوار بن کر عیب چینی، بدگوئی، سب و شتم اور طعن و تشنیع کے ذریعہ اخوت اسلامی کے رشتہ کو پارہ پارہ کر دیتی ہے اور ہزاروں فتن و شرر کا باعث بنتی ہے۔ دماغ میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو گویا ناپاک ارادوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس کے خیالات سے دوسرے قریبی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں اور پھر پیر حرکت کر کے بری جگہوں پر جاتے ہیں۔ مثلاً جھوٹی گواہی دلواتے ہیں وغیرہ ان وجوہات کی بناء پر انہی اعضاء کی روحانی و جسمانی طہارت و پاکیزگی حاصل کر لے۔ جو وضو کا مقصد ہے تو وہ جسم انسانی میں فرشتہ بن جائے اور اس کی زندگی میں بھی پاکیزگی حیات کا نور چمک اٹھے۔

علاوہ ان اعضاء کے جن کا دھونا فرض ہے اور اعضاء بھی دھوئے جاتے ہیں۔ جن میں بڑی حکمتیں ہیں جن کا بیان کرنا موجب طوالت ہے۔ لہذا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے اتنی بات یاد رکھیے کہ جسم انسانی کے اندر جو اعضاء احکام الہیہ کی خلاف ورزی میں جلد متحرک ہوتے ہیں وہی اعضاء ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں ان کے دھونے سے ان کی طہارت باطنی کے اہتمام پر تنبیہ ہونا مقصود ہے تاکہ کثیر الوقوع معاصی سے توبہ ہو جائے۔ وضو میں پہلے ہاتھ اس لئے دھوئے جاتے ہیں کہ پھر چہرہ پر صاف ہاتھ جائیں۔ چہرہ انسانی بدن میں یا مملکت جسم میں بادشاہ کی مانند ہے۔ بادشاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے طہارت و پاکیزگی کی حاصل کی جاتی ہے۔ اس طرح گویا ہاتھوں کو پہلے اس لئے دھویا جاتا ہے کہ وہ چہرہ سے مس ہونے کے قابل ہو سکیں۔ الغرض اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت و اسرار سے خالی نہیں ہے۔

وضو کی تاریخ مشروعیت

وضو کا قاعدہ اسلام کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے بھی اپنی عبادت سے پہلے اس قسم کا پر حکمت و اسرار طریقہ طہارت نہیں سکھایا۔ وضو کی تاریخ کے متعلق اتنا جان

لیجئے کہ یہ اس وقت سے فرض ہوا جس وقت سے اسلام کی عبادت فرض ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو وضو سکھایا تھا اگرچہ اس وقت وضو کی یہ موجودہ صورت نہ تھی تاہم طریقہ طہارت پہلی وحی کے اندر حضور ﷺ کو سکھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ (مذثر: 4-3)

”یعنی اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک کر۔“

اس حکم میں بطور دلالت النص اور عبارة النص کپڑوں وجگہ کی طہارت بھی داخل ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ابواب میں کہیں بیان ہوا۔ الغرض وضو پر عمل تو اسی روز سے شروع ہو گیا تھا جس روز سے عبادت فرض ہوئی تھی مگر ابتداء میں وضو کی یہ موجودہ صورت نہ تھی لوگ جلدی سے التماسیدھا وضو کر لیا کرتے تھے یعنی اپنے بدن اور کپڑوں کی پاکیزگی معمولی طریقہ سے حاصل کر لیتے تھے۔ بالآخر ۵ھ میں یہ حکم نازل ہوا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ

أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

”جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر پر مسح کرو

اور ٹخنوں تک پیر دھولو“۔ (المائدہ: 6)

اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد وضو کی موجودہ صورت متعین ہو گئی اور ابتداء میں یہ صورت تھی کہ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا لازمی تھا۔ مذکورہ بالا حکم کے نزول کے بعد ہر وقت تازہ وضو کرنا لازم امر نہیں رہا۔ مسلمانوں سے اس حکم کی پابندی اٹھالی گئی۔

وضو کے فرائض

احناف کے نزدیک وضو میں چار باتیں فرض ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کے مطابق یہ ہیں۔

۱۔ چہرہ کا دھونا، طول میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور

عرض میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔

۲۔ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت پانی بہانا۔

۳۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔

۴۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔

## وضو کی سنتیں

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں چودہ باتیں سنت ہیں جن سے وضو کے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ جن کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ پہنچوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں:

اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمرن يده في الاناء

حتى يغسلها ثلثا فانه لا يدري اين باتت يده۔

”تم میں سے جو کوئی جب خواب سے بیدار ہو تو اس کو ہرگز ہرگز برتن میں ہاتھ نہ ڈال دینا چاہئے جب تک کہ وہ تین مرتبہ نہ دھو لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ سوتے ہیں کہاں کہاں لگے ہیں۔“ (53)

اس حدیث کی بناء پر وضو سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کا دھونا سنت ہوا۔

۲۔ زبان سے بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَام۔ یا بِسْمِ

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ کا پڑھنا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں:

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ۔ ”یعنی جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔“

اس کا معنی یہ نہیں کہ جو شخص بسم اللہ نہ پڑھے اس کا حقیقت میں وضو ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ

”لا“ واسطے نفس جنس کے ہے جس سے مراد نفی فضیلت ہے یعنی جو بسم اللہ نہ پڑھے وہ وضو کی

فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔

۳۔ مسواک کرنا۔ کیونکہ رسول خدا ﷺ نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ مسواک کرنا حضور

53۔ صحیح مسلم مع شرح نووی، کتاب الطہارہ، 3/153 (278)، دارالکتب العلمیہ بیروت۔



ﷺ لواتنا محبوب و مرغوب تھا کہ آپ نے مرض الموت میں بھی مسواک کی۔ یہ ایسی سنت موکدہ ہے کہ چھ ائمہ حدیث نے اپنی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ

عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔ (54)

”فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اگر میں اپنی امت پر اس امر کو بھاری اور شاق نہ سمجھتا تو ان کو حکم دیتا کہ وہ نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں۔“

۴۔ ناک میں پانی ڈالنا۔

۵۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔

۶۔ کلی کرنا۔

۷۔ وضو کی نیت کرنا۔

۸۔ وضو کی ترتیب ملحوظ رکھنا یعنی اول ہاتھ دھونا پھر کلی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا پھر منہ

دھونا وغیرہ۔

۹۔ پے در پے دھونا۔ یعنی پہلے عضو کے خشک ہونے سے قبل دوسرے عضو کو دھونا۔ یہ نہ

ہو کہ مثلاً منہ دھو کر باتیں کرنے لگے یا اور کوئی کام کرنے لگے اتنی دیر میں منہ خشک ہو گیا اور

پھر دوبارہ یہیں سے وضو شروع کیا۔

۱۰۔ داڑھی میں خلال کرنا۔ جس کی صورت یہ ہے کہ ہتھیلی آگے کور ہے اور پشت دست

اندر کی طرف۔

۱۱۔ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا۔ جس کی ترکیب یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے

دائیں پاؤں کی چھنگلی میں خلال کرے پھر اس کی برابر والی انگلی میں کرے اور بالآخر بائیں

پاؤں کی چھنگلی پر لا کر ختم کر دے۔ خلال کے وقت بائیں ہاتھ کی چھنگلی کو پاؤں کی انگلیوں کی

جڑوں کے نیچے سے اوپر کھینچے۔

۱۲۔ سارے سر کا مسح کرنا۔

۱۳۔ کانوں کا مسح کرنا۔

۱۴۔ ہر عضو کو تین بار دھونا۔

وضو میں یہ چودہ باتیں سنت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کے ان اعضاء کو دھو کر فرمایا کہ

”یہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ یعنی ان اعضاء کا دھونا ضروری لازمی ہے۔ دو دو مرتبہ ان اعضاء کو دھو کر فرمایا کہ یہ وضو ہے جو دگنا اجر چاہے اور تین تین مرتبہ دھو کر فرمایا یہ میرا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے جو اس پر زیادتی یا کمی کرتا ہے وہ حد کو توڑتا ہے اور ظلم کرتا ہے“۔ (55)

سر اور کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ

سر اور کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور انگلیوں کو نئے پانی سے تر کر کے اول مقدم سر سے گدی تک اس طرح کھینچے کہ دونوں ہاتھوں کی چھ انگلیاں ایک دوسرے کے سرے سے ملی ہوئی رہیں اور ہتھیلیاں متصل نہ رہیں۔ پھر لوٹاتے وقت ہتھیلیاں وسط سے متصل رہنی چاہیں اس کے بعد کلمہ کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے مسح کے لئے جدید پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ سر کے مسح کے لئے جو پانی لیا گیا ہے وہی گردن اور کانوں کے لئے بھی کافی ہے۔

ہدایت

وضو کے مسائل میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دھونے سے مراد پانی کا بہانا اور مسح سے مراد پانی کی تری پہنچانا ہے۔

وضو کے مستحبات

وضو کے مستحبات سترہ ہیں:

۱۔ قبلہ رخ بیٹھنا۔

۲۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا۔

۳۔ وضو کا لوٹا بائیں طرف رکھنا۔

۴۔ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔

۵۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔

۶۔ اعضاء کو ملنا۔

۷۔ وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر لینا۔

۸۔ انگٹھی کو انگلی میں گھمانا۔

۹۔ ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ کہنی۔

۱۰۔ درود شریف پڑھنا۔

۱۱۔ گردن کا مسح کرنا۔

۱۲۔ دھونے کے وقت ہر دائیں عضو سے ابتدا کرنا۔

۱۳۔ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا۔

۱۴۔ اعضاء مقررہ کو حد و معینہ سے زائد دھونا۔

۱۵۔ بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں کا دھونا۔

۱۶۔ بذات خود وضو کرنا۔ بلا عذر وضو کرنے میں کسی دوسرے سے مدد نہ مانگنی۔

۱۷۔ وضو کی مقررہ اور مسنونہ دعائیں پڑھنا۔

وضو کی مسنونہ دعائیں

ہر ایک عضو کو دھوتے وقت علیحدہ علیحدہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن کو با ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ

وَمُحَسِّنِ عِبَادَتِكَ.

”اے اللہ تلاوت قرآن پر میری مدد کر اور اپنے ذکر اپنے شکر اور اپنی عبادت کی  
خوبی پر“

ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ۔

”اے اللہ! مجھ کو جنت کی خوشبو سنکھا اور نالہ دوزخ کی بو نہ سنکھا“۔

منہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهٌ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ۔

”اے اللہ! میرا چہرہ روشن کر جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت  
سے سیاہ ہوں گے“۔

دایا ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَسَابِي حِسَابًا يَسِيرًا۔

”اے اللہ! میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرما اور میرا حساب آسان  
کر دینا“۔

بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي۔

”اے اللہ! میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ ہی میری پیٹھ کے  
پیچھے“۔

سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ وَلَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّ

عَرْشِكَ۔

”اے اللہ! مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس روز سوائے تیرے عرش کے سایہ  
کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا“۔

کانوں کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ  
أَحْسَنَهُ

”اے اللہ! مجھ کو ان لوگوں میں سے کر جو قول کو سنتے ہیں اور اچھے قول کی پیروی کرتے ہیں“

گردن کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ-

”اے اللہ! میری گردن کو آگ سے بچا“-

دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ ثَبِّثْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ-

”اے اللہ! میرے دونوں پاؤں کو ثابت رکھ صراطِ مستقیم پر جس دن پھیلیں گے

پاؤں“-

بایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَ سَعْيِي مَشْكُورًا وَ تِجَارَتِي لِنُ

تَبُورًا-

”اے اللہ! میرے گناہوں کو بخشا ہوا کر میری کوشش کو قبول اور میری تجارت برباد

ہونے والی نہ ہو“-

وضو کے بعد کی دعا

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کیلئے بہشت

کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ (56)

نیز حدیث میں آیا ہے جو کوئی وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے گا اس کے عمل خبط نہ ہوں

گے۔ وضو کے بعد کی دعاؤں کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ (القدر: 1) پڑھے

پھر کلمہ شہادت اور پھر اس دعا کو:

56۔ صحیح مسلم شرح نووی کتاب الطہارہ جلد 3 صفحہ 102، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي۔

”اے اللہ! مجھے حقیقی توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور اے اللہ! مجھے ظاہری و باطنی صفائی رکھنے والوں میں سے بنا دے اے اللہ! میرے گناہ بخش، میرے گھر میں کشائش کر اور میرے رزق میں برکت دے۔“

مکروہات وضو

وضو میں بارہ (۱۲) باتیں مکروہ ہیں:

- ۱۔ ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔
- ۲۔ حاجت سے کم و بیش پانی کا خرچ کرنا۔
- ۳۔ شدید ضرورت کے بغیر دنیا کی باتیں کرنا۔
- ۴۔ تین بار مسح کرنا اور ہر بار نیا پانی لینا۔
- ۵۔ مسجد کے اندر وضو کرنا۔
- ۶۔ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔
- ۷۔ کسی برتن کو اپنے لئے خاص کر لینا۔
- ۸۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنے یا ناک میں ڈالنے کے لئے پانی لینا۔
- ۹۔ بلا عذر دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔
- ۱۰۔ جس پانی سے وضو کیا جائے اس میں تھو کنا، سنکنا۔
- ۱۱۔ چہرے پر پانی زور سے مارنا۔
- ۱۲۔ پاؤں دھوتے وقت ان کو قبلہ کی طرف سے نہ پھیرنا۔

ہدایات

ہندوستان کے ناپ تول کے حساب سے وضو کے لئے ڈیڑھ کلو پانی کافی ہے اس سے زیادہ اسراف ہے۔ اعضاء وضو کو تین بار دھونا افضل ہے اور اسی کی نسبت سے احادیث میں تمام اسپرغ اور تکمیل کے الفاظ آئے ہیں۔ پس گودو مرتبہ یا صرف ایک مرتبہ دھونے سے

بھی وضو ہو جاتا ہے لیکن افضل تین بار ہی دھونا ہے۔ تین بار سے زیادہ دھونا منع ہے اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو پھر سے وضو کرنا چاہئے۔

مسواک کا مسنون طریقہ اور ثواب

مسواک میں حسب ذیل امور مسنون ہیں۔

مسواک سیدھی ہو، ایک بالشت کی برابر ہو، زیادہ موٹی نہ ہو، چھنگلی کے برابر موٹی ہو، کسی تلخ لکڑی کی ہو اور اگر زیتون کی ہو تو افضل ہے۔ مسواک داہنے ہاتھ میں پکڑنی چاہیے۔ دانتوں پر عرضاً کرنی چاہئے طولاً نہیں۔ کم از کم تین مرتبہ اوپر دانتوں میں اور تین مرتبہ نیچے کے دانتوں میں کرنی چاہیے اور کلی کے علاوہ تین بار جدید پانی استعمال کرنا چاہیے۔

حسب ذیل امور مکروہ ہیں:

لیٹ کر مسواک کرنا، مٹھی سے پکڑنا، چوسنا، فراغت کے بعد بغیر دھوئے رکھ دینا، مسواک کھڑی نہ رکھیں اور بانس کی لکڑی کی مسواک کرنی بھی مکروہ ہے۔ (57)

یہ تمام امور مسواک میں مکروہ ہیں۔ طبی مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ ان باتوں کے کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً مسواک کو مٹھی سے پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

الصلوة بسواک خیر من سبعین صلوة بغير سواک۔

”یعنی جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا ثواب ان ستر نمازوں سے

زائد ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائیں۔“

اس سے زیادہ مسواک کا ثواب اور کیا ہوگا کہ با مسواک وضو اور نماز بے مسواک وضو

اور نماز سے بدرجہا بڑھ کر افضل ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے کانوں پر مسواکیں

اس طرح دکھائی دیتی تھیں جیسے کاتبوں کے کانوں پر قلم ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایت کے

الفاظ یوں ہیں۔ كالقلم على اذن الكاتب۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ طرز

عمل رسول اللہ ﷺ کی اتباع میں تھا۔ حضور ﷺ نے اس پر مداومت اور ہیشگی کی جس کے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں۔

حضور ﷺ نے مسواک کو اس قدر اہمیت اور افضلیت کیوں دی؟ اس لئے کہ اس سے دانت اور منہ صاف رہتے ہیں۔ دانت ہر قسم کے میل کچیل سے صاف رہتے ہیں ان میں پیپ اور مادہ فاسد جمع نہیں ہو سکتا اور اس طرح پائریا ہونا ناممکن ہے۔ یہ نامراد بیماری دانتوں کی پیپ اور فاسد مادوں سے پیدا ہوتی ہے۔ معدہ کو تقویت پہنچتی ہے غذا جلدی ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت ہشاش و بشاش رہتی ہے۔ تمام اعضاء میں طاقت اور چہرہ پر شادابی آتی ہے۔ طبیعت میں فرحت و انبساط اور دل میں جوش و ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض مسواک پر مداومت کرنے سے صحت جسمانی پر عمدہ اثر پڑتا ہے اور صحت جسمانی پر ہی تمام عبادات پر اخلاقی فرائض کی بجا آوری کا دار و مدار ہے اور اس سے کار خیر کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

یہاں حفظ صحت کے اصول کو یاد رکھئے کہ صحت جسمانی صحیح قوت ہضم کے بغیر ممکن نہیں اور ہضم صحیح موقوف ہے دانتوں اور منہ کی صفائی پر۔ یعنی ان کو تمام فاسد زہریلے اور مضر صحت مواد سے صاف رکھا جائے اور یہ صفائی مسواک کے ذریعہ اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے اور اسی بناء پر شارع علیہ السلام نے اس کی ترغیب و تحریص دلائی ہے اگر ہم مسواک کی عادت ڈال لیں تو نہ دانتوں کے درد کی تکلیف باقی رہے نہ ان کو نکلوانے کی نوبت آئے اور نہ منجنوں کی ضرورت پڑے۔ ادھر مسواک کرنے سے آنکھوں میں روشنی، جگر میں قوت، معدہ میں طاقت اور دماغ میں صفائی بھی ہو جائے اور ان تمام باتوں کی وجہ سے عبادت میں ذوق اور روح میں روشنی حاصل ہو۔ لہذا ہر مسلمان نمازی کو مسواک کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔

### نواقض وضو

یعنی وضو توڑنے والی چیزیں یہ ہیں:

۱۔ پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے کسی نجس چیز کا برآمد ہونا۔

۲۔ بدن کے کسی حصہ سے خون، پیپ یا لہو کا نکل کر اپنے مخرج سے پاک جگہ پر بہہ جانا۔



۳۔ منہ بھر کرتے آنا۔

۴۔ ٹیک لگا کر یا تکیہ کے سہارے سو جانا۔

۵۔ نشہ میں سرمست و مدہوش ہو جانا۔

۶۔ بے ہوش ہو جانا۔

۷۔ بالغ کا نماز کے اندر قہقہہ مار کر قصد آیا سہوا ہنسنا۔

۸۔ مباشرت فاحشہ۔

یہ آٹھ امور ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان کی علیحدہ علیحدہ تشریحات کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔

### تشریحات

پیشاب پاخانہ کی جگہ سے جو نجس چیز بھی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً پیشاب، پاخانہ، مذی، ودی، اور ریح وغیر ان سب چیزوں کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء

الاما خرج من قبل او دبر۔

”یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ وضو نہیں ٹوٹتا مگر آگے پیچھے سے کچھ نکلنے سے۔“

۲۔ بدن کے کسی حصہ سے خون، پیپ یا خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ جانا ناقص وضو ہے یعنی وضو توڑنے والا ہے۔ اس کے لئے شرط خروج ہے کیونکہ نجاست کے اندر جب تک وصف خروج نہ پایا جائے وہ ناقص وضو نہیں ہے۔ پس اگر زخم سے خون نکلا مگر وہ اپنی جگہ سے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر وہ اپنی جگہ سے بہہ کر آئیں پاس جگہ پر پہنچے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر ناک سے خون بہہ گیا تب وضو ٹوٹ جائے گا۔

۳۔ منہ بھر کرتے آنا ناقص وضو ہے یعنی قے کے ناقص ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر کر نہ آئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کا جی متلایا اور تھوڑی تھوڑی کئی مرتبہ قے آئی تو اب اس کی مقدار کو دیکھنا چاہیے اگر اس کی مقدار منہ بھر قے کی مقدار کو پہنچی ہو تو وضو ٹوٹ

جائے گا اگر اس سے کم مقدار ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

۴۔ ٹیک لگا کر یا تکیہ کے سہارے سونانا ناقض وضو ہے۔ پس اگر کوئی شخص بیٹھا بیٹھا اونگھ رہا ہو تو اس سے وضو نہ ٹوٹے گا جب تک کہ گرنے جائے۔ گرنے کے بعد بھی اگر فوراً ہی سنبھل گیا تو بھی وضو باقی رہے گا اسی طرح سوتا ہوا آدمی باتیں سنتا رہے تب بھی وضو نہ جائے گا۔

۵۔ مباشرت فاحشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ کہتے ہیں آپس میں دو شرمگاہوں کا بغیر کسی روک اور آڑ کے مل جانا۔ اس بناء پر یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ اپنی یا غیر کی شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح عورت کے چھونے سے بھی وضو نہیں جاتا تا وقتیکہ مذی خارج نہ ہو۔

۶۔ بے ہوشی اور دیوانگی ناقض وضو ہے جو مزید تشریح کی محتاج نہیں۔

۷۔ نیز مستی بھی ناقض وضو ہے مستی کی حد وضو کے توڑنے میں یہ ہے کہ چلنے میں تغیر کر دے یعنی قدم لڑکھڑانے لگیں اور چال متانہ ہو جائے۔

۸۔ بالخ کا نماز میں قہقہہ ناقض وضو ہے یہ اس نماز کا حکم ہے جو رکوع و سجود والی ہو۔ پس اگر کوئی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں قہقہہ مار کر بنے تو یہ قہقہہ ناقض وضو نہیں کیونکہ نماز جنازہ رکوع و سجود والی نماز نہیں۔

### مسائل متفرقہ

وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر ان میں سے کوئی عضو بال برابر سوکھا رہ جائے تو وضو نہ ہوگا لہذا اعضاء مفروضہ کے دھونے میں مبالغہ کرنا چاہیے تاکہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ وضو میں جتنی باتیں مسنون ہیں ان سنن کی غرض بھی یہی ہے کہ مفروضہ اعضاء کی تکمیل ہو۔

مسئلہ: شک و وہم ناقض وضو نہیں ہوتا یعنی اگر ایک شخص نے وضو کر کے نماز پڑھ لی پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اب اسے یہ شک گزرا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو تو اس شخص کو اپنے آپ کو با وضو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کو خلاف عادت پہلی مرتبہ اعضاء وضو دھونے یا مسح کرنے میں شک ہو اور یہ شک دوران وضو میں ہو تو جس عضو کی نسبت شک ہو اس

کو دوبارہ دھو لے یا مسح کرے۔ جیسی بھی صورت ہو اور اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو تو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں اور جو شخص شکی مزاج ہے تو بھی دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ دھونے نہ دھونے کے بارے میں شک ہو اور اگر یقیناً معلوم ہو کہ فلاں عضو نہیں دھویا مثلاً پاؤں تو پھر اس کو دوبارہ دھونا لازمی ہے۔ (58)

**مسئلہ:** اگر زخم کے اندر پتھری یا کیڑے نکلیں تو وضو نہیں جاتا لیکن اگر پیشاب کی جگہ سے نکلیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر پیشاب کی جگہ سے ریح نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں کیونکہ یہ نجس نہیں ہوتی۔

**مسئلہ:** پانی آنکھ، کان، یا ناف سے درد کے ساتھ نکلے وہ ناقض وضو ہے یعنی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ آنسو نکلنے اور پسینہ بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے زخم پر پٹی باندھی اور خون وغیرہ کی تری پٹی پر نمودار ہوگئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ باقی رہا تھوک اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تھوک میں خون کی سرخی غالب اور نمایاں نظر آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر زردی نمایاں ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔

**مسئلہ:** چونک کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر مچھر اور کھٹل کے خون چوسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چیچڑی کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ بڑی ہے تو چونک کے حکم میں ہے یعنی اس کے خون چوسنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر چھوٹی ہو تو مچھر کے حکم میں ہے یعنی اسکے خون چوسنے سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ (59)

**مسئلہ:** اگر کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہالے یا حوض میں گر پڑے یا پانی برستے میں باہر کھڑا ہے اور وضو کے چاروں اعضاء دھل جائیں تو اس کا وضو ہو جائے گا خواہ اس نے وضو کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ البتہ اسے وضو کا ثواب نہ ملے گا۔

**مسئلہ:** اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگا ہو اور خشک ہو گیا ہو جس کی وجہ سے پانی اس کے نیچے نہ پہنچ سکا تو اس کا وضو نہ ہوگا اور اگر کسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھی ہوگی تو اس نماز کا

58۔ درمختار کتاب الطہارۃ 283/1، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

59۔ فتاویٰ عالمگیری، باب لواقض الوضوء، جلد 1 صفحہ 11، مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ۔

لوٹانا واجب ہے کیونکہ ہاتھوں کا دھونا فرض ہے اس میں اگر بال برابر بھی خشکی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا اور جب وضو نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔

**مسئلہ:** ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لینا جائز ہے مگر اولیٰ یہی ہے کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرے تاکہ وضو کا ثواب مل جائے۔

**مسئلہ:** اگر وضو کر لیا اور اس سے کوئی عبادت ادا نہیں کی تو اس پر وضو کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے نہاتے وقت وضو کیا ہے اور ٹوٹا نہیں ہے تو اس سے نماز پڑھنی چاہیے دوسرا وضو خواہ مخواہ نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی نے وضو سے کم از کم دور کعتیں بھی پڑھ لی ہوں تو پھر دوسرا وضو کر لینے میں کچھ حرج نہیں۔

**مسئلہ:** وضو کرتے وقت کسی جگہ پانی نہیں پہنچا اور بعد میں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی تو اب اس جگہ تر ہاتھ پھیر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس جگہ پانی بہانا چاہیے۔

**مسئلہ:** اگر کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے ہوں اور ان میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھری ہو تو اس پر پانی بہا لینا ہی کافی ہے اور اگر پانی بہانا بھی ناممکن ہو تو صرف بھیگا ہوا ہاتھ پھیرے وضو ہو جائے گا۔ شریعت کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دینا چاہتی۔ حد ہے کہ اگر کسی زخم پر پانی نقصان دیتا ہو اور مسح کرنا بھی ممکن نہ ہو تو اس عضو کو خشک رہنے دیا جائے۔ بے وضو آدمی کے لئے قرآن شریف کو ہاتھ لگانا منع ہے ہاں پڑھنا جائز ہے یعنی بے وضو شخص قرآن کو زبانی تلاوت کر سکتا ہے مگر قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔

وضو کے متعلق چند ضروری مباحث و ہدایات

ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں ترتیب سنت موکدہ ہے اگرچہ قدوری نے اس کو مستحبات میں شمار کیا ہے لیکن ابن ہمام نے فتح القدر میں اس قول کو صاف طور پر رد کر دیا ہے اور صحیح مذہب یہی ہے کہ وضو میں ترتیب سنت موکدہ ہے جس کا بلا عذر شرعی ترک کرنا باعث ملامت ہے اس امر کی دلیل کہ ترتیب فرض و واجب نہیں یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ سے بے ترتیب وضو کرنا بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں مقدم بن معدی کرب سے مروی ہے۔

اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضوء فتوضأ  
فغسل کفیه ثلاثا وغسل وجهہ ثلاثا ثم غسل زراعیه ثلاثا  
ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه واذنہ۔

”یعنی آنحضرت ﷺ کے پاس وضو کرنے کے واسطے پانی آیا۔ پس آپ ﷺ نے وضو کیا اس طور پر کہ پہلے دونوں ہتھیلیاں دھوئیں اور منہ دھویا پھر دونوں ہاتھ دھوئے پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور پھر سر اور کان کا مسح کیا۔“ (60)

اس قسم کی اور روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص الٹا وضو کرے تو بھی ہو جائے گا مگر اس سنت موکدہ کا بلا عذر شرعی ترک کرنا قابل ملامت ہوگا۔

کل سر کا مسح کرنا سنت موکدہ ہے

حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور کل سر کا مسح کرنا سنت موکدہ ہے جس کا بلا عذر شرعی ترک کرنا صحیح نہیں۔ اکثر نمازی مسح کرتے وقت اس سنت کا خیال نہیں کرتے نیز مسح کرتے وقت سر پر سے عمامہ اتار لینا چاہیے ورنہ صرف عمامہ پر مسح درست نہ ہوگا چنانچہ نووی کی شرح صحیح مسلم میں موجود ہے۔

ولو اقتصر علی العمامة ولم یمسح شیئا من الرأس لم  
یجزہ ذلک عندنا بلا خلاف وهو مذهب مالک وابی  
حنيفة واكثر العلماء۔ (61)

”یعنی اگر عمامہ پر مسح کرے اور سر پر بالکل مسح نہ کرے تو کافی نہ ہوگا یہ نزدیک شافعیہ کے اور یہی مذہب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور اکثر علماء کا۔“

پس عمامہ پر مسح کرنا درست نہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔

60۔ سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ جلد 1 صفحہ 301، مکتبہ الرشید الریاض۔

61۔ شرح صحیح مسلم اللہ وی، کتاب الطہارۃ، 148/3، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

## پٹی اور جبیرہ کے مسائل

اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جوڑ کر ادھر ادھر بانس کی دو کھچیاں باندھ دیتے ہیں ان کھچیوں کو جبیرہ کہتے ہیں اس کے مسائل حسب ذیل ہیں۔

**مسئلہ:** جبیرہ اور پٹی کا ایک ہی حکم ہے اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور اسے کھول کر مسح کرنا نقصان کا باعث ہو پٹی کھولنے میں دقت اور تکلیف ہوتی ہو تو اس پٹی پر مسح کر لینا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو پھر پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ یہی حکم جبیرہ کا بھی ہے جب تک جبیرہ نہ کھول سکے اسی پر ہاتھ پھیر لیا کرے اور اگر اس کا کھولنا ممکن ہو تو زخم کی جگہ کو چھوڑ کر باقی حصہ کو دھولیا کرے۔

نصد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے۔

**مسئلہ:** اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ زخم کو چھوڑ کر اور سب جگہ کو دھوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر دھوسکتا ہے تو زخم کو چھوڑ کر باقی حصہ کو دھولے اور اگر نہیں دھوسکتا اور پٹی کھولنا ناممکن ہے تو پھر ساری پٹی پر مسح کرے جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔

**ہدایت:** پٹی اور جبیرہ میں بہتر تو یہی ہے کہ سارے جبیرہ اور پٹی پر مسح کرے اور اگر کل پر نہ کر سکے تو آدھی سے زائد پر کر لے اگر آدھی یا آدھی سے کم پر مسح کرے گا تو جائز نہیں۔

**مسئلہ:** اگر جبیرہ یا پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہ ہوا تھا تو پھر باندھ لے اور وہی پہلا مسح کافی ہے دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر زخم اچھا ہو گیا ہے اور اب باندھنے کی ضرورت نہیں تو مسح ٹوٹ گیا اب اتنی جگہ دھو کر نماز پڑھ لے۔ پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

## باب الغسل

### اقسام غسل

اسلام نے طہارت و پاکیزگی کے متعلق جو احکام دئے ہیں ان میں ایک حکم غسل بھی ہے۔ اہل علم و عقل جانتے ہیں کہ غسل حفظ صحت اور پاکیزگی و صفائی کے قوانین اور اصولوں میں سے ایک نہایت ضروری اور صحت افزاء اصول و قانون ہے جس کے روحانی جسمانی فوائد و منافع اظہر من الشمس ہیں۔ قطع نظر مذہب کے سوال کے تمام متمدن قوموں اور شائستہ لوگوں نے اس کی ضرورت و اہمیت اور افادہ حیثیت کو محسوس و تسلیم کیا ہے اور چونکہ طہارت و پاکیزگی کا اثر روح پر ضرور پڑتا ہے اور عبادت جو روح کی غذا ہے اس کے لئے طہارت بھی ایک مذہب نے جزو لاینفک قرار دی۔ اس لئے اسلام نے ہر طرح ایک کامل و مکمل مذہب سے طہارت و صحت کے اس اصول کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ بعض صورتوں میں اس عمل کو فرض قرار دیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا (النساء: 43)

اس آیت اور دوسری آیتوں میں جنبی ہونے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے یہ غسل غسل جنابت کہلاتا ہے۔

اسلام میں روزانہ غسل کے علاوہ غسل جنابت فرض اور ہفتے میں کم از کم ایک بار جمعہ کے دن نہانا سنت موکدہ ہے اس طرح جسم انسانی کا جو حصہ وضو میں دھلنے سے باقی رہ جاتا ہے اور جس کا روزانہ دھونا چنداں ضروری نہیں اس کی صفائی کا خاطر خواہ انتظام غسل کے ذریعہ کر دیا گیا ہے اور اسلام میں طہارت کبریٰ غسل کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ تمام بدن کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔

## اقسام غسل

اسلام نے غسل کی چار قسمیں قرار دی ہیں۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ ان میں سے جو غسل فرض ہیں اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ غسل جنابت، غسل بعد انقطاع حیض اور غسل انقطاع نفاس کے بعد۔

### فرض غسل کے اقسام و احکام

غسل فرض ہونے کی پہلی حالت جنابت ہے یعنی جماع کرنے یا احتلام ہونے کی صورت میں غسل کرنا فرض ہے اس حالت کو جنابت کہتے ہیں۔ اس غسل میں اسلام نے جسمانی اور روحانی فوائد کو مد نظر رکھا ہے۔ سینے جماع کے بعد انزالی صورت میں احتلام کی حالت میں خون کا اجتماع ہو کر تمام اعضاء و قویٰ کا خلاصہ منی کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے جس سے تمام عضلات و اعصاب کو ضعف پہنچتا ہے اس کا تدارک غسل سے کیا گیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد خون منتشر ہو کر تمام جسم میں پھر برابر تقسیم ہو جاتا ہے اور ضعف رفع ہو کر تازگی آجاتی ہے نیز اسلام اس کے علاوہ غسل کے ذریعے اس فعل طبعی کو اعتدال کی حالت پر لانا چاہتا ہے اس طرح کہ پاکیزگی اور طہارت کا خیال بہت بڑی حد تک انسان کو اس فعل کی وحشیانہ اور مضر رساں کثرت سے روک دیتا ہے۔

### غسل جنابت کب فرض ہوتا ہے؟

جاننا چاہیے کہ خروج منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس پر تمام آئمہ کا اجتماع ہے۔ خروج منی کے لئے دو قیدیں ہیں۔ اول انزال کے وقت ضروری ہے کہ منی کو دکر اور شہوت سے خارج ہو اب ایسا انزال خواہ کسی صورت سے ہو، خواہ چھونے سے یاد رکھنے اور سوتے یا جاگتے میں اور مرد سے ہو یا عورت سے بہر حال غسل کرنا فرض ہوگا۔ یعنی انزال سبب اور شرط ہے۔ بغیر انزال کے حالت جنابت طاری نہیں ہوتی اس بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر بوجھ اٹھانے یا بیماری سے یا کسی اور وجہ سے انزال ہو گیا تو غسل فرض نہ ہوگا۔

اس بات پر تمام آئمہ کا اتفاق ہے کہ وجوب غسل کا سبب منی کا کو دکر شہوت سے نکلنا ہے



اور منی کے اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہونے کی حالت میں اختلاف ہے۔ اس میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا ذکر پکڑا اس سے کچھ خیزی اور شہوت ہوئی جب خیزی اور شہوت میں سکون آ گیا تب منی نکلی۔ اس حالت میں بھی غسل فرض ہوگا۔  
زندہ اور بالغ مرد یا عورت کے قبل یا درمیان دخول حشفہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ صرف ادخال حشفہ سے غسل کرنا فرض ہوگا اور اگر جانور مردہ یا آدمی مردہ اور نابالغ سے وطی کی جائے تو ان تینوں صورتوں میں انزال شرط ہے بغیر انزال کے جنابت نہ ہوگی۔

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص سوتے سے جاگا ہو اور اس نے اپنے بستر پر یا ران پر یا سواخ ا حلیل میں تری پائی اور یہ یقین ہے کہ یہ منی ہے تو اس صورت میں غسل کرنا بہر حال واجب ہے خواہ احتلام ہونا یاد ہو یا نہ ہو۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ تری کی نسبت یقین ہو کہ یہ منی کی تری ہے اگر صورت یہ ہو کہ اس تری کی نسبت مذی یا ودی ہونے کا یقین ہے اور احتلام یاد نہیں تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ سونے سے قبل عضو مخصوص میں خیزی و تندگی تھی یا ساکن تھا؟ اگر خیزی و تندگی تھی تو غسل واجب نہیں اور اگر ساکن تھا تو غسل واجب ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خواب سے بیدار ہو جانے کے بعد احتلام ہو جانے کا لطف تو یاد ہے مگر بدن یا بستر پر احتلام کا کوئی اثر نہیں تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں۔

تشریح

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے سونے سے بیدار ہو کر اپنے بدن یا بستر پر تری پائی مگر احتلام یاد نہیں تو اب اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ سونے سے قبل اس کا عضو منتشر تھا یا ساکن؟ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ کوئی شخص کھڑا کھڑا یا بیٹھا بیٹھا سو گیا اور اگر کوئی تکیہ لگا کر اور پیر پھیلا کر آرام سے سو جائے اور جاگنے کے بعد تری پائے اور اس کی نسبت یقین ہو کہ وہ منی ہے تو اس پر بہر حال غسل واجب ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی کو احتلام ہوا مگر کھلا کچھ نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں لیکن حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً اس کو بھی غسل کر لینا چاہیے اور اسی پر بعض مشائخ نے

فتویٰ دیا ہے۔ اگر کسی نے جماع کیا یا احتلام ہوا اور اس نے سونے یا پیشاب کرنے سے قبل غسل کر لیا اور اس کے بعد منی کا بقیہ حصہ نکل آیا تو اس پر دوبارہ غسل کرنا واجب ہے اور اگر عورت غسل کر لے اور پھر اس کی اندام نہانی سے مرد کی منی کا کچھ حصہ خارج ہو تو اس پر بالا جماع غسل کرنا واجب نہیں۔ (62)

**مسئلہ:** اگر ایک شخص نشہ سے مدہوش تھا اور اس نے اپنے بدن پر یا بستر پر منی کا نشان پایا تو اس پر غسل کرنا واجب ہے اور یہی حکم مرگی والے کا ہے یعنی اگر مرگی والے نے افاقہ ہونے کے بعد منی کا نشان پایا تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔

**مسئلہ:** اگر مرد و عورت خواب سے بیدار ہوئے اور دونوں نے اپنے بستر پر منی پائی مگر ان میں سے ہر ایک احتلام کا منکر ہے مرد کہتا ہے مجھے احتلام نہیں ہوا اور عورت کہتی ہے کہ مجھے احتلام نہیں ہوا تو ان دونوں پر احتیاطاً غسل کرنا واجب ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ منی کا نشان طویل ہے یا گول؟ اگر طویل ہے تو مرد پر غسل واجب ہے اور اگر گول ہے تو عورت پر۔

**فرائض غسل**

غسل کے اندر تین باتیں فرض ہیں۔

۱۔ کلی کرنا غرغره کے ساتھ۔

۲۔ ناک میں پانی ڈالنا۔

۳۔ تمام بدن کا دھونا اور جہاں جہاں بالوں کے اگنے کی جگہ ہے وہاں وہاں پانی

پہنچانا۔

یعنی جنابت، حیض اور نفاس کے غسل کے تین فرائض ہیں:

۱۔ منہ بھر کر کلی کرنا۔

۲۔ ناک کے نرم چہرہ تک پانی پہنچانا۔

۳۔ سارے بدن کا دھونا خواہ مالش کرے یا نہ کرے۔

62۔ مدیۃ المصلیٰ، صفحہ 14، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔ پاکستان

ان تینوں فرائض کا مقصود یہ ہے کہ تمام بدن میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے اور جہاں تک انسان کے امکان میں ہے وہاں تک پانی پہنچائے۔ چنانچہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ بالوں کی ایک جڑ بھی سوکھی رہنے نہ پائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اگر عورتوں میں سر کے بال گندھے ہوئے نہ ہوں تو سارے بال بھگونا اور سب بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال برابر بھی سوکھا رہ گیا اور ایک بال کی جڑ میں بھی پانی نہ پہنچا تو غسل نہ ہوگا اور اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا ضروری نہیں لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے اگر بے کھولے جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بالوں کو کھول ڈالنا چاہیے اور پھر بالوں کو بھی پانی سے بھگونا چاہیے۔

عورتوں کے بدن پر جو زیور ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پھنسے رہتے ہیں اور ان کے نیچے پانی نہ پہنچ سکے مثلاً بالیاں، چھلے، انگٹھی اور کنگن وغیرہ۔ ان زیوروں کو خوب ہلا جلا کر ان کے نیچے پانی پہنچانا چاہیے تاکہ جسم کے تمام سوراخوں میں پانی پہنچ جائے۔ ہاں اگر یہ زیور اتنے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے پانی پہنچ جانے کا یقین ہو تو پھر ان کا ہلانا ضروری اور واجب نہیں تاہم پھر بھی ان کو احتیاطاً ہلا لینا چاہیے۔

ان تمام مسائل سے مقصود یہ ہے کہ بدن میں بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہنی چاہیے۔ چنانچہ اگر سارے بدن پر پانی پڑ جائے کلی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال لے تو غسل ہو جائے گا خواہ غسل کی نیت کرے یا نہ کرے مثلاً کوئی شخص بارش کے پانی میں کھڑا ہو جائے یا حوض میں گر پڑے اور منہ ناک میں بھی پانی پہنچ جائے تو غسل ہو جائے گا۔

## غسل کی سنتیں

غسل میں چار باتیں سنت ہیں:

۱۔ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا۔

۲۔ غسل سے قبل شرمگاہ دھونا۔ خواہ کوئی نجاست لگی ہو یا نہ ہو۔

۳۔ پاؤں دھونے کے علاوہ وضو کرنا۔

۴۔ تین بار سر اور تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ پہلے تین بار سر پر پانی ڈالے پھر تین بار دائیں موٹھے پر اور تین بار بائیں موٹھے پر۔

## غسل کے مستحبات

غسل میں یہ آٹھ چیزیں مستحب ہیں:

۱۔ ہاتھ دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنی۔

۲۔ ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنی۔

۳۔ نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا۔

۴۔ ایسی جگہ نہانا جہاں کوئی نہ دیکھے۔

۵۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرنا۔

۶۔ ضرورت سے زائد یا کم پانی صرف نہ کرنا۔

۷۔ غسل کے بعد کسی موٹے کپڑے سے بدن خشک کرنا۔

۸۔ تمام بدن پر پانی مل لینا تاکہ سب جگہ پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔

## متفرق یادداشتیں اور ہدایتیں

۱۔ غسل کرتے وقت اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو پھر غسل کرنا ہوگا۔

۲۔ عورت کو غسل جنابت کے لئے بالوں کی مینڈھیاں کھولنے کی ضرورت نہیں صرف

بالوں کی جڑیں تر کر لینا اور تین مرتبہ سر پر اچھی طرح پانی ڈال لینا کافی ہے۔

۳۔ دانتوں میں اگر گوشت کا ریشہ یا اور کوئی کھانا رہ جائے یا اور کوئی چیز رہ جائے جو

پانی نہ پہنچنے دے تو غسل نہ ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی شخص غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گیا اور نماز کے وقت تک اس کو یہ بات

یاد نہیں آئی البتہ اس عرصہ میں پانی ضرور پیا ہے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں وہ پانی

پی لینا ہی غسل کی بجائے ہوگا۔

۵۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی نہ ڈال سکے مثلاً سر میں کوئی زخم ہے اور پانی

ضرر دیتا ہو تو ہر چھوڑ کر باقی سارا بدن دھولے اور پھر تندرست ہونے کے بعد سردھولے۔  
۶۔ کلین اور ناف میں بھی اچھی طرح خیال کر کے پانی پہنچانا چاہئے اگر پانی نہ پہنچے گا  
غسل نہ ہوگا۔

۷۔ اگر بالوں میں ہاتھ پاؤں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی نہیں ٹھہر سکتا بلکہ  
پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں۔ جب اپنی طرف سے تمام بدن پر پانی  
ڈال لیا جائے اور پانی پہنچائے بغیر ایک بال برابر بھی جگہ نہ رہنے دی تو بس غسل ہو گیا۔  
۸۔ اگر ناخن میں آٹا یا اور کوئی سخت چیز لگی رہ جائے اور سوکھ جائے اور اس کے نیچے  
پانی نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا۔ اگر غسل کرنے کے بعد یہ بات یاد آئے تو آٹا چھڑا کر صرف پانی  
ڈال لے اور اگر اس طرح پانی پہنچانے سے قبل کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کی قضا کرے۔  
۹۔ اگر غسل کرنے کے بعد یاد آئے کہ فلاں جگہ خشک رہ گئی تو دوبارہ غسل کرنے کی  
ضرورت نہیں صرف اسی جگہ پر پانی بہا لینا چاہئے۔

۱۰۔ عورت کو مسی کی دھڑی چھڑا کر غسل کرنا چاہئے ورنہ غسل نہ ہوگا اسی طرح اگر  
افشاں چنی ہو یا بالوں میں گوند لگا ہو جس کی وجہ سے بال اچھی طرح نہ بھیگ سکیں تو گوند اور  
افشاں وغیرہ کو چھڑا کر دھو ڈالنا واجب ہے۔

۱۱۔ مرد کو غسل کرنے کے بعد جنبی عورت کے ساتھ سونا اور بدن لگانا جائز ہے۔

۱۲۔ جنبی سے مصافحہ کرنا درست ہے۔

۱۳۔ اگر حالت بیماری میں نہانے کی حاجت ہو اور نہانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ

ہو تو تیمم کر لینا چاہئے۔

## آداب غسل

کھلے میدان میں اور آبادی میں نہانا حرام ہے۔ غسل خانہ میں یا کسی اوٹ اور پردہ کی  
جگہ نہانا چاہئے۔ اگر مرد جنبی ہو اور جگہ ایسی ہو کہ غسل کرنے میں مردوں سے بے پردگی  
ہوتی ہو اس طرح اگر عورت جنبی ہو اور غسل کرنے میں عورتوں سے بے پردگی ہوتی ہو تب  
بھی غسل کرنا لازم ہے تیمم جائز نہیں اگر صورت یہ ہو کہ مرد کی عورتوں سے اور عورت کی

مردوں سے بے پردگی ہوتی ہو تو غسل نہ کرنا چاہئے تیمم کرے۔ مگر یہ حکم اس وقت ہے جب کہ تاخیر کرنے میں نماز قضا ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ ورنہ جائز نہیں۔

اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے تو ننگے ہو کر نہانا بھی جائز ہے خواہ کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر اختیار ہے۔

اگر پانی ٹھہرا ہوا ہو اور اسی سے غسل مطلوب ہو تو اس پانی کے اندر غسل نہ کرے بلکہ اس میں سے پانی لے کر الگ غسل کرے۔

### جنبی کے لئے قرآن اور دیگر دینی کتب چھونے کے احکام

حیض و نفاس والی عورت اور جنبی مرد کو کلام مجید کا چھونا، پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ناپاک مرد و عورت قرآن پاک کی کوئی پوری آیت تلاوت نہیں کر سکتے البتہ ایک آیت سے کم اور فاتحہ کا مقصد دعا اور ان آیات کا جو دعا سے مشابہ ہوں دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔

اگر کسی نے کوئی بری خبر سن کر **إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (البقرہ) کہا یا کوئی خوشخبری سن کر **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** کہا یا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی تو جائز ہے بشرطیکہ تلاوت قرآن کا قصد نہ ہو۔

تنبیہ

حائض، نساء اور جب کو قرآن کے سچے اور بچوں کو حرفاً حرفاً پڑھانا مکروہ نہیں۔ ناپاک مرد و عورت کو قرآن کا لکھنا بھی جائز ہے ان تمام مسائل کا منشاء تعظیم قرآن ہے۔ یعنی قرآن کو حدیث اکبر یا حدیث اصغر کی صورت میں ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ محدث بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا جبکہ قرآن پاک جزدان میں نہ ہو۔

مسئلہ: محدث (بے وضو) شخص کے لئے قرآن پاک کی تفسیر اور کتب فقہ کو چھونا مکروہ ہے البتہ اگر آستین سے پکڑ لیا جائے تو کچھ حرج نہیں اور محدث کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا مکروہ نہیں۔

مسئلہ: جنسی مرد و عورت کو مسجد میں جانا اور طواف کرنا جائز نہیں اور نہ وہ مسجد کو بطور راستہ عبور کر سکتا ہے۔

### غسل کی بقیہ اقسام

فرض غسل کے بعد واجب غسل کا درجہ ہے اور واجب غسل صرف دو ہیں۔

۱۔ زندوں پر مردہ کو غسل دینا۔

۲۔ تمام بدن کا نجاست آلود ہو جانا یا اگر بدن کے کسی حصہ پر نجاست لگ جائے اور

مکان نجاست معلوم نہ ہو تو سارے بدن کا غسل واجب ہے۔

سنت غسل پانچ ہیں:

۱۔ جمعہ کی نماز کے لئے۔

۲۔ عیدین کی نماز کے لئے۔

۳۔ احرام حج یا عمرہ کے لئے۔

۴۔ عرفات میں ٹھہرنے کے لئے۔

۵۔ اسلام میں داخل ہونے کے وقت۔

مستحب غسل بیس (۲۰) ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ دیوانگی، غشی اور نشہ کی سرمستی دور ہونے کے بعد۔

۲۔ چھپنے لگوانے کے بعد۔

۳۔ شعبان کی پندرہ تاریخ کو۔

۴۔ نویں ذی الحجہ کی رات کو۔

۵۔ مقام مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت۔

۶۔ ذی الحجہ میں قربانی کرنے کے وقت۔

۷۔ کنکریاں پھینکنے کے لئے منیٰ میں داخل ہونے کے وقت۔

۸۔ طواف زیارت کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے وقت۔

۹۔ شب قدر میں۔

- ۱۰۔ چاند اور سوج کے گرہن کے وقت۔
- ۱۱۔ طلب بارش کی دعا کے لئے۔
- ۱۲۔ کسی خوف کے وقت۔
- ۱۳۔ سخت آندھی آنے کے وقت۔
- ۱۴۔ کسی اور آفت ارضی و سماوی کے رفع کرنے کے لئے۔
- ۱۵۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت۔
- ۱۶۔ نئے کپڑے پہنتے وقت۔
- ۱۷۔ مردہ نہلانے کے بعد۔
- ۱۸۔ مقتول کو غسل دینا۔
- ۱۹۔ سفر سے مراجعت کے وقت۔
- ۲۰۔ مستحاضہ عورت پر ہر نماز کے لئے۔

### غسل کرنے کا مسنون طریقہ

یہاں پہلے وہ حدیث درج کر دینا ضروری اور مناسب ہے جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے لئے غسل کا پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے پہلے دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھوئے پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھویا اور دونوں پر پانی بہا لیا اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر رگڑ کر دھوئے اور نماز کی طرح وضو کر کے تمام جسم اطہر پر تین مرتبہ پانی بہایا اور پھر وہاں سے علیحدہ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔

اب ہم غسل کا وہ طریقہ درج کرتے ہیں جس میں غسل کے تمام فرائض، سنتیں اور مستحبات آجاتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے۔

غسل کرنے والے کو چاہئے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے غسل نہ کرے۔ اول پہنچوں تک دونوں ہاتھ بسم اللہ کہہ کر دھوئے پھر استنجا کرے خواہ بدن پر نجاست کا اثر ہو یا نہ ہو۔ پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے پھر وضو کرے۔ اگر کسی اونچے پتھر یا چوکی پر



غسل کر رہا ہے تو پاؤں بھی دھوئے اور اگر ایسی جگہ ہو کہ پاؤں نجاست آلود ہوتے ہوں تو پاؤں نہ دھوئے باقی تمام وضو کر کے تین مرتبہ سر پر پانی ڈالے پھر تین مرتبہ داہنے مونڈھے پر اور تین مرتبہ بائیں مونڈھے پر پھر اس غسل والی جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ پاؤں دھوئے اور اگر مذکورہ بالا صورت میں وضو کرتے وقت شروع میں ہی پاؤں دھولے ہوں تو پھر فارغ ہونے کے بعد دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں۔

## باب الحیض والنفس

حیض ایک ایسا عام لفظ ہے جس کو عورت و مرد سب جانتے ہیں حیض کے متعلق کچھ احکام عورتوں سے متعلق ہیں اور کچھ مردوں سے جن کا نکاح ہو چکا ہے۔ یہاں ہم ان احکام و آداب کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

### حیض کی تعریف

لغت عرب میں حیض اس خون کا نام ہے جو شرمگاہ سے نکلے چاہے وہ کسی صفت کا ہو اور اصطلاح شرح میں اس خاص خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کی شرمگاہ سے خارج ہو۔ حیض کے لئے فقہاء نے دو قیدیں لگائی ہیں اول یہ کہ عورت جوان ہو۔ دوسری تندرست ہو۔ پس جو خون جوان اور تندرست کے رحم سے خارج ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ مذکورہ بالا دو قیدوں سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حیض کے حکم سے استحاضہ اور زخم کا خون خارج ہو گیا۔

### نفاس و استحاضہ کی تعریف

عورت کو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں اس کے متعلق یہ دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز کی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس مدت کے متعلق بھی وہی احکام ہیں جو حیض میں ہے۔ حیض کے معمولی اور عادی دنوں کے گزرنے کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو وہ بھی بیماری کا حکم رکھتا ہے اور اسے استحاضہ کہتے ہیں۔

شرع میں بارہ سال کی لڑکی جوان عورت کا حکم رکھتی ہے یعنی شریعت کی رو سے حد صغر ۱۲ سال ہے۔ پس اس عمر سے پہلے اگر کوئی لڑکی خون دیکھے تو وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اسی طرح سن یاس کے بعد خون جاری ہو وہ بھی استحاضہ ہے۔ سن یاس عورت کی اس عمر کو کہتے ہیں جب حیض آنے بند ہو جائیں۔ پس اگر کوئی کم سن بچی یا حاملہ عورت قبل ولادت

اور یا پچاس ساٹھ برس کی بوڑھی عورت خون دیکھے تو تینوں حالتوں میں وہ حیض کا خون نہ ہوگا بلکہ خون استحاضہ سمجھا جائے گا۔

خون حیض اور خون استحاضہ کی شناخت کی صورت یہ ہے کہ اگر خون سے بدبو آئے تو وہ خون حیض ہے اور اگر اس میں بدبو نہ ہو تو وہ خون استحاضہ ہے۔

### مدت حیض

حیض کی اقل مدت تین شبانہ روز ہے یعنی تین دن اور تین رات اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔ اس بناء پر یہ قاعدہ ہے کہ اگر عورت تین دن سے کم خون دیکھے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ چونکہ حیض دس دن سے زیادہ نہیں ہوتا اس لئے اس مدت کے بعد بھی اگر عورت خون دیکھے تو وہ بھی استحاضہ ہے یعنی جو خون تین دن اور دس دن کے علاوہ ہو وہ خون استحاضہ ہے

خون حیض چھ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اول سیاہ، دوم سرخ، سوم زرد، چہارم سبز، پنجم گدلا اور ششم خاکی۔ جب تک عورت سفیدی نہ دیکھے اس وقت تک خون حیض ہی سمجھے۔ صاحب ہدایہ نے خون کا رنگ دیکھنے کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر خون آلود کپڑا خشک ہونے کے بعد مذکورہ بالا چھ رنگ دے تو وہ خون حیض ہے اگر خشک ہونے کے بعد سفید ہو جائے تو وہ خون نہیں۔

حیض والی عورت کے لئے سات چیزیں حرام ہیں

وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ نماز پڑھنی
- ۲۔ روزہ رکھنا
- ۳۔ طواف کعبہ کرنا۔
- ۴۔ قرآن شریف پڑھنا۔
- ۵۔ قرآن شریف چھونا۔
- ۶۔ مسجد میں جانا
- ۷۔ جماع کرنا۔

حیض نماز کو ساقط کر دیتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں پڑتی۔ اسی طرح روزہ کو بھی ساقط کر دیتا ہے مگر روزوں کی قضا دینی پڑتی ہے اس کی وجہ کفایہ شعی نے یہ بیان کیا ہے۔

جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواری رضی اللہ عنہما دونوں نے اس جہان میں نزول اجلال فرمایا تو اس وقت حضرت حواری رضی اللہ عنہما نماز کی حالت میں تھیں تو آپ نے اچانک پہلی مرتبہ خون حیض دیکھا جو بہشت میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نماز کی بابت دریافت کیا کہ میں نماز ادا کروں یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ عز اسمہ سے۔ فرمان ہوا کہ وہ نماز نہ گزاریں۔ اس کے پندرہ روز بعد حضرت حواری رضی اللہ عنہما نے روزہ کی حالت میں خون حیض دیکھا اس کے متعلق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں روزہ رکھوں یا نہیں؟ آپ نے اپنے قیاس سے حکم دیا کہ روزہ بھی نہ رکھو۔ جس وقت حضرت حواری رضی اللہ عنہما حیض سے پاک ہوئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمان رب العزت پہنچایا کہ حواری رضی اللہ عنہما سے کہو کہ وہ روزہ کی قضا رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر مناجات کی خداوند! نماز میں تو قضا کا حکم نہ ہوا اور روزہ میں قضا کا حکم ہوا اس کی کیا وجہ؟ فرمان الہی ہوا کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم میں نے دیا تھا اس لئے اس کی قضا بھی معاف ہوئی اور روزہ نہ رکھنے کا حکم تو نے اپنے قیاس سے دیا تھا اس لئے اس کی قضا لازم رکھنی آئی۔

فتاویٰ حجت میں ہے کہ حیض والی عورت کے لئے مستحب ہے کہ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے تسبیح کہہ لیا کرے تاکہ نماز کی عادت میں سستی و غفلت نہ آنے پائے۔

پیغمبر خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جو حیض والی عورت ہر نماز کے وقت وضو کر کے ۶۰ بار استغفر اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہزار رکعت کا ثواب دیتا ہے، ساٹھ ہزار گناہ بخش دیتا ہے اور سات درجے بہشت میں بلند کرتا ہے اور جو عورت حیض سے پاک ہو کر اور غسل کر کے دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ الحمد شریف ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ تین بار ہر رکعت میں تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور آئندہ حیض تک ہونے والے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔

## ضروری مسائل

اگر عورت نے پاکی کی حالت میں نماز شروع کی یا روزہ رکھا اور پھر درمیان میں حیض شروع ہو گیا تو اگر روزہ و نماز نفل ہے تو دونوں کی قضا لازم ہے اور اگر روزہ و نماز فرض ہیں تو اس روزہ کی قضا لازم ہوگی مگر نماز کی قضا لازم نہ ہوگی۔ اس مسئلہ کی بنا یہ ہے کہ ہر نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے لہذا صورت مذکورہ میں نفل کا ادا کرنا انقطاع حیض کے بعد واجب ہو گیا کیونکہ یہ بات خود اس نے اپنے ذمے لی ہے۔

رہی یہ بات کہ فرض نماز کی قضا نہیں ہے مگر فرض روزہ کی قضا لازم ہے۔ سو اس کی ایک نقلی وجہ تو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور عقلی وجہ جو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ اسلام ایک آسان مذہب ہے وہ ہر مشکل امر میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اسلام کے اس قاعدہ کے مطابق اگر شریعت فرض نمازوں کی قضا کا حکم دیتی تو عورتیں ایک مشکل میں پڑ جائیں بر خلاف اس کے روزوں کی قضا دینے میں چنداں تکلیف نہیں۔ کیونکہ مدت حیض زیادہ سے زیادہ دس دن ہوتی ہے اس لئے سال بھر میں حیض کی وجہ سے اگر روزے قضا ہو سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صرف دس اور سال بھر میں دس روزوں کی قضا رکھ لینا کوئی مشکل بات نہیں اور نماز روزانہ پانچ وقت فرض ہے اس لئے ہر ماہ کی پچاس اور سال بھر کی چھ سو نمازیں ہوتی ہیں ایسی صورت میں ہر ماہ پچاس نمازوں کی قضا سخت دشوار ہے اس لئے نماز کی قضا معاف ہوئی۔

## طہر متخلل

مدت حیض میں جو پاکی دو خون کے درمیان ہے وہ پاکی بھی خون ہی کا حکم رکھتی ہے اور اس پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ شبانہ روز ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پس اگر کوئی عورت دس دن سے زیادہ خون دیکھے اور اس کی عادت قدیم دس دن سے کم تھی تو اس کے حیض کی مقدار اس کی عادت قدیم کے مطابق ہوگی اور اس کے علاوہ جو خون ہوگا وہ استحاضہ سمجھا جائے گا۔ مثلاً ایک عورت کی عادت آٹھ یوم تھی اور کبھی اتفاقاً دس دن تک خون دیکھا تو اس صورت میں آٹھ یوم حیض کے شمار ہوں گے اور دو دن استحاضہ کے۔

**مسئلہ:** اگر عورت پیچھے کی جانب خون دیکھے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے اسی طرح اگر حاملہ عورت حالت حمل میں خون دیکھے اور یا پیدائش سے قبل یا بعد دیکھے تو وہ خون بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے اگرچہ تین روز تک دیکھے۔ (سراجی، کبیر)

**مسئلہ:** کسی عورت کے مردہ لڑکا پیدا ہوا اور اس کے ہاتھ، کان، ناک و اعضاء وغیرہ بھی ہوں تو وہ فرزند زندہ کے حکم میں ہوگا اور اگر لڑکی ہو تو وہ ام ولد ہوگی جس کا فروخت کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور وہ خون نفاس ہوگا اور اول نفاس کی کوئی حد نہیں بعض عورتیں ایک روز میں پاک ہو جاتی ہیں اور بعض دو تین دن میں۔ خون نفاس سے پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا چاہئے۔ اگر چالیس دن اور چند روز خون دیکھا اور اس کی عادت قدیم چالیس یوم سے کم تھی تو عادت قدیم کے مطابق اتنے دن نفاس کے ہوں گے اور اس سے زائد استحاضہ کے اور اگر عورت کی عادت قدیم کچھ نہ تھی اول بار خون نفاس کی مدت چالیس یوم ہوگی اور چالیس یوم سے زیادہ جو دن ہوں گے وہ استحاضہ کے ہوں گے۔

یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے جو باتیں حیض والی عورت کے لئے جائز نہیں وہی نفاس والی عورت کے لئے بھی جائز نہیں۔

**مسئلہ:** ایک عورت کو اول مرتبہ دو دن خون آ کر بند ہو گیا پھر چھٹے دن آیا پنج میں چار دن پاک رہی تو اس عورت کے آٹھ دن حیض کے شمار ہوں گے۔ کیونکہ یہ عام قاعدہ ہے کہ جو طہر دو خونوں کے درمیان عشرہ حیض کے اندر ہو وہ پاکی نہیں ہے بلکہ حیض میں داخل ہے خواہ یہ پاکی کی عادت والی عورت ہو یا بالکل ابتدائی عورت کو۔

**مسئلہ:** اگر ایک عورت کو کوئی خاص عادت ہو اور اس کے مطابق حیض آتا ہو مگر ایک مہینہ میں اس عادت کے خلاف خون آجائے مثلاً پانچ دن کی عادت تھی اور ایک بار چھ سات یوم ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی عادت بدل گئی ہے اور دس دن تک یہ تمام حیض کے شمار ہوں گے۔

**قاعدہ:** ہر عورت کو یاد رکھنا چاہئے کہ حیض کی مدت زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔ سو جو خون دس یوم سے متجاوز ہو تو عادت کے ایام منہا کر کے زائد ایام استحاضہ کے سمجھنے چاہئیں

اور اگر عورت کی کوئی عادت ہی نہ ہو تو پھر دس دن حیض کے شمار ہوں گے اور باقی زائد دن استحاضہ کے۔

تنبیہ: استحاضہ کے ایام میں نماز و روزہ وغیرہ سب کچھ ادا کرنا لازم ہے۔

مسئلہ: اگر مستحاضہ عورت جس کو عرصہ سے خون جاری ہے اپنے حیض کے دنوں کو بھول جائے تو گمان غالب پر عمل کرے۔ یعنی جن دنوں کو طہر خیال کرے ان میں نماز و روزہ سب کچھ ادا کرے اور جن کو ایام حیض یقین کرے ان میں نماز و روزہ سب کچھ ترک کر دے۔

حائضہ عورت کو تفسیر، حدیث، اور فقہ کی کتابیں چھونا یا اس تختی یا تعویذ کو ہاتھ لگانا جس پر کوئی آیت قرآنی لکھی ہونا جائز ہے ہاں قبرستان اور عید گاہ میں جانا جائز ہے۔

مسئلہ: اگر عورت معلمہ ہو تو بچوں کو قرآن کی تعلیم اس طرح دے کہ ایک ایک کلمہ پڑھائے اور دو کلموں کے درمیان توقف کرے۔ پوری آیتوں کا رواں پڑھانا درست نہیں البتہ ہجا پڑھانا جائز ہے۔ تسبیح و تہلیل اور بسم اللہ پڑھنی بھی جائز ہے۔

ہدایت

حائضہ اور جنبی کو قرآن پاک کا چھونا جائز نہیں ہاں قرآن کو ایسے غلاف اور جلد کے ساتھ چھونا جو قرآن سے علیحدہ ہو ساتھ سیاہوانہ ہو جائز ہے اور اگر غلاف یا جلد قرآن سے چسپاں اور ساتھ سی ہوئی ہو تو ناجائز ہے۔

### حائضہ سے جماع اور استمتاع کا حکم

عرب والے حائضہ عورت کے ساتھ نہایت ہی نفرت و حقارت کا برتاؤ کرتے تھے نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور نہ سکونت رکھتے تھے۔ یہی دطیرہ یہودیوں اور مجوسیوں کا تھا۔ اس پر ثابت بن الدحداح رضی اللہ عنہ نے رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ شاید جاڑوں کے دن ہیں اور ہمارے پاس کپڑوں کی قلت ہے کیا ہم ایک کپڑے میں اپنی عورتوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟

اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَرْحُومَاتِ ۚ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَعَزَّزُوا لِلنِّسَاءِ فِي

الْمَحِضُ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٠١﴾ (البقرة)

”اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ ناپاکی ہے پس عورتوں سے حیض میں الگ رہو اور ان کے نزدیک نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو لیں اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔“  
یعنی تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم حائضہ عورتوں سے مجامعت نہ کیا کرو اور یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ ان کو گھروں سے نکال دیا کرو۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہود حالت حیض میں اپنی عورتوں سے غایت نفرت کا اظہار کرتے تھے یہاں تک کہ ان سے کلام نہ کرتے تھے اور نہ ان کی طرف نظر کرتے تھے اور نصاریٰ برعکس اس کے حالت حیض میں حد سے زیادہ اختلاط کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان سے زبردستی وطی کرتے تھے اس بناء پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعہ مسلمانوں کو افراط و تفریط سے روکا اور ایک معتدل حکم دے دیا یعنی حیض ایک ناپاکی ہے اس حالت میں اپنی عورتوں سے نفرت و کراہت کا اظہار تو نہ کرو بلکہ جماع سے الگ رہو اور اس اجتناب میں بڑی بڑی طبی مصلحتیں مضمحل ہیں وہ یہ کہ حالت حیض میں جماع کرنے سے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ حالت حیض میں جماع کرنے سے اسلام نے اس قدر شدید اور تاکید کے ساتھ روکا ہے کہ اس گناہ کو کبیرہ ٹھہرا دیا اور ساتھ ہی اس کو ایک ناقابل معافی جرم ٹھہرایا ہے۔ اگر کوئی شخص حائضہ عورت سے جماع کرے تو اس کو توبہ و استغفار کرنی چاہئے اور اگر صاحب استطاعت ہے تو صدقہ بھی دے جس کی مقدار ساڑھے چار تولہ سونا ہے۔ صدقہ کا حکم اس وقت ہے جب کہ ایسی حالت میں جماع کیا کہ خون سرخ آ رہا تھا اور اگر اس حالت میں جماع کرے کہ خون کا رنگ زرد ہو گیا ہو تو پھر سواد و ماشہ سونا خیرات کرنا چاہئے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے باقی رہا عورت کا سوال تو اس پر اس فعل کے ارتکاب کا



کوئی جرم نہیں سارا وبال مرد پر عائد ہوتا ہے۔

تشبیہ

زاہدی فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر و نہی دونوں کو نہایت ہی تاکید و تجدید کے ساتھ جمع کیا ہے۔ بخلاف باقی احکام کے اس بناء پر فقہانے فتویٰ دیا ہے جو شخص حالت حیض میں جماع کرنے کو حلال جانے وہ کافر ہے۔

الغرض حالت حیض میں جماع کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے جیسا کہ اوپر بتلادیا گیا باقی رہا اختلاط و استمتاع کا سوال سو اس کے متعلق حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک عورت سے لذت حاصل کرنا منع ہے اس حصہ کے علاوہ جس حصہ سے چاہے حظ و لطف حاصل کر سکتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاص شرمگاہ سے لذت حاصل کرنا منع ہے مگر فتویٰ اوپر والے قول پر ہے۔

مسئلہ: اگر عورت دس دن میں پاک ہوئی تو قبل از غسل بھی اس سے صحبت کرنا جائز ہے اور اگر دس دن سے کم ایام میں حیض منقطع ہو گیا تو دس روز گزرنے کا انتظار کرنا چاہئے۔ یا کم از کم نماز کا پورا وقت گزر جانا چاہئے کیونکہ ایسی عورت پر نماز بھی اس وقت فرض ہوتی ہے جب کہ نماز کے آخر وقت کا اتنا زمانہ موجود ہو۔

اگر کسی عورت کا حیض عادت مقررہ سے کم مدت میں منقطع ہو گیا تو غسل میں تاخیر کرنا واجب ہے مثلاً ایک عورت کی پانچ دن کی عادت مقرر تھی اور چار دن میں حیض منقطع ہو گیا تو ایک دن غسل میں تاخیر کرنی واجب ہے۔

نفاس کے خاص احکام و مسائل

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ نفاس والی عورت کے احکام و مسائل تقریباً وہی ہیں جو حیض والی عورت کے ہیں لیکن یہاں ہم نفاس کے متعلق خاص احکام و مسائل بیان کرتے ہیں یعنی جو نفاس والی عورت کے ساتھ مخصوص ہیں۔

۱۔ اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ چاک کر کے نکالا گیا ایسی حالت میں اگر رحم سے خون

جاری ہو تو اس پر نفاس کا حکم ہوگا ورنہ نفاس کا حکم نہ ہوگا۔ نماز و روزہ واجب الادانہ ہوگا۔  
۲۔ اگر کسی حاملہ کا بچہ نصف سے کم نکل کر رہے گا اور نماز کا وقت قریب الاختتام ہے تو چونکہ خون جاری نہیں ہوا ہے اس لئے نفاس کا حکم نہ ہوگا اور اس وقت کی نماز اشارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ ہاں نصف سے زائد بچہ خارج ہو گیا اور خون بھی جاری ہو گیا تو پھر نفاس کا حکم ہوگا اور نماز معاف ہو جائے گی۔

۳۔ جڑواں بچوں کی ماں کا نفاس اول بچہ کی ولادت سے معتبر ہے اگر دو بچوں کی ولادت کے درمیان چھ ماہ سے کم کا فاصلہ ہو تو جڑواں سمجھے جائیں گے اور چھ ماہ یا اس سے زائد فاصلہ ہو تو دو حمل قرار دیے جائیں گے۔

### استقاط کا حکم

اگر استقاط ایسی حالت میں ہوا ہو کہ ظہور اسفاء ہو چکا ہے یعنی چار ماہ کا حمل ہو گیا ہے تو ایسے استقاط کے بعد جو خون جاری ہوگا وہ نفاس کا خون سمجھا جائے گا اور اگر استقاط چار ماہ سے قبل ہوگا تو وہ خون حیض ہے بشرطیکہ پندرہ دن طہر کے گزرنے کے بعد تین دن خون جاری رہا ہو اگر تین دن خون جاری نہیں رہا یا تین دن جاری رہا لیکن پندرہ دن طہر کے پہلے نہیں گزرے تو یہ استحاضہ ہے۔

اگر استقاط حمل ہو کر خون جاری ہو گیا مگر یہ معلوم نہیں کہ بعض اعضاء کی خلقت کا ظہور ہو گیا یا نہیں مثلاً اندھیرے میں گر پڑا اور پھینک دیا گیا یا عورت حمل کے دنوں کو بھول گئی تو عورت پر لازم ہے کہ جو دن اس کے یقینی حیض کے ہوں خواہ پانچ یا سات یا دس وغیرہ تو ان میں نماز ترک کرے اور باقی ایام کو استحاضہ کے ایام خیال کر کے نماز ترک نہ کرے۔

### معذور کے احکام

شریعت میں معذور وہ شخص سمجھا جاتا ہے جس کا عذر ایک نماز کے پورے وقت میں برابر قائم رہے اور وہ شخص اس عذر کے روکنے اور دفع کرنے میں بے قابو ہو مثلاً نکسیر جاری ہو یا خون استحاضہ جاری ہو یا ریح یا پیشاب کسی حصہ بدن سے اور یہ عذر نماز کے پورے

پورے وقت میں برابر قائم رہے اور اس کو روکنے کا بوجھ بھی نہ ہو تو ایسا شخص شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرے یعنی معذور شخص ایک وضو سے کئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں ایک وضو سے اسی وقت کی فرض واجب اور نفل نمازیں ادا کر سکتا ہے جب تک یہ وقت ختم نہ ہو جائے گا یا کوئی دوسرا حدث نہ ہو جائے گا معذور کا وضو نہ ٹوٹے گا۔ مثلاً ایک مستحاضہ عورت نے ظہر کے وقت وضو کیا تو اسی وضو سے ابتدائے عصر تک جو کچھ چاہے پڑھ سکتی ہے وضو ٹوٹنے کی صرف دو شکلیں ہیں یا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے یا کوئی دوسرا حدث ہو جائے۔ مثلاً پیشاب آجائے یا ریح خارج ہو جائے اور اگر کسی کا عذر درمیان وقت میں اتنی دیر کے لئے جاتا رہتا ہو کہ وضو کر کے اس وقت کی نماز نہ پڑھ سکے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا ہاں اگر اس سے کم وقت کے لئے عذر جاتا رہے تو وہ معذور ہی سمجھا جائے گا۔

اگر معذور کی حالت ایسی ہو کہ کپڑے دھو کر نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز سے فارغ ہونے سے قبل پھر کپڑے نجس ہو جائیں تو ایسے شخص کو کپڑے پاک کرنے کی ضرورت نہیں انہی ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھ لے اگر اس حالت تک نوبت نہ پہنچے تو پھر کپڑے دھونے واجب ہیں۔

## باب التیمم فصل اول

ابتدائے شریعت تیمم

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے اور غسل کی حالت میں غسل کا حکم۔ لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد بھی ہے۔

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ  
أَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٦٣﴾ (النساء)

”یعنی اگر پانی نہ پاؤ تو صاف ستھری مٹی لے کر اس سے تیمم کر لو۔“

فَلَمْ تَجِدُوا سے مطلب یہ ہے کہ یا تو فی الواقع پانی میسر نہ ہو یا ہو تو سہی لیکن وضو غسل کی صورت میں احتمال مرض ہو۔ ان دونوں صورتوں میں پاک و صاف مٹی سے تیمم کر لینا چاہئے۔ تیمم کتاب و سنت اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے اور اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ اس کی ابتدائے شریعت اس طرح ہے کہ ایک غزوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گلے کا ہار گم ہو گیا تھا۔ رسول خدا ﷺ نے اس کی تلاش و جستجو کے لئے توقف کیا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہ تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناراض ہوئے اور فرمایا تمہاری وجہ سے لوگ رکے ہوئے ہیں اور یہاں پانی بھی میسر نہیں۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ کی برکت سے تمام مسلمانوں پر یہ آسانی ہوئی۔ (63)

آیت تیمم نازل ہونے کے بعد رسول خدا ﷺ ہر زمین پر تیمم کر کے نماز پڑھتے تھے

خواہ پتھر ہو یا رنگ یا خاک، خاک و ریگ میں کوئی فرق و امتیاز نہ کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم صرف خاک کے ساتھ مخصوص ہے اس کے بغیر درست نہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خاک و ریگ دونوں کو تیمم کے لئے مخصوص کرتے ہیں اور اس بارے میں مذہب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ جنس زمین سے جو چیز بھی ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ مثلاً خاک، ریگ اور سنگ وغیرہ اور جنس ارض سے مراد وہ چیز ہے جو آگ سے نہ پگھل سکے اور نہ خاکستر ہو سکے۔ چنانچہ حدیث ابی امامہ میں لفظ ”ارض“ اور حدیث ابو حنیفہ میں ”ترت“ و تراب کا لفظ آیا ہے۔

احناف کے نزدیک تیمم وضو کا حکم رکھتا ہے یعنی وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ سفر السعادتہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں دیکھی کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے ہر فریضہ کے لئے جدید تیمم کیا ہو۔

### تیمم کس طرح کرنا چاہئے؟

خود اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں اس کا طریقہ بتلا دیا ہے اور سنت صحیحہ سے بھی یونہی ثابت ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر مار کر پورے چہرہ کا مسح کرے جتنے حصہ کا وضو میں دھونا فرض ہے اس جگہ کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے کہ اس کا مسح نہ ہو ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر بائیں ہاتھ کی تین انگلیاں اور ہتھیلی کا کچھ حصہ دائیں ہاتھ کی چھنگلی کے پورے کے نیچے رکھ کر سیدھے ہاتھ کے بیرونی حصہ پر کھینچتا ہوا کہنیوں تک لے جائے۔ پھر بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اور ہتھیلی کا بقیہ حصہ سیدھے ہاتھ کی کہنی کے اندرونی حصہ سے کھینچتا ہوا انگلیوں کے سرے تک پہنچائے اور پھر بائیں ہاتھ کا بھی اسی طرح مسح کرے۔

## فصل دوم

### فرائض و سنن و تیمم

#### تیمم کی تعریف

تیمم شرعاً اس قصد کو کہتے ہیں جو پاک مٹی وغیرہ سے طہارت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کے لغوی معنی مطلق قصد کے ہیں اور شرعاً پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا قصد کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔

تیمم کے ارکان یعنی فرائض تین ہیں۔

۱۔ ضرب لگا کر منہ کا مسح کرنا۔

۲۔ دوسری ضرب لگا کر ہاتھوں پر کہنیوں سمیت مسح کرنا۔

۳۔ کل اعضاء مقررہ کا اس طرح مسح کرنا کہ مسح سے ایک بال برابر بھی جگہ خالی نہ رہے۔

اس بارہ میں اختلاف ہے کہ تیمم کے لئے دو ضربیں ہیں یا صرف ایک ضرب۔ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم دو ضربہ ہے ایک ضرب منہ کے لئے اور دوسری ضرب کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے لئے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے۔

التَّيْمُّمُ ضَرْبَتَانِ - ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى

المِرْفَقَيْنِ - (64)

”تیمم دو ضربیں ہیں ایک ضرب چہرے کے لئے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لئے“۔

#### تیمم کی نیت

تیمم کی نیت کرنا فرض ہے۔ پس اگر کوئی جنابت والا اپنی جنابت دور کرنے اور معذور نماز پڑھنے کے لئے تیمم کرنا چاہے تو اس کو یوں نیت کرنی چاہئے۔

64۔ مدارج النبوة، باب در انواع عبادات، 345/1، مطبوعہ لکھنؤ۔

مستدرک حاکم، کتاب الطہارۃ، 287/1 (634) مدارج الکتاب العلمیہ بیروت۔

نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ.

”یعنی نیت کرتا ہوں میں تیمم کرنے کے واسطے دور کرنے جنابت اور جائز ہونے نماز کے۔“

اگر مسجد میں داخل ہونے کے لئے تیمم کرے تو اس کی نیت یوں کرے۔

أَتَيْمُّ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ.

”یعنی میں مسجد میں داخل ہونے کے لئے تیمم کی نیت کرتا ہوں۔“

اگر قرآن کو ہاتھ لگانے کے لئے تیمم کرنا چاہے تو یوں نیت کرے۔

نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّ لِمَسِّ الْقُرْآنِ.

”یعنی میں قرآن پاک چھونے کے لئے تیمم کی نیت کرتا ہوں۔“

اگر بے وضو آدمی حدث دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے تیمم کرنا چاہے تو اس کی یوں نیت کرے۔

نَوَيْتُ أَنْ أَتَيْمَّ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ.

”یعنی میں حدث دور کرنے اور نماز کے مباح ہونے کیلئے تیمم کی نیت کرتا ہوں۔“

یہی ضروری نہیں کہ عربی کی مذکورہ بالا نیتیں ہی کی جائیں بلکہ اگر اردو زبان میں مذکورہ بالا مفاہیم کو سامنے رکھا جائے تب بھی نیت ہو جاتی ہے۔

تیمم کی سنتیں

تیمم کی سنتیں آٹھ ہیں:

۱۔ کف دست کو پاک مٹی پر مارنا۔

۲۔ ہتھیلیوں کو مٹی پر مار کر اپنی طرف کھینچنا۔

۳۔ اس کے بعد ہتھیلیوں کو ذرا پیچھے ہٹانا۔

۴۔ ہاتھوں کو جھاڑنا۔

۵۔ بسم اللہ کہنی۔

۶۔ مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کا کشادہ کرنا۔

۷۔ ترتیب کو ملحوظ رکھنا۔ یعنی اول منہ پر مسح کرنا اور پھر ہاتھوں پر۔

۸۔ پے در پے مسح کرنا۔ بیچ میں توقف نہ کرنا۔

کن چیزوں پر تیمم جائز ہے؟

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب اس بارے میں یہ ہے کہ جو چیز زمین کی جنس ہے اس پر تیمم جائز ہے پس اگر مٹی، چونہ، گیرو، ملتانی مٹی، سرمہ، ہڑتال، گندھک، یا قوت، زمرد، عقیق، فیروزہ، سیندھا نمک اور معمولی نمک وغیرہ تمام چیزوں پر تیمم جائز ہے۔

کن اشخاص کو تیمم کرنا جائز ہے؟

بایوں سمجھو کہ مذکورہ ذیل صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔

۱۔ پانی سے ایک میل دور ہو، آس پاس کہیں بھی پانی نہ مل سکے یا پانی تو ملے مگر وضو کے لئے کافی نہ ہو۔ تو ان صورتوں میں تیمم کر لینا جائز ہے مگر یاد رہے کہ شرعی میل چار ہزار گز کا ہوتا ہے اور پانی کی اتنی دوری مسافر کے سامنے کے رخ سے معتبر ہے یعنی جدھر مسافر جانا چاہتا ہے اس سمت میں پانی ایک میل تک نہ مل سکتا ہو۔ باقی دائیں بائیں کی دوری معتبر نہیں خواہ میل سے کم ہو یا زائد۔

۲۔ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو یا سخت جاڑوں کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جانے کا یقین ہو تو ان دونوں صورتوں میں تیمم کر لینا جائز ہے مگر یاد رہے اس اجازت سے اسی وقت فائدہ اٹھانا چاہئے جب کہ بیماری بڑھنے یا پیدا ہونے کا خوف یقینی ہو اس میں تساہل و سہل انگاری کا دخل نہ ہو۔

۳۔ ایسی عورت جس کو خوف ہے کہ اگر میں پانی لینے جاؤں گی تو کوئی بدچلن آدمی میری عصمتی کرے گا تو اس کو حفظ عصمت کے لئے تیمم کر لینا چاہئے۔

۴۔ ایک شخص مفلس ہے اور اس کو خوف ہے اگر میں پانی لینے جاؤں گا تو قرض خواہ مجھے قید کرے گا تو ایسی حالت میں بھی تیمم کر لینا چاہئے۔

۵۔ پانی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی سانپ، بھیڑیا اور شیر وغیرہ درندہ یا اور کوئی جان لیوا



دشمن ہو اور جان کا خوف ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کر لینا جائز ہے۔

۶۔ اگر نجاست حقیقی بدن کے کپڑے پر اتنی لگی ہوئی ہے جو نماز کے مانع ہے یعنی اس کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور پانی صرف اتنا ہے کہ یا تو وضو کرے یا نجاست دھو ڈالے تو اس صورت میں بدن اور کپڑے کو دھو ڈالنا چاہئے اور وضو کی جگہ تیمم کر لینا چاہئے۔

۷۔ اگر خود یا کوئی دوسرا آدمی سخت پیاسا ہو اور پانی اتنا نہ ملتا ہو کہ پیاس بھی بجھالے اور وضو بھی کرے تو اس صورت میں بھی تیمم کر لینا چاہئے۔

### تشریحات

اوپر لکھا گیا ہے کہ اگر بدچلن آدمی یا قرض خواہ کا خوف ہو تو تیمم کر لینا چاہئے اس صورت میں اگر خود بخود خوف پیدا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو خوف کے رفع ہونے کے بعد اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہئے اور اگر بدچلن اور قرض خواہ کے خوف دلانے سے خوف پیدا ہوا تھا تو اس حالت میں خوف رفع ہونے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں۔

اگر جنازہ کی نماز فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو اور یہ شخص میت کا ولی بھی نہ ہو کہ نماز جنازہ میں تاخیر کرا سکے تو باوجود پانی ہونے کے تیمم کر کے جنازہ پڑھ لینا جائز ہے خواہ وہ بیمار ہو یا تندرست اور خواہ جنبی ہو یا حائضہ۔ اسی طرح کسوف و خسوف اور عیدین کی نمازوں کے فوت ہو جانے کے اندیشہ کی حالت میں بھی باوجود پانی موجود ہونے کے تیمم کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ایسی نماز جن کے فوت ہو جانے کے بعد نہ ان کی قضا ہو اور نہ ان کے قائم مقام دوسری نماز ہو سکتی ہو تو ایسی نمازوں کے لئے باوجود پانی اور تندرستی کے تیمم کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے مثلاً عیدین کی نمازیں کہ نہ ان کی قضا ہے اور نہ ان کی قائم مقام دوسری نمازیں اس لئے ان کے فوت ہو جانے کے اندیشہ پر باوجود پانی کے تیمم کر لینا جائز ہے۔

### چند اصول و ضوابط

جب تک پانی پر قدرت حاصل نہ ہو ایک ہی تیمم سے مختلف اوقات کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں مثلاً ظہر کو پانی نہ ملا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو جب تک پانی نہ ملے اور کوئی امر ناقض

وضو نہ ہو اس ظہر والے تیمم سے عصر، مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔

۱۔ اگر کسی نے قرآن پڑھنے یا قبرستان جانے یا میت کو دفن کرنے یا مسجد میں داخل ہونے اور یا صرف اذان دینے کے لئے تیمم کیا ہو تو اس تیمم سے فرض نمازیں ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو تیمم سجدہ تلاوت کے لئے یا نماز جنازہ کے لئے کیا جائے اس تیمم سے فرض نماز ادا کر سکتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو تیمم رکوع و سجود والی نماز کے لئے کیا جائے اس سے تمام مختلف عبادتیں ادا کی جاسکتی ہیں مگر جو تیمم کسی اور عبادت کے لئے کیا جائے اس سے رکوع و سجود والی فرض نمازیں ادا نہیں کی جاسکتیں۔

۲۔ اگر سجدہ تلاوت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز نہیں وضو کرنا لازم ہے اور اس طرح جمعہ کی نماز بھی تیمم سے ادا نہیں کی جاسکتی کیونکہ سجدہ تلاوت پھر بھی کر سکتا ہے اور جمعہ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا قائم مقام ظہر موجود ہے۔

۳۔ اگر کوئی شخص خود مجبور ہو تیمم نہ کر سکتا ہو تو دوسرا شخص اس کو تیمم کر سکتا ہے مگر نیت خود مجبور شخص کو کرنی چاہئے۔

۴۔ غسل اور وضو دونوں کا تیمم ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔

۵۔ ایک مٹی سے کئی آدمی تیمم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک آدمی کے تیمم کرنے سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی اس کے برخلاف پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔

تیمم کو توڑنے والی چیزیں

جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے ان کے علاوہ تیمم کو توڑنے والی ایک خاص چیز ہے کہ پانی کے استعمال پر قدرت حاصل ہو جائے یعنی پانی استعمال نہ کرنے کا عذر جاتا رہے یا پانی مل جائے۔

## فصل سوم مسائل متفرقہ

**مسئلہ:** تیمم کرنا اس وقت جائز ہے جبکہ تلاش کرنے سے پانی دستیاب نہ ہو اگر کوئی مسافر بغیر پانی تلاش کئے تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس پر پانی تلاش کرنا واجب تھا اس ترک واجب کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ چنانچہ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو نماز پڑھنے میں آخر وقت تک تاخیر کرنی چاہئے۔ اس صورت میں پانی کا انتظار کرنا مستحب ہے ہاں اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر نماز میں تاخیر نہ کرنی چاہئے۔

**مسئلہ:** اگر ایک شخص نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس کے بعد پانی بھی مل گیا مگر فوراً ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وضو کرنے سے ضرر کا احتمال ہے تو اس کو از سر نو دوسرا تیمم کرنا چاہئے پہلا تیمم کافی نہیں۔

**مسئلہ:** ایک مسافر کے پاس آدمی تھا جس سے پانی کا پتہ دریافت کر سکتا تھا لیکن اس نے بغیر دریافت کئے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اس شخص سے دریافت کیا اور اس نے پاس ہی بتلا دیا تو اس کی نماز باطل ہوگئی دوبارہ پڑھنی چاہئے۔

**مسئلہ:** ایک شخص کے پاس پانی تو کافی موجود ہے مگر اس نے یہ گمان کر کے کہ پانی کافی نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ پانی کافی ہے تو اسے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی واجب ہے۔

**مسئلہ:** اگر پانی اتنا مل سکے کہ ایک ایک دفعہ منہ اور ہاتھ دھو سکتا ہے تو اسے ایک دفعہ ہی اعضاء کو دھو لینا چاہئے تیمم کرنا درست نہیں منہ اور ہاتھ دھولے اور سر کا مسح کر لے۔

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص آبادی سے ایک میل دور نکل گیا اور ایک میل تک کہیں پانی نہ ملا کہ اسے بغیر مزید تلاش کے تیمم کر لینا جائز ہے۔

**مسئلہ:** اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہے اور برف باری پڑتی ہے کہ نہانے سے مر جانے یا

پیماری ہو جانے کا خوف ہو اور پاس کوئی گرم کپڑا بھی نہیں کہ نہا کر فوراً بدن سے لپیٹ لے تو تیمم درست ہے اسی طرح اگر کسی کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چھچک نکلی ہو تو اس پر نہانا واجب نہیں تیمم درست ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی جنگل یا میدان میں نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب ہی تھا لیکن اس کو تلاش کرنے کے باوجود اس پانی کا پتہ نہ مل سکا تو اس کا تیمم بھی صحیح ہوا اور نماز بھی ہوگئی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا واجب نہیں۔

**مسئلہ:** اگر کسی کے پاس پانی تو موجود ہو لیکن راستہ ایسا خراب ہو کہ آگے کہیں پانی ملنے کی امید نہ ہو اور راستہ میں پیاس کی تکلیف سے ہلاکت کا اندیشہ ہو تو اسے وضو کرنا نہ چاہئے تیمم کر لینا درست ہے تاکہ پیاس کے لئے پانی باقی رہے۔

**مسئلہ:** اگر ایک مسافر نے تیمم کر کے نماز شروع کی اثنائے نماز معلوم ہوا کہ دوسرے شخص کے پاس پانی موجود ہے اور گمان غالب ہے کہ وہ مانگنے سے دے دے گا تو اسے چاہئے کہ نماز توڑ دے اور پھر اس سے پانی لے کر وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لے اور اگر گمان یہ ہے کہ وہ شخص پانی مانگنے سے نہ دے گا تو بدستور نماز پڑھتا رہے توڑنے کی ضرورت نہیں اگر مسافر کے ساتھی کے پاس پانی تھا لیکن اس نے خیال کیا کہ یہ شخص پانی نہ دے گا اس سے مانگنا ہی فضول ہے اور اس نے اس خیال سے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو درست نہیں کیونکہ ممکن ہے وہ پانی دے دیتا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو اس سے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے خواہ وہ قیمت سے دے رہا ہو یا مفت اور اگر اس نے پانی نہ دیا تو نماز درست ہوگی لیکن تیمم جاتا رہا کیونکہ اب اسے کسی نہ کسی طرح پانی پر قدرت حاصل ہوگی۔

**مسئلہ:** اگر پانی قیمتاً ملتا ہو اور پاس دام نہیں ہیں تو تیمم کر لینا درست ہے اگر دام بھی ہیں مگر اتنے کہ اگر ان سے پانی خریدے تو راستہ کا کرایہ اور دیگر مصارف پورے نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہے اور اگر مصارف سفر سے زیادہ بھی دام موجود ہیں مگر پانی اتنا گراں ملتا ہے کہ اتنی قیمت پر کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تب بھی تیمم درست ہے۔

**مسئلہ:** اگر کنویں پر رسی ڈول موجود نہ ہو اور پانی نکالنے کی کوئی اور صورت بھی ممکن نہ ہو تو تیمم درست ہے ہاں اگر پانی نکالنے کی کوئی صورت ممکن ہے تو پھر درست نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا موجود ہے کہ اس کو کنویں میں ڈال کر اور اسے نچوڑ کر وضو کر سکتا ہے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہئے تیمم درست نہ ہوگا البتہ اگر کپڑا بیش قیمت ہے بھگونے سے خراب و ناکارہ ہو جائے گا تو پھر تیمم کر لینا جائز ہے۔

**مسئلہ:** دو برتنوں میں پانی بھرا ہوا ہے ایک میں پاک پانی ہے اور دوسرے میں ناپاک لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا پاک ہے اور کون سا ناپاک اور اس کے سوا کوئی پانی نہیں مل سکتا اور نہ اور کسی طرح ان کا پاک ہونا معلوم ہو سکتا ہے تو تیمم کر لے۔

**مسئلہ:** اگر پانی ایک میل سے کم دور ہو لیکن وقت نماز کا اتنا تک ہو کہ نماز قضا ہو جانا یقینی ہے تو تیمم کر لینا چاہئے پھر پانی لا کر اور وضو کر کے قضا نماز پڑھے۔

**مسئلہ:** اگر نہانے کی ضرورت تھی اور غسل کیا مگر ذرا سرا بدن سوکھا رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا غسل مکمل نہیں ہوا تو اسے تیمم کر لینا چاہئے۔ پھر جہاں کہیں پانی ملے اس خشک جگہ کو دھو لینا چاہئے مگر دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں اگر پانی ایسے وقت میں ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا ہے تو اول سوکھی جگہ کو دھولے بعد میں وضو کے لئے پانی کافی نہ ہو تو تیمم کرے۔

**ضروری ہدایتیں**

اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹ جائے گا اگر غسل کا تیمم ہے تو غسل کے لائق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا اگر کسی کو نہانے کی ضرورت ہو تو وضو اور غسل کا جدا جدا تیمم کرنے کی ضرورت نہیں صرف غسل کی نیت سے تیمم بھی ہو جائے گا۔ تیمم کی نیت صرف اتنی ہی کافی ہے کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لئے یا نماز کے لئے تیمم کرتا ہوں۔

جو تیمم نماز کے لئے کیا جائے اس سے قرآن کو چھونا، اس کی تلاوت کرنا اور قبرستان و مسجدوں میں جانا سب کچھ درست ہے۔

اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ زمین پر پیشاب پڑا تھا اور وہ دھوپ سے خشک ہو گیا جس کا نشان تک باقی نہ رہا تو وہ زمین پاک ہوگئی اس پر نماز پڑھنی اور تیمم کرنا دونوں باتیں درست ہیں اور

اگر یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو بھی زیادہ وہم نہ کرے تیمم کر لے۔

ہاتھ پاؤں کٹا ہوا آدمی معذور و مجبور ہے اس سے طہارت کا حکم ساقط ہو جاتا ہے نہ اسے وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تیمم کرنے کی۔

اگر کسی کے پاس زمزم کا پانی ہو اور دوسرا پانی نہ مل سکتا ہو تو زمزم کے پانی سے ہی وضو کر لینا چاہئے تیمم کرنا درست نہیں۔

اگر غسل کرنا نقصان دیتا ہو اور وضو کرنا نقصان نہ دیتا ہو تو غسل کی بجائے تیمم کر لینا چاہئے اور وضو کی جگہ وضو کر لینا چاہئے۔

### ریل کے مسائل

اگر پانی پاس ہے لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر پانی لینے گیا تو ریل چھوٹ جائے گی پھر آگے پانی ملنے کی امید نہیں اور نماز کا وقت بھی جاتا رہے گا تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہئے۔ اگر راستہ میں کہیں پانی ملا تو لیکن ریل چھوٹ جانے کے خوف سے اتر نہ سکا تو اس حالت میں تیمم نہ ٹوٹے گا۔

### ہدایت

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جو چیز مٹی کی جنس سے ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اس کی تشریح و توضیح یہ ہے کہ جو نہ تو آگ میں جلے اور نہ پگھلے وہ مٹی کی قسم ہے اس پر تیمم درست ہے اور جو چیز جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے تو اس پر تیمم درست نہیں ہاں اگر ان اشیاء پر غبار اور خاک ہو تو تیمم درست ہے۔

**مسئلہ:** مٹی کے گھرے اور بدھنے پر تیمم درست ہے خواہ ان میں پانی بھرا ہو یا خالی ہوں۔ البتہ اگر ان پر روغن اور زنگ لگ گیا ہو تو پھر ان پر تیمم درست نہیں اگر پتھر پانی سے بھی دھلا ہوا ہو اور گرد کا نام و نشان بھی نہ ہو تب بھی اس پر تیمم کرنا درست ہے کیونکہ پتھر خود مٹی کی جنس سے ہے اسی طرح پکی اینٹ پر بھی تیمم درست ہے خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو۔

**مسئلہ:** کچھڑے سے تیمم کرنا اگرچہ درست ہے مگر مناسب نہیں۔ اگر کچھڑے کے سوا اور کوئی چیز نہ ملے تو یہ ترکیب کرے کہ کچھڑے کو کپڑے میں بھر کر خشک کرے۔

## موزوں پر مسح کرنے کا بیان

جاننا چاہئے کہ موزوں پر مسح کرنا سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ آئمہ حدیث نے بروایت متعدد و طریق مختلف بیان کیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ سفر و حضر میں موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ تمام حفاظ حدیث نے تصریح کی ہے کہ حدیث مسح خفین تو اتر سے ثابت ہے اس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں نیز عشرہ مبشرہ اور اکثر اجلہ صحابہ حدیث خفین کو بیان کرتے ہیں۔ الغرض موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں کسی مسلمان کو انکار و تردید کی گنجائش نہیں۔ اب اس کے احکام و مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔

کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے

تین قسم کے موزے ہیں جن پر مسح کرنا جائز ہے۔

۱۔ چمڑے کے ایسے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔

۲۔ وہ اوننی یا سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلاء نکا ہوا ہو۔

۳۔ وہ اوننی یا سوتی موزے جو اس قدر موٹے ہوں کہ خالی موزے پہن کر تین چار میل

راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔

ان تین قسم کے موزوں کے سوا اور موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔

ان موزوں پر کس حالت میں اور کب مسح کرنا جائز ہے؟ جبکہ وضو کرنے کے بعد یا

صرف پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں اور پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں بھی موزے پہنے

ہوئے ہوں اس طرح ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر اگر آدمی اپنے گھر میں ہو یعنی

مقیم ہو تو ایک دن اور ایک رات تک موزوں پر مسح کر سکتا ہے یعنی مقیم کے لئے مدت مسح

ایک دن اور ایک رات ہے اور اگر سفر میں ہوں تو تین دن اور تین رات تک مسح کرنا

جائز ہے۔

مسح کرنے کی ترکیب

موزوں پر مسح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں معہ ہتھیلیوں کے

دائیں موزے کے اگلے حصہ پر رکھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں معہ ہتھیلیاں کے بائیں موزے کے اگلے حصہ پر اور انگلیوں کو کھولے ہوئے پنڈلی کی طرف کھینچے اور ٹخنوں سے اوپر تک پہنچادے۔

موزے کے اوپر کی طرف مسح کرنا چاہئے، تلوؤں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر تین انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پوری پوری رکھے صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے غسل میں نہیں یعنی غسل کی حالت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔

### مسائل متفرقہ

اگر موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ پاؤں کی تین چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل جائے تو اس پر مسح جائز نہیں اور اگر اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔

اگر سوتی یا اونی جرابوں پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو یا پوری جرابوں پر نہ چڑھایا ہو صرف جو تا کی شکل کا پاتا بہ کاٹ کر لگا دیا ہو یا جرابیں بہت سخت اور سنگین ہوں کہ بغیر کسی چیز سے باندھنے کے خود بخود اپنی جگہ ٹھہری رہتی ہوں نیچے نہ سرک آتی ہوں اور ان کو پہن کر تین میل راستہ بھی طے کیا جاسکتا ہو تو ان سب صورتوں میں جرابوں پر مسح کرنا درست ہے۔ ہاں اگر پاتا بے جراب کے صرف تلے پر لگے ہوئے ہوں اور چمڑے کا ڈبل سول معہ اپنے پنجے اور ایڑی کے نہ ہو تو ایسی جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں۔

اگر کسی شخص نے مسح کرتے وقت انگلیاں کشادہ نہ کیں مگر ہاتھ کی تین انگلیوں کی برابر مسح کر لیا تو مسح درست ہو گیا۔ ایک ہی انگلی سے ایک ہی جگہ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ مسح کرنا درست نہیں ہاں اگر ایک ہی انگلی سے تین جگہ علیحدہ علیحدہ خط کھینچا ہو تو درست ہے۔

### مسح کی مدت کا حساب

مسح کی مدت کا حساب اس وقت سے کیا جاتا ہے جس وقت سے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت



سے ایک دن ایک رات یا تین دن اور تین رات مسح کرنا جائز ہے۔ مثلاً کسی نے جمعہ کی صبح کو وضو کیا اور موزے پہنے اور اس کا یہ وضو ظہر کا وقت ختم ہونے پر ٹوٹا تو اب یہ شخص اگر مقیم ہے تو ہفتہ کی ظہر تک مسح کر سکتا ہے اور اگر مسافر ہے تو پیر کے دن ظہر تک مسح کر سکتا ہے۔

یہ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟

جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہیں سے یہ مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کے علاوہ بعض مخصوص صورتیں بھی ہیں وہ یہ کہ مسح کی مدت گزر جائے یا موزے اتار دیے جائیں اور تین انگلیوں کے برابر موزہ پھٹ جائے تو ان تینوں صورتوں میں مسح ٹوٹ جائے گا۔

مسئلہ: اگر ایک مسافر نے موزوں پر مسح کرنا شروع کیا اور ایک رات کے بعد اپنے گھر واپس آ گیا تو اس کو چاہئے کہ موزے اتار دے اور نئے سرے سے مسح کرنا شروع کرے اور اگر مقیم نے مسح شروع کیا اور پھر سفر میں چلا گیا تو اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے سے پہلے سفر کیا تو تین رات تین دن تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے اگر ایک دن ایک رات پوری ہونے کے بعد سفر کیا تو موزے اتار کر نئے سرے سے مسح شروع کرے۔

## کتاب الصلوٰۃ

### باب الاذان والاقامت

اذان اس پکار و منادی کا نام ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو نماز کے وقت نماز کے لئے جمع ہونے کو بلایا جاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی ایک اعلیٰ درجہ کی روحانی مجلس ہے جو دنیا کے سامنے نیاز و عبدیت اور دربار الہی کا ایک روح پرور اور دلکش منظر پیش کرتی ہے اس روحانی مجلس اور دربار الہی میں ہر مسلمان کا موجود ہونا مایہ صد فخر و ناز اور باعث سعادت و ہدایت ہے۔ اس امر سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر قوم اور ہر مذہب نے عبادت کے لئے اجتماع کی ضرورت کو محسوس کیا ہے اور ہر قوم کے لوگوں نے عبادت کے لئے بلانے اور جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اطلاع ضرور مقرر کیا ہے۔ لیکن قابل غور امر یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ اطلاع دنیا میں کیا امتیازی شان رکھتا ہے؟ سو ہر شخص بادی تامل معلوم کر سکتا ہے کہ اسلامی طریقہ ہی تمام مذاہب و اقوام کے طریقوں سے سب میں ممتاز، اعلیٰ، روحانیت پرور اور دلکش ہے۔ جس وقت مؤذن چبوتر اپر چڑھ کر صدائے اللہ اکبر بلند کرتا ہے اس وقت اللہ والوں کے سینوں میں جذبہ عبودیت چٹکیاں لینے لگتا ہے اور دنیا کے سامنے عبدیت الہی کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ لامحالہ ان کی طرف روح انسانی کھینچتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہودیوں میں ”قرناء“ کے ذریعہ عیسائیوں میں گرجا کے گھنٹے کے ذریعہ اور ہندوؤں میں مندروں کے گھنٹے کے اور گھنٹیوں کے ذریعہ لوگوں کو عبادت کے لئے بلایا جاتا ہے۔ ایک عام عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریق بھی ایسا نہیں جس میں روحانیت حق شناسی اور رجوع الی اللہ کی تحریک کا کوئی ادنیٰ سا بھی اثر و شائبہ ہو۔ علاوہ بریں یہ طریقے مخصوص بہ عبادت ہی نہیں۔

اب ذرا اسلام کے مخصوص طریقہ کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور نمونہ ایک فقرہ پر غور فرمائیے جب مؤذن حیّ علی الفلاح کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہر سننے والا مسلمان کہتا ہے لا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے معنی ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ۔ یعنی نماز کی طرف آنے کا نتیجہ کامیابی ہے۔ اس کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی توفیق و امداد کے بغیر بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ نماز جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور نجات و کامیابی کا یقینی ذریعہ ہے اس کی طرف خدا تعالیٰ ہی کے فضل و توفیق سے آسکتے ہیں۔

اللہ! اللہ! اسلام کتنا پاکیزہ اور روحانیت خیز کامل و اکمل مذہب ہے اور وہ دنیا میں کتنا بلند و بالا و اعلیٰ تخیل لے کر آیا ہے کہ وہ بات بات میں توحید اور عظمت الہی کا سبق دیتا ہے۔ قدم قدم پر انسان کو اپنی عبدیت و عجز اور خدا کی بھی عظمت و قدرت کا اقرار و اعتراف کراتا ہے اور الہام الہی اور مذہبی زندگی کا عین منشاء اور مقصد اعظم بھی یہی چیز ہے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے احکام و فرامین کی بجا آوری کو اپنا مقصد حیات بنایا جائے کیا دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے اس وحدت پرور طریقہ اطلاع کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قسم خدا کی کسی مذہب کا طریقہ اس کے گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں! مبارک ہو یہ سر بلندی اور کامیاب و بامراد ہیں وہ نمازی جو صدائے اللہ اکبر پر اپنی اطاعت کی گردن جھکا دیتے ہیں۔

### تاریخ اذان

اذان کے لغوی معنی اطلاع دینے کے ہیں۔ یہ اسم مصدر ہے اور اس کا مصدر تاذین ہے اور شرع میں مخصوص اطلاع کو کہتے ہیں یعنی نماز کی اطلاع دینا۔ حاشیہ شبراہی علی شرح المنہاج الرطبی عن شرح البخاری میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اذان مکہ میں ہی قبل ہجرت شروع ہو گئی تھی۔ طبرانی نے کہا ہے کہ جب رسول خدا کو معراج ہوئی تھی اسی رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کی وحی ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان کے کلمات لے کر آئے اور پھر رسول اللہ ﷺ نے اسی کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں ہے کہ جس وقت نماز فرض ہوئی اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کو اذان دینا سکھایا۔

ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو اذان سکھانے کا ارادہ کیا تو حضور ﷺ کے پاس جبرائیل براق پر سوار ہو کر آئے اور اذان کے تمام کلمات آخر تک کہے۔ ان احادیث و اقوال کے متعلق صاحب ردالمحتار کہتے ہیں۔

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ۔

”یعنی صحیح بات یہ ہے کہ ان احادیث میں سے کوئی بھی بات صحیح نہیں۔“

چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی اور بعض علماء ہجرت کے دوسرے سال بیان کرتے ہیں۔ اس کی شرعییت کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟ چونکہ رسول اللہ ﷺ کے عہد سعادت مہد میں کم و بیش وہی طریقے مروج تھے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس لئے بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح قرنا بجانا چاہئے اور کسی نے کہا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ لیکن چونکہ ان طریقوں میں کوئی معقولیت و روحانیت نہ تھی اور یہود و نصاریٰ سے مشابہت پائی جاتی تھی اس لئے ان طریقوں کو سب نے ناپسند کیا۔

اس مشورہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آسمان سے اتر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے انہوں نے اس شخص سے پوچھا اے بندۂ خدا! تم اس ناقوس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا آپ اس ناقوس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لئے جمع کیا کروں گا۔ اس شخص نے کہا میں آپ کو اس سے بہتر اور اعلیٰ طریقہ بتلائے دیتا ہوں یہ کہہ کر اس نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اذان و اقامت کے یہی موجودہ کلمات سکھا دیے۔ صبح کو یہ خواب انہوں نے رسول خدا ﷺ کے سامنے عرض کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا یہ خواب سچا ہے اور درحقیقت یہ الفاظ خدا کی طرف سے القا ہوئے ہیں تم یہی کلمات بلال کو سکھا دو اور ان کو کہو کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے انہیں کلمات کو کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے

بھی حضور ﷺ کی خدمت میں آ کر یہی خواب عرض کیا۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دس جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی خواب دیکھا اور اس طرح اسلام میں اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ (65)

اسی طرح اذان کے رائج ہونے کے متعلق اور بھی بہت سے مختلف اقوال و روایات ہیں۔ ہمارے خیال ناقص میں یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے بامر الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کو سکھائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### اذان کے معنی و مفہوم

اذان ہر نماز سے پہلے دی جاتی ہے اور کلمات اذان کے ذریعہ دنیا میں پانچ وقت خدائے قدوس کی عظمت و وحدت اور آنحضرت ﷺ کی رسالت کا صاف لفظوں میں اقرار و اعلان کیا جاتا ہے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں۔

اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔ اللَّهُ أَكْبَرُ۔

اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور انسان کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برتر و اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود و مطلوب اللہ بزرگ و برتر کے سوا نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور محبوب و مطاع نہیں۔

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ۔

آؤ نماز کے واسطے۔ آؤ نماز کے واسطے۔ کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کی طرف آؤ۔  
یعنی نماز کی طرف آنے کا نتیجہ نجات و کامیابی ہے۔

یہ ہیں اذان کے بارہ کلمات طیبات ان کے علاوہ صبح کے وقت جب کہ ایک مسلمان خواب راحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور بستر راحت سے اٹھنا اس کے لئے گراں بار ہوتا ہے ایسے وقت میں حضور الہی میں سر نیاز جھکانے اور خواب راحت سے اٹھانے کے لئے مذکورہ بالا فقروں کے علاوہ اور زیادہ کہے جاتے ہیں یعنی حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد یہ جملہ دو مرتبہ کہا جاتا ہے۔

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ۔

نماز سونے سے بہتر ہے۔

اذان دینے کا طریقہ

اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں ڈالے۔ اول چار مرتبہ ایک آواز میں دو مرتبہ اور دوسری آواز میں دو مرتبہ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے پھر شہادتین کو چار مرتبہ چار آوازوں میں کہے۔ اس کے بعد دائیں طرف کسی قدر مڑ کر حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ دو بار دو آوازوں میں کہے۔ پھر بائیں طرف گردن پھیر کر دو آوازوں میں دو بار حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کہے پھر ایک آواز میں دو بار تکبیر یعنی اللَّهُ أَكْبَرُ کہے اور ایک آواز میں ایک بار تہلیل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر اذان ختم کر دے۔ فجر کی اذان میں حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد دو مرتبہ دو آوازوں میں الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہے۔

اذان کے مسنونہات یہ ہیں۔

۱۔ قبلہ کی طرف منہ کرنا۔

۲۔ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ اور حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتے وقت ادھر ادھر گردن پھیرنا۔

۳۔ مذکورہ بالا ترتیب کے موافق اذان کہنا۔

تنبیہ  
کوشش کرنی چاہئے کہ اذان کے کلمات صحیح طور پر ادا ہوں۔ کیونکہ ان میں بعض

باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کفر لازم آجاتا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کی بجائے اللہ یا اَشْهَدُ اَنْ  
کی بجائے اَشْهَدُ اَنَا کہہ دیا جائے تو کفر کی نوبت پہنچ جاتی ہے اور اگر اللہ اکبر کی بجائے  
اللہ اکبار کہہ دیا جائے یعنی ب کو کھڑا کر دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

پس نماز کو صحیح طور پر سیکھنا لازم ہے ورنہ بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوتا ہے۔

بغیر ٹھہراؤ کے جلدی جلدی اذان کہنا۔ حَيَّ عَلَي الصَّلٰوةِ اور حَيَّ عَلَي الْفَلَاحِ  
کہتے وقت گردن نہ پھیرنا اور بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے۔ نیز اذان میں ترجیح کرنی بھی مکروہ  
ہے یعنی پہلے آہستہ آہستہ کہنا اور پھر چاروں شہادتوں کو بلند آواز سے کہنا۔

### اذان کے مسائل

نماز کے لئے اذان کا کہنا سنت موکدہ ہے۔ اس کے لئے کوئی خاص شخص مقرر نہیں ہر  
مسلمان اذان کہہ سکتا ہے اور با وضو بلا وضو دونوں طرح کہہ سکتا ہے مگر افضل و انسب یہی  
ہے کہ با وضو کہے۔

حالت سفر میں بھی اذان اور تکبیر دونوں کہنی چاہئیں گو مسافر تنہا ہی ہو۔ عام طور پر  
اذان کے لئے ایسا شخص ہونا چاہئے جو زیادہ پرہیزگار، بلند آواز اور خوش آواز ہو۔ معاوضہ  
پر اس خدمت کے لئے آمادہ نہ ہو اور اقامت نماز کا ماہر ہو اس کا مصداق نہ ہو۔

مؤذن بانگ بے ہنگام برداشت

نمی داند کہ چند از شب گزشت است

**مسئلہ:** اگر مؤذن کسی کلمہ کو مقدم یا مؤخر کر دے تو جہاں سے یاد آئے وہیں سے لوٹ  
آئے مگر اذان کی ضرورت نہیں مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات جہاں سے آگے پیچھے  
ہوئے ہوں وہیں سے دوبارہ لوٹنا صحیح کر لے۔ سرے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

**مسئلہ:** اگر مؤذن دوران اذان بے وضو ہو جائے تو اس حالت میں اذان پوری کر دے۔  
اذان کو قطع کر دینے کی ضرورت نہیں وہ صحیح ہو جائے گی کیونکہ جب سرے سے بے وضو  
اذان دینا ہی جائز ہے تو اس کی تکمیل بھی بے وضو ہو جائے گی اگر کوئی اس مسئلہ سے ناواقف  
کی وجہ سے درمیان میں اذان چھوڑ کر وضو کرنے چلا جائے تو پھر اس کو شروع سے اذان

دہرائی چاہئے۔ (غایۃ الاوطار)

**مسئلہ:** پانچ وقتوں کی فرض نماز کے لئے خواہ ادا ہو یا قضاء اور جمعہ کی نماز کے لئے اذان کہنی سنت موکدہ ہے یہاں تک کہ اگر تمام شہر والے اذان کہنی ترک کر دیں تو ان سے قتال کرنا جائز ہے کیونکہ اذان شعائر اسلام میں ہے۔

**مسئلہ:** تنہا مسافر اگر ایک یا دو بار اذان ترک کر دے تو حرج نہیں مگر اقامت کا ترک کرنا ہر حالت میں مکروہ ہے۔ پس اقامت کسی حالت میں بھی ترک نہ کرنی چاہئے اگر چند مسافروں نے جنگل میں بغیر اذان کے نماز ادا کی صرف اقامت کہی تو جائز ہے اور ترک اذان مکروہ بھی نہیں کیونکہ اذان تو اس لئے شروع ہوئی کہ نمازیوں کو نماز کے لئے تیاری کرنے کی اطلاع دی جائے اور جنگل میں اس کی ضرورت نہیں۔

### ضروری یا دداشتیں

۱۔ عورتوں پر اذان و اقامت دونوں نہیں خواہ نماز تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ علاوہ ازیں خنثی، نشہ میں مست، نا سمجھ بچہ، جب، فاسق اور غلام کی اذان مکروہ و ناجائز ہے۔ غلام اور فاسق کے علاوہ اگر مذکورہ بالا اشخاص میں سے کسی نے اذان دے دی ہو تو اذان دوبارہ دینی چاہئے لیکن اگر اقامت کہہ دی ہو تو وہ نہیں لوٹائی جائے گی۔

۲۔ ایک شخص شہر یا گاؤں میں کسی مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اگر اس شہر یا گاؤں کی مسجد میں اذان و اقامت ہوتی ہو تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں مسجد کی اذان و اقامت کافی ہے۔

۳۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مؤذن اذان و اقامت کو اپنے لئے مخصوص سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اگر مؤذن موجود نہ ہو تو ہر شخص کو اذان و اقامت کہنی درست ہے۔ اگر مؤذن موجود ہو اور وہ دوسرے کی اقامت سے ناراض ہوتا ہو تو صرف اقامت مکروہ ہے۔

۴۔ اذان شروع وقت میں کہنی چاہئے اور اقامت درمیانی وقت میں ماسوائے مغرب کی اذان و اقامت میں بقدر تین چھوٹی آیتوں کے فضل کرنا چاہئے۔

۵۔ اگر کسی مؤذن نے مسجد میں اذان کہی اور نماز پڑھ لی تو دوسری مسجد میں جا کر اسی



وقت کی اذان کہنی مکروہ ہے ہاں اگر پہلی مسجد میں اذان کہنے کے بعد نماز نہیں پڑھی تو پھر دوبارہ اذان کہنی دوسری مسجد میں مکروہ نہیں۔ (66)

۶۔ جو شخص مسجد سے باہر ہو اور اذان کی آواز سنے تو اس کو تمام کاروبار چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لئے آ جانا چاہئے اور یہ بات اس پر واجب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو تو اس کو بھی ترک کر دینا چاہئے۔ باقی رہا اذان کا جواب دینا سوزبان سے جواب دینا واجب نہیں صرف مستحب ہے۔ باقی جو شخص مسجد کے اندر ہی موجود ہو اور دینی تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول نہ ہو تو وہ بھی اذان کا جواب دے۔ اذان کا جواب دینا ان اشخاص کے لئے جائز نہیں۔ حائضہ، زچہ، خطبہ سننے والا، نماز پڑھتا ہوا، جماع میں مشغول شخص، پیشاب پاخانہ کرتا ہوا اور دینی تعلیم و تعلم میں مشغول شخص۔

اگر شہر کی مختلف مسجدوں میں اذانیں ہوں تو جو اذان سب سے پہلے سنے اس کا جواب دینا چاہئے۔

### اذان کا جواب

اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات مؤذن کہے انہی کو ساتھ ساتھ دہرائے جاؤ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حَتَّىٰ عَلَى الصَّلٰوةِ وَرَحَىٰ عَلَى الْفَلَاحِ کے جواب میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھو اور اگر صبح کی اذان ہو تو الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ سن کر صَدَقْتَ وَ بَرَدْتَ کہو یعنی تو نے سچ کہا اور ہماری بھلائی کی بات کہی۔

### اذان کی فضیلت

کافی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا جب مؤذن بلند آواز سے اذان دیتا ہے تو ہر خشک و تر چیز جو اذان سنتی ہے اس کی تصدیق کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات مؤذن کے لئے مغفرت کی خواہاں ہوتی ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم جنگلوں میں ہو تو بلند آواز سے اذان دو کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی درخت، پتھر، آدمی اور جن

ایسا نہیں ہوتا جو اذان سن کر قیامت کے دن خدا کے سامنے مؤذن کی شہادت نہ دے  
پھر مؤذن کی مغفرت ہو جائے گی۔ (67)

اسی طرح اذان کی فضیلت و بزرگی میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں ایک حدیث میں تو  
رسول اللہ ﷺ نے یہاں تک فرمادیا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان دینے اور اول صف  
میں شامل ہونے کا کتنا اجر ملتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لئے لوگ ضرور قرعہ ڈالیں کہ  
کون اذان دے اور صف اول میں شامل ہونے کا حد سے زیادہ ثواب ہے۔ (ابوداؤد)  
قرآن مجید میں اذان کو بلفظ ”ندا“ تعبیر فرمایا گیا ہے اور قرآن پاک میں اذان کا  
مفہوم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (المائدہ: 58)

دوسری جگہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (الجمعة: 9)

نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے جس  
وقت نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ایک آواز کر یہ کے ساتھ پیٹھ دے کر بھاگتا ہے۔

اذان کی فضیلت کی وجہ

رسول خدا ﷺ نے جو اذان کی اس قدر فضیلت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤذن  
لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلاتا ہے اور اس سے زیادہ نیکی و بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ  
انسان حصول سعادت پر سبقت حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ اذان کے کلمات مغز اسلام  
ہیں۔ اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ خدائے قدوس کی عظمت و وحدت اور رسول اللہ ﷺ کی  
رسالت کا اعتراف و اقرار اور اذان کے کلمات انہیں دو باتوں کا اعلان کرتے ہیں۔

تیسری یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور نماز کی  
حقیقت بھی یہی ہے تو گویا مؤذن دوسرے لوگوں کو اس فریضہ کے مطابق الدال علی  
الخبیر کفایہ کا مصداق بن کر دعوت اسلام دیتا ہے۔ الغرض اذان دینا ایک بہت بڑی

نیکی ہے۔ مگر افسوس آج کل مؤذنوں کی بڑی بے قدری ہے اس کو ایک ذلیل و حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور لوگ مؤذنوں کو مسجد کا خادم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل و سمجھ دے کہ وہ اذان کی فضیلت و بزرگی کو سمجھ لیں۔

### اذان کے بعد کی دعا

اذان کے بعد مؤذن اور سامع دونوں اس دعا کو پڑھیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص اذان کے بعد میرے لئے طلب وسیلہ کرے گا میری شفاعت اس کے لئے ضرور ہوگی۔ وسیلہ جنت میں ایک خاص مرتبہ کا نام ہے جو آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ابْتِ  
مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ  
مَقَامًا مَحْمُودًا نِ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔

”اے اللہ! اس کامل دعا اور قائم ہونے والی نماز کے مالک آنحضرت ﷺ کو مقام وسیلہ اور فضیلت سے نواز اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہوا ہے قیامت کے روز ہمیں آپ کی شفاعت سے نصیب فرما بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔“

## فصل دوم

### اقامت کا بیان

اذان تو عام مسلمانوں کو بلانے کے لئے دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب ہمیں تمام کاروبار چھوڑ کر بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونا چاہئے اور تکبیر یا اقامت کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جمع شدہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب نماز باجماعت کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اذان میں جہر ہوتا ہے اور تکبیر میں اس قدر جہر نہیں ہوتا اور اذان میں سکتہ وقفہ بھی ہوتا ہے اور تکبیر میں نہیں ہوتا۔

جو الفاظ اذان کے ہیں وہی الفاظ تکبیر کے بھی صرف حَتَّى عَلَي الصَّلٰوة اور حَتَّى عَلَي الفَّلَاح کے بعد دو مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ۔ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ۔ بے شک نماز قائم ہوئی۔

تکبیر کے ان الفاظ کو سننے والا یہی کہتا جائے جو مکبر کہتا ہے مگر قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ کو سن کر کہے۔ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَ اَدَامَهَا۔ اللہ تعالیٰ نماز کو قائم و دائم رکھے۔

### ساعت و دعا

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں دو ساعتیں ایسی ہیں جن میں دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی ایک اقامت نماز کے وقت دوسری جہاد کی صف بندی کے وقت۔ جب نماز کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

یہ بالکل سچ ہے اس لئے کہ نماز دراصل دعائی ہے اور اقامت حد وقت ہے جبکہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کو اس ساعت سعید سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہئے کیونکہ اس غلامی و محکومی کے زمانہ میں جہاد تو منع ہے اور اس لئے جہاد کی صف بندی کی ساعت میسر نہیں آسکتی ہاں تکبیر والی ساعت ہر مسلمان کو میسر آسکتی ہے۔

اس لئے ہر مسلمان کو اس ساعت سے فائدہ اٹھانا چاہئے اس زمانہ میں ہمیں اسلام  
 نے دعاؤں کا ایسا بے خطا اور کارگر ہتھیار دیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی حربہ اس کا  
 مقابلہ نہیں کر سکتا۔

## باب شروط الصلوٰۃ

شروط جمع شرط کی ہے اور شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے متعلق ہو اس طرح کہ وہ خارج ہو اس دوسری چیز سے اور اس میں غیر مؤثر ہو۔ شرط کے لغوی معنی علامت کے ہیں اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ”اشراط الساعۃ“ یعنی قیامت کی علامتیں اور شرع میں شرط عبارت ہے۔ اس چیز سے جو مقدم ہو اور اس سے متعلق چیز کی صحت اس پر موقوف ہو۔ پس شرط صلوٰۃ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو نماز سے خارج ہیں اور نماز کی صحت ان پر موقوف ہے یعنی نماز اس وقت صحیح ہوگی جب کہ مقدم چیزیں صحیح ہوں۔

شروط کی تین قسمیں ہیں۔

اول۔ شرط الاعتقاد یعنی نماز کو شروع کرنے والی چیزیں جیسے نیت، تکبیر تحریمہ، وقت اور خطبہ۔  
دوم۔ شرط الدوام، جیسے طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ۔  
سوم۔ جس شرط کا وجود حالت بقاء کے لئے لازمی ہو جیسے قرأت۔

پھر جاننا چاہئے کہ جو چیز متعلق ہو کسی دوسری کے ساتھ اب اگر وہ اس چیز کے اندر داخل ہو تو اس کو رکن کہتے ہیں جیسے رکوع نماز کے لئے اور اگر اس سے خارج ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی یا تو وہ اس میں مؤثر ہوگا یعنی جب وہ چیز پائی جائے تو اس کے بعد وہ دوسری متعلق چیز بھی پائی جائے اس کو علت کہتے ہیں جیسے عقد نکاح واسطے حلال ہونے کے یعنی عقد نکاح سے وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے پس عقد نکاح وطی کے حلال ہونے کی علت ہے اور یا اس میں مؤثر نہ ہوگا۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں اگر وہ اس تمام کی طرف لے جانے والا اور پہنچانے والا ہو تو اس کو سبب کہتے ہیں جیسے وجوب صلوٰۃ کے لئے وقت یعنی نماز واجب ہونے کا سبب ہے اور اگر اس تک پہنچانے والا نہ ہو تو اگر وہ موقوف نہیں ہے تو اس کو علاقہ کہتے ہیں جیسے نماز کے لئے اذان پس شرط اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز سے متعلق ہو اس طرح کہ اس دوسری چیز سے خارج ہو اس میں غیر مؤثر ہو اور موصل الیہ ہو۔

## شرط اول

### طہارت بدن

نماز کی پہلی شرط بدن کا پاک ہونا ہے۔ بدن کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو نجاست یعنی ناپاکی کی جتنی متعین قسمیں ہیں ہم ان کو تفصیل و وضاحت کے ساتھ پچھلے ابواب میں بیان کر چکے ہیں ان کے مطابق نماز کی بدن کا نجاست حکمی یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر اور نجاست حقیقی و مغلطہ و مخففہ سے پاک ہونا نماز کی پہلی شرط ہے۔

نماز کے لئے یہ شرط اتنی کڑی ہے کہ یہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتی برخلاف دیگر شرائط کے۔ طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کا تمام دار و مدار طہارت پر ہے۔

طہارت کے معنی پاکی، پاکیزگی اور صفائی کے ہیں اس میں ظاہری و باطنی دونوں قسم کی پاکی شامل ہے یعنی اسلام دل کی صفائی اور بدن کی صفائی دونوں پر یکساں زور دیتا ہے اور اس نے دونوں کو لازم و ملزوم رکھا ہے جہاں تک طہارت ظاہری کا تعلق تھا اس کا بیان ہو چکا ہے مسلمانوں کو صرف طہارت ظاہری ہی پر بس نہیں کرنا چاہئے بلکہ طہارت باطنی کی کوشش بھی لازمی طور پر کرنی چاہئے۔ دراصل نماز کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا دل، روح، دماغ، جسم، لباس اور مکان تمام چیزیں پاک رہیں۔

## شرط دوم

### ستر پوشی

نماز کی دوسری شرط ستر چھپانا ہے ستر چھپانے سے مراد یہ ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنے تک بدن چھپانا فرض ہے اور یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے باہر بھی فرض ہے اور اس کے اندر بھی مرد کو ناف سے گھٹنے تک بدن چھپانا مرد کا ستر کہلاتا ہے۔

عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں، پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے اور یہ عورت کا ستر ہے اور باندی کے لئے پیٹ اور پیٹھ اور زانو تک چھپانا لازم ہے۔ بدن چھپانے کی یہ مقدار جو اوپر بیان ہوئی اس کو عورت بھی کہتے ہیں اور بدن کے اتنے حصہ کو چھپانا ستر عورت کہلاتا ہے اور کشف عورت سے مراد بدن کے اتنے حصہ کا کھل جانا ہے جتنے کا چھپانا نمازی کے لئے فرض ہے۔

### عورت غلیظہ و خفیفہ

عورت کی دو قسمیں ہیں غلیظہ اور خفیفہ۔ عورت غلیظہ مقام بول و براز اور اس حصہ بدن کو کہتے ہیں جو مقام بول و براز کے آس پاس ہو۔ اس کے علاوہ جتنے حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے وہ عورت خفیفہ کہلاتا ہے۔ چار سال کے لڑکے اور لڑکیاں صغریٰ میں داخل ہیں یعنی ان کا بدن ڈھانکنا لازمی نہیں ہے تاہم بچوں کو شروع سے بدن ڈھانکنے کی عادت ڈالنی چاہئے۔ چار برس سے لے کر سات برس تک بچوں کا مقام بول و براز اور اس کے آس پاس کا حصہ واجب الستر ہے۔ بڑوں کی طرح دس برس سے زائد عمر کا بچہ جو انوں کے حکم میں ہے یعنی اس کو جوان آدمی کی طرح اپنا بدن چھپانا چاہئے اور پندرہ برس کا لڑکا حقیقی جوان ہے جو عورتوں میں نہیں جاسکتا۔

نوٹ: یاد رہے ایک پستان، ایک خصیہ، ایک سرین، ایک ران پیٹ اور پیٹھ علیحدہ علیحدہ اعضا شمار کیے جاتے ہیں۔

### کشف عورت کی مقدار

جتنے بدن کا چھپانا فرض ہے اس کا یا عضو کا چوتھائی حصہ یا اس سے کم بغیر قصد اور بغیر فعل نمازی کے نماز میں کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہا جاسکے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز میں کچھ حرج واقع نہ ہوگا۔ نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ دونوں حکم اس صورت میں تھے کہ بلا قصد اور بغیر فعل نمازی کے کشف عورت ہو جائے اور اگر کوئی قصداً چوتھائی عضو کھولے تو نماز فوراً ٹوٹ جائے گی۔



اگر چند اعضاء کا تھوڑا تھوڑا حصہ کھل جائے اور اس کے مجموعہ کی مقدار ایک چھوٹے سے عضو کی چوتھائی کی برابر نہ ہو تو کچھ حرج نہیں ہے اگر چوتھائی کو پہنچ جائے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً عورت کے کان کا کچھ حصہ اور پنڈلی کا کچھ حصہ کھل گیا لیکن اس قدر کھلا ہے کہ برہنہ حصہ کے مجموعی کی مقدار چوتھائی کان کے برابر نہیں ہوتی ہے تو نماز جائز ہے اور اگر زیادہ یا برابر ہوتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ (68)

نماز میں عورت کے بال بالاتفاق چھپانے ضروری ہیں اگر ان کا کل حصہ بھی کھل جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

اگر باوجود لباس کے اندھیرے مکان میں رات کو تنہا برہنہ نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی کیونکہ شرعاً اس کا بدن مستور نہیں ہاں جس شخص کو لباس میسر نہ آئے تو ایسا شخص مجبور ہے وہ برہنہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے مگر ایسا شخص دو زانوں بیٹھ کر پڑھے گا اور رکوع و سجود اشارہ سے کرے۔ اگر برہنہ شخص کو کوئی کپڑا دینے کا وعدہ کرے اور اس کو کپڑے ملنے کی قوی امید ہو تو نماز کے اخیر وقت تک انتظار کرے۔

### نماز کے مستحب کپڑے

مرد کے لئے تین کپڑوں سے نماز پڑھنی مستحب ہے وہ تین کپڑے یہ ہیں: پاجامہ، کرتہ اور عمامہ۔ اگر عمامہ نہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن صرف پاجامہ سے مکروہ ہے۔ عورت کے لئے بھی نماز میں تین کپڑے مستحب ہیں: پاجامہ، کرتہ اور ڈوپٹہ۔ اگر دو سے بھی پڑھ لے تو جائز ہے ایک کپڑے سے بھی نماز ہو جاتی ہے مگر اس وقت جب کہ اس سے تمام بدن ڈھک جائے۔

### شرط سوم

### طہارت لباس

نماز کی تیسری شرط کپڑوں کا پاک ہونا ہے کپڑوں کے پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ

جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں جیسے کرتہ، پاجامہ، عمامہ، اچکن، کوٹ، اور دوپٹہ وغیرہ۔ ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی پہنے ہوئے کسی کپڑے پر نجاست غلیظہ یا خفیفہ نہ لگی ہو اگر نجاست غلیظہ ایک درہم یا اس سے کم اور یا نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی اور اگر مذکورہ مقدار سے زیادہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ لگی ہو تو نماز نہ ہوگی۔

یاد رہے کہ جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے تو ایسے کپڑے کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ پس اگر عمامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہو اور پاک کنارہ باندھ کر نماز پڑھی جائے اور ناپاک کنارہ نماز کے پلٹنے سے ہلتا ہو تو نماز نہ ہوگی۔

**مسئلہ:** کسی کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے کہ جس کا چوتھائی سے کم حصہ ناپاک ہے اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا موجود نہیں اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے تو اسی کپڑے سے نماز پڑھ لینی چاہئے۔ اگر چوتھائی حصہ سے زیادہ ناپاک ہے تو بھی یہی بہتر ہے کہ اسی کپڑے سے نماز پڑھ لے نہ گناہ پڑھے۔

**مسئلہ:** اگر کسی شخص نے نماز پڑھ چکنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی دیکھی اور یہ معلوم نہیں کہ کب لگی ہے تو نجاست کو اسی وقت دھو ڈالے اور کسی نماز کا اعادہ ضروری نہیں خواہ نجاست کتنی ہی ہو۔

**مسئلہ:** اگر ایسے استردار کپڑے پر نماز پڑھی کہ اس کے اندر والے حصہ پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو اگر وہ سلا ہوا ہے تو نماز نہ ہوگی اور اگر سلا ہوا نہیں ہے تو ہو جائے گی۔

## شرط چہارم

### طہارت مکان

نماز کی چوتھی شرط نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا ہے یعنی نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں، گھٹنوں، ہاتھوں اور سجدہ کی جگہ کا پاک ہونا لازمی ہے اگر نماز پڑھنے کی جگہ تو پاک ہے مگر کہیں اس پاس بدبودار نجاست ہے تو ایسی جگہ نماز ہو جائے گی مگر بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھی جائے۔ اگر لکڑی کے تختے، یا پتھر یا بجھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت اور

موٹی چیز پر نماز پڑھی جو اوپر سے تو پاک ہے مگر نچلا حصہ ناپاک ہے تو کچھ حرج نہیں۔  
 مسئلہ: اگر ایسے پتلے کپڑے پر نماز پڑھے جس کے دونوں رخ پر نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز درست نہ ہوگی۔ اسی طرح دو الگ الگ کپڑے ہیں آپس میں سلے ہوئے نہیں اور ان میں سے اوپر والا کپڑا تو پاک ہے اور نیچے والا کپڑا ناپاک ہے تو اگر نیچے کی نجاست کی بو اور رنگ کا اثر اوپر کے کپڑے پر نمایاں نہ ہو تو نماز اس پر جائز ہے مطلب یہ ہے کہ جب تک نیچے کی نجس چیز کا بو یا رنگ اوپر کے کپڑے پر ظاہر نہ ہو تو اس وقت تک اس پر نماز جائز ہے خواہ نیچے کی نجس چیز کپڑا ہو یا زمین۔

اگر دونوں قدموں اور گھٹنوں کی جگہ تو پاک ہو مگر پیشانی اور ناک کی جگہ ناپاک ہو تو اس کو ناک پر سجدہ کرنا چاہئے نماز ہو جائے گی اگر ناک کی جگہ ناپاک ہو اور باقی مواضع پاک تو بلا خوف نماز جائز ہے۔

## شرط پنجم

### دخول وقت

نماز کی پانچویں شرط وقت کا پہچاننا ہے۔ یعنی نماز ادا کرنے کے لئے پانچویں شرط یہ ہے کہ جس نماز کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس نماز کو اسی وقت پڑھنا اگر وقت سے پہلے نماز پڑھی جائے گی تو درست نہ ہوگی اور اگر وقت مقررہ کے بعد پڑھی جائے گی تو وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔

نماز کی پانچویں شرط ذرا تفصیل طلب ہے اور اس کے اندر بہت ضروری مباحث ہیں اس لئے ہم ان کو تفصیل کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔

سب سے پہلی اور ضروری چیز اوقات خمسہ کا قرآن مجید سے ثبوت ہے کیونکہ اوقات خمسہ پر ایک گمراہ فرقہ کی طرف سے طرح طرح کے شبہات و اعتراض پیش کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم پہلے اسی بحث کو لیتے ہیں۔

## قرآن مجید سے اوقات خمسہ کا ثبوت

اوقات خمسہ اس قدر یقینی ثابت شدہ اور متواتر ہیں کہ آج تک یعنی تیرہ سو سال سے ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ کیونکہ جو شخص قرآن مجید سے ذرا سی واقفیت بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن پاک سے پانچ نمازوں کا ثبوت مانند آفتاب کے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اوقات خمسہ میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا مگر اس چودھویں صدی کی ستم نظریں نے دیکھئے کہ اس نے پنجاب کے ایک تاریک گوشہ میں ایک شخص اور ایسا گمراہ فرقہ پیدا کر دیا جسے قرآن میں صرف تین ہی نمازیں نظر آتی ہیں اور دو بقیہ وہ اوقات پر طرح طرح کے لالچ اور جاہلانہ اعتراض کرتا ہے مگر اس کی مغالطہ انگیزی اور جاہلانہ طرز استدلال سے دو نمازوں پر پردہ نہیں پڑ سکتا۔

جس فرقہ کا وطیرہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اس کے نزدیک نماز کے صرف تین اوقات ہیں صبح، عصر اور عشا۔ وہ صرف اوقات ظہر اور مغرب کے متعلق اختلاف کرتا ہے اس لئے اب ہم قرآن مجید سے پانچوں اوقات کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ سورہ ہود پارہ ۱۲ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَدُلُقَائِنِ الْيَلِّ (ہود: 114)

”یعنی اور دن کے طرفین میں اور کچھ رات گئے نماز پڑھو“۔

اس آیت مبارکہ میں دن کے دونوں طرف نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس میں دن کے طرف کے معنی سمجھنے سب سے پہلے ضروری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دن کے طرف سے مراد وقت کا کوئی نقطہ یا اس سے مراد وقت کا کوئی امتداد ہے یعنی ایک ایک نماز کے لئے کافی طور پر لمبا وقت ہونا چاہئے۔ طرف کے یہی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اب جو شخص زبان عربی سے واقفیت رکھتا ہے وہ باوئی تامل یہ بات معلوم کر سکتا ہے کہ اس آیت میں طرف کے معنی وقت کا کوئی نقطہ ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین نمازوں کا حکم دیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان تینوں نمازوں کے لحاظ سے دن رات کے تین حصے کئے جائیں ان میں پہلا حصہ پونہ

سے لے کر قبل دوپہر تک ہے۔ یہ دن کی پہلی طرف ہے اس میں دن کے ایک طرف یعنی صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت طلوع الشمس ہے۔ دوسرا حصہ سورج کے ڈھلنے سے رات کے تاریک ہو جانے تک ہے یہ دن کی دوسری طرف ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت زیر بحث میں، ہمیں صبح و شام اور عشاء کی تین نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اس طرح یہ تین نمازیں ہوں۔

اب ظہر کی نماز کے لئے حکم ہوتا ہے:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُنْكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (بنی اسرائیل: 78)

”یعنی اے نبی! وقت زوال آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی چھانے تک نماز پڑھا کرو۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نخعی رضی اللہ عنہ، مقاتل رضی اللہ عنہ اور سدی رضی اللہ عنہ وغیرہم نے دلوک کے معنی غروب کے لئے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ غروب آفتاب سے لے کر رات کی تاریکی چھا جانے تک نماز مغرب میں مشغول رہا کرو۔ چنانچہ مغرب کی نماز کا اول وقت غروب آفتاب ہے اور اخیر وقت رات کی تاریکی چھا جاتا ہے۔ پس اگر دلوک کے معنی غروب آفتاب کے لئے جائیں تو اس آیت سے مغرب کی نماز کا ثبوت ہوگا اگر اس سے مراد زوال آفتاب لیا جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس، ابن عمر، جابر، مجاہد، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اکثر تابعین کا مذہب ہے تو اس آیت سے نماز ظہر کا ثبوت ہوتا ہے اور یہی معنی صحیح معلوم ہوتے ہیں۔

دلوک

لغت میں تین معنی ہیں اول سورج کا ڈھلنا، دوم اس کا زرد پڑ جانا اور سوم اس کا غروب ہو جانا۔ اب ان تینوں معنوں میں سے خواہ کوئی معنی مراد لئے جائیں ایک ہی نماز کا حکم لگتا ہے خواہ وہ مغرب ہو یا ظہر۔ ظہر مراد لینے میں کچھ اعتراضات وارد ہوئے ہیں جب اعتراض کرنا ہی مقصود ہو تو قرآن کا کوئی بھی حکم اس سے نہیں بچ سکتا۔

اعتراضات سے بچنے کے لئے مفسرین نے یہ روش اختیار کی ہے کہ وہ مذکورہ بالا سورہ

ہود کی آیت سے فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں کا ثبوت دن کے ایک طرف سے نکالتے ہیں اور دوسری طرف یعنی ذُلْفَاعِیْنِ الْبَیْلِ سے مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ثبوت نکالتے ہیں۔ گویا وہ پانچوں نمازوں کو ایک ہی آیت سے ثابت کرتے ہیں اور وہ دن رات کے دو حصے کرتے ہیں اور یہی زیادہ صحیح اور بے تکلف بھی معلوم ہوتا ہے۔ جس پر قرآنی الفاظ شاہد عادل ہیں۔ بہر حال مذکورہ بالا دو آیتوں سے قطعی طور پر چار نمازوں کا ثبوت نکلتا ہے اب رہی پانچویں نماز اس کا حکم اس آیت میں ہے۔

وَالصَّلٰوةُ الْوَسْطٰی (بقرہ: 238)

”یہ پانچویں نماز ہے۔“

کیونکہ چار نمازوں میں بیچ کی نماز بھی نکل سکتی ہے اس آیت میں جو لفظ ”وسطی“ آیا ہے وہ ”اوسط“ کی مونت ہے جو صلوٰۃ کی صفت واقع ہوئی ہے۔ یعنی بیچ والی نماز۔ ظاہر ہے کہ یہ نماز عصر ہی کی نماز ہو سکتی ہے پس اس تفصیل کے مطابق قرآن مجید میں پانچ نمازوں کا صریح حکم موجود ہے۔

نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان کی توقیت کے باب میں ایک اور بھی نص صریح موجود

ہے وہ یہ ہے۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُسَبِّحُوْنَ وَ حِیْنَ تَضَعُوْنَ ۝۱۵ وَ لَہُ الْحَمْدُ فِی

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ عِشَیَآءٍ حِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝۱۶ (الروم)

”پس جس وقت تم لوگوں کو شام اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو اور آسمانوں اور زمین میں تعریف اسی کے لئے ہے اور جب تیسرا پہر اور دو پہر ہو تب بھی اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرو۔“

اس آیت مبارکہ میں تسبیح سے مراد تسبیح خاص یعنی صلوٰۃ مفروضہ مراد ہے اور قرآن پاک کی یہی آیت نماز پنجگانہ کی فرضیت اور ان کی توقیت کے باب میں نص صریح ہے۔ یعنی ”مساء“ میں مغرب اور عشاء میں دونوں شامل ہیں باقی تینوں نمازوں کے اوقات جداگانہ مذکور ہیں جن کا پہلے بیان ہوا۔

## حدیث سے نماز کی فرضیت کا ثبوت

مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن پاک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صاحب قرآن یعنی پیغمبر خدا ﷺ تھے۔ سو آپ نے صلوٰۃ خمسہ کے اوقات کو مقرر و متعین فرما کر نماز پنجگانہ کی فرضیت کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیا۔ اوقات صلوٰۃ مفروضہ کی تعداد کے متعلق اس قدر کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ اوقات صلوٰۃ میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ اوقات خمسہ کو حدیث کی صراحت نے بخوبی ثابت کر دیا ہے۔

اوقات نماز معلوم کرنے کے لئے ہم یہاں صرف ایک حدیث کو پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں جو صحیح مسلم میں آئی ہے اور جس میں اوقات کی تعیین کا صریحاً ذکر موجود ہے۔

سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات ﷺ سے اوقات صلوٰۃ کو پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا ہمارے ساتھ دونوں نمازیں پڑھو تو جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دو۔ انہوں نے اذان دی پھر حکم دیا تو ظہر کی نماز کھڑی کی پھر حکم دیا تو عصر کی نماز کھڑی کی جب کہ آفتاب غائب ہو چکا تھا پھر فرمایا تو عشاء کی نماز کھڑی کی جب کہ شفق غائب ہو چکی تھی پھر حکم فرمایا تو فجر کی نماز قائم کی جب کہ طلوع فجر ہو چکا تھا۔ پھر جب دوسرا دن آیا تو نبی کریم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ظہر کے وقت ٹھنڈک ہونے دو انہوں نے خوب ٹھنڈک ہونے دی پھر حضور ﷺ نے عصر کی نماز پڑھائی جب کہ آفتاب اونچا تھا مگر گزشتہ دن سے کم۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی قبل اس کے کہ شفق غائب ہو اور پھر عشاء کی نماز پڑھائی رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد اور فجر کی نماز پڑھائی خوب روشنی کر کے پھر فرمایا اوقات صلوٰۃ پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ آدمی بولا میں ہوں آپ نے فرمایا تمہاری نماز کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جن کو تم نے دیکھا۔ (69)

اس حدیث سے اوقات خمسہ کے اول و آخر وقتوں کا خوب پتہ لگتا ہے ساتھ ہی حضور ﷺ نے درمیانی اوقات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا اور مسئلہ اوقات کو اچھی طرح واضح

کر دیا۔

اب ہم ان اوقات کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان اوقات کی پہچان بھی ہو جائے اور ان کی رکعات کا بھی پتہ لگ جائے کہ کس وقت کتنی رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔

## نماز فجر

نماز فجر کا وقت صبح کی پوپھٹنے سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ سورج نکلنے سے تخمیناً ڈیڑھ گھنٹا قبل مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو صبح کا ذب کہتے ہیں کیونکہ یہ سفیدی تھوڑی دیر تک رہ کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے غائب ہو جانے کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے اوپر کی طرف لمبی نہیں اٹھتی بلکہ مشرق کی طرف دائیں بائیں جانب پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور پھر پھیلتی ہی چلی جاتی ہے اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ اس صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے تک رہتا ہے جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو نماز فجر کا وقت جاتا رہا۔

نماز فجر کا مستحب وقت وہ ہے جب کہ اچھی طرح اجالا ہو جائے اور سورج نکلنے میں اتنا وقت باقی رہے جتنی دیر میں دوبارہ نماز پڑھی جاسکے یعنی اندازاً سورج نکلنے سے بیس پچیس منٹ پہلے نماز پڑھ لینی چاہئے تاکہ اگر نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی تو دوبارہ پڑھی جاسکے۔ یہ مستحب وقت اس لئے رکھا گیا ہے کہ صبح کے وقت عموماً لوگوں کی آنکھ دیر میں کھلتی ہے وہ سب کے سب شامل ہو سکیں کوئی جماعت سے پیچھے نہ رہ جائے۔

نماز فجر کی کل رکعتیں چار ہیں۔ دو سنت اور دو فرض۔ یہ سنتیں سنت موكده کہلاتی ہیں یہ دو سنتیں پڑھ کر پھر فرض کی دو رکعتیں ادا کرنی چاہئے۔ فجر کی فرض رکعتوں میں امام قرآن پکار کر پڑھے گا۔ اکیلا نماز پڑھنے والا بھی اگر پکار کر پڑھے تو بہتر ہے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ ڈیڑھ رات کے برابر نماز



(70) پڑھتا ہے۔

حضور ﷺ فجر کی دو سنتوں کی بڑی حفاظت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔

## نماز ظہر

سورج کے ڈھلتے ہی ظہر کا اول وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس کے برابر نہ ہو جائے۔ یعنی ظہر کا آخر وقت ہر چیز کے دو گنا سایہ تک ہے۔ سوائے اصل سایہ کے ٹھیک وقت کے ہر چیز کا جتنا سایہ ہو اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دو گنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا کہ دھوپ کی تیزی کم ہو جائے اور جاڑوں کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے۔ بہر حال اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ظہر کی نماز ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے کیونکہ سایہ اصلی کے علاوہ دو چند سایہ ہونے تک امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سایہ اصلی کو چھوڑ کر اگر سایہ یک چند ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مثل کے اندر اندر نماز پڑھ لینے میں ہی احتیاط ہے۔

سایہ اصلی کی شناخت کی ترکیب یہ ہے کہ ایک بالکل سیدھی لکڑی لے کر ہموار زمین میں گاڑی جائے۔ لکڑی کسی جانب کو جھکی ہوئی نہ ہو بلکہ بالکل سیدھی رہے جب تک اس لکڑی کا سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا اس وقت تک سمجھو کہ آفتاب چڑھ رہا ہے اور جس وقت سایہ بڑھنے لگے تو سمجھنا چاہئے کہ زوال شروع ہو گیا ہے جس وقت سایہ کم ہوتے ہوئے ایک مقام پر ٹھہر جائے تو سمجھنا چاہئے کہ یہ وقت عین زوال شروع ہو گیا۔ جس وقت سایہ اس لکڑی سے کم ہونے لگا تو سمجھنا چاہئے کہ یہ وقت عین زوال ہے۔ سایہ جس وقت ٹھیک برابر ہو اس وقت ایک نشان زمین پر بنا دو اب اس نشان کے آگے سے حساب کرنا چاہئے کہ کس قدر سایہ دراز ہوتا ہے۔ اس اصلی سایہ سے دو چند ہونے تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔

نماز ظہر کی کل بارہ رکعتیں ہیں۔ پہلے چار سنتیں، پھر چار فرض، پھر دو سنتیں اور پھر دو نفل۔  
ظہر کے چاروں فرض کی رکعتوں میں امام اور اکیلے نمازی کو آہستہ قراءت کرنی چاہئے۔

### نماز عصر

جب سایہ اصلی کو چھوڑ کر ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو اول وقت عصر شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب دھوپ بالکل زرد ہو جائے تو اس وقت نماز کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے۔ پس دھوپ کے زرد ہونے سے پہلے نماز پڑھنی چاہئے۔

جس طرح ظہر کی انتہاء وقت میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے اسی طرح عصر کے شروع وقت میں بھی اختلاف ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کا ابتدائی وقت وہ ہوتا ہے جب کہ ہر چیز کے سایہ اصلی کا سایہ چھوڑ کر دو چند سے بڑھ جائے اور صاحبین کے نزدیک عصر کا وقت جب شروع ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ سے علاوہ یک چند سے زائد ہو جائے۔

عصر کی نماز کے صرف چار فرض ہیں۔ فرض سے پہلے چار رکعت بطور نفل بھی پڑھے جاتے ہیں جن کا بہت ثواب ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر کے چار فرض سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک آفتاب غروب نہ ہو۔ اس نماز کے لئے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جس نے نماز عصر ترک کی اس کے تمام عمل برباد ہو گئے اور وہ شخص دین کے اعتبار سے ایسا مفلس ہو گیا گویا اس کا سارا مال اور اہل و عیال لوٹ لئے گئے۔

عصر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے مگر اتنی نہیں کہ دھوپ زرد پڑ جائے اور وقت مکروہ ہو جائے۔ یعنی تغیر آفتاب سے پہلے عصر کا مستحب وقت ہے۔ تغیر آفتاب سے مراد یہ ہے کہ دھوپ زرد پڑ جائے اگر تغیر آفتاب سے پہلے نماز شروع کی اور حالت نماز میں ہی دھوپ زرد پڑ گئی تو مکروہ نہیں ہے۔

## نماز مغرب

جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک شفق اس سرخی کا نام ہے جو آسمان کے کناروں پر شام کے وقت ہوتی ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سپیدی کو کہتے ہیں جو سرخی غائب ہو جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ گویا امام صاحب کے نزدیک سرخی غائب ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول احتیاط پر مبنی ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ مغرب کی نماز میں ہر موسم میں تعجیل کرنا مستحب ہے اور بلا عذر دریر کرنا مکروہ ہے۔

مغرب کی نماز میں کل سات رکعتیں ہیں۔ تین رکعت فرض ان کے بعد دو رکعت سنت اور پھر دو نفل۔ مغرب کی یہ دو سنتیں موكده ہیں۔

## نماز عشاء

نماز عشاء کا وقت شفق چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ وتر کا بھی یہی وقت ہے۔ عشاء کا وقت تہائی رات گزرنے تک مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح ہے۔

عشاء کی کل سترہ رکعتیں ہیں۔ پہلے چار سنتیں، ان کے بعد چار فرض، پھر دو سنتیں، پھر دو نفل، پھر تین وتر اور آخر میں دو نفل۔

نوٹ: پانچوں وقت کی نمازوں میں بارہ رکعتیں سنت موكده ہیں۔ دو فجر کے فرضوں سے پہلے، ظہر میں چار فرضوں سے پہلے اور بعد کی دو سنتیں، مغرب کے بعد دو۔ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان بارہ رکعتوں پر مداومت کرے گا اس کے لئے جنت میں ہر روز ایک نیا مکان بنایا جائے گا۔ (71)

## ہدایت

ابر کے دن فجر، ظہر اور مغرب کی نماز میں تاخیر کرنی چاہئے تاکہ فجر کی نمازرات میں اور ظہر کی زوال سے پہلے اور مغرب کی غروب آفتاب سے پہلے ہو جانے کا احتمال باقی نہ رہے اور عصر و عشاء کی نماز میں تعجیل کرنی چاہئے تاکہ عصر میں مکروہ وقت نہ آجائے اور عشاء میں بارش اور اندھیرے کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے والوں کو تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔

## چار نفل نمازوں کے اوقات

مذکورہ بالا فرض اوقات کے علاوہ شریعت میں چار نفل نمازیں ایسی بھی ہیں جن کے اوقات مقرر ہیں وہ چار نفل نمازیں یہ ہیں، اشراق، چاشت، بعد زوال اور تہجد۔ اشراق کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر اس وقت تک رہتا ہے جب تک آفتاب میں گرمی پیدا نہ ہو۔ آفتاب کے گرم ہونے سے لے کر زوال تک چاشت کا وقت ہے۔ زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے زوال کا وقت ہے اور تہجد کا وقت آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ تہجد کا افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے۔

## نماز کے مکروہ و ممنوع اوقات

نماز کے مکروہ اوقات پانچ ہیں ان میں سے تین اوقات ایسے ہیں جن میں فرض اور نفل نمازیں مکروہ ہیں وہ تین وقت یہ ہیں۔

۱۔ طلوع شمس کے نزدیک۔

۲۔ غروب آفتاب کے وقت۔

۳۔ زوال آفتاب کے وقت۔

غروب آفتاب کے وقت اسی روز کی نماز عصر پڑھی جاسکتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ

علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز زوال کے وقت نفل نماز جائز ہے۔

اگر مذکورہ بالا مکروہ اوقات میں نماز پڑھی جائے گی تو فاسد ہوگی البتہ اسی دن کی نماز عصر

سورج ڈوبنے کے وقت کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی اگر کسی نے ان مکروہ اوقات

میں نماز پڑھنی تو اس کو لوٹانا چاہئے۔

جنازہ کی نماز اگر مذکورہ ممنوع اوقات میں واجب ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ ان ممنوع اوقات میں ہی پڑھ لی جائے تاخیر مکروہ ہے اور اگر نماز جنازہ پہلے سے واجب ہوئی تھی تو ان اوقات میں نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت اگر ان ممنوعہ اوقات میں واجب نہیں ہوا تو انہیں اوقات میں ادا کر لینا چاہئے اگر پہلے واجب ہوا ہے تو ان اوقات میں ادا نہ کرنے۔ (کبیری) مذکورہ بالا تین اوقات تو ایسے تھے جن میں فرض اور نفل نمازیں دونوں مکروہ و ممنوع ہیں ان کے علاوہ دو مکروہ اوقات ایسے ہیں جن میں صرف نفل نماز مکروہ ہے فرض مکروہ نہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ نماز فجر سے قبل صبح صادق کے بعد سوائے فجر کی سنتوں کے اور تمام نفل نمازیں پڑھنی مکروہ ہیں۔

۲۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ہر طرح کی نفل نماز مکروہ ہے علاوہ ازیں عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک، غروب آفتاب سے لے کر قبل از نماز مغرب تک نفل نمازیں پڑھنی مکروہ ہیں۔ فرض نماز کی اقامت کے وقت اور خطبہ پڑھے جانے کے وقت بھی نفل پڑھنے مکروہ ہیں اگر وقت اس قدر تنگ ہو گیا ہو کہ صرف فرض پڑھے جاسکتے ہیں تو ایسے وقت میں فرض کے علاوہ نوافل پڑھنے مکروہ ہیں اگر کسی نے ان اوقات مکروہ میں نفل نماز شروع کی تو اس کے لئے افضل ہے کہ نیت توڑ دے اور پھر کسی وقت ادا کرے۔ اگر نماز نہ توڑی تو گنہگار ہوگا۔ (72)

## شرط نشیہ

### استقبال قبلہ

نماز کی چھٹی شرط استقبال قبلہ ہے۔ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ اس شرط کے ضمن میں ضروری ہے کہ ہم یہاں تاریخ تحویل قبلہ کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں۔ لہذا اس کو بیان کیا جاتا ہے۔

72۔ عید الفطر یا عید الفی کے دن طلوع آفتاب کے بعد سے نماز عید سے قبل بھی ہر طرح کے نوافل مکروہ ہیں۔

## تاریخ تحویل قبلہ

خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام نے بنایا تھا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہم نے اسے لوگوں کا مجمع قرار دیا ہے۔ ہر چہار طرف سے لوگ آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بنی اسماعیل میں ہمیشہ یہی قبلہ رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کی اجازت دی گئی کیونکہ حضرت مسیح بنی اسرائیل کے لئے نبی تھے اور خود بھی انہی کی اولاد میں سے تھے اس لئے وہ بیت المقدس کو بیت اللہ سمجھتے رہے لیکن بنی اسماعیل کا معبد اور قبلہ جس طرح چلا آ رہا تھا ویسا ہی چلا آیا۔

بعد ازاں جب خاتم المرسلین سرور کائنات ﷺ مبعوث ہوئے تو اس وقت دو قبلے تھے۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس اور بنی اسماعیل کا خانہ کعبہ۔ مگر چونکہ وہ زمانہ کفر و شرک کے تسلط و اقتدار کا زمانہ تھا چنانچہ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اپنی رائے و اجتہاد سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیا مگر آپ ﷺ خانہ کعبہ کی بزرگی سے اچھی طرح واقف تھے اس لئے آپ سے پشت دے کر نماز نہ پڑھتے تھے۔ البتہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو مجبور ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ رہے اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے حالانکہ تحویل صرف ایک ہی مرتبہ ہوئی یعنی پیشتر آپ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوتے تھے پھر مدینہ آ کر چند ماہ بعد کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہوا۔ فقط یہی ایک تغیر معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ بھی کوئی تغیر نہیں کیونکہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم نہیں ہوا تھا کہ یہ کہا جائے کہ پہلے وہ حکم ہوا تھا بلکہ پہلا امر حضور سرور کائنات کا اجتہادی امر تھا مگر چونکہ اس اجتہاد نبوی کی بناء نہایت صحیح اور عمدہ مصلحت پر تھی اس لئے خدا نے اس سے روکا نہیں بلکہ اس کو قائم رکھا۔ اس مصلحت کو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں بیان فرماتا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ (بقرہ: 143)

”جس قبلہ پر تو تھا ہم نے اس لئے قبلہ ٹھہرایا تھا کہ جان لیں کہ کون اس رسول کی تابعداری کرے گا اور کون اٹھے پاؤں پھر جائے گا۔“

اگرچہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونا آنحضرت ﷺ کا اجتہادی امر تھا مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع نہیں فرمایا اس لئے اس کو حکم خداوندی قرار دیا گیا اور وجہ امتحان۔

بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی حکمت و مصلحت

مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بیت المقدس کو اس لئے قبلہ قرار دیا تھا کہ اپنے رسول کے تابعداروں کو معلوم کریں۔ سو اس امر کی تفصیل سنئے کہ یہ کیونکر ایمان و امتحان کی دلیل ٹھہرا۔ اہل عرب خانہ خدا کی انتہائی عزت و عظمت کرتے تھے اور آنحضرت ﷺ تو سب سے زیادہ عظمت کرتے تھے مگر باوجود اس کے اس کو قبلہ قرار نہیں دیتے یہ امر عرب والوں پر نہایت شاق گزرتا تھا۔ لیکن انہوں نے باوجود اس ناگواری کے محض اتباع رسول ﷺ کے جذبہ سے بسر و چشم قبول کیا اور یہ امر ان کے تسلیم و رضا اور ایمان و اطاعت کی دلیل ٹھہری اور ان اللہ والوں کا بخوبی امتحان ہو گیا۔

علاوہ ازیں بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کی ایک حکمت و مصلحت یہ بھی تھی کہ اس وقت خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو بت پرستی چھوڑے ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ احتمال تھا کہ اس حالت میں اگر ان کو قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا جاتا تو خدا کی عبادت میں بتوں کا تصور آجاتا اس احتمال و خدشہ کی بناء پر حضور سرور کائنات ﷺ نے باوجود بنی اسماعیل ہونے اور ملت ابراہیمی رکھنے کے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا جب یہ احتمال و عذر جاتا رہا اور خدا پرستی مسلمانوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اصل قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا۔ اس تفصیل سے جہاں بیت المقدس کو قبلہ بنانے کی حکمت و مصلحت واضح ہو گئی یہ امر بھی صاف ہو گیا کہ اصل میں قبلہ کے حکم میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہوا۔

جو لوگ اپنی جہالت و حماقت سے اس قسم کے عارضی تغیرات پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا  
عَلَيْهَا قُلُوبَهُمْ ۗ وَالْمَشْرِقِيُّ وَالْمَغْرِبِيُّ يَهْتَدِيَانِ مِنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ﴿١٨٠﴾ (بقرہ)

”عنقریب بیوقوفوں کی ایک جماعت کہے گی کونسی چیز مسلمانوں کے لئے باعث  
روگردانی ہوئی کہ اس قبلہ سے پھر گئے جس پر وہ تھے ان سے کہہ دو کہ مشرق و مغرب  
اللہ ہی کا ہے ہدایت دکھاتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف۔“

یعنی بعض نادان اور بیوقوف لوگ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ بیت المقدس  
سے مسلمان کیوں پھر گئے؟ کیا اس میں کوئی نقصان پایا؟ یا قبلہ دوم کی بندگی اب ان پر طاری  
ہوئی ہے۔ اگر قبلہ اول ناقص تھا تو اول ہی سے قبلہ دوم کو کیوں اختیار نہ کیا ان سب سے کہہ  
دیجئے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی قبلہ اول سے روگردانی کا باعث نہیں ہوئی۔ تمہارے یہ  
اعتراضات جہالت و سفاہت پر مبنی ہیں کہ تم تحویل قبلہ کی بناءً تعصب مخالفین جانبداری کی  
قومیت اور نقص و کمال کو سمجھتے ہو۔ بلکہ اصل دین اور استقبال قبلہ اتباع فرمان خدا ہے نہ کہ اتباع  
اتحسانات عقلیہ ناقصہ، نہ تعصب و پاس قومیت، ہماری روگردانی کا باعث صرف حکم خداوندی  
ہے کہ ایک مدت تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اب کعبہ کو۔ مشرق و مغرب تو اللہ تعالیٰ کے لئے  
ہے اسے اختیار ہے کہ جس جگہ کو چاہے قبلہ قرار دے۔ یہ تعین قبلہ محض برائے نمودن راہ عبادت  
ہے اور اس طرح وہ جس کو چاہتا ہے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔

مذکورہ تفصیل سے استقبال بیت المقدس کی حکمت و مصلحت اور پھر استقبال قبلہ کی  
حقیقت بخوبی واضح ہوگئی اور تمام متعلقہ تاریخی واقعات روشن و مبرہن ہو گئے۔

جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو سب  
سے پہلے آپ نے مسجد نبوی بنوائی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی جانب رکھا۔ ہجرت کے سولہ  
ماہ بعد یعنی غزوہ بدر سے دو ماہ قبل شعبان یا رجب کے مہینے میں خانہ کعبہ قرار دیا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

”گویا آنحضرت علیہ السلام در ابتدائے بعثت خود خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت



ابراہیم علیہ السلام ہوو بعد از معراج خلافت انبیائے بنی اسرائیل ہم یا قند دہر گاہ ہجرت مدینہ فرمودند استقبال ہر دو قبلہ ممکن نہ بود کہ دو جہت متقابل از نجا واقع اند لا جرم آنحضرت ﷺ در این جا اجتہادے باریک فرمودند و استند کہ چوں من پہ ہجرت از مکہ بہ مدینہ مامور شدم لا جرم پشت بہ مکہ درو بہ بیت المقدسہ خواہم رفت۔“

”گویا آنحضرت ﷺ ابتدائے بعثت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور بعد معراج کے انبیائے بنی اسرائیل کی خلافت بھی حاصل کر لی اور جب مدینہ میں ہجرت فرمائی تو دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنا ممکن نہ تھا کیونکہ یہاں سے دونوں جگہ ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اس لئے لامحالہ حضور ﷺ نے اپنے اجتہاد سے یہ جانا کہ چونکہ مجھے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے اس لئے لامحالہ مجھے پشت مکہ کی طرف اور منہ بیت المقدس کی طرف کرنا چاہئے۔“ (73)

الغرض مسلمان غزوہ بدر سے دو ماہ قبل تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جب تحویل قبلہ کا حکم دیا اور حالت نماز میں اس کو سنا تو اسی حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے اسی بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تخری کر کے کسی جانب کو جنگل میں نماز پڑھا ہو اور حالت نماز میں اس کو معلوم ہوا کہ میری سمت قبلہ کی طرف نہیں دوسری طرف ہے تو اس طرف پھر جائے۔

### استقبال قبلہ کے احکام و مسائل

ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ (مغرب) کی طرف ہے کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ مکہ والوں کے لئے عین کعبہ شریف کی سیدھ میں منہ کرنا اور غیر مکہ والوں کے لئے کعبہ کی سمت کی طرف منہ کرنا شرط نماز ہے۔ استقبال قبلہ کی فرضیت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ: 144)

”اور تم جہاں بھی ہو پس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی سمت۔“

اس بارے میں اختلاف ہے کہ کعبہ کی نیت کرنا بھی شرط ہے یا نہیں؟ شیخ امام ابو بکر محمد

حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحالت استقبال قبلہ و کعبہ کی نیت کرنا شرط نہیں اور شیخ ابو بکر محمد بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔

### قبلہ کی شناخت کرنے کا طریقہ

شہروں اور گاؤں میں تو عموماً ہر جگہ مسجدیں ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں کو قبلہ کی شناخت کی ضرورت ہی نہیں۔ جو لوگ جنگلوں اور دریاؤں میں ہوں وہ ستاروں سے قبلہ کی شناخت کر سکتے ہیں اور جہاں نہ ستاروں سے شناخت ہو سکتی ہو اور نہ ہی کوئی آدمی ہو کہ اس سے دریافت کر لیا جائے تو پھر اپنے قیاس سے سمت قبلہ متعین کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ قبلہ کی شناخت کے لئے قبلہ نما بھی ایجاد کر لئے گئے ہیں جو قبلہ کی شناخت کا کام دیتے ہیں۔ الغرض قبلہ کی شناخت کی مختلف علامتیں اور طریقے ہیں جہاں یہ علامتیں اور طریقے میسر نہ آئیں وہاں تخری کرنا فرض ہے۔ تخری کہتے ہیں قیاس کرنے کو۔ یعنی جہاں کوئی علامت بھی نہ ہو تو نمازی کو قیاس ہی سے کام لینا چاہیے۔ جدھر اس کی عقل قبلہ کی سمت مقرر کرے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر بغیر تخری کے نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ (1)

جس شخص کا قیاس کسی جانب کو بھی نہ ہو سب سمتوں میں ان کو تذبذب ہو تو اس شخص کو احتیاطاً ہر سمت کی طرف ایک ایک بار نماز پڑھ لینی چاہیے۔ (2)

چنانچہ ایک شخص نے اپنی سوچ سے ایک سمت مقرر کر کے نماز کی ایک رکعت پڑھی پھر اس کی رائے نماز ہی میں بدلی اور دوسری سمت منہ کر کے دوسری رکعت پڑھی۔ اسی طرح چاروں طرف ایک ایک رکعت پڑھی تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ (3)

ہاں اگر کوئی شخص اپنی تخری سے ایک سمت مقرر کرے اور نماز دوسری طرف پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

1۔ فتاویٰ شامی جلد 2 صفحہ 117، باب شروط الصلوٰۃ مکتبہ علمیہ بیروت۔

2۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 64 مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ۔

3۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 64 مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ۔

**مسئلہ:** اگر ایک شخص نے قیاس کر کے ایک طرف نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں کسی طرح معلوم ہو گیا کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو فوراً اسی طرف پھر جانا چاہیے۔ توقف نہ کرنا چاہیے اگر ایک رکن کی مقدار بھی توقف کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر بعد نماز کے معلوم ہوا کہ قبلہ اور طرف ہے تو نماز ہو گئی۔ اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں۔

**مسئلہ:** ایک شخص اتنا مریض ہے کہ خود قبلہ کی طرف منہ نہیں پھیر سکتا اور کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دے تو جدھر کو بھی ہو سکے منہ کر کے نماز پڑھ لے کیونکہ یہ شخص صاحب عذر ہے اور معذور ہے۔ استقبال قبلہ کا حکم ساقط۔ (1)

**مسئلہ:** ایک اندھے کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جس سے سمت قبلہ دریافت کر لیتا، اس لئے خود ہی ایک طرف کو نماز پڑھنی شروع کی لیکن یہ سمت قبلہ کی نہ تھی۔ اتنے میں ایک شخص نے آکر اندھے کو قبلہ کی طرف پھیر دیا اور خود اندھے کی اقتداء میں نماز پڑھنے بکھڑا ہو گیا تو اس اندھے کی نماز درست ہوگی اور مقتدی کی فاسد اور اگر اندھے نے غیر سمت قبلہ کو نماز پڑھنی شروع کی حالانکہ آدمی موجود تھا جس سے وہ سمت قبلہ دریافت کر سکتا تھا اور پھر کسی دوسرے آدمی نے آکر اس کا صحیح رخ کر دیا اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھی تو اس میں دونوں کی نماز فاسد ہو گئی۔ (2)

**مسئلہ:** ایک شخص تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شریک ہو اور آخر تک شریک رہا۔ لیکن دو رکعت پڑھنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ قبلہ اور سمت کو ہے تو ایسے شخص کی نماز نہ ہوگی۔ اسے امام کی اقتداء سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور وہ دوسری طرف کو اپنی رائے سے منہ پھیرے تو امام کی مخالفت لازم آتی ہے اور اگر ادھر ہی کو منہ رکھتا ہے تو دیدہ دانستہ سمت قبلہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ لہذا اسے از سر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ (3)

**مسئلہ:** ایک شخص ایک دو رکعت فوت ہونے کے بعد جماعت میں آکر شریک ہوا اور بقیہ نماز امام کے ساتھ پڑھی۔ لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسے خیال ہوا کہ سمت قبلہ یہ نہیں یا کہ دوسری طرف ہے تو اسے دوسری طرف پھر جانا چاہیے۔ اس کی نماز ہو جائے

1۔ مالگیری جلد 1 صفحہ 63 مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ۔

2۔ مالگیری جلد 1 صفحہ 65، مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ۔

3۔ مالگیری جلد 1 صفحہ 65، مکتبہ ماہدیہ کوئٹہ۔

گی کیونکہ یہ جماعت میں شامل ہونے والا مسبوق ہے اور مسبوق اپنی بقیہ نماز میں منفرد کے حکم میں ہوتا ہے اور بقیہ نماز میں اسے جماعت یا امام سے کوئی تعلق باقی نہیں۔ (1)

**مسئلہ:** ایک شخص تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شریک ہوا تھا لیکن درمیان میں کسی عذر شرعی کے لاحق ہونے کی وجہ سے نماز توڑ کر چلا گیا اور دوبارہ وضو کر کے شامل ہو گیا اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی رائے میں دوسری طرف جہت قبلہ ثابت ہوئی تو اس شخص کو نماز توڑ کر از سر نو پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ یہ شخص اپنی باقی نماز میں جماعت کے حکم میں ہے۔ اگر اپنی رائے کے موافق جہت قبلہ بدلے گا تو امام کی مخالفت لازم آئے گی اور دیدہ دانستہ قبلہ سے انحراف لازم آئے گا۔ اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ (2)

حاصل ان دونوں مسائل کا یہ ہے کہ مدرک لاحق از سر نو نماز پڑھیں گے اور مسبوق قبلہ کی طرف منہ پھیر لے گا اور اپنی بقیہ نماز میں پوری کرے گا۔

**مسئلہ:** ایک مسافر امام نماز پڑھا رہا تھا اور مقتدی چونکہ مقیم ہے اس لئے اس کے بعد اپنی دو رکعتیں پوری کرنے لگا اور اب سمت قبلہ کے متعلق اس کی رائے بدل گئی اور کوئی دوسری سمت ثابت ہوئی تو اسے از سر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ یہ اقتدا میں مدرک کے حکم میں ہے۔

**مسئلہ:** ایک شخص نے جہاز یاریل میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی۔ لیکن اثناء نماز ہی جہاز یاریل کا رخ قبلہ سے پھر گیا تو نمازی کو بھی اسی سمت پھر جانا چاہیے۔

**ہدایت:** یاد رکھنا چاہیے کہ استقبال قبلہ کی، نماز کے لئے ایک شرط زائد ہے۔ مقصود بالذات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عذر اور بلا عذر کے ساقط ہو جاتی ہے۔ مقصود عبادت قبلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قبلہ تو صرف مسجد الیہ ہے۔ یہاں مسجد الیہ اور مسجد الیہ کا مفہوم و مطلب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ مسجد الیہ اس کو کہتے ہیں جس کے لئے سجدہ کیا جائے اور مسجد الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ مسجد الیہ مقصود عبادت ہوتا ہے اور مسجد الیہ مقصود عبادت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ معذور کے حق میں ساقط ہو جاتا ہے۔ معذور جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔

جو لوگ استقبال قبلہ پر اپنی حماقت و نادانی سے اعتراض کرتے ہیں، ان کی جہالت پر افسوس ہے کہ وہ آج تک مسجودہ اور مسجودالیہ کے فرق کو بھی نہیں سمجھ سکے اور اعتراض کرنے لگے اسلام جیسے عقلی اور فطری مذہب پر، جس نے دنیا سے شرک و بت پرستی کی کلی طور پر بیخ کنی کر کے خدا کی عظمت و وحدانیت کا ڈنکا بجایا۔ (نذیر الحق)

## شرط ہفتم

### نیت کا بیان

نماز کی ساتویں شرط نیت کرنا ہے۔ نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیت میں خاص ایسی فرض نماز کا ارادہ کرے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ارادہ کرے کہ آج کی فرض نماز ظہر پڑھتا ہوں اگر قضا ہوگی ہو تو یہ نیت کرے کہ فلاں دن کی ظہر قضا پڑھتا ہوں۔ اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہو تو اس کی اقتدا کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔

زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اگر زبان سے نیت نہ کرے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں ہوتا اگر زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے۔ جو نمازیں سنت، نفل اور وتر ہیں تو ان میں صرف اتنی نیت کرنا کافی ہے کہ نماز نفل یا سنت یا وتر پڑھتا ہوں۔

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نیت کہتے ہیں نماز شروع کرنے کے ارادہ کو، یعنی نمازی نماز شروع کرتے وقت فوراً ارادہ کرے کہ آج کی ظہر کی نماز فرض پڑھتا ہوں اگر یہ نیت کسی قدر تامل کے بعد ہوگی تو نماز نہ ہوگی۔ (1)

نماز جنازہ میں نیت کرنی چاہیے کہ نیت کرتا ہوں نماز برائے خدا اور دعا برائے میت کے۔ تنہا فرض نماز پڑھنے والے کے لئے صرف فرض کی نیت کرنا کافی نہیں جب تک وہ اس کے نماز ظہر یا عصر وغیرہ کے الفاظ متصل نہ کرے۔ اگر مطلق فرض وقت کی نیت کی اور نماز ظہر وغیرہ کو متعین نہ کیا تو بھی نماز جائز ہے سوائے نماز جمعہ کے یعنی نماز جمعہ کی تعین کرنا شرط

ہے۔ اس کے بغیر نماز نہ ہوگی۔ (1)

فائدہ: نماز میں تعداد رکعات کی نیت کرنا شرط نہیں اگر کر لے تو بہتر ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے فرض نماز شروع کی پھر گمان کیا کہ یہ نفل ہے، تو اسے اس سابقہ نیت سے نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ نماز فرض ادا ہو جائے گی۔ کیونکہ جو نماز فرض کی نیت سے شروع کی گئی ہے اس نیت کا آخر نماز تک باقی رہنا شرط نہیں۔ صرف شروع کرتے وقت شرط ہے (کبیری)

مسئلہ: اگر کسی نے دو فرضوں کی معانیت کی تو وہ نیت ظہر کی سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اگر دو فوت شدہ نمازوں کی ایک ساتھ نیت کی تو وہ نیت پہلی فوت شدہ نماز کی ہوگی اور اگر فوت شدہ اور وقتیہ نماز کی ایک ساتھ نیت کی تو وہ فوت شدہ نماز کی نیت سمجھی جائے گی۔ اگر وہ آخر وقت میں ہو۔ (2)

مسئلہ: امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں۔ البتہ اگر عورتوں کی جماعت کریں تو امام عورت کو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ (3)

مسئلہ: مقتدی کو صرف فرض کی نیت کرنا اور نماز کی تعیین کرنا ہی کافی نہیں۔ بلکہ اقتدا کی بھی نیت کرنی چاہیے۔ اگر امام کی اقتدا کی نیت کی لیکن نماز کا تعیین نہ کیا تو جائز ہے۔ مگر بعض کا یہ قول ہے، قاضی خان نے ذکر کیا ہے کہ جائز نہیں اور اسی قول کو اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اقتداء جیسے فرض میں ہوتی ہے۔ اسی طرح نفل میں بھی ہوتی ہے، پس ان دونوں میں سے ایک کا تعیین کرنا ضروری ہوا۔ (صغیری)

اسی طرح اگر نیت کی کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اگر امام کی نماز کی نیت کی اور اس کی اقتدا کی نیت نہیں کی تو جائز نہیں۔ (4)

مسئلہ: اگر کسی نے اقتدا کی نیت کی اور اس کے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ امام کون ہے؟ تو اس کی نیت صحیح ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے امام کی اقتدا کی نیت کی اور وہ گمان کرتا ہے کہ امام زید ہے مگر وہ تھا عمرو، تو بھی نیت صحیح ہوگی۔ مگر جب وہ یہ اقرار کرے کہ میں نے

1۔ منیۃ المصلیٰ صفحہ 106، کتب خانہ مجیدیہ ملتان۔

2۔ ایضاً صفحہ 108۔

4۔ ایضاً۔

3۔ ایضاً۔

زید کی اقتداء کی۔ (منیہ)

ہدایت: افضل یہ ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اقتدا کی نیت کرے اور اگر اس وقت کہ امام نماز کی جگہ کھڑا ہو، تب بھی جائز ہے۔ (1)

مسئلہ: اگر کسی نے اس گمان سے کہ امام نے نماز شروع کر دی ہے، اس کی اقتدا کی نیت کر کے نماز شروع کر دی حالانکہ ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی تھی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ پھر سے نیت کر کے نماز شروع کرنی چاہیے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص سالوں تک نماز پڑھتا رہا۔ مگر اس کو فرض و نفل میں تمیز نہ ہوئی تو اگر اس نے نمازیں فرض سمجھ کر پڑھی ہوں گی تو اس کی فرض نمازیں ادا ہو گئیں۔ اگر یہ سمجھ کر نمازیں نہ پڑھی ہوں گی تو اس کے ذمہ فرض نمازیں باقی رہیں گی اور اسے تمام سالوں کی قضا نمازیں ادا کرنی چاہئیں۔ (صغیری)

### ایک ضروری یادداشت

جاننا چاہیے کہ تمام عبادات میں باتفاق ائمہ نیت کرنا شرط ہے (2)۔ رکن نہیں۔ البتہ تکبیر تحریمہ میں اختلاف ہے کہ وہ شرط ہے یا رکن؟ مگر اعتماد علیہ یہ بات ہے کہ وہ بھی نیت کی مانند شرط ہے۔ نماز جنازہ میں تکبیر تحریمہ سب کے نزدیک رکن ہے۔

اوپر بیان کیا گیا ہے کہ تمام عبادات میں نیت کرنا شرط ہے۔ اس سے وہ عبادات مستثنیٰ ہیں جو عبادات کے مشابہ ہیں جیسے ایمان، تلاوت، اذکار اور اذان وغیرہ، یہ عبادتیں نیت کی محتاج نہیں اگر کوئی عبادت مختلف افعال والی ہو تو اس کے ہر رکن کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں۔ مثلاً نماز کے بہت سے افعال مثلاً قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ وغیرہ اور یہ افعال ارکان نماز ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ رکوع و سجدہ کرتے وقت بھی نیت کی جائے۔ صرف شروع کی نیت کافی ہے اس سے متعلق تمام افعال بھی اسی میں آجائیں گے۔ اس بنا پر یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نماز خالص اللہ کے لئے ابتدا میں شروع کی اور پھر بیچ میں ریا کو بھی دخل ہو گیا تو اس کے خلوص میں کوئی نقص واقع نہ ہوگا (رد المحتار)۔

## باب ارکان الصلوٰۃ

یہ باب ارکان نماز کے متعلق ہے۔ ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان جمع ہے۔ رکن کے معنی فرض ہیں تو ارکان کے معنی فرائض کے ہوئے۔ یعنی اس باب میں نماز کے فرائض بیان کئے جائیں گے۔

اس باب کو صفت الصلوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں ان اوصاف کا بیان کیا جاتا ہے جو نفس نماز میں داخل ہیں اور وہ نماز کے اجزائے عقلیہ ہیں۔ جیسے قیام، رکوع اور سجود وغیرہ۔ لغت میں صفت ایسے معنی کے بیان کو کہتے ہیں جو ذات موصوف میں موجود ہو۔ اور عرف شرع میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جو فرض، واجب، سنت اور مستحب پر مشتمل ہو۔ پس صفت الصلوٰۃ کے باب میں اجزائے نماز کے اوصاف و کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔

### فرائض الصلوٰۃ

نماز کے فرائض آٹھ ہیں۔ ان میں سے چھ فرض ایسے ہیں جن پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے اور دو ایسے ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

وہ چھ فرض یہ ہیں: تکبیر، افتتاح، قیام، قراءۃ، رکوع، سجود اور قعدا خیرہ یعنی شروع میں تکبیر تحریم یعنی اللہ اکبر کہنا۔ بالکل سیدھے کھڑے ہونا۔ ایک آیت لمبی یا تین چھوٹی آیتوں کی مقدار ہر رکعت میں قراءت کرتا، اس قدر جھکنا کہ اگر دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں تو گھٹنوں پر ٹک جائیں، پیشانی اور ناک دونوں کا زمین پر رکھنا اور بمقدار شہد آخر نماز میں بیٹھنا۔ یہ چھ فرض سب کے نزدیک اتفاقی ہیں۔ باقی وہ دو فرائض جن میں اختلاف ہے یہ ہیں:

۱۔ قصداً خود نماز تمام کرنی۔

۲۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود وغیرہ ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اول امر حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے۔ مگر صاحبین کے نزدیک فرض نہیں اور تعدیل ارکان امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے اور وہ



اپنے ثبوت میں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں:

”عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم لا تجزی صلوة لایقیم فیہا الرجل صلبہ فی الركوع والسجود“ (1)  
 ”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ انسان رکوع و سجود میں اپنی پشت کو قائم نہ کرے تو وہ نماز جائز نہیں ہوتی۔“

برخلاف اس کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع و سجود میں طمانیت فرض نہیں۔ اس پر بعض اہل حدیث صاحبان اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس میں ان دونوں حضرات نے ان دو صحیح حدیثوں کا خلاف کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں آئی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔

### تعدیل ارکان کی بحث

وہ دو حدیثیں جو معترض اپنے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ان کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ کے روبرو جلدی جلدی نماز ادا کی، رکوع و سجود کی حالت میں قرار و اطمینان ترک کر دیا۔ حضور ﷺ نے اس اعرابی سے فرمایا کہ پھر نماز پڑھ۔ اس نے دوبارہ اسی طرح جلدی جلدی نماز ادا کی۔ آپ نے پھر اعادہ کا حکم فرمایا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نماز اسی طرح ادا کی اور آپ نے چوتھی بار بھی اعادہ کا حکم فرمایا۔ چوتھی بار اس اعرابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے سوائے اس طریقہ نماز کے اور کوئی طریقہ معلوم نہیں۔ آپ مجھے سکھا دیجیے۔ اس پر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ شرعیہ تعلیم فرما دیا۔ اس میں آپ نے رکوع و سجود میں، درمیان کے جلسہ میں اور رکوع و سجود کے درمیان میں اطمینان کا حکم بھی فرمایا (2)۔

اس حدیث سے نہ تو یہ معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اطمینان فرض ہے اور نہ یہ معلوم ہوا

1- ترمذی جلد 2، صفحہ 51، باب الصلوة، حدیث نمبر 265، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

2- ترمذی جلد 2، صفحہ 103-104، حدیث نمبر 303، دارالکتب العلمیہ بیروت۔

کہ واجب یا سنت۔ البتہ اس قدر ضرور ثابت ہوا کہ جو شخص ایسی جلدی نماز پڑھے کہ ان مقامات میں اطمینان ترک کر دے، اس پر نماز کا اعادہ ضروری ہے اور یہ امر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف نہیں۔

اس وجہ سے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ ان مقامات میں اطمینان فرض نہیں اور نہ مثل رکوع و سجود وغیرہ ارکان کے کوئی رکن۔ مگر اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ امام صاحب کے نزدیک بے اطمینان کی نماز کامل ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض مشائخ کی تصریح کے موافق امام صاحب کے نزدیک اطمینان یا تعدیل واجب ہے۔ جس کے قصداً ترک کر دینے سے نماز ناقص ہوتی ہے اور اس کا اعادہ واجب ہے۔ اگر اس کو سہواً ترک کیا جائے تو سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔

## تعدیل ارکان

امام صاحب کے نزدیک سنت موکدہ ہے یا واجب؟

اس بحث کے سلسلہ میں اس امر کی وضاحت و تصریح کر دینا بھی ضروری ہے کہ تعدیل

ارکان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت موکدہ ہے یا واجب؟ سو ہدایہ میں ہے:

ثم القومة ای بعد الركوع والجلسة ای بین السجدةین

سنة عندهما ای عند ابی حنیفة ومحمد وكذا الطمانیة

ای وكذا الاطمینان فی الركوع والسجود سنة عندهما

فی تخزیج الجرجانی وفی تخزیج الکرخی واجبة حتی

تجب سجدة السهو بترکھا۔ اتحلی (عینی شرح ہدایہ)

”ابو عبد اللہ جرجانی کی تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم کے

زدیک رکوع کے بعد قیام اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ سنت موکدہ ہے۔ اور ایسا

ہی اطمینان حالت رکوع و سجود میں سنت ہے لیکن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے

مطابق ”واجب“ ہے یہاں تک کہ اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔“

اس مسئلہ کے متعلق شرح شرح وقایہ مسمیٰ بہ لمعاہدہ فی کشف مافی شرح الوقایہ میں حضرت مولانا ابوالحسنات مولوی محمد عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب خوب تحقیق کی ہے لہذا اس سلسلہ میں ان کی تحقیق اہل حق کو پیش کر دینا کافی ہے۔

### تعدیل ارکان امام صاحب کے نزدیک واجب ہے

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خلاصہ مقصد یہ ہے کہ اطمینان رکوع و سجدہ میں، رکوع و سجدہ کے درمیانی قیام میں اور دونوں سجدوں کے جلسہ میں امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک فرض ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ موافق قول اصح و معتبر کے برخلاف تحقیق ابو عبد اللہ جرجانی کے وہ سنت کہتے ہیں۔

واختار المحققون من المتأخرین وجوب القومة والجلسة

مع وجوب الطمانیة فیہا ایضا عند ابی حنیفہ و محمد

”یعنی محققین متاخرین حنفیہ نے اس امر کو اختیار کیا ہے کہ قیام درمیان رکوع و سجود

کے اور جلسہ کے درمیان دو سجدوں کے اور ایسا ہی اطمینان ان دونوں میں واجب

ہے نزدیک ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں:

وهو الاصح بالنظر الدقیق۔

”یعنی یہی قول اصح اور معتبر ہے۔“

ابن ہمام نے بھی فتح القدر حاشیہ ہدایہ میں اسی قول کی تائید و توثیق کی ہے اور حنفیہ رحمۃ

اللہ علیہ سے اس امر کو ثابت کیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ ان

مقامات میں اطمینان پر رسول اللہ ﷺ نے مواظبت یعنی پیشگی کی ہے اور کبھی اس کو ترک

نہیں کیا اور کسی فعل پر حضور ﷺ کو مواظبت اس کو واجب کر دیتی ہے۔ ایسا ہی فتاویٰ قاضی

خان میں بھی ہے کہ تحقیق جب نمازی رکوع کرے اور رکوع سے سر اٹھائے بغیر سجدے میں گر

پڑے بھولے سے۔ تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز

تو جائز ہوگی۔ مگر اس پر سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ اس نے واجب کو سہواً ترک کیا۔ اسی طرح شرح وقایہ میں جہاں نماز کے واجبات کا ذکر ہے وہاں ان واجبات میں تعدیل ارکان کو بھی رکھا ہے۔ علاوہ ازیں بے شمار مستند حوالہ جات ایسے ملتے ہیں جن سے تعدیل ارکان کا وجوب آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ ہم بخوف طوالت ان حوالہ جات کو نظر انداز کر کے صرف مذکورہ بالا حوالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو ہم حنفیوں کے لئے کافی سے زیادہ ہیں۔

### خلاصہ بحث

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعدیل ارکان واجب ہے جس کا عداً ترک کرنا گناہ کا باعث ہے۔ علامہ تفتازانی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ واجب کا قصداً ترک کر دینا حرام ہے اور تارک اس کے سبب عذاب جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر تعدیل ارکان کو واجب نہ مانا جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے سنت موکدہ ہونے میں تو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں بھی تعدیل ارکان کی اہمیت باقی رہتی ہے۔ کیونکہ سنت موکدہ کا ترک قریب حرام کے ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”جو شخص میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا“۔ بہر حال اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ رکوع و سجدہ میں اور قومہ و جلسہ میں اطمینان کرنا، ہر رکن میں آرام و اطمینان سے اتنی دیر ٹھہرنا کہ ہر عضو مطمئن ہو جائے واجب ہے یا سنت موکدہ۔ اس کے بعد ہم اپنے قارئین کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ وہ نماز کو آرام و اطمینان کے ساتھ ادا کرنا واجب سمجھیں اور اسے دل لگا کر پڑھیں۔ اسی غرض سے ہم نے اس پر بحث کی ہے۔ افسوس کہ اول تو مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر مارے باندھے کی یا عادت پڑھتے بھی ہیں تو بے دلی کے ساتھ اور ایک بیگار سمجھ کر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نمازیں بے اثر اور بے روح ہیں۔ کاش مسلمانوں کو وہ علم و بصیرت حاصل ہو جائے کہ وہ نماز کی اہمیت و حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور وہ نمازوں کو آرام و اطمینان کے ساتھ دل لگا کر پڑھنے لگیں تاکہ ان کی مکروہ زندگیوں میں نور ایمان و اتقاء کا چراغ چمک اٹھے اور نمازیں ان کو حقیقی و کامل مسلمان بنادیں۔

اب ہم نماز کے فرائض کو علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

## تکبیر تحریمہ کا بیان

شروع میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ اس لئے کہتے ہیں کہ تحریم کے معنی ہیں کسی چیز کو حرام کر دینا۔ یعنی تکبیر تحریمہ تمام مباحات کو حرام کر دیتی ہے اور انسان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں نماز کے خلاف ہیں۔ وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہنے کی یہی وجہ ہے۔

جس وقت امام شروع میں اللہ اکبر کہہ چکے تو فوراً مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہے۔ اگر مقتدی اکبر کا لفظ امام کی تکبیر سے پہلے کہہ دے گا تو نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر امام رکوع میں ہو اور مقتدی رکوع میں پہنچ کر کہے تو نماز شروع نہ ہوگی۔ (1)

اس مسئلہ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اکثر نمازی اس بات میں غلطی کرتے ہیں۔  
مسئلہ: اگر مقتدی کو پہلی رکعت مل گئی تو تکبیر تحریمہ کی شرکت کی فضیلت مل جائے گی۔ ایک شخص نے امام کو رکوع میں پایا اور اس نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی۔ مگر نہ رکوع کی تکبیر کی نیت کی نہ تکبیر تحریمہ کی، تو اس شخص کی نماز تو صحیح ہو جائے گی مگر نیت لغو ہوگی۔ (2)

مسئلہ: گونگا آدمی اور وہ ان پڑھ شخص جو اچھی طرح اللہ اکبر نہیں پڑھ سکتا، اس کو صرف نماز کی نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان کو حرکت دینا واجب نہیں (عالمگیری)۔ (3)

## تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں

تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ کانوں تک یا کندھوں تک؟ اس میں بھی دو مذہب ہیں: حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد حنبل کا مذہب یہ ہے کہ دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہئیں اور ان دونوں اماموں نے حدیث وائل بن حجر سے تمسک کیا ہے جس کو مسلم و ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

نیز کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے حدیثیں جو حنفیہ کے موافق ہیں کتب صحاح ستہ میں

بکثرت آئی ہیں۔ صرف دو تین حدیثیں ایسی ہیں جو بظاہر مسلک حنفیہ کے خلاف نظر آتی ہیں یہاں ہم پہلے حنفیہ کے موافق چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مخالف حدیثوں کا جواب دیں گے۔ صحیح مسلم میں وائل بن حجر سے روایت ہے:

”أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ

دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ وَوَضَعَهُمَا حَيَالَ أُذُنَيْهِ“۔ (1)

”آنحضرت جب نماز میں داخل ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور تکبیر کہی اور ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھا۔“

یہی حدیث سنن ابوداؤد، سنن نسائی، معجم طبرانی اور سنن دارقطنی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ نیز صحیح مسلم میں مالک بن حورث سے روایت ہے کہ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ

يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ۔ (2)

”یعنی جب آنحضرت ﷺ تکبیر تحریرہ کہتے تو اٹھاتے تھے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک کہ دونوں کانوں کے برابر کر دیتے تھے۔“

اسی طرح ایک اور حدیث بھی اسی صحیح مسلم میں آئی ہے۔ نیز مسند امام احمد، مسند اسحاق بن راہویہ، سنن ابن ماجہ اور سنن بیہقی وغیرہ کتب احادیث میں بھی اسی قسم کی احادیث بکثرت آئی ہیں جن میں رسول خدا ﷺ کے اس فعل کو بیان کیا گیا ہے یہ احادیث، یہ اسانید معتبر کتب معتمدہ میں موجود ہیں جن سے حنفیہ کا مذہب بخوبی ثابت ہوتا ہے۔

باقی رہیں وہ دو باقی حدیثیں جن میں یہ مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے تھے جیسے حدیث ابو حمید ساعدی کی جو سنن ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے اور حدیث ابن عمر جو صحیحین میں مروی ہے، ان کی صحت میں کسی حنفی کو کلام نہیں۔ لیکن وہ ان کو عذر پر محمول کرتے ہیں۔ جیسا کہ طحاوی نے بھی تحقیق لکھا ہے اور سنن ابوداؤد میں بھی

1- صحیح مسلم بشرح نووی کتاب اصولہ ج 4 ص 17 دارالکتب العلمیہ بیروت۔

2- صحیح مسلم بشرح نووی کتاب اصولہ ج 4 ص 81، 82 دارالکتب العلمیہ بیروت۔

مردی ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا، پس دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے کانوں تک۔ بعد اس کے دوسرے سال ایام سرما میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور صحابہ بسبب سردی کے چادریں اوڑھتے ہوئے تھے اور چادروں کے اندر اپنے ہاتھوں کو موٹھوں تک اٹھاتے تھے (1) اس سے معلوم ہوا کہ ان کا موٹھوں تک ہاتھ اٹھانا بسبب سردی کے تھا۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے۔

پھر حنفیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی احادیث میں کچھ بھی مخالفت نہیں ہے کیونکہ جب کوئی شخص کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا اس طرح پر کہ دونوں انگوٹھے کان کے نیچے کے مقابل ہو تو لا محالہ ہاتھ کی ہتھیلی کسی قدر موٹھوں کے مقابل رہے گی۔ پس اس پر اس بات کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ موٹھوں تک اٹھائے۔ کیونکہ ہاتھ تو نام ہے انگلیوں سے آخر تک کا نہ صرف انگلیوں کا۔ اور اس امر کی تصریح روایت وائل میں بھی موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس باب میں حنفیہ کا مذہب حدیث کے ہرگز ہرگز مخالف نہیں۔

### مسائل و احکام تکبیر تحریمہ

تکبیر تحریمہ کی صورت یہ ہے کہ اول اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوت تک اٹھائے جب وہ کانوں کے مقابل ہو جائیں تو پھر تکبیر کہے۔ اس لئے کہ یہ ہاتھوں کا اٹھانا بمنزلہ نفی کے ہے یعنی اس نے ماسویٰ اللہ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ داہنا ہاتھ مانند آخرت کے ہے اور بائیں مانند دنیا کے اور ہاتھ اٹھانے میں نفی کبر یا غیر اللہ سے ہے اور قول اللہ اکبر بمنزلہ اثبات کبریا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور نفی اثبات پر مقدم ہوتی ہے۔ جیسا کہ کلمہ شہادت میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (صفت: 35) اس میں نفی مقدم ہے اور اثبات موخر۔ پس ہاتھ پہلے اٹھانے چاہئیں اور بعدہ تکبیر کہنی چاہیے۔

نیز تکبیر تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو، سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر جھکے جھکے تکبیر کہی تو جائز نہیں۔ اگر جھکنا قیام کے قریب ہوگا تب تو نماز ہو جائے گی اور اگر رکوع کے قریب ہوگا تو نماز شروع نہ ہوگی۔ اس مسئلہ کا خاص طور پر خیال

1۔ سنن ابوداؤد باب فی رفع الیدین جلد 3 صفحہ 312، مکتبہ الرشید الریاض۔

رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس بات کی احتیاط نہیں کرتے۔

تکبیر افتتاح کے الفاظ تین ہیں اللہ اکبر اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر اگر ان کے بدلے اللہ اجل کہہ دیا یا اللہ کے بعد اسمائے اللہ تعالیٰ میں سے کوئی اور اسم لگا دیا تو بھی جائز ہے۔ مگر بہتر اور معمول بہ اللہ اکبر ہی ہے۔

مقتدی کی تکبیر امام کی تکبیر کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر مقتدی کو یہ شک ہوا کہ اس نے تکبیر امام سے پہلے کہی ہے یا بعد۔ تو اسے اپنی غالب رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک مقتدی کو امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہنی چاہیے۔ تاکہ مذکورہ بلا شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کی شرط ہے اور اس لئے اسے شروط الصلوٰۃ کے باب میں بیان کرنا چاہیے تھا مگر ہم نے اسے ارکان الصلوٰۃ کے باب میں اس لئے بیان کیا ہے کہ متقدمین و متاخرین نے اس کو ارکان الصلوٰۃ ہی میں رکھا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کے ساتھ ایسی طئی ہوئی ہے جیسے گھر کا دروازہ ہے۔ اس لئے اس کا ذکر نماز ہی کے ساتھ مناسب ہے۔

## نماز کا پہلا رکن

### قیام

قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ اور کھڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اگر ہاتھ سیدھے چھوڑ دیے جائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اس طرح تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی قیام ادا ہو جاتا ہے۔ فرض اور واجب نمازوں میں صرف اس قدر قیام فرض ہے جس میں بقدر ضرورت قراءت کی جائے اور نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ نفل نماز بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ لیکن بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ بغیر عذر کے ایک پاؤں پر قیام کرنا مکروہ ہے۔ (1)

مسئلہ: اگر کوئی شخص بیماری یا برہنگی کی وجہ سے یا زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے فرض یا واجب نماز بیٹھ کر پڑھے تو جائز ہے کیونکہ وہ صاحب عذر ہے۔ یعنی کھڑے ہونے سے



معذور ہے۔ (1)

**مسئلہ:** جتنی قراءت فرض ہے۔ اتنی ہی دیر قیام بھی فرض ہے اس سے زائد بقدر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے پڑھنے سے قیام کرنا واجب ہے اور اس سے زائد سنت ہے یا

مستحب۔ (2)

**مسئلہ:** اگر ایک شخص جلدی کی وجہ سے جماعت میں جھکے جھکے آ کر شریک ہو گیا اور صرف تکبیر تحریمہ کہی تکبیر انتقال نہ کہہ سکا۔ یعنی وہ تکبیر جو رکوع میں جاتے وقت کہی جاتی ہے تو اب اگر وہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ ہاتھ گھٹنوں پر جھک رہے ہیں یعنی بالکل رکوع کی حالت میں شریک ہوا تو اس کو یہ رکعت نہیں ملی۔ کیونکہ رکعت میں قیام فرض تھا اور اس کو قیام نہ ملا اور اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہی اور پھر رکوع کیا۔ مگر رکوع میں جانے کی تکبیر نہیں کہی تو قیام صحیح ہے اور رکعت بھی مل گئی۔ (3)

**مسئلہ:** اگر ایک شخص مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اور گھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے گھر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ قیام فرض ہے اور جماعت واجب۔ واجب کے لئے فرض ترک نہیں کیا جاسکتا۔ (4)

نماز کا دوسرا رکن

قراءت

قراءت قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ یہ نماز کا دوسرا رکن ہے۔ جس کی رکیت اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے:

- فَاذْكُرُوا مَا تِلْكَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزمل: 20)

”پس پڑھو جو کچھ قرآن میں سے آسان ہو۔“

اس آیت کے مطابق نماز میں کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ مگر حروف کو صحیح طور پر اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ خود اس کا نفس سن لے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ حروف صحیح طور پر ادا کرے۔ اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کم از کم ایک آیت کا پڑھنا تو فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔

فرض نماز کی صرف دو رکعتوں میں قراءت فرض ہے۔ چاہے وہ دو رکعت والے فرض ہوں یا چار رکعت والے۔ افضل یہ ہے کہ چار رکعتوں والی فرض نماز میں دو رکعتوں میں قراءت کر لے باقی جو نمازیں وتر، سنت اور نفل ہیں ان کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت اور یا چھوٹی تین آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔

فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی چار رکعتیں ہوں یا تین یا دو۔ بہر صورت دو رکعتوں میں قراءت فرض ہے خواہ رکعتیں پہلی ہوں یا پچھلی۔ اگر کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا صرف ایک میں کی تو نماز نہ ہوگی۔ (1)

### مسئلہ قراءت میں دوسرے ائمہ کا اختلاف

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین رکعتوں میں اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف دو رکعتوں میں قراءت فرض ہے۔ فرض نماز کی پچھلی دو رکعتوں میں آدمی کو اختیار ہے خواہ چپ رہے اور خواہ پڑھے۔ خواہ سبحان اللہ پڑھ لے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ پچھلی دو رکعتوں میں قراءت قرآن فرض نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ نہ پڑھے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے متعلق بدائع شرح تحفۃ الفقہاء میں ہے کہ یہ تخمیر جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ پچھلی رکعتوں میں اختیار ہے۔ قراءت قرآن کر لے خواہ تسبیح و تہلیل ادا کرے، خواہ خاموش کھڑا رہے یہ مروی ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ پس امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم میں ان کے اجتہاد کو دخل نہیں۔ بلکہ اس کی بنا صحابی کے قول و فعل پر ہے اور صحابی کا قول و فعل حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔

### بقیہ مسائل

اگر ایک شخص صحیح حرف ادا کرنے پر قوت رکھتا ہے۔ مگر ادا نہیں کرتا تو قراءت جائز نہیں (1) تو تلا، ہکلا اور گونگا آدمی معذور ہے۔ اگر ان سے حروف صحیح نہ پڑھے جائیں یا بالکل ہی پڑھنا ممکن نہ ہو تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے بغیر ٹیک لگائے نماز میں ہو گیا اور نیند کی حالت میں قراءت پڑھی تو جائز نہیں۔ پھر سے قراءت پڑھے۔ یہی حکم اور ارکان کا بھی ہے یعنی اگر سوتے ہوئے سجدہ کیا تو صرف اس سجدہ کا اعادہ کر لے اور اگر سجدہ میں ہو گیا تو سجدہ ہو گیا۔ ہاں اگر پوری رکعت سوتے ہوئے ادا کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ (2)

### قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے

جن نمازوں میں آواز سے قراءت کی جاتی ہے انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں۔ کیونکہ جہر کے معنی زور کے پڑھنے کے ہیں اور جن نمازوں میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے انہیں سری نماز کہتے ہیں۔ کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ جن نمازوں میں قراءت زور سے کی جاتی ہے وہ یہ ہیں: مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں، فجر کی دونوں رکعتوں میں، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں بلند آواز سے پڑھے۔ یہ نمازیں جہری ہیں۔

زور سے پڑھنے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے نماز ظہر اور نماز عصر میں امام و منفرد سب کو (نہ کہ مقتدی کو) اور نماز وتر میں منفرد (اکیلا) کو قراءت آہستہ کرنی چاہیے۔ ان دو نمازوں کو سری نمازیں کہتے ہیں۔ آہستہ پڑھنے کا ادنیٰ

درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔  
**مسئلہ:** اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے صرف خیال میں پڑھ جائے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ کیونکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔

### بحث قراءت خلف الامام

فرائض نماز کے سلسلہ میں یہ بحث نہایت ہی معرکہ آرا اور اہم ہے۔ اس پر احناف اور غیر مقلدین کے درمیان بے شمار تحریری اور تقریری مباحثے ہوئے، متعدد کتابیں لکھی گئیں اور اکثر مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ مگر افسوس کہ یہ سلسلہ نہ ابھی تک بند ہوا اور نہ آئندہ بند ہونے کی امید۔ کیونکہ ان مباحثات سے مقصود اپنے اپنے فہم و عمل کی اشاعت نہیں ہوتا۔ بلکہ محض اپنی بات کی سچ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہ پڑتے کیونکہ ہمارے علماء نے اس میں کوئی ایسی کسر باقی نہیں چھوڑی جو ہم جیسے بے علم و بے بضاعت لوگوں کو مزید خامہ فرسائی کی ضرورت لائق ہو۔ تاہم جہاں تک اس بحث کا تعلق مدافعت اور عوام الناس کی آگاہی سے ہے ہم اپنی ناقص علم و فہم کے مطابق بادل ناخواستہ اس بحث پر قلم اٹھاتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔

### قراءة فاتحہ خلف امام کا اختلاف

قراءة فاتحہ خلف امام کا مسئلہ کچھ آج ہی پیدا نہیں ہوا اور یہ اختلاف صرف ائمہ یا احناف اور غیر مقلدین ہی کا نہیں بلکہ صحابہ کے وقت سے یہ اختلاف چلا آتا ہے چنانچہ حیات فخر عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہی اس مسئلہ میں صحابہ کے دو فریق ہو گئے تھے بعض اجل فقہاء صحابہ جیسے عبد اللہ بن مسعود، ابن عمر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہم مانع تھے۔ قراءۃ فاتحہ خلف امام سے روکتے تھے اور بعض صحابہ مجوز تھے یعنی قراءۃ فاتحہ خلف امام کو جائز سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں فریقوں میں سے کسی کو رد نہ کیا اور اس اختلاف کو بحال خود باقی رکھا۔ اس سے یہ امر بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ درحقیقت اس قدر اہم نہیں کہ اس پر مانعین اور مجوزین آپس میں قیامت تک اُلجھتے رہیں، مباحثے کرتے

رہیں کتابیں لکھتے رہیں، طعن و تعریض کے تیر ایک دوسرے پر برساتے رہیں اور اسی کو مدار عبادت سمجھ کر اس پر اپنی تمام دماغی و علمی قابلیتیں صرف کر دیں۔

اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ قراءۃ فاتحہ خلف امام کے مسئلہ پر رد و کد کرنا غیر ضروری ہے بلکہ ہم تو صرف یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس پر نماز کا دار و مدار نہیں کہ بغیر اسکے نماز ہی نہ ہو یعنی مسئلہ کی نوعیت دیگر اختلافی مسائل سے زیادہ کچھ نہیں اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ تو آپ معلوم ہی کر چکے ہیں کہ اس مسئلہ میں عہد نبوت میں ہی اختلاف رونما ہو چکا تھا اور رسول اللہ ﷺ کے دونوں مذکور فریق میں سے کسی کا رد نہیں کیا۔ اگر یہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا جتنی اہمیت کہ غیر مقلدین نے اس کو دے دی ہے تو ضروری تھا کہ حضور ﷺ جس فریق کو غلطی پر سمجھتے اس کا رد فرمادیتے اور اس باب میں وحی آ کر قطعی فیصلہ کر دیتی۔

یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ادنیٰ امر میں وحی نہ آئے مگر نماز جیسی اعظم عبادت میں کہ مدار دین گویا اس پر ہے۔ وحی کا نہ آنا قابل تعجب ہے۔ اگر جماعت صحابہ میں ایسا امر واقع ہو کہ مفسد صلوٰۃ ہو ایک مدت تک اس پر تعامل رہے اور اس کے بارے میں وحی نہ آئے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس بنا پر اصولیین حدیث صحابہ کے ایسے قول و فعل کو مرفوع، حدیث میں شمار کرتے ہیں۔

### قراءۃ فاتحہ خلف امام کے نفی و جوب کی دلیل

رسول اللہ ﷺ کے عہد میں جو مانع قراءۃ فاتحہ خلف امام پر معتقد اور عامل تھا۔ اگر اس کا یہ عمل مفسد صلوٰۃ ہوتا جیسا زعم غیر مقلدین کا ہے تو رسول اللہ ﷺ ضرور اس عمل سے اس فریق کو روکتے۔ حالانکہ صحابہ کی ایک جماعت کثیرہ اس میں عامل تھی۔ پس قراءۃ فاتحہ خلف امام کے نفی و جوب کے لئے یہی دلیل کافی ہے۔

اس سلسلہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں اختلاف بعد وفات آنحضرت ﷺ کے حادث نہیں ہوا۔ بلکہ آپ کی حیات کے وقت سے ہی اس میں یہ اختلاف چلا آتا ہے لہذا کسی کو کسی پر سرزنش اور طعن و تعریض درست نہیں۔ کیونکہ دونوں فعل بہ تقریر ثابت ہو چکے ہیں۔

## اس اختلاف کی تفصیل

سورہ منزل ابتدائی بعثت میں نازل ہوئی ہے اس میں مکہ میں نماز تہجد فرض ہوئی تھی، اس وقت تک امام و مقتدی فاتحہ و سورہ دونوں کو پڑھتے تھے۔ اس کے ایک سال کے بعد مکہ میں آخر سورہ منزل کا نزول ہوا۔ جس میں آیت **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (المزل: 20)** ہے۔ اس آیت سے طویل نماز تہجد منسوخ ہو گئی اور ماتیسر کی مقدار باقی رہ گئی۔ اس وقت تک مقتدی، منفرد اور امام سب پر قراءۃ فرض رہی۔ اس کے بعد معراج میں صلوٰۃ خمسہ کی فرضیت نے صلوٰۃ تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی ہے۔ اب صلوٰۃ خمسہ پردہ و مکان میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے لگی اور حسب دستور مقتدی بھی قراءۃ پڑھتے تھے۔

کچھ مدت کے بعد سورہ اعراف نازل ہوئی جس میں یہ آیت ہے **وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (اعراف: 204)** ”یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور چپ رہو“۔ اس حکم سے مقتدی کی قراءت بالکل منسوخ ہو گئی جس پر بہت سی احادیث مرفوعہ موقوفہ شاہد ہیں ان تمام شواہد کو مولوی عبدالحی صاحب مرحوم نے اپنے رسالہ ”الکلام“ میں نقل کر کے اس بحث کا قطعی طور پر خاتمہ کرایا ہے۔ ان کے رسالہ میں سے ہم صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں۔

واخرج عبد ابن حمید وابن جرید وابن ابی حاتم و ابو

الشیخ والبیہقی عن ابن مسعود انه صلی باصحابہ فسمع

ناسایقرءون خلفہ فلما انصرف قال اما ان لکم ان تفہموا

ان تعقلوا وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔

”یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ کے ساتھ نماز

پڑھی اور لوگوں کو پیچھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا جب آپ ان کی طرف لوٹے تو

فرمایا کہ تم کو سمجھنا اور تعقل کرنا چاہیے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور

خاموش رہو“۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول

سے پہلے صحابہ فاتحہ و سورۃ دونوں کو نماز میں پڑھتے تھے اور اس آیت کے نزول کے بعد دونوں کا پڑھنا منسوخ ہو گیا اور رسول خدا ﷺ نے بھی اس حکم مطلق کو سورۃ کے ساتھ مقید نہیں فرمایا بلکہ علی العموم فاتحہ و سورۃ دونوں میں رکھا۔ اب اس زمانہ کے جو لوگ اس آیت کا نزول خطبہ کے بارے میں بیان کر کے اس حکم کو خطبہ پر منحصر سمجھتے ہیں، یہ ان کی سراسر غلطی اور مغالطہ ہی ہے اس لئے کہ صریح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا نزول مطلقاً قراءۃ مقتدی میں ہے۔ دوسرے یہ کہ اکثر علماء کے نزدیک جمعہ مدینہ میں فرض ہوا ہے اور سورہ اعراف جس میں آیت زیر بحث ہے بہ اتفاق محدثین و مفسرین مکی ہے اور یہ آیت بھی مکہ ہے۔

پھر اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جمعہ مکہ میں ہی فرض ہو گیا تھا تو ان کے بیان کے مطابق حضور ﷺ کو اس کی ادا کا محل مکہ میں ملا، یہ کوئی بھی بتلا نہیں سکتا کہ آپ نے مکہ میں کب جمعہ ادا کیا اور کب لوگوں نے خطبہ میں کلام کیا جو یہ آیت نازل ہوئی؟۔ بہر حال مجوزین قراءۃ فاتحہ خلف امام کی سراسر غلطی ہے کہ وہ سورہ اعراف کی آیت کو خطبہ کے متعلق سمجھتے ہیں۔ حاصل یہ کہ قبل ہجرت مکہ میں قراءت مقتدی کی مطلقاً منسوخ ہو چکی تھی۔ اور جو صحابہ مانعین قراءۃ تھے۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ ان کو یہ نسخ محقق ہو چکا تھا۔ علی ہذا دیگر صحابہ کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اول مقتدی کی قراءۃ فرض تھی اور اب وہ سورہ اعراف کی آیت سے منسوخ ہو گئی۔

### آیت منزل سے استدلال کرنا غلط ہے

مجوزین قراءۃ فاتحہ خلف امام سورہ منزل کی آیت **فَاقْرَءُوا (منزل: 20)** سے مقتدی کے حق میں استدلال لایا کرتے تھے۔ لیکن مذکورہ بالا تفصیل کی روشنی میں ہر اہل علم معلوم کر سکتا ہے کہ یہ استدلال ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سورہ منزل کی آیت نزول میں سابق ہے اور سورہ اعراف کی آیت **وَإِذَا قُرِئَ (اعراف: 204)** اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ آخر اول کا نسخ ہوا کرتا ہے۔ اپنے استدلال کی اس ناکامی اور بے بسی کو دیکھ کر مجوزین قراءۃ کہہ دیا کرتے ہیں کہ سورہ منزل کی آیت **فَاقْرَءُوا (منزل: 20)** مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن محققین نے اس کو بھی بدلائل قاہرہ رد کر دیا ہے اور یہاں بھی

ان کو جائے پناہ نہیں مل سکتی۔

سابق میں ہم نے بیان کیا ہے کہ مقتدی کی قراۃ قبل ہجرت ہی منسوخ ہو چکی تھی جب حضور ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور علی الاعلان مسجد نبوی میں جماعت ہونے لگی تو اب بھی مقتدی کا سکوت بدستور جاری تھا اور حضور ﷺ جانتے تھے کہ یہ مسئلہ سب پر بحکم سورۃ اعراف واضح ہو چکا ہے۔ کیونکہ سورۃ اعراف کی آیت کے بعد کوئی دوسری آیت اس کی ناسخ بھی نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ آپ نے مقتدی کے سکوت کو کسی آیت کے حکم کے خلاف قرار دیا تھا اور اس دعویٰ پر حدیث عبادہ ایک نہایت عمدہ دلیل ہے جس کو ابوداؤد نے بیان کیا تھا۔

صحابہ میں سے جن حضرات نے اس مسئلہ کی نوعیت کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا وہ تو حالت اقتدا میں فاتحہ و سورت کچھ نہ پڑھتے تھے۔ لیکن جن پر یہ مسئلہ ابھی مشتبه تھا۔ انہوں نے حالت اقتدا میں قراءت کا پڑھنا شروع کر دیا اور ان کی یہ قراءت رسول اللہ ﷺ کے حکم اور اجازت سے نہ تھی اور نہ اس کی آپ کو خبر تھی۔ جب آپ پر قراءت کی دشوار ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم قراءت کرتے ہو؟ تو صحابہ نے اپنے پڑھنے کا اقرار کیا۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب آیت قرآن کی منع قراءت مقتدی میں نازل ہو چکی تھی اور اس آیت کے خلاف رسول اللہ نے حکم بھی نہیں دیا تھا۔ تو پھر بھی صحابہ کرام کیوں حالت اقتداء میں قراءت پڑھتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ پڑھتے تھے اور وہ وہ تھے جن کو نزول آیت کی خبر نہ پہنچی تھی اور نسخ کا علم نہ تھا۔ باقی وہ صحابہ جو آخر حیات تک مانع قراءت رہے وہ اول ہی سے عدم جواز کے مقرر تھے اور ان کی تعداد اسی نفر تک ہے۔ الحاصل جب حضور ﷺ کو قراءت میں منازعت اور ثقل واقع ہوا اور لوگوں کا پڑھنا معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا:

”لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة الا بفاتحة

الكتاب“۔ (1)



”یعنی مت پڑھو مگر فاتحہ کیونکہ نہیں ہوتی نماز مگر ساتھ فاتحہ کے“۔

یعنی اگرچہ تم جلدی جلدی سکتا امام میں ہی پڑھتے ہو۔ تاہم مت پڑھو اس سے معلوم ہوا کہ پڑھنے والے صحابہ فاتحہ و سورت دونوں کو پڑھتے تھے۔ جیسا کہ قبل نزول آیت سورہ اعراف کے تمام صحابہ پڑھتے تھے اس حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دو فریق ہو گئے۔ جو فریق مجوزین کا تھا یعنی پڑھنے والے انہوں نے تو ظاہر الفاظ حدیث سے یہ سمجھ لیا کہ آپ ﷺ نے قراءۃ فاتحہ کا ایجاب فرمایا ہے اور عموم آیت کو خاص فرما دیا ہے۔ ”بقریٰ نہ لاصلوۃ الا بفاتحة الكتاب“ مگر یہ فریق باوجود اس کے دوسرے فریق کی نماز کو فاسد نہیں جانتے تھے۔ پس فریق مجوزین کا عمل اس بات پر ہوا کہ خلف امام فاتحہ پڑھنی چاہیے خواہ نماز سری ہو یا جہری۔ بہر حال سکتات میں صرف سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ فریق اسی عمل پر قائم رہا۔ رسول خدا ﷺ نے نہ ان کے عمل کو رد کیا اور نہ وحی الہی نے اس میں کچھ اصلاح کی۔

باقی رہا صحابہ کا وہ فریق جو قرآن سے منع کرتا تھا اس نے حضور ﷺ کے مذکور بالا حکم کو آیت کا ناخ اور مخصص نہیں جانا۔ بلکہ اس کو اس امر کی رخصت محمول کیا کہ سکتات میں صرف سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھ لینی چاہیے اور باقی بھی یہی ہے کہ جملہ فانہ لاصلوۃ بیان خصوصیت رخصت کے لئے ہے نہ کہ بیان وجوب قراءۃ فاتحہ مقتدی کے حق میں۔ پھر اس حدیث میں قراءۃ کو وجوب منفرد امام دونوں کے حق میں ہے۔

پس حکم زیر بحث کے صحیح اور قطعی معنی یہ ہوئے کہ تم اگر سکتات میں فاتحہ پڑھو تو میں اس کی نہیں کرتا جیسا تم اب کرتے ہو اس فریق کے فہم و عمل کو بھی رسول خدا ﷺ نے آخری حیات تک رد نہ فرمایا اور نہ ہی وحی آئی اس لئے یہ فریق بھی حق پر ٹھہرا۔ لہذا مذکور بالا دونوں فریق حق پر ہیں۔ اپنے اپنے فہم و عمل کے مضبوط دلائل رکھتے ہیں۔ دونوں کا عمل عند اللہ کامل ہے کسی میں کچھ فساد اور کراہت نہیں۔

خلاصہ بحث

یہ ہوا کہ جو لوگ امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے، ان کی نماز میں ہرگز ہرگز کوئی نقص و فساد

اور کراہت نہیں اور نہ پڑھنے والوں کی نماز میں کوئی فساد و کراہت نہیں ہوگا۔ دونوں فریق تقریر فخر عالم ﷺ اور صحابہ کی رائے و تاویل پر عامل ہیں کسی کو کسی پر طعن کی گنجائش نہیں۔ البتہ اگر مجتہد علماء ترجیح ایک جانب کلام میں کریں تو مضائقہ نہیں کیونکہ وہ اس مسئلہ کے تمام متعلقات سے کما حقہ واقفیت رکھتے ہیں۔ مگر عوام کو اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ایک دوسرے کی تنقیص کرنا ہرگز روا نہیں۔ ان کا یہ منصب ہی نہیں کہ اس بارے میں گفتگو کریں۔ یہ تو خاص علماء کا منصب ہے کہ وہ ترجیح کی جانب پر گفتگو کریں۔ فریقین کی حالت پر فسوس ہے کہ جو چیز ان کے لئے خاص تھی اس کو انہوں نے عام کر کے جاہل و نااہل مسلمانوں کو اختلاف و منازعت کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم کریں۔

ساتھ ہی ہم آخر میں یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں جس جانب کو ترجیح دی ہے یعنی قراءۃ فاتحہ خلف امام سے منع کیا ہے۔ وہ مرجح ہے اور قرین عقل و صواب۔ اور اس وجہ سے ترجیح کے بیان کو ہم عوام الناس کے حق میں ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جن کو مزید تفصیلات معلوم کرنے کا شوق ہو وہ فریقین کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہاں تو ہمیں غیر مقلدین کے اس خیال خام کو رد کرنا مقصود تھا کہ تارک قراءۃ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو ہم نے بطریق احسن و اکمل رد کر دیا ہے اگر وہ اب بھی ہماری نمازوں کے بطلان کا حکم دیں تو یہ ان کی انتہائی جسارت و گستاخی ہوگی جس کا اثر براہ راست صحابہ تک پہنچتا ہے۔ وہ کون سا شقی اور بد بخت مسلمان ہے جو خفیوں کی نمازوں پر بطلان کا حکم لگا کر دوسرے معنوں میں نعوذ باللہ صحابہ کی نمازوں کا بطلان کرے، اس گستاخی و جرأت سے پہلے اس کو اپنا گھر جہنم میں بنا لینا چاہیے۔

اے اللہ! ان دونوں فریق کو توفیق دے کہ وہ درست فہم و عمل پر عامل رہیں۔ مگر ایک دوسرے کی تنقیص کر کے تیرے حبیب کے مقدس صحابہ کی توہین کے مرتکب نہ بنیں۔ امین

یارب العالمین۔

## قراءۃ میں غلطی ہونے کا بیان

### قرآن مجید کی تلاوت اور مسلمان

قرآن پاک کا نزول اس لئے ہوا تھا کہ اس پر ایمان رکھنے والی قوم مسلمان اس کو پڑھے، سمجھے اور پھر اس کے احکام پر عمل پیرا ہو۔ اپنی تمام علمی و عملی قوتوں کو قرآنی احکامات کی روشنی میں لے آئے۔ اس کا ہر قدم قرآنی حکم کے مطابق اٹھے اور وہ قرآن کی رہنمائی میں خیر الامم بن کر کائنات ارضی و سماوی پر اپنی حکومت قائم کرے۔ مگر افسوس کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد ایسا نہیں ہوا۔ قرآن پاک جو اسلامی تعلیمات کا منبع و ماخذ تھا کو طاق نسیان پر دھردیا گیا۔ اس کا علم و عمل عام ہونے کے لئے تھا، مگر اب وہ صرف علماء کے لئے ہے۔ علماء نے اس کو اپنے لئے خاص کر لیا ہے اور عوام الناس کے لئے صرف قرآنی الفاظ کی رکھی تلاوت باقی رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل و سرنگوں ہیں اور ان کی وہ قومی و مذہبی روح فنا ہو گئی جو قرآنی فہم و عمل کی وجہ سے زندہ و بیدار تھی اور جس کے بل بوتے پر انہوں نے تمام دنیا پر غلبہ و تسلط حاصل کیا تھا اور اگر مسلمان قرآن کو پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو ان کا قومی و مذہبی وقار قائم رہتا اور یہ ہمیشہ آگے بڑھتے اور زمین و قلوب پر اپنی حکومت قائم کرتے چلے جاتے ان کے اندر فرقہ بندی کی لعنت پیدا نہ ہوتی۔ ان کی وہ قوت جو اقوام عالم پر غلبہ پانے کے لئے تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں صرف نہ ہوتی۔ آج دنیا میں قرآنی قوانین نفاذ پذیر ہوتے، روئے زمین پر حکومت الہی کا قیام ہوتا، دنیا کی دوسری قومیں ان پر سبقت نہ لے جاتیں، بلکہ یہ استاذ زمانہ ہوتے اور دوسرے ان کی پیروی کرتے، ان کا ظاہر و باطن اللہ کا محکوم اور دنیا بھی ان کی ہوتی اور دین بھی۔

لیکن آہ ایسا نہیں۔ قرآن مجید انسانی خواہشات و اختلافات اور رکھی تلاوت میں گم ہو کر رہ گیا۔ اس کی صحیح تلاوت و فہم و عمل کا کہیں بھی پتا نہیں۔ ان کی موجودہ رکھی تلاوت اصلی تلاوت کو ظاہر نہیں کرتی۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں اور ائمہ دین نے قرآن مجید کی تلاوت

کے طریقے ہمیں صدیوں پہلے سے بتلا رکھے ہیں مگر ہمارے لئے بے سود۔ کیونکہ ہمارے اندر تلاوت قرآن کا حقیقی ذوق و شوق ہی باقی نہیں رہا۔

### تلاوت قرآن کی غرض و غایت

ہر کتاب کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے قرآن مجید کے نازل ہونے کا مدعا بھی یہی ہے کہ تمام انسان عموماً اور مسلمان خصوصاً اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لائق بنیں۔ جس طرح یہ کتاب مقدس انسان اور کامل انسان بنانے والی ہے اسی طرح بغیر اس کے کوئی مسلمان پکا مسلمان نہیں بن سکتا۔ پس ہر مسلمان پر قرآن کی تلاوت لازمی ہے۔ بغیر اس کے جانے اور بغیر اس پر عمل کئے حقیقی مسلمان بننا ناممکن ہے پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کے صرف الفاظ کی تلاوت پر محض ثواب کی نیت سے اکتفا نہ کریں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہی حاصل کریں اور اس کی تلاوت عمل کی نیت سے کریں۔ ان کا کام صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن کی لفظی تلاوت سے ثواب کے گٹھڑ باندھ لیں مگر عملاً اس کے احکام و قوانین کی نافرمانی کر کے حکومت الہی کی بیخ کنی کرتے رہیں۔

مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ قرآن کی موجودہ رسمی تلاوت سے آگے نہیں بڑھیں گے وہ اصلاح و ترقی کے میدان میں ایک انج بھی آگے نہیں بڑھ سکتے خواہ سینکڑوں ہی انجمنیں بنائیں، ہزاروں پروگرام منظر عام پر آئیں۔ لاکھوں کانفرنسیں اور جلسے کریں اور کروڑوں تقریریں کریں۔ ان کا یقینی آزمودہ اور متفقہ پروگرام صرف قرآن ہے۔ جب تک وہ اس کو مضبوط نہیں پکڑیں گے قیامت تک بھی ورطہ ہلاکت و ذلت سے نہیں نکل سکتے۔

مسلمانوں میں تلاوت کا ایک غلط مفہوم یہ رائج ہو گیا ہے کہ لوگ صرف اپنے پڑھنے کو تلاوت سمجھنے لگے ہیں۔ حالانکہ تلاوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اس کے معانی و مطالب سے آگاہی حاصل کی جائے۔ قرآن پاک اپنی تلاوت کو غور و فکر کے ساتھ کہتا ہے تاکہ تلاوت کرنے والا علم و حکمت کی باتوں سے مالا مال ہو اور اس کی دماغی قوتیں روشن ہوں۔ چنانچہ آپ کو قرآن پاک میں ہر جگہ تدبر، تفکر اور تعقل کی تاکید و تکرار نظر آئے گی۔ کیونکہ تلاوت

قرآن کا سب سے بڑا فائدہ ثواب نہیں بلکہ عبرت، نصیحت، تہدید، ترہیب، ترغیب اور بشارتوں کا اثر ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے، جب کہ تلاوت کرنے والا قرآن کے معانی سے بھی واقف ہوتا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کے تلاوت کرنے والوں کی شان میں فرماتا ہے:

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ  
إِيْمَانًا (الانفال: 2)

”اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔“

کیوں نہ ہو، قرآن پاک کلام الہی ہے، اس کے پڑھنے اور تلاوت کرنے سے واقعی بدن کے روٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، قلوب گداز ہو جاتے ہیں اور روح آستانہ الہی پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر اس وقت جبکہ قرآن کو سمجھا بھی جائے۔ جو لوگ خشوع و خضوع سے کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذَانِ (الاسراء: 107)

”یعنی جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں قرآن پاک کی حقیقی تلاوت موجود نہیں رہی۔ اس کی صرف ظاہری صورت تو باقی ہے مگر حقیقت و روح رخصت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک رکھتے ہوئے بھی اس کے اصل ثمرات و فوائد سے محروم ہیں۔ ہم مسلمانوں کی ایسی قسمت تو کہاں کہ قرآن کو قرآن کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق تدبر و تفکر کے ساتھ پڑھیں اور تلاوت قرآن کے باطن کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس زمانہ میں اگر ظاہری تلاوت ہی کر لیں تو غنیمت ہے کیونکہ ہمارے علماء کی اس طرف توجہ ہی نہیں کہ وہ مسلمانوں میں حقیقی تلاوت قرآن کو رائج کر کے اپنا فرض منصبی ادا کریں لہذا بحالت موجودہ لفظی و ظاہری تلاوت ہی غنیمت ہے۔ اب ہم تلاوت قرآن کا وہ ظاہری مستحب طریقہ درج کرتے ہیں۔

## تلاوت قرآن کا مستحب طریقہ

قرآن مجید کی تلاوت کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو وضو کرے اور پاک و صاف مقام پر مؤدب بیٹھ کر تلاوت کرے۔ شروع کرنے سے پہلے اَعُوذُ بِاللّٰهِ اور بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے۔ تاکہ پڑھنے والا حفظ خداوندی میں آجائے اور شیطانی وساوس نزدیک نہ آنے پائیں۔ شروع تلاوت قرآن میں تعوذ پڑھنا واجب اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔

گرمی کے موسم میں صبح کے وقت اور سردیوں میں رات کے اول حصہ میں تلاوت کرنا افضل و اولیٰ ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ حضور سرور دو عالم ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اللہ کے فرشتے شام تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور جس نے رات کے اول حصے میں تلاوت کی اللہ کے فرشتے صبح تک اس کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ امام صالح جزائری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر تم زیادہ اجر و ثواب چاہتے ہو تو گرمی کے موسم میں صبح کے وقت اور سردی کے موسم میں رات کے شروع میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔

### چند ضروری ہدایات

تلاوت قرآن کے وقت دل کا متوجہ ہونا تلاوت قرآن کی روح ہے پس تلاوت میں اس وقت تک مشغول رہنا بہتر ہے جب تک دل متوجہ رہے۔ جب دل اکتا جائے تو تلاوت بند کر دے۔ دل پر جبر کر کے زبردستی پڑھتے رہنا آداب تلاوت کے خلاف ہے جو لوگ ایک رات میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے اور آداب کے خلاف کرتے ہیں۔ کیونکہ تین دن سے کم میں قرآن ختم کرنا خلاف اولیٰ ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ فرماتے ہیں: جس نے تین دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا اس نے خاک بھی نہیں سمجھا۔ (1)

قرآن پاک کی تلاوت کام میں مشغول ہونے کی صورت میں بھی جائز ہے۔ لیکن دل کا

متوجہ ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ کیونکہ دیکھ کر پڑھنے میں غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو حاضر پر اس کا سننا فرض ہے بشرطیکہ وہ محفل تلاوت قرآن کے لئے منعقد ہوئی ہو۔ ورنہ صرف ایک شخص کا سننا کافی ہے۔ ایک مجلس میں بیک وقت بہت سے آدمیوں کا بلند آواز سے قراءت کرنا حرام ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے بے ادبی ہوتی ہے۔ لہذا سب کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔

ناپاک مقامات پر قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح بازاروں، شارع عام اور ایسے مقامات پر جہاں لوگ اپنے کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ناجائز ہے۔ کیونکہ اگر کام میں مشغول نہیں سنیں گے تو ان کی بے اعتنائی کا گناہ پڑھنے والے پر ہوگا۔ نیز جہاں کوئی شخص علم دین کی تعلیم میں مشغول ہو یا کوئی طالب علم سبق یاد کر رہا ہو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ قرآن مجید کا سننا بہ نسبت پڑھنے کے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔

اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور سننے والا اس غلطی سے واقف ہے تو اس پر غلطی سے اس کو آگاہ کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے عارضی طور پر قرآن شریف مانگ کر لائے اور اس میں کتابت کی غلطیاں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ ان غلطیوں کی اصلاح کر دے۔

### ایک اہم بات

اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حسب فرصت اس اہم عبادت کے لئے دن و رات میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا چاہئے مگر اس طرح کہ اس کے مطالب پر بھی غور و فکر کرے۔ آج کل باترجمہ قرآن عام اور کثرت کے ساتھ ہر جگہ ملتے ہیں۔ مگر کسی مستند ترجمہ کو پڑھنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو تفسیر میں دیکھ لے یا کسی جاننے والے سے دریافت کر لے۔

قرآن مجید کے مضامین و مطالب پر غور کرنے سے نہ صرف مذہبی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ عقائد و اخلاق میں پختگی حاصل ہوتی اور دل و دماغ میں روشنی پیدا ہوتی ہے اگر

آج مسلمانوں کو قرآن مجید سے دلچسپی اور اس سے وابستگی پیدا ہو جائے اور وہ اس کے مضامین سے آگاہ ہو جائیں تو ان کی زندگی کے ہر شعبہ میں ایک خوشگوار و تھیر خیز انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔

## مسائل و احکام

آداب تلاوت قرآن کے بعد ترتیل کا درجہ ہے۔ ترتیل کے معنی ہیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیونکہ اس سے قرآن کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور سنوار کر پڑھنے سے دل پر کلام الہی کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے متعلق باری تعالیٰ فرماتا ہے:

وَسَاءِلُ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا ۝ (المزل)

”اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو“

قراءۃ قرآن میں حسن صوت بھی ضروری ہے یعنی خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا۔ نیز بقدر ضرورت فن تجوید و قراءت سے بھی واقفیت پیدا کرنی چاہیے۔ اتنی کہ قرآن کا صحیح طور پر پڑھنا آجائے۔

اس بات پر تمام علمائے کرام کا اتفاق ہے۔ اگر قراءت میں کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی بدل جائیں، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر معنی نہ بدلیں تو فاسد نہیں ہوتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اعراب کی ایسی غلطیاں ہو جائیں جس سے معنی بدل جاتے ہیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ورنہ مفسد نہیں۔ پس صحیح قرآن پڑھنا بڑے اہتمام کے قابل ہے۔ اگر کسی نے تشدید کو تخفیف کے ساتھ پڑھا تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی حرج واقع نہیں ہوتا مثلاً اِيَّاكَ كَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ (فاتحہ) میں ”ی“ پر تشدید ہے۔ اگر کوئی اس تشدید کو نہ پڑھے اِيَّاكَ کہہ جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تاہم حتی الامکان ایسی غلطی سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر کسی نے تخفیف کی جگہ تشدید پڑھی تو اس غلطی سے بھی نماز ہو جاتی ہے یعنی اس تغیر سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثلاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ (زمر: 32) میں ”ذال“ پر زبر ہے۔ اگر ذال پر کسی نے تشدید پڑھا یعنی بجائے كَذَبَ کے كَذَّبَ پڑھا دیا تو نماز ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تخفیف و تشدید کے تغیر



سے نماز میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

حرف زائد کرنے سے اگر معنی نہ بدلیں تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر معنی بدل جائیں تو فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے بے موقع وقف کیا جہاں وقف نہ کرنا تھا تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ مثلاً إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البینہ: 7) پر وقف کر دیا اور چند منٹ کے بعد آگے پڑھا: أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ (البینہ: 7) تو اس غلطی سے نماز فاسد ہوگی۔ مگر ایسی غلطی کرنا قبیح ہے۔

اگر کسی نے کوئی کلمہ زیادہ کر دیا اور اس کے معنی نہیں بدلے تو بھی نماز ہو جائے گی اور اگر معنی بدل جائیں گے تو نماز فاسد ہوگی۔

اگر کسی نے کلمہ کو چھوڑ دیا لیکن معنی نہ بدلے تب بھی مثلاً وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (شوریٰ: 40) یعنی ”سیئۃ“ تو پڑھا مگر دوسرا ”سیئۃ“ چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی کیونکہ اس سے معنوں میں چنداں تبدیلی نہیں ہوتی اور اگر فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ (انشقاق) کا لفظ ”لا“ نہ پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ اس سے معنوں میں تبدیلی پیدا ہوگئی۔ لا يُؤْمِنُونَ کے معنی ہیں ”نہیں ایمان لاتے“ اور يُؤْمِنُونَ کے معنی ہیں ”ایمان لاتے ہیں“۔ یعنی بجائے نفی کے اثبات بن گیا۔

اگر کسی نے کوئی حرف کم کر دیا اور اس کے معنی بدل گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی مثلاً خَلَقْنَا (دہر: 2) میں ”خ“ کو چھوڑ دیا یا جَعَلْنَا (یس: 8) کو بغیر ”ج“ کے پڑھا تو نماز نہ ہوگی اور اگر معنی نہ بدلیں تو حرف کے رہ جانے سے نماز ہو جائے گی۔

اگر کسی نے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھ دیا اور معنی نہ بدلے تو نماز فاسد نہ ہوگی مثلاً عَلَيْنَا کی جگہ حَكِيمًا (انعام: 83) کہہ دیا۔ یعنی بجائے ”لام“ کے ”کاف“ کہہ دیا تو نماز ہو جائے گی اور اگر معنی بدل جائیں۔ مثلاً وَهَذَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ (انبیاء) میں فَاعِلِينَ کی جگہ ”عقلین“ پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ معنی بدل گئے۔

حروف کی تقدیم و تاخیر میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر معنی بدل جائیں تو نماز نہ ہوگی اور اگر نہ بدلیں تو ہو جائے گی۔ اگر کسی نے ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پڑھا اور وقف بھی کیا

تو نماز ہو جائے گی۔ مثلاً وَالْعَصْرِ ۱۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ (العصر) پڑھا اور کچھ دیر وقف کر کے کہا  
 إِنَّ الْآبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۱۲ (انفطار) تو نماز ہو جائے گی اور اگر وقف نہیں کیا تو معنی متغیر  
 ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی کلمہ کو مکرر پڑھا اور معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز ہو جائے  
 گی اور اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ مثلاً ایک شخص نے ”رب رب العلمین“ پڑھا  
 یعنی ”رب“ کو دو مرتبہ پڑھا اور یہ خیال کیا کہ پروردگار عالم کا ایک رب ہے تو اس صورت  
 میں معنی بدل گئے۔ اس لئے نماز نہ ہوگی اور کسی نے تصحیح مخارج کی نیت سے دوبارہ پڑھایا  
 پڑھتے وقت کوئی ارادہ نہیں تھا تو ان دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔

اگر کسی نے ”شین“ کی جگہ ”سین“ اور ”قاف“ کی جگہ ”کاف“ پڑھا اور اس وجہ سے  
 پڑھا کہ یہ حروف باوجود کوشش کے اس کی زبان سے صحیح ادا نہیں ہوتے تو اس صورت میں وہ  
 معذور ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔

تنبیہ

مذکورہ بالا جتنی بھی صورتیں لکھی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر معنی میں تبدیلی پیدا  
 ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی اور اگر معنی تبدیل نہ ہوں تو ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ معنوں کے  
 تبدیلی ہونے نہ ہونے کی تمیز تو عربی زبان جاننے والے ہی کر سکتے ہیں۔ عوام الناس کو کیا  
 معلوم کہ کس غلطی سے معنی تبدیل ہوئے اور کس سے نہیں؟ اس مشکل کا حل صرف یہی ہے  
 کہ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھا جائے۔ تاہم آسانی کے لئے ہم یہاں اغلاط کی اقسام  
 بیان کرتے ہیں۔

غلطی قرآن کی اقسام

قراءة کی غلطیاں چند قسم کی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

۱۔ اعراب کی یعنی زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، ساکن کی جگہ متحرک، متحرک کی جگہ  
 ساکن، مشدود کی بجائے مخفف، مخفف کی بجائے مشدود اور مد کی جگہ قصر اور قصر کی بجائے مد

ظاہر کر دینا وغیرہ۔

۲۔ تبدیلی حرف کی غلطی یعنی ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھ دینا، حرفوں میں کمی بیشی کر دینا یا ان میں تقدیم و تاخیر کر دینا۔

۳۔ تبدیلی کلمہ یا تبدیلی جملہ کی غلطی، یعنی ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ یا ایک جملہ کی بجائے دوسرا جملہ پڑھنا یا الفاظ میں کمی بیشی کر دینا یا کلام میں تقدیم و تاخیر کر دینا۔

۴۔ وقف و وصل کی غلطی یعنی وقف کی بجائے وصل یا وصل کی بجائے وقف کر دینا۔

قراءة کی یہ چار قسم کی غلطیاں ہیں۔ ان کے متعلق قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کی غلطی سے معنوں میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ اگر معنوں کی ایسی تبدیلی ہوئی ہے جس کا اعتقاد کفر ہے تو ان قسموں میں سے جس قسم کی غلطی بھی ہوئی۔ بہر حال نماز فاسد ہو جائے گی خواہ زبر زبر ہی کی غلطی ہوئی ہو مثلاً ایک آیت ہے: **وَ عَصَىٰ آدَمُ مَرْيٰتًا فَعَاوٰی** (طہ) یعنی آدم نے اپنے رب کا فرمان نہ مانا اس لئے بھٹک گئے۔ اس آیت میں اگر کوئی ”آدم“ کے ”میم“ پر بجائے پیش کے زبر پڑھ دے اور ”رَبَّةٌ“ کو ”رَبَّةٌ“ کہہ دے۔ یعنی یوں پڑھے ”وَ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّةٌ“ پڑھ دے تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے ”اور آدم کا کہنا اس کے رب نے نہ مانا“ نعوذ باللہ، اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس زبر اور پیش کی غلطی نے کفر آمیز معنی پیدا کر دیے۔

ہاں اگر اعراب کی غلطی سے کفریہ معنی پیدا نہ ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر حرف یا کلمات کی غلطی سے معنوں میں کھلا ہوا تغیر پیدا ہو جائے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی مثلاً **هٰذَا الضَّرَابِ** (مائدہ: 31) کی بجائے ”هٰذَا العِبَادِ“ پڑھ دیا تو نماز صحیح نہ ہوگی اور اگر حروف و کلمات کی غلطی سے تغیر فاحش پیدا نہ ہوتا ہو اور اس کے جملے و کلمات قرآن میں موجود ہوں تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ مثلاً ”علیم“ کی بجائے ”حکیم“ اور ”نجیب“ کی بجائے ”بصیر“ کہہ دیا جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اگر اس طرح حروف و کلمات قرآن میں موجود نہ ہوں تو نماز فاسد ہو جائے گی مثلاً **فَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِالْقِسْطِ** (نساء: 135) کی جگہ ”فَيَامِنَ بِالْقِسْطِ“ پڑھ دیا تو نماز نہ ہوگی۔

مسئلہ: قرآن کو اگر راگنی کی طرح یعنی گانے کے طرز سے پڑھا جائے تو اسے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

### تحقیق ومدولین

اگر مدولین میں حد سے تجاوز کیا جائے تو راگنی ہو جائے گی اور نماز نہ ہوگی۔ اس لئے ضروری ہے کہ مدولین کی تعریف بھی بتلا دی جائے۔ سو جاننا چاہیے کہ حروف مدتین ہیں: الف، واو اور ی بشرطیکہ ان سے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو۔ الف کے موافق زبر ہوتا ہے۔ 'واو' کے موافق پیش اور 'ی' کے موافق زیر۔ مثلاً جَلِدَیْنِ (البینہ: 6) میں الف حرف مدہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے جو اس کے موافق ہے اور اس میں 'ی' بھی حرف مدہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے حرف "واو" پر زیر ہے جو اس کے موافق ہے اور مُسْلِمُوْنَ (بقرہ) میں واو حرف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف "میم" پر پیش ہے۔ جو اس کے موافق ہے۔

حروف لین دو ہیں: واو اور ی۔ بشرطیکہ ان سے پہلے حرف کی حرکت ان کے موافق نہ ہو مثلاً خَالِدَیْنِ (الحشر: 17) میں ی حرف لین ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے حرف "دال" کی حرکت اس کے موافق نہیں اور وہ زبر ہے۔

وہ حروف جن کی باہم تمیز مشکل ہے مثلاً س، ص، ض، ظ، ت، ط۔ ان میں اگر دانستہ تبدیلی کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور بے اختیار زبان سے نکل جائیں یا ان کا فرق جانتا ہی نہیں تو نماز ہو جائے گی۔

تنبیہ: جو شخص تو تلا یا ہکلا ہو تو اس کو حرف صحیح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر باوجود انتہائی کوشش کے بھی صحیح حروف ادا نہ ہوں تو پھر وہ معذور ہے۔

## نماز کا تیسرا رکن رکوع

نماز کا تیسرا رکن رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنَّمَا كُنَّ الْخَلْعُ (بقرہ: 43)** یعنی رکوع کرو۔ رکوع کے معنی ہیں جھکنا۔ اس طرح کہ سرین، کمر اور سر تینوں اعضاء برابر ہو جائیں۔ رکوع میں سر کو جھکانا ضروری ہے۔ اگر سر کو اتنا کم جھکایا کہ وہ قیام کے قریب رہا تو رکوع نہ ہوگا۔ اور اگر رکوع کے قریب رہے تو ہو جائے گا۔

رکوع میں ترتیب کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی اول قیام کرنا، کھڑے ہونے کے بعد رکوع کرنا اور رکوع کے بعد سجدہ کرنا۔ پس اگر کسی شخص نے اس ترتیب کے خلاف کیا۔ یعنی پہلے سجدہ کیا اس کے بعد رکوع اور پھر قیام، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔

رکوع کی صورت یہ ہے کہ کمر اور سر کو برابر رکھے، دونوں ہاتھوں کا زور گھٹنوں پر رکھے اور انگلیاں ہاتھوں کی کھلی رہیں۔

کھڑا آدمی جو ہر وقت حالت رکوع میں رہتا ہو وہ معذور ہے۔ اس کو صرف اشارہ کرنا ہی کافی ہے۔ زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔

اگر کسی نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور امام کے ساتھ رکوع میں کم از کم ایک مرتبہ بھی ”سبحان ربی العظیم“ کہہ لیا تو اس نے وہ رکعت پالی اور اگر ایک مرتبہ بھی کہنے نہ پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو وہ رکعت نہ ملے گی۔

## نماز کا چوتھا رکن سجدہ

پہلا اور دوسرا دونوں سجدے باجماع امت فرض ہیں اور وہ سات اعضاء کے زمین پر رکھنے سے ادا ہوتا ہے: پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں اور ان ساتوں اعضاء کا زمین پر رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ ان ساتوں اعضاء میں سے چھ اعضاء یعنی دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں قدم تو بہر حال حالت سجدہ میں زمین پر رکھنے لازمی ہیں۔ اب اگر کسی نے سجدہ میں صرف پیشانی رکھی ناک نہ رکھی تو اس کا سجدہ ہو گیا بشرطیکہ ناک کا کوئی حذر ہو۔ مثلاً ناک پر کوئی پھنسی نکل رہی ہو یا زخمی ہو۔ اور اگر بلا حذر ناک نہ رکھی

تو مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ناک تو رکھی مگر پیشانی نہ رکھی تو جائز ہے بشرطیکہ پیشانی نہ رکھنے کا عذر ہو، ورنہ سجدہ مکروہ ہوگا۔ لیکن عالمگیری میں ہے کہ اگر کسی شخص نے بلا عذر صرف ناک ہی پر سجدہ کیا۔ پیشانی زمین پر نہ رکھی تو سجدہ نہ ہوا۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ مگر معذور اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ (1)

ناک پر سجدہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ناک کا سخت حصہ زمین سے چھو جائے۔ صرف ناک کا نرم سر از زمین سے لگ جانا کافی نہیں۔ (2)

اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں سے سجدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی دونوں میں سے ایک کو بھی کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا تو سجدہ کے لئے صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔

سجدہ میں دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں کا زمین پر رکھنا ہمارے امام صاحب کے نزدیک واجب نہیں اور امام زفر رحمۃ اللہ علیہ و امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ پس اگر کسی نے سجدہ میں دونوں قدم زمین پر نہ رکھے تو سجدہ نہ ہوگا۔ ہاں اگر ایک قدم بھی رکھا تو ہو جائے گا۔ (3)

اگر بسبب انبوہ کثیر اور جگہ نہ ہونے کے سامنے والی جماعت کے آدمی کی پشت پر سجدہ کیا تو جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ آدمی جس کی پشت پر سجدہ کیا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہو جو یہ معذور پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ شخص خالی بیٹھا ہو یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہو تو پھر سجدہ نہ ہوگا۔ گھاس اور گدے وغیرہ پر اس وقت سجدہ کرنا جائز ہے جب کہ اس پر ناک اور پیشانی ٹھہر جائے یعنی ناک اور پیشانی اس کی تہہ پر جا کر ایسی ٹک جائے کہ دبانے سے آگے نہ دب سکے۔ (4)

سجدہ اور قدموں کی جگہ ہموار ہونی چاہیے۔ اگر سجدہ کی جگہ ایک بالشت اونچی ہو تو بھی سجدہ جائز ہے، اس سے زیادہ اونچی جگہ پر بلا عذر سجدہ کرنا جائز نہیں۔

2- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 70-

1- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 70-

4- عالمگیری جلد 1 صفحہ 70-

3- منیۃ المصلیٰ صفحہ 120-

## ضروری ہدایات

پہلا سجدہ کر کے کم از کم اتنا اٹھنا چاہیے کہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے۔ پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اگر اس سے پہلے سجدہ کرے گا تو دوسرا سجدہ نہ ہوگا۔ یعنی جس شخص نے پہلے سجدہ سے ذرا سر اٹھا کر پھر دوسرا سجدہ کیا تو اس کا یہ دوسرا سجدہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھالے اور پھر فوراً سر جھکا دے تو بھی ایک ہی رکوع اور ایک ہی سجدہ ہوگا۔ مگر نماز درست ہو جائے گی۔

رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق واجب ہیں، ان کا قصد ترک کرنا حرام ہے۔

## نماز کا پانچواں رکن قعدہ اخیرہ

نماز کے سات فرض یہ ہیں:

تکبیر، قیام، قراءت، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور قصداً خود نماز ختم کرنی۔ ان میں سے پانچ فرائض کا بیان ہم نہایت تفصیل کے ساتھ مع ان کے اختلافات کے کر چکے ہیں۔ اب یہاں قعدہ اخیرہ کا بیان کیا جاتا ہے۔

جس طرح دیگر ارکان تمام نمازوں میں خواہ وہ فرض ہوں یا واجب، سنت یا نفل فرض ہیں اسی طرح قعدہ اخیرہ بھی سب نمازوں میں فرض ہے۔ یعنی بمقدار قراءتہ تشهد آخر نماز میں بیٹھنا فرض ہے۔

جو شخص چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، وہ قعدہ اخیرہ کو چھوڑ دے اور پانچویں رکعت پڑھنے لگے تو جب تک وہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے، یا دآنے پر اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور قعدہ کر کے سجدہ سہو کر لے۔ نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔

اور اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کر کے بھولے سے پانچویں رکعت پڑھنے لگے تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے اس وقت تک بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز تمام کرے اور

اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا اور اس طرح پانچویں رکعت مکمل کر لی تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ چھٹی رکعت اور اس کے ساتھ ملا لے اور سجدہ سہو کر کے نماز تمام کر لے۔ تاکہ اول کے چار فرض ادا ہو جائیں اور آخر کے دو نفل ہو جائیں۔

خلاصہ یہ کہ حنفیہ کے نزدیک چار رکعت پڑھنے والا اگر بھولے سے پانچویں رکعت کے واسطے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز بہر صورت باطل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس صورت میں کہ اس سے قعدہ اخیرہ جو رکن نماز ہے، چھوٹ گیا ہو۔ وہ بغیر قعدہ اخیرہ کے کھڑا ہو گیا ہو اور پانچویں رکعت کے سجدہ کرنے سے قبل اسے یاد آ گیا تو وہ اس قدر زائد نماز کو جو ایک رکعت سے کم ہو چھوڑ دے اور بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے تمام کر لے۔ خواہ اس نے پانچویں رکعت قعدہ اخیرہ کر کے شروع کی ہو یا یہ چھوٹ گیا ہو۔

### تحقیق تشہد

حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے دونوں قعدوں میں قعدہ کی صورت یہ ہے کہ بائیں پیر پر بیٹھے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھے۔ اس طرح کہ پیر کی انگلیاں قبلہ کی رخ رہیں۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ مذہب دو حدیثوں کے خلاف ہے ان میں سے ایک حدیث ابو حمید سے سنن ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ پہلے قعدہ میں بطریقہ مذکورہ بیٹھتے تھے اور دوسرے قعدہ میں تورک کرتے تھے۔ یعنی بائیں کو لہے کو زمین پر رکھ کر بیٹھتے اور بائیں پیر داہنی طرف باہر نکالتے اور داہنا کھڑا رکھتے تھے اس حدیث کے موافق محدثین اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

یہ اور دوسری حدیث بلاشبہ صحیح ہے۔ لیکن ہمارے امام صاحب کا مذہب ان کے علاوہ متعدد احادیث کے موافق ہے اور وہ نہایت ہی مضبوط و موکد ہیں۔ ان میں سے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

كَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَقْرَأُ رِجْلَهُ



الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى - (1)

”یعنی آنحضرت ﷺ ہر دو رکعت میں التحیات پڑھتے تھے اور بچھاتے تھے آپ بائیں پیر کو اور کھڑا کر لیتے تھے داہنے پیر کو“۔

سعید بن منصور رضی اللہ عنہ نے وائل سے روایت کی ہے:

صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما

قعد و تشهد فرش رجله اليسرى - (2)

”یعنی نماز پڑھی میں نے رسول خدا کے پیچھے۔ پس جبکہ بیٹھے آپ بچھا دیا بائیں پیر کو“۔

نیز سنن نسائی میں ابن عمر سے روایت ہے:

من سنة الصلوة ان تنصب القدم اليمنى و تستقبل

باصابعها القبلة والجلوس على اليسرى - (3)

”یعنی نماز میں سنت یہ ہے کہ کھڑا کرے تو داہنے قدم کو اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے اور بائیں پیر پر بیٹھے“۔

ان حدیثوں کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں تعدے ایک طرح پر ہیں اور یہی

طریقہ سنت ہے اور ہمارا طریقہ بھی احادیث معتبرہ کے موافق ہے۔

### انگشت شہادت کا اٹھانا

ہم نے انگشت شہادت کے اٹھانے کی ترکیب کو طریقہ ادائے نماز میں بیان کر دیا

ہے۔ یہاں دیگر ائمہ کا اختلاف دکھانا مقصود ہے۔ حنفیہ کا تو اس بات میں عمل یہ ہے کہ تشہد

کے وقت اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانو پر رکھے اور سیدھے ہاتھ کو حسب دستور باندھ کر

انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ ائمہ میں ہاتھ باندھنے کی صورت میں اختلاف ہے اسی

1- صحیح مسلم بشرح نووی کتاب الصلوة جلد 4 صفحہ 179

2- سنن نسائی باب التشہد جلد 1 صفحہ 170

3- سنن نسائی باب التشہد جلد 1 صفحہ 173، طبع وزارت تعلیم اسلام آباد۔

طرح اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ انگشت شہادت سے کس وقت اشارہ کرنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں اِلا اللہ کہتے وقت اشارہ کرے۔ بعض اس کلمہ کے ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ مگر مشہور اور صحیح بات یہ ہے کہ نفی کے وقت انگشت شہادت اٹھائے اور اثبات کے وقت رکھ دے یعنی لا اِلهَ کہتے ہوئے اٹھائے اور اِلا اللہ کہتے وقت رکھ دے۔

داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو حنفیہ کے طریقہ کے مطابق باندھنا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا احادیث صحاح میں واقع ہے اور اس باب میں بکثرت احادیث آئی ہیں اکثر ائمہ حدیث و فقہائے مجتہدین اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معتبر و مستند مذہب ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ تشہد میں اسی طرح اشارہ کیا کرتے تھے اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے کیا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں۔

بعض علماء نے اشارہ کرنے کو مکروہ بتلایا ہے۔ لیکن کفایہ حواشی ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تینوں حضرات کے نزدیک تشہد میں انگشت شہادت کا اٹھانا سنت ہے۔ اس پر علامہ نجم الدین زاہر کہتے ہیں کہ جب ہمارے اصحاب اس مسئلہ میں متفق ہیں کہ اشارہ کرنا سنت ہے۔ کوئیوں اور مدنیوں سے بھی یونہی آیا ہے اور اس کی سنت پر کثیر آثار و اخبار شاہد ہیں تو لامحالہ اس پر عمل کرنا ضروری و اولیٰ ہوا۔ شارح وقایہ بھی کہتے ہیں کہ انگلیوں کا باندھنا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا ہمارے اصحاب سے ثابت ہے۔

نیز اس مسئلہ میں امام عالم اجل علی متقی رضی اللہ عنہ نے ایک رسالہ میں ان تمام احادیث و آثار اور دلائل و شواہد کو جمع کیا ہے جن سے مذہب حنفی راجح ثابت ہوتا ہے۔ پس جو لوگ اس کو مکروہ بتلاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہما کا صحیح و مستند مذہب انگلیوں کا باندھنا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرنا ہے اور اسی پر حنفی مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے۔

### درود شریف کا بیان

قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد نبی ﷺ پر درود پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے

نزدیک واجب ہے اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت، چنانچہ طبرانی، ابن ماجہ، دارقطنی سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جو اپنے پیغمبر پر درود نہ بھیجے۔ نیز دارقطنی ابی مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں مجھ پر اور میری اہلیت پر درود نہ بھیجا جائے وہ قبول نہیں کی جاتی (1)۔ ان دو حدیثوں کے موافق قعدہ اخیرہ میں درود پڑھنا بھی ضروری ہوا۔

درود کے متعلق روایات آئی ہیں۔ لیکن وہ درود شریف جو نماز کی ترکیب میں مع ترجمہ بیان کر چکے، وہی کافی ہے بعض روایات میں یہ زائد کلمات بھی آئے ہیں وارحم وتوحم کما رحمت۔ مگر علمائے محققین نے انکی صحت سے انکار کیا ہے اور ان کو از قبیل بدعت بتلایا ہے۔ لہذا جو درود شریف ہم عموماً اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ صحیح، معتبر اور کافی ہیں۔ باقی درود شریف کے بعد جو دعا ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور جس کو ہم نے نماز کی ترکیب میں با ترجمہ لکھا ہے اس دعا کی سند یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول خدا ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا بتلائیے جو میں آخر نماز میں پڑھوں؟ اس پر حضور ﷺ نے وہ تمام دعا تعلیم فرمائی جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے علاوہ اور بھی حدیث میں دعائیں آئی ہیں۔ مگر ان میں یہی افضل، کافی اور معتبر ہے۔

## نماز کا چھٹا رکن

### قصد نماز کو تمام کرنا

نماز کا چھٹا فرض خروج بصدع ہے۔ یعنی نماز کا قصد اتمام کرنا۔ حقیقت اس بحث اور بیان کی یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خروج بصدع فرض ہے اور بعد فراغت نماز لفظ سلام یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب ہے۔ پس اگر کسی نے لفظ سلام نہ کہا بلکہ کوئی منافی نماز کام قصداً آخر نماز میں کر دیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی

مگر ترک واجب کا گناہ لازم آئے گا اور نماز بھی کامل و مقبول نہ ہوگی اور اس کی نماز ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ذمہ سے تمام فرائض نماز ادا ہو گئے۔ وہ قضاء نماز سے بری ہو گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ترک واجب کا اس پر گناہ لازم آیا اور نماز کامل و مقبول نہ ہوئی۔ اگر کسی نمازی نے قدر تشہد کے بعد جان کر اپنا وضو توڑ دیا، یا کوئی کلام کیا یا کوئی عمل منافی نماز کیا، تو بالاتفاق نماز ہو جائے گی، مگر وہ لفظ سلام کے ترک سے گناہ گار ہوگا۔

اس مسئلہ کی سند وہ حدیث ہے جو سنن ابوداؤد میں ہے۔ آنحضرت ﷺ سے مروی ہے:

اذا قعد الامام في اخر صلاته ثم احدث قبل ان يتشهد

فقد تمت صلوته

”جب بیٹھے امام آخر نماز میں اور حدث کرے قبل اس کے کہ التحیات پڑھے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔“

اس مسئلہ پر چند مسائل تیمم بھی بنی ہیں جن کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ اگر کسی مقتدی یا امام نے جس نے تیمم کر رکھا تھا حالت نماز میں تشہد پڑھنے سے پہلے حدث کیا تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا یا اگر وہ مسح کرنے والا تھا تو اس کی مدت مسح ٹوٹ جائے گی۔

نماز کے واجبات

یہاں تک نماز کے فرائض کا بیان تھا جن کو ہم نے پوری تفصیل اور ان کے متعلقات کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور اس سلسلہ میں جو باتیں باقی ہیں وہ آئندہ آجائیں گی۔ یہاں نماز کے واجبات کو بیان کیا جاتا ہے۔

مختلف نمازوں میں 19 چیزیں واجب ہیں۔ ہر نماز کے واجبات کی یہ مقدار نہیں کسی میں اس سے کم ہیں اور کسی میں زیادہ، وہ واجبات یہ ہیں:

۱۔ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کو قراءت کے لیے مقرر کرنا۔

۲۔ الحمد شریف کا پڑھنا۔

۳۔ الحمد کا ہر رکعت میں ایک مرتبہ پڑھنا۔

- ۴۔ الحمد کا سورت سے پہلے پڑھنا۔
- ۵۔ فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب و سنتوں کی سب رکعتوں میں سورۃ کا ملانا۔
- ۶۔ دو رکعتوں اور دو سجدوں کے درمیان ترتیب قائم رکھنا۔
- ۷۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔
- ۸۔ دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت سے قبل بیٹھ جانا۔
- ۹۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں سبحان اللہ کہنے کی مقدار اطمینان کے ساتھ توقف کرنا۔
- ۱۰۔ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، تراویح، عیدین اور رمضان کے وتروں میں امام کو بلند آواز سے قراءت پڑھنا اور ظہر و عصر میں آہستہ پڑھنا۔
- ۱۱۔ جلسہ۔
- ۱۲۔ پہلے اور دوسرے دونوں قعدوں میں التحیات پڑھنا۔
- ۱۳۔ لفظ سلام سے نماز تمام کرنا۔
- ۱۴۔ تکبیر قنوت کہنا۔
- ۱۵۔ دعائے قنوت کہنا۔
- ۱۶۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں چھ چھ تکبیریں کہنا۔
- ۱۷۔ مقتدی کا قراۃ سے خاموش رہنا اور امام کی قراۃ پر اکتفا کرنا۔
- ۱۸۔ مقتدی کو ہر صورت امام کی تابعداری کرنا۔
- ۱۹۔ سجدہ تلاوت کرنا۔ (کبیری۔ غایۃ الاوطار)

### نماز کی سنتیں

حنفیوں کے مذہب کے مطابق نماز کی سنتیں چھبیس 26 ہیں:

- ۱۔ تکبیر تحریم کے لئے تکبیر کہنے سے پیشتر دونوں ہاتھوں کا کانوں کی لوتک اٹھانا۔
- ۲۔ تکبیر کے وقت انگلیوں کا قبلہ رخ اور اپنی حالت پر رکھنا۔ یعنی نہ بالکل کشادہ ہوں

اور نہ بالکل ملی ہوئی۔

۳۔ امام کو تکبیر تحریم لوگوں کی اطلاع کے لئے بقدر ضرورت پکار کر کہنا۔

۴۔ ناف کے نیچے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھنا۔

۵۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھنا۔

۶۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

۷۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنا۔

۸۔ فرض کی کچھلی دو رکعتوں میں صرف الحمد للہ پڑھنا۔

۹۔ آمین کہنا۔

۱۰۔ تعوذ بسم اللہ اور آمین کا آہستہ کہنا۔

۱۱۔ قراءۃ مسنون پڑھنا۔

۱۲۔ تکبیرات انتقال یعنی رکوع و سجدہ کے لئے اللہ اکبر پڑھنا۔

۱۳۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کا کم از کم تین بار کہنا۔

۱۴۔ رکوع میں دونوں گھٹنوں کا کشادہ انگلیوں سے پکڑنا۔

۱۵۔ امام کو سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی کو ربنا لک الحمد اور تنہا آدمی کو

دونوں ملا کر کہنا۔

۱۶۔ سجدہ میں دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کو پیشانی سے پہلے زمین پر رکھنا۔

۱۷۔ سجدہ میں کم از کم تین بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔

۱۸۔ جلسہ اور تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پچھائے رکھنا۔

۱۹۔ ہر جلسہ اور تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔

۲۰۔ التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا۔

۲۱۔ قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا۔

۲۲۔ قعدہ اخیرہ میں دعا پڑھنا۔

۲۳۔ سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا۔

۲۴۔ امام کے لئے فرشتوں اور مقتدیوں کے سلام کی نیت کرنا۔

۲۵۔ امام کے لئے پہلے سلام سے دوسرے سلام کو پست آواز سے کہنا۔

۲۶۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں بائیں سلام پھیرنا۔

**ضروری ہدایات:** امام کو تکبیر تحریمہ اور باقی تکبیرات کو بقدر ضرورت بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ ان سے صرف یہی نیت نہ ہو کہ ان سے مقصود مقتدیوں کا اطلاع کرنا ہے۔ بلکہ اپنی نماز کی تکبیروں کی نیت ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر اپنی تکبیروں کی نیت نہ کرے گا تو نہ امام کی نماز ہوگی اور نہ مقتدیوں کی۔

امام ہو یا منفرد بہر حال اس رکعت میں جس میں صرف الحمد پڑھی جاتی ہے اور سورت نہیں پڑھی جاتی، سب کے لئے الحمد سے قبل آہستہ بسم اللہ پڑھنی سنت ہے اور اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

## نماز کے مستحبات

۱۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ استینوں یا چادر وغیرہ سے باہر نکالنا۔

۲۔ دونوں قدموں کے درمیان بقدر چار انگلی کے فاصلہ رکھنا۔

۳۔ تنہا نماز پڑھنے والے کو رکوع و سجدہ میں تین بار سے زائد تسبیح پڑھنا۔

۴۔ قیام میں سجدہ گاہ پر رکوع میں دونوں پاؤں کی پشت پر، سجدہ میں ناک کے سرے

پر، قعود میں اپنی گود پر، پہلے سلام میں دائیں شانہ پر نظر رکھنا۔

۵۔ رکوع میں انگلیوں کا کشادہ رکھنا اور سجدہ میں ٹلی ہوئی رکھنا۔

۶۔ جمائی کے وقت نماز میں منہ بند رکھنا۔

۷۔ اگر نماز میں کھانسی آئے تو بقدر امکان اس کو روکنا۔

## تکبیر تحریمہ کا ثواب اور چند بقیہ مسائل

ترمذی نے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے کیلئے کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَقِيقًا وَمَا

أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ۝ (انعام) إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ  
 مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا  
 أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ (انعام) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا  
 اَنْتَ رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَعْتَرَمْتُ بِذُنُوبِيْ  
 فَاعْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ  
 وَاَهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاِخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ  
 وَاَصْرِفْنِيْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ  
 لَبِيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدِيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ  
 اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَالْيَاكُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ  
 وَاتُوْبُ اِلَيْكَ۔

”میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا  
 کیا میں توحید کرنے والوں میں سے ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میری  
 نماز، میری عبادت، میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا خاص اللہ تعالیٰ عالموں کے  
 پروردگار کے لئے ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں اور اسی توحید اخلاص کا مجھے حکم ہوا  
 ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

اے اللہ! تو بادشاہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا پروردگار ہے۔ میں تیرا  
 بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا پس  
 تو بخش دے میرے لئے میرے سب گناہ، کیونکہ گناہوں کو تیرے سوا بخشنے والا  
 کوئی نہیں، مجھے اچھی عادتوں کی راہ دکھا کہ تیرے سوا اچھی عادتوں کی راہ کوئی نہیں  
 دکھاتا اور دور کر مجھ سے بری عادتوں کو اور تیرے سوا بری عادتوں کو کوئی دور نہیں  
 کرتا۔ میں حاضر ہوں تیرے حکم کے بجالانے میں اور تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ  
 میں ہیں اور برائی تیری طرف نہیں لگائی جاتی۔ میں تیرے ہی سبب موجود ہوں اور  
 میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں تو بابرکت ہے اور تو بلند ہے، میں تجھ سے



بخشش چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔“

ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس دعا کا پڑھنا بعد تکبیر تحریمہ کے نقل کیا ہے اور بعض نے تکبیر تحریمہ سے پہلے روایت کیا ہے۔ غرض یہ کہ ادائے نماز کے وقت اس دعا کا پڑھنا افضل اور باعث ثواب ہے۔

### دعائے استفتاح

تکبیر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں اور وہ دعائیں صحیح سندوں سے کئی طرح مروی ہیں کیونکہ آنحضرت ﷺ ہر وقت مختلف دعائیں پڑھتے تھے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ اگر کوئی ان دعاؤں کو ایک ساتھ پڑھے تو جائز ہے لیکن بعض مشائخ نے مذکور بالا دعا ہی کو اختیار کیا ہے اور اسی کو نیت کے شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ مگر یہ خلاف روایت اور درایت ہے اور اس سے اقامت کے بعد جماعت قائم ہونے کے وقت تکبیر تحریمہ میں دیر لازم آتی ہے۔

دوسری دعائے استفتاح یہ ہے:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ۔ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثلجِ وَالْبَرْدِ۔ (1)

”اے اللہ! مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دور ڈال دے جتنی کہ تو نے مشرق و

مغرب میں ڈالی اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے۔“

(بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ)

دعا کی ان دونوں صورتوں میں گناہوں کے محو ہونے کے لئے مبالغہ مقصود ہے کیونکہ مشرق و مغرب میں بڑا فرق ہے یعنی میرے گناہ اس طرح دور ہوں اور جو کچھ اتین چیزوں سے کئی بار دھویا جاتا ہے وہ خوب صاف ہو جاتا ہے یعنی اسی طرح مجھ کو پاک کر اور طرح طرح کی بخشش نازل فرما۔ یہ بطریق تمثیل کے فرمایا ہے۔ اس کی حقیقت مقصود نہیں۔ تیسری دعائے استفتاح یہ ہے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“۔ (1)

”میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ وابستہ تیری تعریف سے اور بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے۔ تیری بزرگی اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسلم)

امام اعظم اور امام محمد مالک رحمۃ اللہ علیہم اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہری مذہب یہ ہے کہ اس دعا کو تکبیر تحریم کے بعد آخر تک پڑھے اور دعا رِئِی وَجْهَتْهُ کو آخر تک نہ پڑھے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں پڑھے۔ طحاوی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے مگر پہلے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھنا اولیٰ ہے۔ ان دونوں کی سند حدیث سے ہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سے دعائیں آئی ہیں لیکن ہم صرف مذکورہ دعاؤں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ دوسری دعاؤں کا نقل کرنا موجب طوالت ہے۔

تکبیر تحریمہ کا ثواب

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پائے وہ اس کے لئے ہزار اونٹ مکہ معظمہ میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ نیز صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ پائی وہ اس کے لئے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

اخبار میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ چند چوروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چار سو اونٹ اور چالیس غلام چرائے۔ آپ اس رنج و غم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ حضور ﷺ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رنجیدہ دیکھ کر فرمایا میں نے تو خیال کیا تھا کہ شاید آج تمہاری تکبیر تحریمہ فوت ہوگئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا رسول اللہ! کیا تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے کا رنج اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے؟ فرمایا اس سے زیادہ کیا اگر تمام زمین کو اونٹوں سے بھر دیا جائے تو وہ

بھی تکبیر تحریمہ کے مقابلہ میں کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس سے تکبیر تحریمہ فوت ہوگئی، اس کے ہاتھ سے دوسرے دنوں کے دنیاوی کام چلے جاتے ہیں جو جنت میں چل رہے ہیں اور جن کے سینگ سونے کے ہیں۔  
ایک عجیب لطیف نکتہ

صاحب خیر الموائس کہتے ہیں کہ اس میں نو سو ننانوے عدد کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ”اللہ“ کے چار حرف ہیں اور ”اکبر“ کے بھی چار ہی حرف ہیں۔ اکبر کی ”ب“ کا لفظ ایک حرف کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ اس میں ایک عجیب و غریب بھید مضمر ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ جس قدر چیزیں تمام کتابوں میں بیان کی گئی ہیں سب کالب لباب قرآن مجید میں موجود ہے۔ ”فِيهَا كُتِبَ الْقُرْآنُ“ (البینہ) اور جو چیزیں تمام قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے اور جو چیز سورہ فاتحہ میں موجود ہے اس کا انتخاب ”بسم اللہ“ میں ہے اور ”بسم اللہ“ کا خلاصہ لفظ ”با“ میں اور با کا عطر اس نقطہ میں موجود ہے جو کے نیچے ہے۔ نجم الدین نسفی کہتے ہیں کہ با کے معنی یہ ہیں: بِي كَانِ مَا كَانِ وَ يَكُونُ مَا يَكُونُ۔ غرضیکہ لفظ ”اللَّهُ اكْبَرُ“ کے کل نو حرف ہیں اور ہر حرف کے عوض سے دنیویوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب رہیں ننانوے دنیاوی تو حرف کے مقابلہ میں گیارہ دنیاوی مقرر ہوئیں۔ کیونکہ بسط کے قاعدے سے لفظ ”اللہ“ تحریمہ کا ثواب حد شمار سے باہر ہے۔ ہر نمازی مسلمان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پالے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر اس اسم سے نماز کی ابتداء صحیح ہو جائے گی جو تعالیٰ کے ننانوے اسموں سے ہو اور تعظیم پر دلالت کرتا ہو۔ مثلاً ”اللہ اعظم“ اور ”اللہ اعظم“ وغیرہ۔ ضرورت ہے کہ اس مسئلہ کو ذرا تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔

### بحث تکبیر تحریمہ غیر عربی زبان میں

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے اگر کوئی شخص فارسی زبان (غیر عربی) تکبیر تحریمہ کہے۔ یعنی بجائے ”اللَّهُ اكْبَرُ“ کے کہے: ”خدا تعالیٰ بزرگ تراست“ تو

ہے۔ اسی طرح اگر ذبح کرتے وقت فارسی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام لے تو وہ ذبح جائز ہے۔ یعنی ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر فارسی و ہندی وغیرہ کسی زبان میں اللہ اکبر کا ترجمہ کرے تو نماز درست ہے مگر کراہت سے خالی نہیں۔ مسنون اختیار زبان عربی بلکہ خاص لفظ اللہ اکبر ہے۔ چنانچہ روا المختار میں ہے۔

واما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع اذكار الصلوة  
فهي على الخلاف فعنده تصح الصلوة بها مطلقاً خلافاً  
لہما والظاهر ان الصحة عنده لا تنفی الكراهة۔

”شروع کرنا نماز کا فارسی زبان میں اور ایسے ہی اور اذکار نماز جیسے التحیات و تسبیح وغیرہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک زبان فارسی میں درست ہے مطلقاً اور امام ابو یوسف و محمد کے نزدیک اگر زبان عربی سے عاجز ہو تو دوسری زبان میں ان اذکار کا ادا کرنا درست ہے ورنہ نہیں اور ظاہر یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک صحت نہیں نفی کرتی کراہت کو یعنی ادا کرنا ان اذکار کا اگرچہ نماز کی صحت کے واسطے کافی ہے مگر کراہت سے خالی نہیں ہے۔

اس مسئلہ کے درج کرنے کی غرض محض یہ ہے کہ ناظرین کو اس کی صحت کا علم ہو جائے۔ اسی طرح حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ فارسی میں قرآن پڑھنا بھی درست ہے خواہ عربی زبان پر قادر نہ ہو۔ لیکن آخر میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور اس کے قائل ہو گئے تھے۔ بہر حال عربی میں پڑھنا ہی لازمی ہے۔ چنانچہ ابن ملک کی شرح منار میں ہے:

الاصح انه رجع عن هذا القول

”صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا“۔

تحقیق شرح منتخب حسامی سے منقول ہے:

قد صح رجوع ابی حنیفة الی قول العامة رواہ نوح

ذکرہ فخر الاسلام فی شرح کتاب الصلوة وهو اختیار

القاضی ابی زید وعامة المحققین۔

امام ابوحنیفہ کا قول عام کی طرف رجوع کرنا صحیح طریقہ سے ثابت ہے اسے نوح ابن ابی مریم نے امام صاحب سے روایت کیا ہے۔ فخر الاسلام بزدوی نے اسے ”شرح کتاب الصلوٰۃ“ میں ذکر کیا ہے۔ قاضی ابوزید اور عام محققین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔

پس امام صاحب کا زبان فارسی میں جواز نماز کے قول سے رجوع کرنا آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور احناف کا اسی پر فتویٰ ہے کہ نماز غیر عربی زبان نہیں ہوتی۔

### قراءة کے متعلق چند ضروری باتیں

حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایک ہی آیت فرض ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک ہی آیت پر اکتفا کر لینا چاہیے بلکہ آسانی اس شخص کے لیے ہے جو معذور ہو۔ شرح دقاییہ میں ہے کہ فرض قراءۃ ایک آیت ہے اور اس پر کفایت کرنے والا بسبب ترک واجب کے گناہگار ہے لہذا قراءۃ کے مسائل میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ دیدہ دانستہ اس کو چھوڑ دینے سے فسق لازم آتا ہے نیز سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملنا بھی واجب ہے اور عمد اس کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہدایہ وغیرہ فقہ کی کتابوں میں ہے اگر امام نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور یہ مذہب ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس پر غیر مقلدین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف کیا ہے اس حدیث کا جو بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ذکوان ان کی امامت قرآن سے کرتا تھا۔ یہ اعتراض ان کا بالکل لغو اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ بخاری کی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ ذکوان نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ معترضین کی یہ بات نا سبھی اور افترا پردازی ہے۔ صحیح بخاری میں بلا سند یہ اثر ضرور مرقوم ہے مگر اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ذکوان نماز شروع کرنے سے پہلے قرآن کو دیکھ لیتے تھے اور اس سے یاد کر لیتے تھے۔ بعد اس کے اسی قدر نماز میں سنا دیتے۔ چنانچہ عینی کی شرح ہدایہ میں مذکور ہے:

اثر ذکوان ان صح فهو محمول علی انه کان یقرأ من  
المصحف قبل شروعه فی الصلوة ای ینظر فیہ و یتفکرن

منہ ثم یقوم فیصلی۔

”اگر ذکوان کا اثر صحیح ہے تو اس بات پر محمول ہے کہ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے  
قرآن سے دیکھ لیتے اس سے یاد کر لیتے اور بعد اس کے اسی قدر سنا دیتے تھے۔“  
پس صحیح امر یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور جو لوگ اس  
پر طعن کرتے ہیں وہ اپنی نادانی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔

استعاذہ کے مسائل

استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں۔ استعاذہ قراءت  
قرآن سے پہلے مسنون ہے خواہ یہ قراءت نماز میں ہو یا خارج نماز۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (النحل: 98)

”اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ سے استعاذہ کر۔“

یعنی اس کی پناہ میں آنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھو۔ اس ظاہر امر کی وجہ سے بعض سلف  
اس کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں۔ مگر ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ  
مسنون ہے۔ اب قراءت اور فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ افضل اعوذ  
باللہ ہے یا استعید باللہ۔ روایات میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ لیکن ہدایہ میں ہے کہ  
استعید کہنا اولیٰ ہے تاکہ قرآن کے موافق ہو۔

استعاذہ کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی جاتی ہے۔ شروع نماز میں  
اس کا پڑھنا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ اگرچہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے  
ز نزدیک تسمیہ نہ سورۃ فاتحہ کا جزو ہے اور نہ کسی اور سورت کا۔ تاہم اس کا شروع نماز میں پڑھنا  
مفتاح صلوة ہے اور تعوذ کی طرح مسنون ہے یعنی پہلی رکعت میں پڑھنا اور ایک روایت یہ  
بھی ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ تسمیہ برائے افتتاح قرآن  
ہے اور قراءت کے حق میں ہر رکعت مستقل ہے۔

بہر حال بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا نماز میں پڑھنا متفق علیہ ہے لیکن اس کے جہر و اسرار میں اختلاف ہے یعنی اس امر میں کہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے اور یہی مسلک حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت عبد اللہ بن زبیر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عبد اللہ بن مغفل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان سب کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (1)

### آمین کے مسائل

مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ جب امام غَیْرِ الْمُخْتَصَمِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ (فاتحہ) پڑھے تو مقتدی کو چاہیے کہ آمین کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا (2)۔ ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے:

وَإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مِنْ وَاقِفٍ تَامِينُهُ تَامِينُ الْمَلَائِكَةِ

غفر له ما تقدم من ذنبه۔

”اور جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے کیونکہ جس کا کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہے تو اس کے گناہ جو پیشتر گزر چکے ہوں بخش دیئے جاتے ہیں۔“ (3)

یعنی جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اسی لئے اس وقت مقتدیوں کو انکی موافقت کرنی چاہیے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔

اس میں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے مقتدی ہو خواہ امام، اور نماز سری ہو خواہ جہری، اور ان کی سند یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جنہیں امام اخفا کرے، بسم اللہ، اعوذ، آمین اور تشہد، نیز ایک

روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بسم اللہ، اعموذ اور آمین جہر سے نہ کہتے تھے۔ علاوہ ازیں دارقطنی اور حاکم نے علقمہ سے، علقمہ نے وائل سے روایت کیا ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب آپ نے ولا الضالین کہا تو آمین چپکے سے کہی۔ (1)

ایک دلیل ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ آمین دعا ہے۔ جس کے معنی ہیں: ”الہی قبول کر“ اور دعا آہستہ کرنی اولیٰ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (الاعراف: 55)

”یعنی اپنے رب کو عاجزی اور پوشیدگی سے پکارو“۔ (شرح حصن حصین)

الغرض ہمارا مذہب عمر فاروق، علی مرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا مذہب ہے کیونکہ یہ اجل فقہائے صحابہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جہر سے آمین کہنا موقوف ہو گیا ہے۔

## رکوع کے مسائل

جب رکوع کرے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہے یعنی پاک ہے میرا بڑا پروردگار نقل کیا اس کو مسلم، ترمذی، ابن حبان حاکم اور بزار نے۔ ایک روایت میں بزار نے اس کا تین بار کہنا کمال سنت کا ادنیٰ درجہ ہے اور جواز کا ادنیٰ درجہ ایک بار ہے اور تین بار کہنا کمال میں داخل ہے اور افضل پانچ بار یا سات بار ہے (2)۔ بعضوں نے دس تک اور بعضوں نے قیام کے قریب بھی کہا ہے مگر یہ سب حالتیں تنہائی میں ہیں امام کو مقتدیوں کے حال کی رعایت کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام رکوع و سجدہ کی تسبیحات پانچ بار کہے۔ رکوع کی یہ مشہور اور معمول بہ تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ رکوع کی چند تسبیحات اور بھی آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تسبیح یہ ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔

”یعنی پاکی ہے تجھ کو اے اللہ ہمارے پروردگار! وابستہ تیری تعریف سے الہی! تو

1۔ سنن دارقطنی جلد 1 صفحہ 334

2۔ ترمذی ابواب الصلوٰۃ جلد 2 صفحہ 47 حدیث نمبر 261



مجھ کو بخش دے۔“ (1)

ایک تسبیح یہ ہے کہ تین بار سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہے۔ نقل کیا اس کو احمد ظہرائی نے اسی طرح اور بھی تسبیحات آئی ہیں۔ مگر مختار ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ ہی ہے۔

قومہ کا بیان

مسلم اور طبرانی وغیرہ نے نقل کیا ہے:

وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

”یعنی جب رکوع سے کھڑا ہو تو کہے اللہ نے قبول کیا اس کا قول جس نے اس کی

تعریف کی“ (2)

نیز یہ کہے:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”یعنی اے اللہ ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے تعریف ہے“ (3)

شیخ فخر الدین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہو۔ کیونکہ جس کسی کا قول ملائکہ کے قول کے مطابق ہوگا۔ اس سے پیشتر گناہ بخشے جائیں گے۔ اس میں ہمارے امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے اور مقتدی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور اکیلا نماز پڑھتا ہوا ہو تو دونوں کہے صاحبین کے نزدیک امام بھی دونوں کہے۔ چنانچہ طحاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ حَمِدَهُ کی ”ہ“ کو ساکن پڑھنا چاہیے۔

علاوہ ازیں قومہ میں ایک تسبیح یہ بھی پڑھی جاتی ہے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا

بَيْنَتْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ

الْبَارِدِ۔ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى

2- صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ جلد 4 صفحہ 160

1- سنن نسائی جلد 1 صفحہ 144

3- صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ جلد 1 صفحہ 144۔

الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسْخِ“۔

”اے اللہ! تیرے لیے سب تعریف ہے آسمانوں اور زمین پر اور اس چیز کے بھرنے کی مقدار جس کو تو آسمان و زمین کے سوا چاہے، اے اللہ! مجھ کو پاک کر برف، اولے اور ٹھنڈے پانی سے۔ یا اللہ! تو مجھ کو گناہوں سے اور خطاؤں سے پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے“۔ (1) دراصل یہ تمثیل ہے حمد کی کثرت کی۔

### سجدہ کا بیان

سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھا جاتا ہے۔ سجدہ کی اس تسبیح کو ترمذی، مسلم، ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ یعنی جب سجدہ کرے تو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہے۔ ”یعنی پاک ہے میرا پروردگار بہت بڑا“۔ (2)

ایک روایت میں اس کا تین بار پڑھنا منقول ہے مگر یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ علاوہ ازیں کبھی کبھی رسول خدا ﷺ سجدہ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ۔

”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کی تیرے غضب سے اور پناہ تیری عافیت کی تیرے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری صفات جمالی کی تیری صفات جلالی سے میں نہیں گن سکتا۔ تجھ پر تیری تعریف کو تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے تعریف کی اپنے نفس کی“۔ (3)

ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ جب دونوں سجدوں کے درمیان

2۔ ترمذی کتاب الصلوٰۃ جلد 2 صفحہ 47

1۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ جلد 4 صفحہ 162

3۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ جلد 4 صفحہ 170

بیٹھے جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں تو یہ دعا پڑھے:

”اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وغافني وارزقني“

”اے اللہ تو مجھ کو بخش اور مجھ پر رحم کر اور مجھ کو تندرستی عطا فرما اور مجھ کو دین کی

راہ دکھا اور مجھ کو رزق مرحمت کر۔“ (1)

## التحيات کا بیان

صحاح ستہ اور بیہقی میں آیا ہے:

وَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُدِ يَقْرَأُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوٰتِ

وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”جب التحیات کے واسطے بیٹھے تو یوں پڑھے: زبان کی سب عبادتیں اور بدن کی

تمام عبادتیں اور مال کی ساری عبادتیں خاص اللہ کے لئے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے

پیغمبر اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں سلام ہو ہم موجودہ مسلمانوں پر اور خدا

کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود سوائے اللہ کے

نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔“ (2)

حنفی مذہب میں اسی تشہد کو پڑھتے ہیں اور یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے۔ ایک تشہد ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ہے جس کو شافعیہ نے اختیار کیا ہے۔ اس میں

اور تشہد ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان کے علاوہ اور تشہد بھی ہیں۔ مگر

مشہور یہ دو ہی ہیں۔

التحيات میں داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت کا اٹھانا امام اعظم، امام محمد، امام شافعی، امام

مالک اور امام ابو یوسف وغیرہ ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک نماز کی سنتوں

میں سے ہے اور اس کی سنتیں ہونے کی روایتیں متفق ہیں۔ صحاح ستہ سے اس باب میں

1- سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ جلد 4 صفحہ 41

2- صحیح البخاری کتاب الصلوٰۃ جلد 1 صفحہ 150

بکثرت حدیثیں وارد ہوئی ہیں اور صحابہ و تابعین ائمہ حدیث اور فقہائے مجتہدین کا یہی مذہب حق ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی ذرا تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔ جو لوگ اس کو مکروہ یا بدعت اور ناجائز بتلاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔

### درود پڑھنے کا بیان

فرض نماز کے قعدہ اخیرہ میں نفل وغیرہ کے قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھنا مسنون ہے اور درود شریف پڑھنے کے فضائل میں احادیث بکثرت آئی ہیں۔ اس جگہ چند حدیثیں لکھی جاتی ہیں۔ حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دس بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ (1)

نسائی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی دس خطائیں معاف کرتا ہے اور اس کے دس درجے بلند کرتا ہے۔ (2)

ترمذی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن مجھ پر سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ نیز ترمذی میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ (3)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک نبی کریم ﷺ پر درود نہ بھیجا جائے۔ چنانچہ فقہاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس جلسہ میں حضور اقدس ﷺ کا ذکر آئے درود پڑھنا واجب ہے اگر سو بار ذکر آئے تو سو بار درود شریف پڑھے۔

نماز میں التحیات کے بعد جو درود شریف پڑھے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں منقول ہیں اور ان کے لئے ”صلوٰۃ“ کا لفظ آیا ہے۔ صلوٰۃ کے معنی استغفار، دعا، رحمت اور پیغمبر خدا

2- سنن نسائی جلد 1 صفحہ 191

1- ترمذی باب الصلوٰۃ جلد 2 صفحہ 355

3- ترمذی جلد 2 صفحہ 354

ﷺ پر درود بھیجنے کے ہیں۔ بعض علماء نے اس کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ صلوة اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی رحمت کا خدا سے اس کے حبیب کے لئے مانگنا ہے اور اللہم صل علی محمد کے معنی یہ ہیں کہ یا اللہ تو دنیا میں ان کی تعظیم کر۔ اس طرح کہ ان کا ذکر بلند ہو، ان کا دین ظاہر ہو اور ان کی شریعت باقی رہے اور آخرت میں ان کی تعظیم کر اس طرح کہ بہت سا ثواب دے اور امت کی شفاعت کے لئے ان کو مقام محمود میں قائم کر۔ یہ معنی ہے درود شریف کا۔

علماء کی تحقیق کے مطابق مختار مذہب یہ ہے کہ صلوة وسلام خاص انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا شعار ہے غیر کے لئے درست نہیں۔ البتہ ان کے ساتھ درست ہے۔ مثلاً یوں کہنا اللہم صل علی ال محمد واصحاب محمد اے اللہ رحمت بھیج آل محمد ﷺ پر اور اصحاب محمد ﷺ پر، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ البتہ حضور ﷺ کی معیت میں ایسا کہہ سکتے ہیں:

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ.“

درود پڑھنے کے بعد کی دعائیں

قعدہ اخیرہ میں درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے غیر عربی زبان میں مکروہ ہے۔ یہ دعا ایک تو وہ ہے جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور جس کو ہم مع ترجمہ نماز کی ترکیب میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور دعائیں بھی نبی کریم ﷺ سے منقول ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر

کے عذاب سے اور زندگانی و موت کے فتنہ سے اور کانے دجال کے

فتنہ کی برائی۔ (1)

اس میں تین فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ان تینوں فتنوں کی تشریح کر دی جائے، سو جاننا چاہیے کہ زندگی کا فتنہ راہِ حق سے پھرنا، صبر کا نہ ہونا اور راضی نہ ہونا، دنیا کی آفتوں میں گرفتار ہونا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خاتمہ بخیر نہ ہونا ہے۔ موت کا فتنہ مرنے کے وقت شیطان کا وسوسہ، قبر کا عذاب، منکر نکیر کا سوال اور عذاب کی چیزوں سے دہشت کا ہونا ہے اور دجال کا فتنہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب نکل کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بہتوں کا ایمان لے گا۔ چونکہ اس دعا میں ان تین فتنوں سے خدا کی پناہ مانگی جاتی ہے جو نہایت ہی جامع و مانع ہے اس لئے یہ دعائی زمانہ ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ مسلمان ان فتنوں سے محفوظ رہ کر صراطِ مستقیم پر قائم رہیں۔

اس قسم کی ایک دعا بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی وغیرہ میں بھی آئی ہے جس میں گناہ اور قرض سے پناہ مانگی گئی ہے۔ چونکہ وہ بھی مفلس و فلاں مسلمانوں کے مناسب حال ہے اور ضرورت ہے کہ وہ اس وقت جبکہ تمام دنیا گناہوں سے بھرپور ہو گئی ہے اور قرض و افلاس کی لعنت و مصیبت نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس دعا کو اختیار کریں۔ اس لیے اس کو بھی درج کیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَالْمَغْرَمِ۔ (1)

اس میں صرف یہ آخر کے الفاظ زیادہ ہیں۔ یعنی اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور قرض سے۔

ایک دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا  
أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ  
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔

”اے اللہ! تو میرے وہ گناہ معاف فرما جو میں نے پہلے کئے اور پیچھے کئے اور جو پوشیدہ اور ظاہر کئے اور جو کچھ میں نے فضول خرچی کی اور ایسے گناہ جن کو تو میری نسبت زیادہ جاننے والا ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے ڈالنے والا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں“۔ (1)

باقی یہ دعا جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کی سند یہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسی دعا سکھا دیجیے کہ میں اس کو اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے یہی دعا سکھائی: **اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي..... الخ۔**

بہر حال نماز کے قعدہ میں درود کے بعد ان دعاؤں میں سے جو دعا بھی اچھی معلوم ہو اسی کو اختیار کر لے اور اسی کے ذریعہ خدا سے حالت نماز میں دعا مانگا کرے۔ ان کے علاوہ جو دعا اچھی معلوم ہو اس کا پڑھنا بھی جائز ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ لوگوں کے کلام سے مشابہ نہ ہو۔ یعنی ایسی دعا نہ ہو کہ آدمی دوسرے آدمی سے مانگ لیتا ہو۔ مثلاً یوں کہے:

**اللَّهُمَّ إِنِّي مَالًا أَوْ خَبْرًا**

”یعنی اے اللہ! مجھ کو مال یا روٹی دے۔“

اس قسم کی دعا مانگنے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا بہتر و انسب یہی ہے کہ وہی دعائیں پڑھے جو رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں۔

**سلام کے مسائل**

نماز پوری ہونے کے بعد سلام پھیرنا مسنون ہے۔ سلام میں دونوں طرف اتنا رخ پھیرے کہ رخسار دکھائی دے۔ اگر کسی نے غلطی سے بائیں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک کلام نہ کیا ہو یا آتے ہی پہلے داہنی طرف اور پھر بائیں طرف پھیر لے۔ اگر امام نے جلدی سے سلام پھیر دیا اور مقتدی نے تو ابھی تشهد کو بھی پورا نہیں کیا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ

1۔ صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ جلد 8 صفحہ 53

امام کا ساتھ نہ دے۔ بلکہ واجب ہے کہ تشہد کو پورا کر کے پھر سلام پھیر لے۔ کیونکہ تعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے۔

امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب تک مقتدی سلام نہ پھیرے، وہ نماز سے باہر نہیں، یعنی مقتدی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی شدید ضرورت لاحق ہو جائے تو پھر امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز ہے۔

پہلی بار لفظ ”سلام“ کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس نے ”علیکم“ نہ کہا ہو، اس وقت اگر کوئی شخص شریک جماعت ہوگا اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ یعنی اس کو جماعت نہ ملے گی اور اگر کوئی شخص اس حالت میں شریک ہو گیا اور آخر میں امام نے سجدہ سہو کیا تو جماعت مل جائے گی اور اقتدا صحیح ہوگی۔

### بحث رفع یدین

غیر مقلد کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے میں سنت غیر موکدہ ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ مسئلہ بھی مسئلہ فاتحہ خلف امام کی طرح مختلف فیہا صحابہ سے ہے، رفع یدین رسول خدا نے دائماً نہیں کیا۔ بلکہ کبھی کیا اور کبھی ترک کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اس میں بھی دو فریق ہو گئے ایک فریق نے اس کو مستحب جانا اور اس کے ترک فرمانے کو بیان استحباب پر محمول کیا کہ دوام سے سنت موکدہ واجب نہ ہو جائے اور دوسرے فریق نے ترک کو آخر فعل اور ناسخ سمجھا ہر دو فریق اپنے اپنے فہم و عمل پر آخر عمر تک قائم رہے۔ چنانچہ ترمذی نے اپنی جامع میں ایک باب رفع یدین کا لکھا ہے اور دوسرا باب ترک رفع یدین کا کیونکہ یہ دونوں عمل صحابہ کے ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ دونوں فریق صحابہ کا علم و عمل زمانہ رسول اللہ ﷺ سے مقرر ہو کر جاتے ہیں۔

فاتحہ خلف امام کی طرح اس مسئلہ میں بھی ایک دوسرے پر طعن نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دونوں عمل صحابہ ہیں۔ اس باب میں جو اختلاف صحابہ میں تھا وہی مجتہدین میں بھی آیا ہر ایک مذہب کو ایک مجتہد نے مرجع ٹھہرا کر اپنا معمول کیا ہے۔ دونوں طرف احادیث صحاح ہیں لہذا جو شخص اس مسئلہ میں کلام کرتا ہے اور کسی ایک فریق کو حق پر مان کر دوسرے فریق پر



زبان طعن دراز کرتا ہے۔ وہ جھک مارتا ہے۔

## تعدیل ارکان کا بیان

تعدیل ارکان کے معنی ہیں اطمینان سے تمام نماز کے ارکان ادا کرنا۔ یعنی رکوع میں دونوں سجدوں میں، درمیان رکوع و سجدوں کے اطمینان کرنا چاہیے۔ تعدیل ارکان اگرچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نہیں، لیکن اس کے واجب ہونے میں شبہہ نہیں، جیسا کہ ہم تعدیل ارکان کی بحث میں لکھ چکے ہیں۔ تعدیل ارکان کے واجب ہونے کی ہم یہاں صرف دو دلیلیں درج کرتے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ شرح وقایہ میں اس کو واجبات نماز میں رکھا ہے۔ دوسرے بحر الرائق میں ہے کہ:

هُوَ وَاجِبٌ عَلَى تَخْرِيجِ الْكُرْحِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي  
شَرْحِ الْمُئِنِّيَّةِ

”تعدیل ارکان بمذہب ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب ہے موافق استنباط و تحقیق کرنی کے اور یہی صحیح ہے“۔ (1)

اسی بناء پر فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ اگر کوئی نمازی رکوع سے سر اٹھا کر فوراً ہی سجدہ میں گر پڑے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز صحیح نہ ہوگی۔ کیونکہ اس نے واجب کو ترک کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ تعدیل ارکان واجب ہے اور نمازیوں کو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی نمازیں ناقص و ناتمام رہیں گی۔ اب ہم اس کے متعلق چند احادیث بھی پیش کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جس نماز کے رکوع و سجود میں نمازی اپنی پشت، ہموار نہ رکھے وہ نماز کافی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ جب نمازی رکوع و سجود وغیرہ تمام ارکان کو اچھی طرح یعنی اطمینان سے ادا کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور اگر وہ رکوع و سجود وغیرہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا تو نماز کہتی ہے خدا تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے رابیکاں کیا، ایسی نماز پرانے کپڑے

میں لپیٹ کر منہ پر ماری جاتی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرتا تھا۔ حضور ﷺ نے ایک دن فرمایا اس کی سال بھر کی نماز ایک دن بھی نہیں ہوئی جب تک یہ توبہ نہ کرے اور اپنی حالت کو درست نہ کرے۔ اس انصاری نے توبہ کر لی۔ یعنی نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنے لگا اور پھر اس کی حالت بھی درست ہو گئی۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص نماز کو کھڑے ہوتے ہیں اور بظاہر دونوں کا رکوع و سجود ایک ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن درحقیقت دونوں کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا یونہی رکعی طور پر۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو سب سے بدتر چور کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ فرمایا: بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ عرض کیا گیا: نماز کی چوری کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا: رکوع و سجود کو آرام و اطمینان کے ساتھ نہ ادا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا: نماز ایک پیمانہ ہے جو اس کو پورے طور پر ادا کرے گا اس کو پورا ثواب ملے گا اور جو کم دے گا تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ چور ہے اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کم تولنے والوں کے لئے عذاب ہے۔

**تنبیہ** یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص منجگانہ نماز کی پابندی و ادائیگی کا فکر و خیال تو ضرور رکھتا ہے مگر رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ وغیرہ ارکان نماز کو اچھی طرح دل لگا کر اور آرام و اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو درحقیقت خدا کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں وہ اس فرض کی بجا آوری کے فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔

جو نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی۔ دراصل رکعی ہے اور نفس کو مغالطہ دہی ہے۔ ایسی رکعی اور بے دلی کی نماز سے نمازی پر وبال آتا ہے اور خدا کی محبت و اطاعت سے دوری پیدا ہوتی ہے۔

کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ہمیں گناہوں اور بدکاریوں سے نہیں روکتیں؟ اس لئے

کہ ہم نماز کو اپنا فرض عبدیت سمجھ کر اور دل سے نہیں پڑھتے بلکہ محض اس لئے پڑھتے ہیں کہ اپنی نمائشی دینداری کو باقی رکھیں اور یا نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ان دونوں باتوں کے اعتبار سے درحقیقت ہماری نمازیں نماز ہی نہیں ہیں بلکہ بہلاوا ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے: جس شخص کی نماز اسے اچھے کاموں کا حکم نہ دے اور برے کاموں سے نہ روکے تو اس کی نماز سوائے اللہ سے دوری کے کوئی بات پیدا نہیں کرتی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کو نماز بے حیائی و بدکاری سے نہ روکے اس کی نماز اس کے لئے وبال ہے۔

ان احادیث و اقوال کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم نماز کو دل سے اور تعدیل ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتے اس لئے ہمیں ہماری نمازیں خدا کی نافرمانیوں سے نہیں روکتیں اور بجائے اس کے کہ ہم نمازوں کے ذریعے خدا سے وابستہ ہوتے، خدا کی محبت و اطاعت سے دور ہوئے جا رہے ہیں، پس نماز تمام ارکان و فرائض اور آداب و سنن کو مد نظر رکھ کر پڑھو، تاکہ نمازیں قبول ہوں۔

### نماز کے آداب

نماز میں مرد کو رکوع کرتے وقت اتنا جھکنا چاہیے کہ کمر برابر ہو جائے اور ہاتھوں کا زور گھٹنوں پر رہے اور عورت کو بحالت رکوع زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف اس قدر جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، پیٹھ سیدھی نہ کرے اور گھٹنوں پر زور نہ دے سجدہ میں جاتے وقت چاہیے کہ زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی اور سجدہ سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی اٹھائے پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے اعضاء کو زمین پر رکھے، اٹھاتے وقت اسی ترتیب کے خلاف کرے۔ سجدہ کا یہی مسنون طریقہ ہے۔

سجدہ کی حالت میں مرد کے لئے ضروری ہے کہ بازو کروٹوں سے جدا رہیں۔ پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں اور کلائیوں زمین پر نہ بچھائی جائیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سمٹ کر

سجدہ کریں۔ یعنی اپنے بازو کروٹوں سے ملادیں، پیٹ کو ران سے ملادیں۔ ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملادیں۔ مرد کو چاہیے کہ دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایک ساتھ نہ رکھ سکتا ہو تو پہلے داہنا ہاتھ رکھے اور پھر بائیں۔

دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر قیام کے لئے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے لیکن اگر کوئی شخص کمزور ہو اور کمزوری کے سبب زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پر یا رکوع کی حالت میں قدموں کی طرف، جلسہ اور قعدہ میں اپنی گود پر اور سجدہ کی حالت میں اپنی ناک پر نظر رکھنا مستحب ہے۔

کھانسی کو حتی المقدور روکنا چاہیے۔ قیام کی حالت میں اگر جما ہی آئے تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے منہ چھپالینا چاہیے اور اگر قیام کے علاوہ دوسری حالتوں میں جمائی آئے تو بائیں ہاتھ کی پشت سے منہ چھپانا چاہیے۔

## نماز کو فاسد کرنے والے اقوال و افعال

نماز کو فاسد کرنے والے اڑسٹھ امور ہیں جن کو ہم علیحدہ علیحدہ ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ لیکن پہلے نماز کے باطل اور فاسد ہونے کے معنی سمجھ لینے چاہئیں۔ سو جاننا چاہیے کہ فساد صلاح کی ضد ہے۔ فساد کے معنی ہیں نماز میں بگاڑ آ جانا اور باطل کے معنی ہیں بے کار ہو جانا۔ بطلان و فساد عبادت میں دونوں برابر ہیں۔ لیکن معاملات میں متفارق۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ عمل مشروع کے ناقص کو مفسد کہتے ہیں۔ اگر عدا اس کا ارتکاب کیا جائے تو عذاب ہے اور اگر سہواً ہو تو عمل کا عدم یعنی نہ ہونا ہی لازم آتا ہے۔

## صحیح اور غیر صحیح کی تعریف

اگر عمل کے تمام ارکان و شرائط اور وصف مرغوب پایا جائے تو وہ عمل صحیح ہے اور اگر اس میں امر قبیح پیدا ہو جائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو وہ امر قبیح باعتبار اصل کے ہوگا یا باعتبار وصف کے۔ اگر باعتبار اصل کے ہو تو وہ باطل ہے جیسے نماز بغیر رکن و شرط کے اور اگر باعتبار وصف کے ہو تو فاسد ہے۔ جیسے نماز کے کسی واجب کو ترک کر دینا۔ یاد رہے کہ نماز

کے باطل اور فاسد ہونے کے ایک ہی معنی ہیں، اس فرق کے ساتھ جو اوپر بیان ہوا۔  
 خلاصہ یہ کہ جس عمل کے تمام ارکان و شرائط اور وصف پائے جائیں وہ صحیح ہے اور جس  
 میں کوئی امر قبیح بھی پیدا ہو جائے تو وہ غیر صحیح ہے۔ اب یہ غیر صحیح ہونا یا تو باعتبار اصل کے ہوگا  
 اور یا باعتبار وصف کے۔ اول صورت بطلان کی ہے اور دوسری صورت فساد کی۔ اس فرق کو  
 سمجھنے کے بعد اب مفسدات نماز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے نماز فاسد کرنے والے 68  
 امور یہ ہیں۔

1۔ قصد آیا بھول کر کلام کرنا، خواہ کم ہو یا زیادہ اور سہوا ہو یا خطا، سہو و خطا میں فرق یہ  
 ہے کہ سہو میں اصل نماز یاد نہیں رہتی اور خطا میں نماز یاد رہتی ہے لیکن پھر اس کا ارادہ کیا جاتا  
 ہے۔ مثلاً زبان پر یا زید وغیرہ کلمات کا جاری ہو جانا اگر ایک لفظ بھی با معنی زبان سے نکلا  
 تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلاً ”ق“ اس کے معنی ہیں ”بچا“۔

2۔ دعا جو ہمارے کلام کے مطابق ہو۔

3۔ قصد آیا سہواً سلام تحیہ کرنا۔ یعنی وہ سلام کرنا جو رسمی طور پر باہم کیا جاتا ہے۔

4۔ سلام کا نماز میں جواب دینا، خواہ قصداً ہو یا بھول کر اور خواہ زبان سے جواب دیا

جائے یا مصافحہ سے۔

5۔ عمل کثیر یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت کرنا جس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ

حرکت کرنے والا نماز کے اندر نہیں۔ بشرطیکہ کہ وہ عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لئے نہ ہو۔ اگر

عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لئے ہوگا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے

کسی وجہ سے بے وضو ہو گیا اور نماز چھوڑ کر وضو کے لئے مسجد کے اندر چلا تو چونکہ یہ عمل کثیر

نماز کی اصلاح کے لئے ہوگا اس لئے نماز نہ ٹوٹے گی اور اگر عمل کثیر نماز کی اصلاح کے لئے

نہ ہوگا۔ مثلاً کپڑے پہننا، کچھ کھانا پینا اور کسی کے دھکا دینے سے نمازی کا چند قدم آگے

پہنچے ہٹ جانا وغیرہ تو اس قسم کے افعال سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ یہ عمل کثیر نماز کی

اصلاح کے لئے نہیں ہوا خواہ ایسا عمل اپنے قصد و ارادہ سے ہو خواہ کسی دوسرے کے

قصد و ارادہ سے۔ خلاصہ یہ کہ عمل کثیر جو اصلاح نماز کے لئے نہ ہو وہ مفسد صلوٰۃ ہے اور عمل

کثیر وہ ہے جس کے سبب دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نمازی نماز کے اندر نہیں خواہ دیکھنے والے کو تردد ہو جائے بہر حال عمل کثیر مفسد صلوٰۃ ہے۔

6۔ سینہ کا قبلہ کی طرف سے پھر جانا۔

7۔ جان بوجھ کر یا جان کر کچھ کھانا خارج سے اگرچہ قلیل ہی ہو۔

8۔ دانتوں میں انگی ہوئی چیز کا کھانا جو بقدر نخود (چنا) ہو۔

9۔ کچھ پینا۔

10۔ بلا عذر بلند آواز سے گلا صاف کرنا اور کھنکارنا۔

11۔ کسی تکلیف سے اف کہنا۔

12۔ درود تکلیف کے سبب رونا۔

13۔ آہ کہنا۔

14۔ درود مصیبت سے بلند آواز میں رونا۔ اگر جنت و دوزخ کے خیال سے اونچی

آواز سے روئے گا تو نماز نہ ٹوٹے گی۔ بلند آواز سے وہ رونا صلوٰۃ مفسد ہے جو درود مصیبت کے سبب ہو۔

15۔ یوحمک اللہ سے چھینک کا جواب دینا۔

16۔ خوشی کی خبر سن کر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ (صفت: 35) کہنا۔

17۔ رنج و غم کی خبر یا مصیبت کی حالت سن کر اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿۱﴾ (بقرہ)

پڑھنا۔

الغرض وہ تمام باتیں جن سے جواب دینے کا قصد کیا جائے، مفسد صلوٰۃ ہیں۔ مثلاً نماز

میں کسی غیر نمازی کو کتاب دینے کا کہنا خذ الكتاب یا غیر نمازی کی کسی بات کا جواب دینا۔

18۔ تیمم کئے ہوئے کا پانی کا پالینا یا دیکھ لینا۔

19۔ جس نے موزوں پر مسح کیا ہو اس کی مدت مسح کا ختم ہو جانا یا ان کو پاؤں سے الگ

کر دینا۔

20۔ نماز میں غیر نمازی کا کہنا ماننا۔ مثلاً کوئی شخص جہر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور اس

نے قراءت پر کچھ غلطی کی اور کسی پاس بیٹھے ہوئے کے بتلانے سے اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

21۔ ننگے کا بدن ڈھانکنے کے موافق کپڑے کا پالینا۔

22۔ سوائے امام کے اور کسی کو نماز میں لقمہ دینا۔ یعنی اگر جماعت کی حالت میں امام نے کچھ غلطی کی اور مقتدی نے لقمہ دے کر اس کی اصلاح کر دی تو یہ جائز ہے لیکن کوئی دوسرا شخص جو نماز میں شامل نہ تھا، الگ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا اور مقتدی نے اسے لقمہ دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

23۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا سوال کرنا جس طرح مخلوق سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً یوں کہنا کہ الہی فلاں عورت سے میرا نکاح کرادے یا فلاں عہدہ دلوادے وغیرہ

24۔ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کر پڑھنا۔

25۔ قرآن شریف غلط پڑھنا۔ جس کا مفصل بیان پچھلے اوراق میں قراءت غلطیوں کے بیان میں ہوا۔

26۔ امام کا کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنانا جو امامت کے قابل نہیں ہے۔ مثلاً جماعت ہو رہی ہے امام بے وضو ہو گیا اور وہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو امام بنا کر وضو کرنے چلا گیا جو امامت کے قابل نہیں تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

27۔ نماز فجر پڑھتے ہوئے سورج کا نکل آنا۔ یعنی ایک شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اسی حالت میں سورج نکل آیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔

28۔ عیدین کی نماز میں وقت زوال کا آجانا۔ اگر عیدین کی نماز پڑھتے وقت زوال آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

29۔ جمعہ میں اتنی دیر کر دینا کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے۔

30۔ زخم سے پٹی کا کھل جانا۔

31۔ معذور کے عذر کا جاتے رہنا۔

32۔ بے وضو ہو جانا۔ خواہ اپنے قصد و ارادہ سے خواہ دوسرے کے قصد سے۔ یہ کہ

وضو جاتا رہا اور کسی نے پتھر مارا اور بدن سے خون جاری ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔

33۔ بے ہوشی۔

34۔ جنون۔

35۔ دیکھنے سے احتلام ہو جانا۔ یہ تینوں صورتیں مفسد صلوة ہیں۔

36۔ نماز میں حدث ہو جانے کے باوجود نمازی کا مقام حدث پر بمقدار ایک رکن نماز کے ٹھہرے رہنا۔ یعنی نمازی کو نماز میں حدث ہو گیا، اس کے لئے کیا حکم ہے کہ وہ فوراً اسی وقت نماز سے علیحدہ ہو کر وضو کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کر لے۔ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بشرطیکہ کلام نہ کرے، اگر کلام کرے گا تو از سر نو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس حکم کو ترک کر کے نمازی بے وضو ہونے کے بعد اتنی دیر اسی جگہ ٹھہرا رہا۔ جتنی دیر میں ایک رکوع یا سجدہ وغیرہ کیا جاتا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

37۔ عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔

اس میں چند شرطیں ہیں:

پہلی شرط۔ عورت قابل جماع ہو۔

دوسری شرط۔ رکوع و سجود والی نماز ہو۔

تیسری شرط۔ عورت و مرد دونوں شروع تکبیر تحریمہ سے آخر ادائے نماز تک شریک

رہیں۔

چوتھی شرط۔ مکان واحد ہو۔ پس اگر عورت قابل جماع نہ ہو، نماز جنازہ

ہو، عورت تکبیر تحریمہ سے شریک نہ ہوئی ہو اور مرد کسی بلند جگہ پر اور عورت نیچی جگہ پر ہو تو نماز

فاسد نہ ہوگی۔

پانچویں شرط۔ یہ ہے کہ عورت و مرد میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اگر درمیان میں

سترہ یا ستون وغیرہ حائل ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

چھٹی شرط۔ یہ ہے کہ عورت ذی عقل ہو، دیوانی نہ ہو۔ اگر دیوانی عورت برابر



کھڑی ہو جائے گی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

ساتویں شرط۔ یہ ہے کہ امام نے عورتوں کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ اگر نیت نہ کی ہو اور عورت برابر آکھڑی ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ امامت میں یہ شرط بھی ہے کہ امام نے تکبیر تحریرہ سے قبل عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو۔ اگر درمیان میں نیت کی تو عورت کی نماز نہ ہوگی اور مرد کے لئے اس کا آکھڑا ہونا کچھ مضرنہ ہوگا۔

آٹھویں شرط، یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں ایک رخ نماز پڑھ رہے ہوں۔ اگر عورت اندھیری رات میں کسی اور طرف نماز پڑھ رہی ہو اور مرد اپنی رائے سے کسی اور سمت کو نماز پڑھ رہا ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

الغرض ان آٹھ شرائط کے اور ان کی مذکورہ بالا تفصیلات کے ساتھ عورت و مرد کا برابر کھڑا ہونا مفید صلوة ہے۔ (1)

38۔ جوان آدمی کا نماز میں چلا کر ہنسنا۔

39۔ بغیر ضرورت کے دو صفوں کی مقدار کے برابر ایک دفعہ چلنا۔

40۔ حدیث کے گمان سے مسجد سے باہر نکل جانا۔

یہ ہیں 168 امور میں سے وہ چالیس افعال و اقوال جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے بقیہ صورتوں کو ہم ایک علیحدہ باب میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

### فساد نماز کے متعلق بقیہ مسائل

گزشتہ امور میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بلا عذر کھنکارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر امام آواز درست کرنے کے لئے یا مقتدی امام کی غلطی بتانے کے لئے کھنکارے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی (شامی)

41۔ ایک مقیم نے اپنے آپ کو مسافر سمجھ کر یا ظہر پڑھنے والے نے جمعہ کی نماز خیال کر کے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ اصل نماز میں ہی سہو ہو گیا اور اگر کسی نے دوسری رکعت کے قعدہ میں اس خیال سے سلام پھیر دیا کہ یہ

چوتھی رکعت ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اس کو کھڑے ہو کر نماز پوری کر لینی چاہیے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔

42۔ اگر کسی نے قیام یا رکوع و سجود میں سہو یا سلام پھیر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

(غایۃ الاوطار)

43۔ نماز میں اگر اشارہ سے بھی سلام کا جواب دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

(غایۃ الاوطار)

44۔ عورت نماز میں تھی اور بچہ دودھ پینے لگا اور دودھ بھی نکل آیا تو نماز فاسد ہوگئی اور

اگر نہ نکلا تو فاسد نہ ہوگی۔

45۔ اگر تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی ہمزہ کو کھینچ کر پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

46۔ بدن کا اتنا حصہ جس کا ڈھکنا فرض تھا بقدر اداء رکن کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

47۔ اگر ایسے ناپاک کپڑے سے نماز پڑھی جو قدر معاف سے زیادہ نجاست آلودہ تھا

تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

48۔ مقتدی نے کسی رکن میں امام سے سبقت کی یعنی رکن امام سے پہلے ادا کیا۔ مثلاً

امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا اور امام نے اس میں شرکت نہیں کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔

49۔ مسبوق بعد سلام امام یا قبل سلام التحیات پڑھنے کے بعد اپنی نماز پوری کرنے

کے لئے کھڑا ہو گیا اور اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا بعد ازاں امام کو یاد آیا کہ اس پر سجدہ سہو کرنا

لازم ہے اس نے سجدہ سہو کیا اور اس مسبوق نے بھی امام کے اس سجدہ سہو میں متابعت کی تو

اس کی نماز فاسد ہوگئی۔

50۔ اگر کسی نے نیند کی حالت میں نماز کا کوئی رکن ادا کیا اور اس رکن کا اعادہ نہ کیا تو

نماز ٹوٹ جائے گی۔

51۔ امام نے اپنی نماز کو تمام کرنے کے لئے قہقہہ لگایا تو مسبوق کی نماز فاسد

ہو جائے گی۔ (1)

52۔ عورت کا قدم اگر مرد کے عضو کے مقابل ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

53۔ اگر عورت مردوں کی صف میں آکر مل جائے گی تو تین مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، دائیں بائیں اور پیچھے والے کی۔ مگر اس میں یہ شرط ہے کہ عورت و مرد دونوں کی نماز ایک ہو۔ اگر دونوں کی نماز ایک نہ ہوگی تو نماز نہ ٹوٹے گی۔

54۔ اگر بحالت نماز دانتوں سے خون نکلا اور اس میں خون غالب اور رطوبت کم تھی اس کو نمازی نے نکل لیا تو نماز جاتی رہے گی۔ ہاں اگر خون کم اور رطوبت زیادہ تھی تو نماز نہ ٹوٹے گی۔ (1)

55۔ ایک رکعت میں تین بار کھجلی کرنا اور ہر بار ہاتھ اٹھانا مفسد نماز ہے اور بلا عذر ایک بار کھجلی کرنا مکروہ ہے۔ (2)

56۔ اگر مٹھائی منہ میں باقی ہو اور مزہ آرہا ہو یا کوئی چیز تل کے برابر منہ سے باہر آجائے اور نمازی اسے چبا کر نکل جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر مٹھائی کھا کر پھر نماز شروع کی اور نماز میں مٹھائی کا کچھ مزہ باقی رہا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ (3)

57۔ اگر منہ بھر کر تے ہوئی اور نمازی اس کو نکل گیا حالانکہ باہر پھینک سکتا تھا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی جاتا رہا۔ اگر منہ بھر کر نہ تھی اور نکل گیا تو بقول محمد رحمۃ اللہ علیہ نماز ٹوٹ گئی مگر وضو باقی رہا۔ یہ دونوں حکم اس صورت میں تھے کہ بلا ارادہ تے آئی ہو۔ اگر قصداً نماز میں تے کی ہو اور وہ منہ بھر کر ہو تو اس کے نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ورنہ نہیں اور اگر نماز بغیر ارادہ کے منہ بھر کے تے آئی اور تھوک دی تو وضو ٹوٹ گیا مگر نماز فاسد نہیں ہوئی۔ وضو کر کے بغیر جدید نیت کے باقی نماز پوری کر لے اور اگر منہ بھر کر نہ آئی ہو اور تھوک دی ہو تو وضو نہ ٹوٹا اور نہ نمازی۔ (4)

58۔ اگر کسی انسان کو درہ کی ایک ضرب ماری تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی نمازی کسی جانور پر سوار تھا اور اس کو جلد چلانے کے لئے تین مرتبہ ہنر مارے تو اس کی

2۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 104

1۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 102

4۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 102

3۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 383

نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ (1)

- 59۔ اگر کسی نے اذان کی نیت سے اذان دی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
- 60۔ تین کلمات سے زائد لکھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- 61۔ اگر کسی نے اسم اللہ سن کر جل جلالہ کہا یا نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی سن کر درود بھیجا تو اگر اس کا ارادہ جواب دینے کا ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں۔
- 62۔ عورت کا بوسہ لینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
- 63۔ اگر دل میں کوئی شیطانی وسوسہ آیا اور لا حول ولا قوۃ کہا تو اب اگر یہ وسوسہ امر آخرت کے متعلق ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر امر دنیاوی سے متعلق ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
- 64۔ اگر کوئی شخص جانور پر سوار نماز پڑھا رہا ہو اور بار بار پاؤں کو حرکت دیتا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔
- 65۔ نماز میں شعر ترتیب دینے اور زبان سے اس کو ادا کرنے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔
- 66۔ پتھر اٹھا کر پھینکنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- 67۔ بار بار متواتر کھجلی کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
- 68۔ جوں مارنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

### مسائل متفرقہ

مسئلہ: اگر کسی کو بچھونے کاٹا اور اس نے بسم اللہ کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں۔

مسئلہ: سانپ اور بچھو کے قتل کر دینے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

مسئلہ: اگر کوئی اپنی فوت شدہ نمازوں کی ترتیب بھول کر وقت کی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے اسے یاد دلایا کہ وہ صاحب ترتیب ہے تو اس کی موجودہ حاضر نماز باطل ہو جائے گی۔

مسئلہ: کوئی شخص کپڑا نہ ملنے کی وجہ سے بیگناہی نماز پڑھ رہا تھا اور اسے بدن ڈھانکنے کے لئے کپڑا مل گیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی۔

## نماز میں وضو ٹوٹ جانے کے مسائل

جو شخص نماز میں ہو اور بے اختیار اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نماز کی جگہ سے علیحدہ ہو کر وضو کرے اور اسی نماز پر بنا کرے۔ مثلاً ایک شخص چار رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا، دو رکعت پڑھنے کے بعد بے اختیار اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی جگہ سے ہٹ کر وضو کرے اور اپنی بقیہ دو رکعتیں پوری کرے اس طرح کے جس رکن سے نماز چھوڑ کر وضو کرنے گیا ہو۔ اسی رکن سے آکر شروع کرے مثلاً حالت قعود میں وضو ٹوٹا تھا تو اب وضو کر کے قعود سے ہی بقیہ نماز پوری کرے مگر جواز بنا کی تیرہ شرطیں ہیں۔ ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ شرطیں یہ ہیں:

- 1۔ حدث سماوی ہو اور اس میں نمازی کو اختیار نہ ہو، اس کے سبب میں اختیار ہو جیسے ریح کا بغیر نمازی کے فعل کے نکلنا۔
- 2۔ حدث کا تعلق بدن سے ہو، پس اگر خارج سے اس کا بدن یا کپڑے نجاست آلود ہو جائیں تو پھر نماز پر بنا صحیح نہ ہوگی، از سر نو نماز پڑھنی پڑے گی۔
- 3۔ ایسا حدث ہو جو موجب غسل نہ ہو۔ پس اگر کسی کو حالت نماز میں خیال کرنے یا نظر آنے سے انزال ہو گیا تو نماز نئے سرے سے لوٹانی چاہیے۔
- 4۔ حدث نادر الوجود نہ ہو جیسے قہقہہ اور غشی وغیرہ تو بنا کر ناجائز نہیں پھر سے نماز پڑھے۔
- 5۔ کوئی فعل منافی نماز نہ صادر ہوا ہو۔ اگر بے اختیار وضو ٹوٹ جانے کے بعد عمدہ دوسرا حدث کیا تو بنا کر بنا صحیح نہ ہوگا پھر سے نماز پڑھے۔
- 6۔ کوئی غیر ضروری فعل نہ کیا ہو مثلاً اگر کنویں سے پانی لیا تو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔
- 7۔ حالت حدث میں ادا کی نیت سے کوئی رکن ادا نہ کیا ہو حتیٰ کہ اگر سجدہ میں بے وضو

ہو گیا اور سر کو ادا کی نیت سے بھی اٹھالیا تو بنا کر ناسمجھ نہ ہوگا۔ پھر سے نماز پڑھے۔  
 8۔ چلتے ہوئے کوئی رکن ادا نہ کرے مثلاً ایک شخص حالت قیام میں بے وضو ہوا، فوراً وضو کرنے چلا گیا اور آتے ہوئے ایک آیت بھی پڑھ لی۔

9۔ حدیث کے بعد بلا عذر ذرا بھی توقف نہ کرے فوراً وضو کرنے چلا جائے اگر ادا کے رکن کی مقدار توقف کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی ہاں اگر یہ توقف کسی عذر کی وجہ سے ہو گیا مثلاً نیند اور تکبیر بند نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر بنا کر ناسمجھ ہے۔

10۔ کوئی دوسرا حدیث داخل نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص کی مدت مسح پوری ہو گئی تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ اسی طرح ایک شخص موزوں پر مسح کئے ہوئے تھا وہ حالت نماز میں بے وضو ہو گیا اور وضو کرنے گیا، اتنے میں مدت مسح تمام ہو گئی تو اس کو از سر نو نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح اگر تیمم کئے ہوئے کو نماز میں حدیث ہو گیا جب وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ ہوا تو پانی مل گیا تو اس کو بھی وضو کر کے ابتدا سے نماز پڑھنی چاہیے۔

11۔ صاحب ترتیب کو فوت شدہ نماز یاد نہ آئے پس اگر اسے حدیث سماوی کے بعد یہ بات یاد آگئی کہ میں تو صاحب ترتیب تھا لیکن وقتی نماز پڑھ رہا تھا تو اس پر بنا نہ کرے اس کی نماز باطل ہو گئی۔

12۔ بقیہ نماز اسی جگہ تمام کرنے جہاں بے وضو ہوا تھا۔ مگر یہ مقتدی کے لئے ضروری ہے کہ نماز کا مکان تبدیل نہ کرے اسی جگہ نماز تمام کرے خواہ امام فارغ ہو گیا ہو یا نہیں، مدینہ میں ہے کہ جب تک امام نماز سے فارغ نہ ہوا ہو اسی جگہ نماز تمام کرے اگر امام نے سلام پھیر دیا ہو تو اسے منفر دی طرح جگہ تبدیل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اسے اختیار ہے کہ وضو کرنے کے بعد پہلی جگہ نماز تمام کرے یا کسی دوسری جگہ۔ بہتر تو یہی ہے کہ حتی الامکان پہلی ہی جگہ نماز پوری کرے اگر کوئی مجبوری لاحق ہو جائے تو پھر دوسری جگہ پوری کرے۔

13۔ اگر امام کو حدیث ہو جائے تو اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو جانشین بنائے جو مستحق امامت ہو۔ اگر اپنی جگہ کسی غیر صالح مثلاً لڑکے یا عورت کو امام بنا دیا تو نماز باطل ہو جائے

گی بنا صحیح نہ ہوگا۔

**قتیہ:** حدیث والے کو بناء کرنے کا حکم ہے جس کی تفصیلات و شرائط اوپر گزریں۔ سو جانا چاہیے بنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بے وضو ہو جانے سے ساری ہی نماز باطل نہیں ہو جاتی بلکہ بے وضو ہونے سے پہلے جتنی نماز ادا کر دی ہے وہ بحالہ باقی رہتی ہے۔ اب وضو کر کے جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے بقیہ نماز پوری کر لے اس کو بنا کرنا کہتے ہیں مگر یاد رہے کہ بنا کرنے کا جواز اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کوئی منافی صلوٰۃ فعل نہ کرے۔ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت کوئی کلام کرے گا تو نماز سرے سے باطل ہو جائے گی۔

**فائدہ:** حالت نماز میں بے وضو ہو جانے والے کے لئے نماز کی جگہ سے ہٹ کر وضو کے لئے صرف چلنا پھرنا، لوٹنا بھرنا اور وضو کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ وہ گویا اس وقت حالت نماز میں ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کوئی فعل منافی صلوٰۃ نہ کرنا چاہیے ورنہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔

**ہدایت:** مدیۃ المصلیٰ میں ہے کہ جو شخص حالت نماز میں بے وضو ہو جائے اس کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سے جھکا ہوا اور ناک پکڑے ہوئے علیحدہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کی نکیر پھوٹ پڑی ہے۔

جو ہرہ نیرہ میں ہے کہ بعض مشائخ کے نزدیک امام و ماموم اور مفرد سب کے حق میں یہی افضل ہے۔ حدیث ہو جانے کی حالت میں از سر نو نماز پڑھیں، بنا نہ کریں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف مفرد کے لئے ہے اور امام و مقتدی کو بنا کرنا افضل ہے۔

**امام بنانے کی کیفیت**

اگر امام بے وضو ہو جائے تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ ناک پکڑے ہوئے اپنی جگہ سے علیحدہ ہو اور اپنی جگہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر وضو کرنے چلا جائے۔ مگر امامت کے قابل شخص کو خلیفہ بنائے اور خلیفہ بنانے کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کو اپنا خلیفہ بنانا چاہے اس کا کپڑا پکڑ کر محراب کی طرف کھینچے یا اس کی طرف اشارہ کرے۔

## سترہ اور نمازی کے آگے سے گزر جانے کے احکام

سترہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو نمازی آڑ کے لئے سامنے کھڑی کر لیتا ہے۔ سترہ کھڑا کرنے کے بعد اگر لوگ آگے سے گزر جائیں تو ان کے گزرنے سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ سترہ کھڑا کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے تین ہاتھ کے فاصلہ پر دائیں ابرو کے مقابل سترہ کو کھڑا کرے۔ (غایۃ الاوطار)

بڑی مسجدوں اور جنگل میں اتنے فاصلہ تک نمازی کے سامنے سے نہ گزرنا چاہیے۔ جہاں تک سجدہ گاہ میں نظر رکھتے ہوئے نمازی کی نظر پہنچے۔ اندازاً سجدہ گاہ سے ڈھائی گز آگے تک نمازی کے سامنے سے نہ گزرنا چاہیے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لئے حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے اور گزرنے والا سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ مگر نمازی کی نماز میں کوئی نقصان و حرج نہیں ہوتا۔ (1)

اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے دو شخص ہوں تو جو شخص نمازی کی طرف ہو گا وہ گناہگار ہو گا اگر نمازی کسی اونچی جگہ نماز پڑھ رہا ہو اور سامنے سے گزرنے والے شخص کا سر بھی اس کے پاؤں سے نیچے رہتا ہو تو سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے اعضاء کے مقابل ہو جائیں تو گزرنے والا گناہگار ہو گا۔ (2)



اگر جنگل میں جماعت کی جائے تو صرف امام کے سامنے سترہ کافی ہے۔ مقتدیوں کے سامنے ضروری نہیں۔ کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لئے کافی ہے۔

وہ عذر جن کی وجہ سے نماز توڑنا واجب ہے

وہ عذر جن کی وجہ سے نماز توڑ ڈالنی واجب ہو جاتی ہے چھ ہیں:

- 1- کسی مظلوم کی فریادری کرنے کے لئے یعنی اگر کسی شخص پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور وہ مظلوم نمازی سے فریاد کرے تو نمازی کو چاہیے کہ نماز توڑ کر اس کی فریادری کرے۔
- 2- پیشاب یا پاخانہ کی انتہائی ضرورت کے وقت۔
- 3- جلتے ہوئے یا ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لئے۔
- 4- اندھے کو گرنے سے بچانے کے لئے۔
- 5- حاکم سے فریاد خواہی کے لئے۔
- 6- مسافر کو سواری چلے جانے یا جانور کے بھاگ جانے کے اندیشہ سے۔

یہ وہ عذر ہیں جن کی وجہ سے نماز توڑ دینا واجب ہے۔

علاوہ ازیں اگر جان و مال کے خوف کی کوئی اور صورت بھی ہو تو نماز توڑ دے کیونکہ اسلام تو اپنے قبیحین کو سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اشد ضرورتوں کے لئے نازک مواقع پر اپنی جان و مال کو بچانے کے لئے نماز توڑ دینے کا حکم ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر قسم کی رفع حاجت کو مقدم رکھ کر نماز کی پروا نہ کی جائے اور اس کو باز بچہ اطفال بنا لیا جائے۔ پس حتی الامکان رفع حاجات پر نماز کو مقدم رکھے۔

مسئلہ: حالت نماز میں والدین کی آواز کا جواب نہیں دینا چاہیے جب کہ وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو اور باپ بھی جانتا ہو کہ میرا لڑکا نماز میں مشغول ہے اور پھر اپنے لڑکے کو پکارے تو بھی جواب نہ دے۔ اگر باپ نہ جانتا ہو اور بلائے تو نفل نماز میں جواب دینا چاہیے۔

وہ عذر جن کی وجہ سے نماز توڑنا جائز ہے

پچھلے چھ عذر جو بیان کئے گئے ہیں ان کی وجہ سے نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اب ذیل میں وہ عذر بیان کئے جاتے ہیں جن کی وجہ سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔  
وہ تین عذر یہ ہیں:

- 1۔ سانپ، بچھو اور کوئی موذی جانور کے مارنے کے لئے۔
- 2۔ مسافر کو سواری کے چلے جانے یا بھاگ جانے کے وقت۔
- 3۔ جس چیز کی قیمت کم از کم پانچ آنے ہو اس کے تلف ہونے کے خوف سے خواہ وہ چیز نمازی کی ہو یا کسی اور کی۔

نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرنے والے امور

مکروہ محبوب کی ضد ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں:

تحریمی اور تنزیہی۔

ان کا منصل بیان ان کی جگہ ہو چکا ہے یہاں دوبارہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ مکروہ تنزیہی حلال سے قریب تر ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی حرام سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہاں ہم پہلے نماز کے مکروہات تحریمی کو بیان کرتے ہیں بعد میں مکروہات تنزیہی بیان کریں گے۔

1۔ کسی کپڑے کے بغیر پہنے ہوئے دونوں کنارے لٹکتے چھوڑ دینا مثلاً چادر یا رضائی وغیرہ کو دونوں مونڈھوں سے لٹکا دینا یا کرنا دانگر کھا وغیرہ کی دونوں آستینیں بغیر پہنے ہوئے گردن پر پیچھے کو ڈال لینا مکروہ تحریمی ہے اگر چادر کا ایک کنارہ دوسرے مونڈھے پر پڑا ہو تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

2۔ کرتہ کی آستین نصف کلائی سے زیادہ چڑھانا۔

3۔ چادر کو اس طرح اوڑھنا کہ دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں کنارے مونڈھوں پر ڈالے جائیں۔

4۔ کپڑوں کو سمیٹے رکھنا تا کہ مٹی نہ لگے یعنی نماز کی حالت میں کپڑا سمیٹنا مکروہ ہے۔

5۔ داڑھی یا کپڑوں اور بدن سے کھیلنا۔

6۔ انگلیوں کو چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر جال بنانا۔ یہ امور کیونکہ خشوع و خضوع کے منافی ہیں اس لئے مکروہ ہیں اور ان کی ممانعت کی وجہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اہل عرب طواف کرتے وقت سیٹی بجایا کرتے تھے اور انگلیاں چٹختے رہتے تھے۔ جب اہل اسلام پر نماز فرض ہوئی تو انہوں نے اپنی اس قدیم عادت کو نماز میں بھی جاری رکھا۔ ایک روز رسول اللہ ﷺ مسجد میں جلوہ افروز تھے اور صحابہ کرام سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک یمنی شخص مسجد میں داخل ہوا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا حالت نماز میں اس نے کئی مرتبہ انگلیاں چٹخائیں، حضور ﷺ نے اس حرکت کو دیکھا اور خاموش رہے۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، میں نے تمہیں نماز میں انگلیاں چٹختے دیکھا ہے میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ نماز ایک افضل ترین عبادت ہے اور خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت کو محسوس کرو اور سوچو کہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہنا بہتر ہے یا تفریحاً انگلیاں چٹخانا۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ جب تم نماز شروع کرو تو اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور انگلیاں نہ چٹھاؤ۔

7۔ ایسی چیز کا منہ میں رکھنا جس سے قراءت مسنونہ ادا نہ کر سکے اگر وہ چیز ایسی ہو کہ قراءت فرض ادا نہ کر سکے تو مفسد نماز ہے ورنہ مکروہ تحریمی۔

8۔ ہاتھ کو لمبے پر رکھنا۔

9۔ ادھر ادھر منہ کرنا اور دائیں بائیں توجہ کرنا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے اور سجدہ کی جگہ سے نظر ہٹا کر ادھر ادھر دیکھنا انتہا درجہ کی لغویت ہے۔ جو شخص انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہوتا ہے، حق تعالیٰ کی رحمت خاص اس طرف متوجہ رہتی ہے اور جب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اس سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔

10۔ نماز میں کتے کی طرح بیٹھنا۔

11۔ کسی آدمی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا یعنی دوسرا آدمی منہ کئے ہوئے بیٹھا ہے اور نمازی اس کے منہ کی طرف نماز پڑھے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

12۔ خود بخود جماہیاں لینا۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا جب نماز میں کسی کو جماہی آجائے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے کیونکہ نماز میں جماہی لینا مکروہ تحریمی ہے اگر کوشش کامیاب نہ ہو تو جماہی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ”ہا“ نہ کہے۔

13۔ امام کو بلا عذر محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا۔ اگر امام محراب کے باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب کے اندر کرے تو مکروہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حدیث شریف میں امام کے لئے دریا محراب میں کھڑے ہونے کی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ رسالت میں قریب قریب تمام مسجدیں چھوٹی اور تنگ تھیں۔ اگر کوئی شخص دریا محراب میں کھڑا ہو جاتا تو روشنی کم ہو جاتی تھی اور ہوا کا گزر بھی مشکل ہو جاتا تھا اس وجہ سے زمانہ رسالت میں نماز پڑھنا مکروہ تھا۔ اب چونکہ مسجدیں فراخ ہیں اور مذکورہ بالا وجوہات میں ممانعت نہیں پائی جاتی اس لئے فراخ و وسیع دروں اور محرابوں میں کھڑے ہونا مکروہ نہیں۔ ہاں چھوٹی اور تنگ مسجدوں میں اب بھی مکروہ ہے۔

14۔ امام کا ایک ہاتھ اونچے چبوترہ یا کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہونا اور مقتدیوں کا نیچے ہونا یا مقتدیوں کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر ہونا اور امام کا نیچے ہونا۔

15۔ اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جس پر جاندار کی تصویر ہو یا اس مکان یا جگہ نماز پڑھنا جہاں دائیں بائیں یا سامنے جاندار کی تصویریں ہوں اگر تصویر پاؤں کے نیچے ہو تو پھر مکروہ نہیں۔

16۔ چادر وغیرہ کو بدن پر اس طرح لپیٹنا کہ کہیں سے ہاتھ باہر نہ ہوں۔

17۔ عمامہ یا پگڑی اور صافہ وغیرہ کو سر پر اس طرح باندھنا کہ بیچ میں سے سر کھلا رہے۔

18۔ ڈھاٹہ باندھ کر نماز پڑھنا کہ اس سے ناک اور منہ ڈھک جائے۔

19۔ مقتدی کو امام کے پیچھے قراءت کرنا۔

20۔ عمامہ کی کور پر سجدہ کرنا بشرطیکہ زمین کی سختی معلوم نہ ہو۔ یعنی زمین پر سر ٹک جائے اور درمیان میں عمامہ کی کور ہو اور اگر زمین کی سختی معلوم نہ ہو تو نماز فاسد ہوگی۔

21۔ کرتہ ہوتے ہوئے صرف پا جامہ سے نماز پڑھنا۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے ایک دن ایک شخص کو اس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ صرف تہہ بند باندھے ہوئے تھا اور اس کی قمیص اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضور ﷺ نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا یہ بات مکر وہ ہے کہ تم صرف تہہ بند یا پا جامہ پہن کر نماز پڑھو اور قمیص نہ پہنویا چادر نہ اوڑھو۔

22۔ پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت میں نماز پڑھنا۔

حضرت عبداللہ ابن ارقم سے روایت ہے کہ ایک دن حضور ﷺ مسجد میں رونق افروز تھے اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا: یا حضرت جس وقت پاخانہ کی حاجت ہو یا ریاح کا غلبہ ہو اور جماعت بھی قائم ہوگی ہو تو اس حالت میں شریک جماعت ہونا چاہیے یا نہیں؟

حضور ﷺ نے فرمایا: نماز ایک بہترین عبادت ہے اس میں سکون اور خشوع و خضوع کی ضرورت ہے جب کبھی ایسا اتفاق ہو کہ جماعت تیار ہو اور نماز پڑھنے والے کو پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت ہو تو بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے بیت الخلاء جائے اور بعد میں نماز پڑھے۔

اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پیشاب یا پاخانہ کی شدید حاجت ہو اور وقت میں بھی کافی گنجائش ہو تو نماز شروع کرنا ہی ممنوع ہے اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو وقت کی رعایت ضروری ہے نماز پڑھ لے اور اگر نماز پڑھتے ہوئے حاجت ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو نماز توڑنا واجب ہے اگر اسی حالت میں اپنے قوی پر جبر کر کے نماز پڑھ لی نمازی گنہگار ہوگا۔

**قبنیہ** اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر نماز کی حالت میں کسی عورت نے جوڑا باندھ لیا تو نماز فاسد ہوگئی۔

نماز کی حالت میں کنکریاں ہٹانا بھی مکروہ تحریمی ہے ہاں اگر ایسی صورت ہو کہ سجدہ گاہ پر کنکریاں ہوں اور سجدہ کرنے میں دشواری ہوتی ہو تو کنکریاں ہٹانے کی اجازت ہے۔ نیز نماز کی حالت میں مرد کا سجدہ میں زمین پر کلاسیاں بچھانا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مذکورہ بالا تمام امور نماز میں کراہت تحریمی پیدا کرتے ہیں اب کراہت تنزیہی پیدا کرنے والے امور بیان کئے جاتے ہیں۔

### کراہت تنزیہی پیدا کرنے والے امور

- 1۔ بلا عذر چارزانو یعنی پالتی مار کر بیٹھنا۔
- 2۔ جماہی کے وقت منہ کھلا رہنا۔
- 3۔ آنکھیں بند کر لینا اگر خشوع و خضوع کیلئے آنکھیں بند کر لی جائیں تو جائز ہے۔
- 4۔ اگلی صف میں گنجائش کے باوجود مقتدی کا پچھلی صف میں اکیلے کھڑا ہونا۔ اگلی صف میں گنجائش نہ ہو تو مکروہ نہیں۔
- 5۔ سبحان اللہ وغیرہ تسبیحات کا نماز میں انگلیوں پر یا تسبیح سے شمار کرنا۔ ہاں اگر انگلیوں کے پورے کو اشارے سے دبا کر شمار کرے تو مکروہ نہیں۔
- 6۔ کوئی عمل قلیل بغیر عذر کے کرنا۔
- 7۔ بلا عذر تھوکننا۔
- 8۔ عمل قلیل کے ساتھ آستین یا سچھے سے ہوا کرنا اور عمل کثیر کے ساتھ ہوا کرے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔
- 9۔ بلا عذر ننگے سر نماز پڑھنا۔
- 10۔ سجدے میں پاؤں کا ڈھانکنا۔

- 11۔ دائیں بائیں طرف جھک جانا۔
- 12۔ دائیں بائیں پاؤں پر بلا عذر اور بلا وجہ زور ڈالنا۔
- 13۔ خوشبو سونگھنا۔
- 14۔ سجدہ میں ہاتھوں یا پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف پھیر لینا۔
- 15۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کوئی مخصوص جگہ مقرر کر لینا۔
- 16۔ امام کو کسی مقتدی کو شامل کرنے کی نیت سے رکوع یا سجدہ میں دیر کرنا۔
- 17۔ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں سے اوپر اٹھانا یا موٹھوں سے نیچے رکھنا۔
- 18۔ سجدہ میں مرد کا پیٹ سے رائیں ملائے رکھنا۔
- 19۔ بلا ضرورت مکھی یا مچھر کا اڑانا۔

20۔ امام کا اذکار مسنونہ جلدی جلدی ادا کرنا۔ نماز میں یہ تمام امور مکرمہ تزیہی ہیں۔  
**نوٹ:** نماز میں اگر سر سے ٹوپی یا عمامہ گر جائے تو بغیر عمل کثیر اس کو دوبارہ سر پر رکھ لینا چاہیے یہی افضل ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ٹوپی یا عمامہ کو دوبارہ سر پر رکھ لینا افضل ہے۔

**ہدایت:** نماز چونکہ افضل ترین عبادت ہے اس لئے اس کی ادائیگی میں خاص طور پر دلچسپی، دلجمعی اور فکر و اہتمام کا اظہار کرنا چاہیے۔ دل و دماغ بھی پاک و صاف ہوں۔ بدن پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں۔ الغرض طہارت و پاکیزگی مفتاح الصلوٰۃ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میلے کھیلے اور پھٹے پرانے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے بشرطیکہ صاف کپڑے میسر ہوں اور ان کا صاف کرنا ممکن ہو۔ افسوس کہ مسلمان پاکیزگی و صفائی کا خاطر خواہ فکر و خیال نہیں رکھتے سڑے ہوئے کپڑوں سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔

ایسے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفاست پسندی، دینداری اور عبادت کا جوہر ہے اس کے بغیر نہ عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق سنورتے ہیں، اسلام کو گندگی و غلاظت سے سخت نفرت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مسجدوں میں کچا پیاز یا لہسن کھا کر نہ آئے۔ کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی جس کی وجہ سے پاس کھڑے

ہوؤں کو تکلیف پہنچے گی اور رحمت کے فرشتے نفرت کریں گے۔

ایک دن مسجد نبوی ﷺ میں رسول اللہ ﷺ نے ایک بدوی کو میلے کھیلے کپڑوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے پاس کپڑے نہ تھے کہ ان کو پہن کر نماز پڑھ لیتے۔ اس نے کہا نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان کپڑوں کو دھو بھی نہیں سکتے۔ پس حتی الامکان نماز اچھے اور صاف کپڑوں کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اگر کھدر کے کپڑے میسر ہوں تو انہیں کو صاف رکھے۔ اگر دھونے کو صابن میسر نہ آئے تو صاف پانی ہی سے دھولیا کرو۔ الغرض بدن اور کپڑوں کی صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔

مراتی الفلاح میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص پھٹے پرانے اور میلے کھیلے کپڑوں سے نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے اسے بلا کر دریافت کیا کہ اگر تمہیں کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لئے بھیجا جاتا تو کیا تم یہی کپڑے پہن کر جاتے؟ کہا نہیں۔ فرمایا: پھر تم نے ان کپڑوں سے نماز پڑھنا کیسے گوارا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آراستہ ہو کر آنا چاہیے۔

روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ عمدہ لباس پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔  
فائدہ: اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نمازی واجبات نماز میں سے کوئی واجب عمداً ترک کر دے تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اور سنن نماز میں سے کسی سنت کو عمداً ترک کر دینے سے مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہے۔



## باب الوتر

وتر کی نماز قول صحیح کے مطابق واجب اور اس کی ایک سلام سے تین رکعتیں ہیں اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے واجب ہونے کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى زَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ۔ (1)

”یعنی خدا تعالیٰ نے تمہاری نماز میں کچھ اور بھی بڑھایا ہے اور وہ وتر ہے۔“

باوجود مذکور بالا ارشاد رسول کے، نماز وتر کے واجب اور سنت ہونے میں بہت اختلاف ہوا ہے مگر یہ ہمارے علماء کی محض طبع آزمائی ہے۔ ورنہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ آنحضرت ﷺ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے قول و فعل میں نماز وتر ثابت ہے اور بطور تواتر اب تک وتر کا یہی طریقہ چلا آرہا ہے اسی طرح وتر کی رکعتوں میں بھی سخت اختلاف ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کا ایک، تین اور پانچ کا پڑھنا احادیث میں آیا ہے اور مختلف روایتوں میں ایک سے لے کر سات رکعتوں تک کا ثبوت ہوتا ہے۔ لیکن حنفیوں کے یہاں عام طور پر تین رکعت ہی پڑھتے ہیں اور ہمارے یہاں اسی پر عمل ہے۔

### تحقیق رکعات وتر

کتب حدیث میں جو احادیث اس باب میں آئی ہیں وہ مختلف ہیں۔ کسی سے ایک وتر ثابت ہوتا ہے کسی سے تین، کسی سے پانچ، کسی سے سات، کسی سے نو، کسی سے گیارہ، اور کسی سے تیرہ۔ لیکن ہمارے امام صاحب نے تین رکعت والی حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتب حدیث میں جو حدیثیں موافق مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر میں تین رکعت ہیں بیک سلام، نہ کم نہ زیاد اور وہ آثار صحابہ جن سے

موافق مذہب حنفیہ کے ہوتی ہے۔ ان میں سے ہم چند احادیث و آثار پیش کرتے ہیں۔

طحاوی نے شرح معانی الآثار میں شعمی سے روایت کی ہے:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

ثَمَانٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ - (2)

یعنی پوچھا میں نے عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے کیفیت آنحضرت ﷺ کی نماز کی بوقت شب۔ پس کہا ان دونوں نے کہ آنحضرت ﷺ کی نماز شب تیرہ رکعت تھی، آٹھ رکعت پڑھتے تھے۔ پھر تین رکعت وتر اور دو رکعت سنت فجر بعد طلوع صبح صادق۔

اس میں کل تیرہ رکعتیں منقول ہیں۔ تین وتر کی اور باقی تہجد کی اور کیونکہ تہجد کی نماز، وتر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لئے کسی راوی نے ساری نماز کو وتر شمار کیا ہے اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ رسول خدا ﷺ کی شب کی نماز سنت فجر کے سوا وتر سمیت تیرہ رکعتیں ہوتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوُتْرِ (2)

”یعنی نبی کریم ﷺ نماز وتر میں دو رکعت کے بعد سلام نہ پھرتے تھے بلکہ تین رکعت بیک سلام پڑھتے تھے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ایک دوسری روایت ہے:

كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي

أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا (3)

”یعنی شب کو آنحضرت ﷺ چار رکعت پڑھتے تھے پس تو ان کے حسن اور تطویل سے نہ پوچھ بہت اچھی طرح سے پڑھتے تھے۔ بعد اس کے پھر چار رکعت اسی

1- شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 197 2- معنی ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 91، طبع مدینہ منورہ

3- شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 199، مکتبہ حقانیہ عمان۔

طرح پڑھتے تھے۔ پس تو ان کے حسن اور تطویل کے بارے میں نہ پوچھ، اور پھر وتر پڑھتے ہیں۔“

اس حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ رات کو کل تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہی بات ایک چوتھی حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ

ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ (1)

”یعنی آنحضرت ﷺ نے عشاء کی دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، اور پھر تین رکعت وتر پڑھے۔“

اسی طرح صحاح ستہ کی چند اور حدیثیں ہیں جن سے رسول اللہ کا تین وتر پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اب چند آثار بھی نمایاں کئے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن بصری سے بسند ضعیف روایت ہے:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلَّمُ إِلَّا فِي

الْخِرْبِ (2)

”یعنی اہل اسلام نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ وتر تین رکعت ہیں نہ سلام پھیرا جائے۔“

مگر ان کے آخر میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے:

”الْوِتْرُ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ“۔ ”یعنی وتر مثل نماز مغرب کے ہے۔“

سنن بیہقی میں عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ

”یعنی وتر تین رکعت ہیں مثل تین رکعت مغرب کے“ (3)۔

ان تمام احادیث و آثار مرفوعہ و موقوفہ سے روز روشن کی طرح ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ

2- مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 90

1- شرح معانی الآثار جلد 2 صفحہ 202

3- سنن الکبری جلد 3 صفحہ 31، دار الفکر بیروت۔

وتر تین رکعت ایک سلام کے ساتھ صحیح ہیں اور حنفیوں کا عمل احادیث صحیحہ کے موافق ہے۔ جو بے سمجھے بوجھے حنفیوں پر طعن کرے وہ بدترین متعصب ہے۔ الغرض بالدلائل ثابت ہو گیا کہ وتر واجب ہیں اور اس کی تین رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

## وتر کا وقت

وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے مگر افضل یہ ہے کہ آخر شب میں پڑھے۔ مگر اس وقت جب آخر میں اٹھنے کا یقین، اعتماد اور انتظام ہو اور آنکھ نہ کھلنے کا خوف ہو تو اول شب میں ہی پڑھ لے۔ خلاصہ یہ کہ جس کو آخر شب میں اٹھنے اور تہجد پڑھنے کی عادت ہو تو اس کیلئے تو افضل آخر شب میں ہے۔ اور یہ عادت نہ ہو تو پھر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لینے چاہئیں۔

وتر کی تین رکعتیں ہوتی ہیں یعنی الحمد اور کوئی سورت ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے قبل حنفیہ کے نزدیک دعاء قنوت پڑھی جاتی ہے اور شافعیہ کے نزدیک رکوع کے بعد قومہ میں دعاء قنوت پڑھی جاتی ہے اور دعاء قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ حنفیہ کا عمل اس بارے میں اس حدیث پر ہے جس کو ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ ہی نے روایت کیا ہے آنحضرت ﷺ نے وتر میں رکوع سے پہلے دعاء قنوت پڑھی۔

## دعاء قنوت

وتر کی تیسری رکعت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کئی دعائیں ہیں کیونکہ حدیثوں میں متعدد دعائیں آئی ہیں۔ لیکن بالعموم دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ انہی دونوں دعاؤں کو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ ان دونوں میں عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ  
نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُنِيبُ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَا  
نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا  
نَعْبُدُكَ وَ لَكَ نُصَلِّي وَ نَسْجُدُ وَ إِلَيْكَ نَسْعَى وَ نَخْفِدُ وَ

نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدِّ إِنَّ عَذَابَكَ  
بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔

”یعنی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں بھلائی سے اور تیری نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ ہم دل سے بے زار ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ایسے شخص کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کی طرف کوشش کرتے ہیں اور خدمت کی طرف دوڑتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں جو حق ہے۔ اور تیرا عذاب جو حق ہے کافروں کو ملنے والا ہے۔“

اس دعا میں ”مدد مانگتے ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ ہم احکام الہیہ کی بجا آوری اور ارتکاب معاصی کرنے کیلئے نفس، شیطان اور تمام کافروں پر غالب ہونے کے لئے تجھ سے مدد چاہتے ہیں ہمیں اس مقصد عظمیٰ میں کامیابی دے۔

ایک قابل غور امر

اسلام نے بنجوقتہ نمازوں کے ذریعہ ہمارے اندر وہ اخلاقی خوبیاں پیدا کرنی چاہی ہیں کہ اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو ہمارے اعلیٰ اخلاق کو دیکھ کر ساری دنیا ہماری طرف مائل ہو جائے۔ ہماری ناپاک اور نامراد زندگیوں میں سچائی، ایمان داری، انصاف، رحم دلی، ہمدردی، مساوات، ایثار اور خلوص وغیرہ اوصاف کا نور چمک اٹھے ہم دارین میں کامیاب ہو جائیں ہمارے اسلام اور ایمان میں کوئی خامی نہ رہے اور ہم صحیح معنوں میں خیر الامم بن جائیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں یہ خیال راسخ ہو گیا ہے کہ اسلام ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے رسمی طور پر الٹی سیدھی نمازیں پڑھ لیا کریں اور طوطے کی طرح کے تمام الفاظ و کلمات ادا کیا کریں۔

مثال کے طور پر اسی دعائے قنوت کو لے لیجئے اس کو ہم روز اپنی نماز وتر میں پڑھتے ہیں مگر سمجھتے خاک نہیں کہ ہم روزانہ اپنے خدا سے کیا وعدہ و اقرار کرتے ہیں اور اس کو کہاں تک

پورا کرتے ہیں؟ ذرا انصاف سے دعاء قنوت کے معنوں پر غور کر کے بتلائیے کہ جو نمازی روزانہ اپنے خدا سے مذکورہ باتوں کا اقرار کرے وہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے اور خدا کے نافرمانوں سے اپنا دلی تعلق قائم رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثلاً اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم اس شخص سے بیزار ہوتے ہیں جو تیرا نافرمان ہے۔ اب اگر مسلمان اس عہد کو عملی طور پر پورا کریں تو کیا ہماری قوم میں کوئی عملی خرابی باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ ہماری سوسائٹی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں سے پاک ہو جائے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خدا سے اس کے نافرمانوں سے بیزار ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں اور نافرمانوں سے تعلقات بھی بڑھاتے ہیں۔ مدہنت فی الدین کا ارتکاب بھی دل کھول کر کرتے ہیں۔ اپنے رشتے داروں اور دوستوں کے اعمال کی اصلاح کو اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں یاری سے مطلب نہ کہ اس کے افعال سے۔ یہ اچھے نمازی ہیں کہ خدا سے کچھ اقرار کرتے ہیں اور کرتے ہیں کچھ اور۔ ہم بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں حقیقت میں نمازیں نہیں بلکہ دل بہلاوا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کثیر جماعت آج بھی نماز پڑھتی ہے مگر ان نمازوں کا وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جو عہد صحابہ میں ہوتا تھا اور جو ان کا فطری نتیجہ ہونا چاہیے۔ ہم نے سرے سے عبادت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، ہم جانتے ہی نہیں کہ عبادت براہ راست بندہ اور خدا کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کر دیتی ہے اور وہ ہماری معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کاش ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔

### دوسری دعا

دعاء قنوت ایک تو یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ دوسری دعا یہ ہے جس کی نسبت حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے وتر میں پڑھنے کے لئے یہ دعا بھی تلقین فرمائی ہے:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي  
فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا  
قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ

وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔ (1)

”یعنی اے اللہ! تو مجھ کو راہ دکھا ان لوگوں کی جن کو تو نے راہ دکھائی یعنی مجھ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر اور مجھ کو عافیت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی اور مجھ کو دوست رکھ ان لوگوں میں جن کو تو نے دوست رکھا اور میرے لئے برکت دے اس چیز میں کہ تو نے مجھ کو عنایت کی اور مجھ کو بچا اس چیز کی برائی سے جس کو تو نے مقدر کیا۔ تو حکم کرتا ہے جو چاہتا ہے اور تجھ پر حکم نہیں کیا جاتا اور وہ شخص ذلیل نہیں ہوتا جس کو تو نے دوست رکھا اور نہ ہمیں وہ شخص عزت والا ہے جس کو تو نے دشمن رکھا تو برکت والا ہے اے ہمارے پروردگار تو برتر ہے ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔“

نسائی کی روایت میں بعد دعاء قنوت کے درود پڑھنا بھی آیا ہے۔ چنانچہ سیوطی نے قنوت کے بعد درود روایت کیا ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُورِي نِي لَكْهَاءِ كَقَنُوتِ كَبَعْدِ اِسى درود کا پڑھنا مستحب ہے۔

اگر قنوت پڑھنے والا امام ہو تو اس میں جمع کی ضمیریں لائے۔ مثلاً اِهْدِنِي كِي جگہ اِهْدِنَا اور وَقِنَا وغيره کہے اور اگر اسی طرح مفرد ضمیریں پڑھے۔ تب بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

بعض علماء نے تصریح کی ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ كَسَاتْهَ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ وَاَلْ قَنُوتِ كُوْ بْهِيْ مَلَالِيْ۔ مگر پہلے مقدم الذکر کو پڑھے بعد میں مؤخر الذکر کو۔ وتر کا سلام پھیرنے کے بعد کی دعا

جب وتر کا سلام پھیرے تو تین بار سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ یعنی پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ نہایت پاک کی۔ تیسری دفعہ میں اپنی آواز کو کھینچے اور بلند کرے (2)۔ دار لقطنی کی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ كُوْ بْهِيْ سُبْحَانَ

لَمَلِكِ الْقُدُّوسِ کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ لہذا اگر ان دونوں کو ملا کر کہے تب بھی جائزاً افضل ہے۔

دعا قنوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیسری رکعت میں بعد رکوع کے اٹھ کر دعائے قنوت پڑھے۔ یعنی الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے اور پھر ہاتھ باندھ کر قنوت پڑھے اور رکعت پوری کرے۔

## وتر کے احکام و مسائل

ان دو دعاؤں میں سے جوئی چاہئے دعا یاد کر کے پڑھا کرے۔ کوشش کر کے دعائے قنوت کو یاد کرنا چاہیے اگر باوجود کوشش کے یہ دعا یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بقرہ) پڑھ لیا کرے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو تین مرتبہ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا پڑھ لیا کرے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر وتر سہواً ترک ہو جائیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یاد آئیں تو صاحب ترتیب کے لئے لازم ہے کہ دوبارہ پہلے وتر پڑھ کر نماز فجر ادا کرے۔ تاکہ ترتیب درست ہو جائے اور اگر اثنائے نماز یاد آئے تو نماز فجر فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ اسے فرض کی حالت میں ایک واجب یاد آ گیا۔

ترمذی میں لکھا ہے کہ جو شخص تین رکعتیں پڑھے اس کے لئے مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی (الاعلیٰ) دوسری میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (کافرون) اور تیسری رکعت قُلْ هُوَ اللهُ (اخلاص: 1) اور معوذتین پڑھے ورنہ جو سورتیں یاد ہوں ان کو پڑھ لے (2)۔

**مسئلہ:** اگر کسی کو وتر کی دوسری رکعت میں یہ خیال ہوا کہ تیسری رکعت ہے اور اس نے دوسری ہی میں دعائے قنوت پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت تھی تو اس کو تیسری رکعت میں دوبارہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ہر رکعت میں یہ خیال آیا کہ یہ



تیسری رکعت ہے تو ہر رکعت میں قنوت پڑھے اور ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر مسبوق کو امام کے ساتھ دعاء قنوت مل جائے یا کم از کم تیسری رکعت کے شروع میں شریک ہو جائے تو دوبارہ بقیہ نماز میں دعاء قنوت نہ پڑھنی چاہیے (غایۃ الاوطار)

**مسئلہ:** اگر کسی کو تیسری رکعت میں دعاء قنوت پڑھنا یاد نہ رہا اور رکوع میں جا کر یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا تو دونوں جگہ قنوت نہ پڑھے اور اگر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قنوت پڑھ لی تو اس رکوع کا اعادہ کرے ورنہ سجدہ سہو کرے کیونکہ قنوت کا موضع اصلی جانا رہا۔ (2)

**مسئلہ:** اگر امام رکوع میں چلا گیا اور مقتدی ابھی قنوت سے فارغ نہیں ہوا یا ابھی شروع ہی نہ کی تو اب اگر رکوع کے قنوت ہو جانے کا یقین ہے تو امام کی متابعت کرے اگرچہ امام نے قنوت کو ترک کر دیا ہو اگر دعاء قنوت پڑھ کر امام کے ساتھ مل جانے کا امکان ہو تو پڑھ لے اور اگر پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر نہ پڑھے امام کی متابعت کرے۔ (3)

**ہدایۃ:** فقط رمضان میں وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بہ نسبت آخرات میں اکیلے پڑھنے کے۔ اسی کو قاضی خاں نے اختیار کیا ہے کہ یہی بات صحیح ہے یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا آخرات میں پڑھنے سے افضل ہے۔

### موکدہ اور غیر موکدہ سنتوں کا بیان

پنجوقتہ نمازوں میں چھ سنتیں موکدہ ہیں۔ یعنی جن کو ادا کرنے کی رسول اللہ ﷺ سے تاکید ثابت ہے۔ وہ چھ موکدہ سنتیں یہ ہیں۔

اول، فجر کے دو فرضوں سے پہلے دو رکعتیں۔

دوم، نماز ظہر سے قبل چار اور بعد کی دو رکعتیں۔

سوم، جمعہ کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد چار چار رکعتیں اور دو رکعتیں۔

چہارم، مغرب کی نماز کے بعد دو رکعتیں۔

2۔ نور الایضاح کتاب الصلوٰۃ صفحہ 93

1۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 111

3۔ نور الایضاح کتاب الصلوٰۃ صفحہ 93

پنجم، عشاء کی نماز کے بعد دو رکعتیں۔

ششم، رمضان کی بیس تراویح یہ سب سنت مؤکدہ ہیں۔

جو شخص ان کو بلا عذر محض سہولت پسندی کی وجہ سے ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ (1)

ان سنتوں میں فجر کی دو سنتیں سب سے زیادہ مؤکدہ ہیں۔ چنانچہ بعض تو ان کو واجب تلاتے ہیں۔ ان کے بعد مغرب کی دو سنتوں کا مرتبہ ہے، پھر جمعہ اور ظہر کے بعد کی سنتیں

ہیں۔ اسی اعتبار سے ان کا ثواب بھی ہے۔ (2)

فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے۔ اگر چار رکعت والی سنتوں کو دو دو کر کے دو سلام سے پڑھے تو سنتیں نہ ہوں گی

بلکہ نفل ہو جائیں گی۔

غیر مؤکدہ سنتیں

مندرجہ ذیل سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جن کو نفل بھی کہتے ہیں۔ عصر کے فرض سے پہلے چار رکعت عشاء کے فرض سے پہلے چار رکعت، عشاء کی دو مؤکدہ سنتوں کے بعد دو سلاموں سے چار رکعت، مغرب کی سنت مؤکدہ کے بعد چار رکعت اور جمعہ کی سنت دو مؤکدہ کے بعد دو رکعت۔

مسئلہ: فرضوں سے پہلے والی سنتیں پڑھ کر دنیوی کاموں میں مشغول ہونا درست نہیں تا وقتیکہ فرض نہ پڑھ لئے جائیں۔ اس سے ان کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک تو وہ سنتیں ہی نہیں رہتیں بلکہ نفل ہو جاتی ہیں۔ لہذا سنتیں پڑھنے کے بعد کسی دنیوی کاروبار میں مشغول نہیں ہونا چاہئے۔

عصر کی سنتوں کا ثواب

عصر کی نماز سے قبل چار رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ہیں لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنے کی عادت کرے۔ اس کے لئے یہ چار رکعتیں قیامت

کے روز آتش دوزخ سے سپر ہو جائیں گی۔ (1)

ایک دوسری روایت میں ہے۔ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص عصر سے پہلے چار رکعت سنتیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہشت میں ایک قصر عالیشان بناتا ہے۔  
 تنبیہ: جوں جوں زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا جاتا ہے توں توں مسلمانوں کے دماغوں میں کچی دلوں میں کھوٹ اور طبیعتوں میں سہولت پسندی اور آرام طلبی کا مادہ آتا جاتا ہے۔ حد ہے کہ نفس کے بندوں نے بجائے پانچ نمازوں کے تین ہی مقرر کر لی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی محبت و اطاعت میں کچھ کرنا نہ پڑے بلکہ ویسے ہی جنت مل جائے۔  
 الغرض عبادت الہی کی بجا آوری میں ہماری سہولت پسندی اور حیلہ جوئی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جو ذرا محتاط دیندار ہیں وہ فرض اور واجب کی ادائیگی تو جبراً اور قہراً کر ہی لیتے ہیں۔ مگر سنتوں کی ادائیگی میں غفلت و تساہل سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر غیر مؤکدہ سنتوں کو بلا عدد چھوڑ دیا جائے تو گناہ لازم آتا ہے۔ لہذا ان کی ادائیگی میں نفس کشی اور تندہی سے کام لینا چاہیے۔

### فجر کی سنتوں اور قنوت نوازوں کی بحث

فجر کی سنتوں کی تاکید و جوہ کے درجہ کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان کے متعلق ہدایہ وغیرہ فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں آوے اور دیکھے کہ فرضوں کی جماعت ہو رہی ہے لیکن اس شخص نے سنت نہیں پڑھی ہیں تو اس صورت میں اگر اسے یہ خوف ہے کہ سنت پڑھنے سے میری ایک رکعت جاتی رہے گی اور ایک مل جائے گی اسے چاہیے کہ جہاں جماعت ہو وہاں سے کسی علیحدہ جگہ ہو کر سنتیں پڑھے اور پھر جماعت میں شریک ہو۔

اس پر غیر مقلد صاحبان یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کے خلاف کیا ہے جو مسلم میں ابو ہریرہ سے آئی ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ۔ (1)

”یعنی جس وقت کہ کھڑی ہو جائے نماز یعنی تکبیر ہو فرضوں کی، پس نہیں ہے کوئی نماز سوائے فرض۔“

سوحديث اگرچہ کتب حدیث میں باسند معتبر مروی ہے اور بہ سبب اطلاق کے اسی امر پر دلالت کرتی ہے کہ جب نماز فرض کی تکبیر شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھنا چاہیے مگر وہی فرض۔ لیکن بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ چنانچہ طحاوی نے شرح معانی الآثار میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے۔

إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى رَكَعَتِي

الْفَجْرِ۔ (2)

”یعنی وہ مسجد میں اس وقت آئے کہ امام نماز صبح پڑھ رہے تھے۔ پس پڑھی انہوں نے سنت فجر بعد اس کے شریک ہوئے فرض میں۔“

دوسری سند سے ایک اور روایت آئی ہے:

دَعَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ أَبَا مُوسَى وَحَدِيفَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ

مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوا

مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أُسْطُوَانَةِ

مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ۔ (3)

”یعنی بلایا سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری، حدیفہ اور ابن مسعود

رضی اللہ عنہم کو قبل ادا کرنے نماز فجر کے۔ پھر نکلے یہ سب ان کے پاس سے اس

حالت میں کہ فرض صبح کی اقامت ہو گئی تھی۔ پس بیٹھ گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ

ایک ستون مسجد کے پاس اور دو رکعت سنت پڑھنے لگے اس کے بعد شریک

جماعت ہوئے۔“

2۔ معانی الآثار جلد 1 صفحہ 255

1۔ صحیح المسلم جلد 5 صفحہ 188

3۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 255۔

نیز طحاوی نے ابوخلد سے ایک تیسری روایت اور لی ہے:

دَخَلْتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامِ  
يُصَلِّي فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ  
فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَعَدَ ابْنُ  
عُمَرَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ - (1)

”یعنی داخل ہوا میں نماز صبح میں اس حال میں کہ امام نماز پڑھاتا تھا ساتھ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے۔ پس ابن عمر تو داخل ہو گئے صف میں اور شریک فرض ہو گئے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے ادا کیں دو رکعت سنت بعد اس کے شریک جماعت ہوئے پس جب سلام پھیرا امام نے، بیٹھے رہے ابن عمر رضی اللہ عنہما یہاں تک کہ طلوع ہوا آفتاب، پس ادا کیں دو رکعت سنت“۔

اسی طرح شرح معانی الآثار میں اور بھی بہت سے آثار باسانید معتبرہ و طریق متعددہ مروی ہیں جن سے حنفیہ کا مذہب اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے عمل سے حدیث زیر بحث میں دو سنت کا حکم مستثنیٰ کر لیا گیا ہے یعنی حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اقامت کہی جاوے فرض کی، پس نہیں ہے کوئی نماز مگر فرض الا دو رکعت سنت صبح۔ اسی پر حنفیہ کا عمل ہے جو آثار کثیرہ سے مستند ہے۔ پس صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک رکعت فرض نماز کے ملنے کی امید ہو تو سنت کو چھوڑ دے اور شریک جماعت ہو جائے۔

### یادداشت

مگر یاد رہے صبح کی سنت کا ادا کرنا مشروط ہے اس امر کے ساتھ کہ صفوف کے پاس سنتیں ادا نہ کرے بلکہ صفوف سے علیحدہ ہو کر مثلاً حجرہ میں یا مسجد کے دوسرے حصہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر صحابہ تابعین اور ائمہ صبح کی سنتیں اپنے گھر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو۔ اسی جگہ صفوف کے پاس سنتیں ادا نہ کرے۔ صفوف میں کوئی چیز حائل ہونی چاہیے۔ اس مسئلہ میں عام طور پر بہت بے احتیاطی

کی جاتی ہے۔ لوگ صفوں کے پاس ہی سنتیں پڑھنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

## سنت کے ضروری مسائل

کسی نے صبح کی نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور سنتیں ادا نہ کی تھیں تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے سنتوں کو نہ پڑھے۔ نہ اس پر سنت کی قضا کرنا لازم ہے اگر دن نکلے پڑھ لے تو افضل ہے۔

مسئلہ: اگر کسی کی نماز صبح قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے سنت اور فرض دونوں کو قضا کرے اس طرح کہ پہلے سنت پڑھے اور پھر فرض اور اگر زوال تک پڑھنے کا موقع نہ ملے تو پھر صرف فرض کی قضا گزارے۔

## قنوت فجر کی بحث

صبح کی نماز میں ہمیشہ دعاء قنوت کا پڑھنا مذہب شافعی میں سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سوائے نماز وتر کے اور نمازوں میں دعاء قنوت پڑھنی جائز نہیں، چنانچہ حنفیہ کے نزدیک صبح کی نماز میں اور ایسا ہی اور نمازوں میں قنوت سنت نہیں سوائے وتر البتہ نوازل میں سنت ہے یعنی جب کوئی واقعہ عظیمہ جیسے جہاد یا طاعون وغیرہ پیش آئے تو دفع بلا کے لئے صرف فجر کی نماز میں قنوت کا پڑھنا سنت اور جائز ہے اور یہ نماز فجر میں دوسری رکعت کے رکوع میں پڑھا جاتا ہے۔ امام سمیع اللہ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد قنوت پڑھے اور مقتدی آمین کہیں۔

بعض محدثین کا مذہب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت سب نمازوں میں قنوت پڑھے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف جہری نمازوں میں پڑھے، لیکن حنفیوں کے نزدیک مصیبت کا قنوت صرف نماز فجر میں پڑھا جاتا ہے اور یہی امر بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہم کا عمل مروی ہے:

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ۔ (1)

”یعنی یہ صحابہ صبح میں قنوت نہیں پڑھتے تھے“۔

اسی مصنف سے روایت ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نماز فجر میں قنوت پڑھا اس زمانہ میں جب کہ ان میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی درپیش تھی تو لوگوں نے ان پر انکار کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کی ہے نیز ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ وہ نماز فجر میں قنوت نہ پڑھتے تھے۔ کتاب الآثار میں بھی ایسا ہی مروی ہے۔

شرح معانی الآثار میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز صبح میں ہمیشہ قنوت نہیں پڑھی مگر صرف ایک مہینہ۔ پھر آپ نے اس کا پڑھنا ترک کر دیا۔ (1)  
الغرض امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قنوت کا ہمیشگی سے پڑھنا منسوخ ہے اور یہ سند بہت سی حدیثوں سے لائے ہیں۔ باقی رہیں قنوت کی حدیثیں جن پر شافعیوں کا عمل ہے اور جن کی بنا پر وہ نماز فجر میں ہمیشہ دعائے قنوت کا پڑھنا سنت مؤکدہ بتلاتے ہیں، امام صاحب ان حدیثوں کو اس امر پر محمول کرتے ہیں کہ رعل و ذکوان کے دو قبیلوں نے جب قراء کو شہید کیا تو آنحضرت ﷺ نے ایک مہینے تک ان کے حق میں بددعا کی۔ پھر یہ دعا منع کی گئی اور چھوڑ دی۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے یہاں مصیبت کے وقت صرف نماز صبح میں قنوت کا پڑھنا جائز ہے۔

### ایک ضروری بحث

جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہوں اس کی نسبت عینی کی شرح ہدایہ میں ہے کہ نہ قضا کی جاوے سنت فجر کی بعد طلوع آفتاب کے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ان کو بعد طلوع آفتاب کے پڑھ لے دو پہر تک۔ اگر نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں۔

ان تینوں حضرات کے اقوال کا خلاصہ و مدعا یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب کے سنت کا

پڑھنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔

یاد رہے کہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعد نماز فرض صبح قبل طلوع آفتاب سنت فجر کا ادا کرنا مکروہ ہے، ان کے اس حکم کے موافق صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

”یعنی فرمایا رسول اللہ ﷺ نے نہ پڑھی جائے کوئی نماز نفل بعد نماز صبح کے تا طلوع آفتاب اور نہ بعد نماز عصر کے تا بہ غروب آفتاب“۔ (1)

اس حدیث کے مطابق حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبل طلوع آفتاب سنت نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور خفیوں کو اسی پر عمل رکھنا چاہیے۔ اگر باوجود اس ممانعت کے کوئی شخص پڑھے تو اس کی سنتیں مکروہ ہوں گی۔

### فوت شدہ نمازوں کی ادائیگی کا بیان

جن نمازوں کو کسی وجہ سے عمد یا سہواً ترک کر دیا گیا ہو یا وقت کے اندر واجب ہو کر فوت ہو گئی ہوں یا نیند وغیرہ کی وجہ سے جاتی رہی ہوں ان کی قضا واجب ہے۔ البتہ حسب ذیل نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے۔

1۔ اگر حالت ارتداد میں مرتد کی نمازیں فوت ہو گئی ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو

حالت ارتداد کی نمازیں واجب الادا نہیں۔

2۔ اگر مجنون کی جنون کی وجہ سے نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی قضا بھی لازم نہیں۔

3۔ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے اور یہ بیماری کی حالت

ایک دن ایک رات سے زائد باقی رہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضا لازم نہیں۔



4۔ اگر کسی پر بے ہوشی کی حالت ایک دن رات سے زائد طاری رہے تو فوت شدہ نمازیں معاف ہیں۔

5۔ ایام حیض و نفاس کی نمازیں معاف ہیں۔

نوٹ: اوپر بیان ہوا ہے کہ بیماری کی حالت کی نمازیں معاف ہیں جن کی شرائط بھی اوپر بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے متعلق اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر بیمار مذکور کی بیماری کی حالت یا بے ہوشی کی بے ہوشی ایک رات دن سے کم رہے تو پھر فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے۔ (1)

مذکورہ بالا پانچ نمازوں اور حالتوں کے علاوہ جتنی نمازیں خواہ کسی وجہ سے رہ گئی ہوں ان کی قضا دینا واجب ہے۔ (2)

## مسائل و احکام

اگر حیض و نفاس والی عورت کی ایک نماز قبل حیض و نفاس چھوٹ گئی ہے اور پھر پاک ہونے پر اس کی قضا نہیں کی اور باوجود یاد ہونے کے وقتی نماز پڑھ لی تو جائز نہیں۔ جانا چاہیے کہ ترتیب درمیان قضا و وقتی نماز واجب ہے پس جس کی نماز قضا ہو جائے اور جب اس کو یاد آوے تو پہلے قضا ادا کرے اور پھر وقتی نماز پڑھے مثلاً اگر کسی شخص کی صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو اس کو پہلے صبح کی فوت شدہ نماز پڑھنی چاہیے اس کے بعد ظہر کی۔ اگر باوجود یاد ہونے کے اس نے نماز فجر ادا نہ کی اور ظہر کی وقتی نماز پڑھ لی تو اس کی ظہر کی نماز نہ ہوگی کیونکہ اس نے دانستہ ترتیب کو ترک کر دیا۔ ہاں یہ ظہر کی نماز جو اس نے پڑھ لی ہوگی وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل ہو جائے گی۔ (3)

مسئلہ: ایک لڑکا رات کو سوتے وقت نابالغ تھا۔ جب صبح کو اٹھا تو احتلام کی علامتیں موجود تھیں۔ اس پر گزشتہ عشاء کی نماز کی قضا واجب ہے کیونکہ احتلام کے بعد نماز دعا جب ہو گئی۔ ہاں اگر لڑکی سوتے وقت نابالغ تھی اور صبح کو اٹھنے کے بعد حیض کی

2۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 121

1۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 121

3۔ درمختار جلد 2 صفحہ 32، 31

علامات نمودار ہوئیں تو اس پر عشاء کی قضا لازم نہیں ہے۔ کیونکہ حیض سے قبل تو نابالغ ہونے کی وجہ سے نماز واجب نہیں تھی اور حیض کے بعد عذر حیض کی وجہ سے نماز معاف ہوگئی۔ (1)

صاحبِ ترتیب کسے کہتے ہیں؟

صاحبِ ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کبھی چھ یا چھ نمازوں سے زائد متواتر قضا نہ ہوئی ہوں۔ یعنی چھ نمازوں تک ایک شخص صاحبِ ترتیب رہتا ہے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ قضا و وقتی نماز میں ترتیب کو ملحوظ رکھے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب درمیان نماز قضا و وقتی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

ترتیب ساقط ہونے کی وجوہ

تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ترتیب کا حکم ساقط ہو جاتا ہے یعنی ترتیب کا حکم جاتا رہتا ہے، ان اعذار کے ہوتے ہوئے قضا نمازوں میں ترتیب رکھنا ضروری نہیں، جس طرح بھی پڑھے گا فوت شدہ نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ وہ تین عذر یہ ہیں:

1۔ تنگی وقت مثلاً کسی کی ظہر کی نماز قضا ہوگئی اور عصر کا وقت اتنا تنگ ملا کہ اگر ظہر کی فوت شدہ نماز ادا کرے تو عصر کی نماز قضا ہوئی جاتی ہے۔ اس تنگی وقت کی وجہ سے صاحبِ ترتیب نہیں رہا۔

2۔ نسیان، یعنی بھول جانا، مثلاً کسی کی مغرب کی نماز قضا ہوگئی تھی اس نے عشاء کے وقت بھول کر عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ نسیان کے عذر کی وجہ سے ترتیب کا حکم جاتا رہا۔

3۔ چھ یا چھ نمازوں سے زائد قضا ہوگئی ہوں تو پھر ترتیب کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس نماز کو چاہے پہلے ادا کرے اور جس کو چاہے بعد میں۔ (2)

**مسئلہ:** وتروں کے اندر بھی صاحب ترتیب کے لئے ترتیب ضروری ہے۔ اگر وتر قضا ہو گئے اور باوجود یاد ہونے کے وتر نہ پڑھے اور فجر کی نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی۔ (1)

**مسئلہ:** اگر کسی کے ذمہ چھ نمازیں متفرق طور پر ہوں، مثلاً چھ نمازیں فجر کی ہوں اور دیگر اوقات کی نمازیں پڑھ لی ہوں یا یوں کہ چھ عصر کی ہوں یا دو فجر کی، دو عصر کی اور دو عشاء کی ملا کر چھ ہوں۔ ظہر و مغرب کی نہ ہوں تو صحیح قول کے مطابق وہ شخص صاحب ترتیب نہیں رہا۔ جس طرح چاہے ادا کرے۔ (2)

**مسئلہ:** ایک شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی فجر کو اس خیال سے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے فجر کی نماز پڑھ لی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی دو رکعت کے لائق وقت باقی ہے تو یہ شخص دوبارہ فجر کی نماز ادا کرے پہلی نفل ہو جائے گی، اگر سہ بارہ بھی دو گنا نہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی دو رکعت کے لائق وقت باقی ہے تو تیسری دفعہ بھی فجر کی نماز پڑھے پہلے دونوں نمازیں نفل ہو جائیں گی، الغرض جتنی مرتبہ وقت میں گنجائش نکلتی رہے گی۔ فجر کی نماز پڑھتا رہے گا جو دو گنا نہ طلوع کے وقت ہو گا وہ فرض ہو گا اور باقی سب نفل۔

**مسئلہ:** کسی صاحب ترتیب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور ظہر کے وقت اس نے نماز فجر کی قضا کو بھول کر ظہر کی نماز شروع کر دی، دوسری رکعت میں یاد آیا کہ میرے ذمہ فجر کی نماز باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ تشهد پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی پھر فجر کی نماز ادا کر کے ظہر پڑھے۔ اسی طرح تیسری یا چوتھی رکعت پڑھتے وقت یاد آئے تو دونوں صورتوں میں چاروں نفل ہو جائیں گے، بعدہ فجر کی نماز ادا کر کے ظہر پڑھے۔ (3)

### کثیر نمازوں کی قضا

اگر کسی شخص کے ذمہ مدت کی سیکڑوں نمازیں واجب الادا ہوں، اس نے سب نمازیں ادا کر لیں صرف ایک یا دو نمازیں رہ گئیں۔ اس کے علاوہ پھر نئی نمازوں میں ایک دو قضا ہو گئیں تو اس حالت میں باوجود یاد ہونے کے وقتی نماز پڑھنی جائز ہے۔ کیونکہ جب تک گذشتہ

1۔ شرح وقایہ کتاب الصلوٰۃ جلد 1 صفحہ 216، مکتبہ امدادیہ ملتان

3۔ درمکار جلد 2 صفحہ 529۔

2۔ درمکار کتاب الصلوٰۃ جلد 2 صفحہ 527۔

فوت شدہ نمازوں میں سے ایک بھی اس کے ذمہ باقی رہے گی وہ صاحب ترتیب نہ ہوگا۔ اسی قول پر فتویٰ ہے۔ (1)

ایک شخص نے سال دو سال یا دس سال تک نماز نہ پڑھی پھر شروع کرنے کے بعد اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اب اگر کوئی نماز قضا ہوگی تو اس کو گذشتہ فوت شدہ نمازوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور جب تک تمام قضا شدہ نمازیں ادا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ صاحب ترتیب نہ ہوگا۔ (2)

**مسئلہ:** اگر کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو جائیں تو انکی ادائیگی میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے مثلاً کسی کی ایک مہینے کی نمازیں قضا ہو گئیں پھر ان کو اس طرح ادا کیا کہ پہلے تیس نمازیں فجر کی ادا کر لیں پھر تیس ظہر کی، پھر تیس عصر کی اور پھر تیس مغرب و عشاء کی تو یہ سب نمازیں درست ہوں گی۔ (3)

**مسئلہ:** ایک شخص کی ایک نماز قضا ہوگئی اور یہ یاد نہیں کہ کون سے وقت کی نماز تھی اور کسی نماز پر گمان غالب بھی نہیں ہوتا کہ فلاں نماز تھی تو ایسی حالت میں پورے ایک رات دن کی نمازوں کی قضا کرنی چاہیے ہاں اگر کسی نماز کے متعلق یقین یا گمان غالب ہو کہ فلاں نماز قضا ہوئی ہے تو صرف اسی ایک نماز کی قضا دے۔ (4)

### سفر اور قیام کی فوت شدہ نمازیں

یاد رکھنا چاہیے کہ جو نمازیں حالت سفر میں قضا ہوئی ہوں اور حالت قیام میں ان کو ادا کرے یا سفر کی ہی حالت میں ادا کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں قصر کے ساتھ ہی پڑھے اور جو نمازیں قیام کی حالت میں فوت ہوئی ہوں۔ ان کو ہر حالت میں پوری ادا کرے۔ مثلاً سفر میں ظہر کی نماز فوت ہوگئی اور پھر قیام کی حالت میں اس کو ادا کرنا چاہیے تو دو رکعت پڑھے۔ اگر ظہر قیام کی حالت میں قضا ہوئی ہو اور حالت سفر میں اس کو قضا دینا چاہیے تو چار

2۔ درمختار کتاب الصلوٰۃ جلد 2 صفحہ 529

4۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 124

1۔ رد المحتار، جلد 2 صفحہ 529

3۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 123

رکعت ہی پڑھے۔ (1)

مسئلہ: ماں باپ یا کسی اور عزیز رشتہ دار کی طرف سے قضا نمازیں پڑھنا درست نہیں کیونکہ نماز عبادت بدنی ہے جو ہر شخص کے ذمہ علیحدہ علیحدہ فرض ہے۔ یعنی عبادت بدنی میں ہر شخص اپنی ادا اور قضا کا ذمہ دار ہے کسی کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا بخلاف عبادت مالی کے کہ وہ ایک کے ادا کرنے سے دوسرے کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ (2)

قضا نمازوں کا علی الاعلان مسجد میں ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیونکہ نماز میں بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے اور اس گناہ پر دوسروں کو مطلع کرنا دوسرا گناہ ہے۔ اس سے دوسروں کو شہ ملتی ہے اس لئے قضا نمازوں کو چھپ کر پڑھنا چاہیے۔ (3)

### اسقاط کا بیان

اوپر بیان ہوا ہے کہ کسی کی قضا نمازوں کو دوسرا ادا نہیں کر سکتا کیونکہ نماز عبادت بدنی ہے البتہ نمازوں کا کفارہ دوسرا شخص ضرور ادا کر سکتا ہے اسی کو اسقاط کہتے ہیں۔ پس اگر ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ورثاء کو قضا نمازوں کا کفارہ دینے کی وصیت کی اور اس کا کچھ ترک بھی ہے تو اس کے تہائی مال سے یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ اس طرح کہ ہر فرض اور وتر نماز کے عوض نصف صاع گیہوں بطور کفارہ دیتے جائیں گے گویا ہر فرض اور وتر کا کفارہ دیتے جائیں گے۔ گویا ہر فرض اور وتر کا کفارہ نصف صاع دو سیر تین چھٹانک گندم ہے۔ اگر میت کا ترک موجود نہ ہو تو اس کے مال دار ورثاء کو چاہیے کہ تبرعا اس کی طرف مذکورہ کفارہ دیں اور اگر وارثوں میں سے کوئی غنی نہ ہو تو یوں کرنا چاہیے کہ نصف صاع گیہوں کسی مسکین کو دے دیے جائیں اور وہ مسکین بطور صدقہ کے کسی فقیر وارث کو دے دے اور پھر یہ وارث کسی مسکین آدمی کو یہ گیہوں بطور کفارہ کے دے دے، اسی طرح دوسرے رکھا جائے یہاں تک کہ سب نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔

یاد رہے کہ یہ اسقاط کا جواز صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق ہے ورنہ عام فقہاء

2۔ در مختار جلد 2 صفحہ 535

1۔ مالگیری کتاب الصلوٰۃ جلد 1 صفحہ 121

3۔ مالگیری جلد 1 صفحہ 125۔

حنفیہ کے نزدیک اسقاط جائز نہیں۔ ہم نے محض معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے اس کے جواز کی صورتیں لکھ دی ہیں ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ عبادت بدنی مالی کفارہ سے ساقط نہیں ہو سکتی۔

## شیخ فانی کا حکم

شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں جس کے اعضاء و جوارح نے جواب دے دیا ہو اور مرنے کے قریب ہو ایسے بوڑھے کے لئے حکم ہے کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے نماز ادا کرے کیونکہ شریعت نے اس عبادت میں اتنی آسانیاں کر دی ہیں کہ کوئی انسان کسی حالت میں ضعف و پیری کا عذر نہیں کر سکتا لہذا شیخ فانی کے لئے حکم ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر بھی ممکن نہیں تو لیٹ کر اشارے سے ہی پڑھ لے اس سے زیادہ اور کیا آسانی ہو سکتی ہے؟

الغرض شیخ فانی میں جب تک زبان ہلانے کی طاقت ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں بہر حال اس کو نماز ادا کرنی چاہیے اسے کفارہ دینا جائز نہیں البتہ روزوں کا کفارہ دے سکتا ہے جیسا کہ کتاب الصوم میں تصریح ہے۔

تمتہ

ہمارے امام صاحب کے نزدیک ترتیب درمیان قضا اور وقتی نماز کے واجب ہے اور اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوجہ مشغولیت چار نمازیں فوت ہو گئی تھیں پھر آپ نے ترتیب وار ان کی قضا نکال کر فرمایا: صلوا کما راہتمونی اصلی یعنی ”تم بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ نماز پڑھا کرو جس نے تم کو مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا“۔ ظاہر ہے کہ یہ امر ترتیب کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

## مسافر کی نماز کا بیان

شریعت میں مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر تین روز کی مسافت پر کہیں جائے یہ تین روز کی مسافت درمیانی رفتار سے ہونی چاہیے خواہ پیادہ چلے یا اونٹ پر اور یہ بھی ضروری نہیں کہ رات دن چلتا ہی رہے بلکہ صبح سے دوپہر تک چلنے سے جو مسافت

قطع ہو وہ ایک روز کی مسافت خیال کی جائے گی۔ کوس اور میل کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایک مقام کے دو راستے ہوں ایک تین دن کا اور ایک دو دن کا تو جس راستے سے جائے گا اسی کے احکام اس پر جاری ہوں گے یعنی تین دن کے راستے سے جائے گا تو مسافر کے احکام جاری ہوں گے اور اگر دو دن کے راستے سے جائے گا تو مسافر کے حکم میں نہ ہوگا بلکہ مقیم سمجھا جائے گا۔

### مسافر کے احکام

مسافر کی تعریف تو تمہیں معلوم ہو گئی ہے اب مسافر کے احکام سنئے۔

شریعت نے مسافر کے لئے پانچ سہولتیں رکھی ہیں۔

1۔ چار رکعت والی فرض نمازوں میں قصر یعنی بجائے چار رکعت کے دو رکعتیں پڑھے،

دو معاف ہیں۔

2۔ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اس پر واجب نہیں ہیں۔

3۔ رمضان کے فرضی روزے اگر رمضان المبارک میں ترک کر دے تو جائز ہے۔

4۔ موزوں پر تین دن رات تک مسح کر سکتا ہے۔

5۔ قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ پانچ سہولتیں جو شریعت نے مسافر

کے لئے رکھی ہیں۔ نماز قصر کے متعلق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ

كَانُوا أَعْدَاؤُكُمْ وَأُصْبِحْتُمُ الْكُفْرَاءُ (النساء)

”یعنی اے مسلمانو! جب تم جہاد کے لئے کہیں جاؤ اور تم کو خوف ہو کہ کافر تم سے

چھیڑ چھاڑ کرنے لگیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں نماز میں سے کچھ گھٹا دیا کرو۔ بے شک

کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔“

اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے نماز سفر و نماز خوف کے احکام اور کیفیت بیان کی ہے، ان آیات

سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ خوف و سفر کی حالت میں چار رکعت والی فرض نماز کو قصر کرنا

چاہیے۔ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں ہندوستان میں ہمیں خوف کا معاملہ درپیش نہیں۔ البتہ سفر کی حالت باقی ہے اور سفر بالعموم ہر شخص کو پیش آتے رہتے ہیں۔ لہذا ہمیں پہلے اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ حالت امن میں سفر ہو تو نماز قصر کرنا چاہیے یا نہیں۔ کیونکہ مذکورہ بالا آیات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کے لئے جو سفر ہو اس میں نماز قصر کرنی چاہیے۔

### حالت سفر میں قصر صلوٰۃ واجب ہے

اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں ہمیں نماز قصر کرنی چاہیے اگرچہ وہ حالت امن میں ہو۔ چنانچہ نسائی میں یعلیٰ بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیت اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الْخ (نساء: 101) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف حالت خوف میں قصر کیا جائے گا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا: یعلیٰ! جس طرح تجھ کو اس آیت کے مفہوم سے تعجب ہوا مجھے بھی ہوا تھا۔ میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تو آپ ﷺ فرمایا: خدا کا تم پر صدقہ ہے تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔

اس حدیث سے صاف پتا چلتا ہے کہ حالت سفر میں قصر صلوٰۃ واجب ہے اور اس کا تارک گنہگار ہے۔ کیونکہ اصول ہے کہ امر کا صیغہ وجوب کو چاہتا ہے اور تارک وجوب گنہگار ہوتا ہے۔ الغرض قصر صلوٰۃ کا وجوب کتاب و سنت سے ثابت ہے۔

تفسیر نسفی میں ہے کہ صلوٰۃ کے جواز کے لئے خوف شرط ہے چنانچہ خوارج کا اسی پر عمل ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک خوف شرط نہیں جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ قسطلانی نے تفسیر ثعلبی سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ پہلی نماز جس میں رسول اللہ ﷺ نے قصر کیا وہ نماز عصر تھی اور یہ واقعہ عسفان میں غزوہ اتحاد میں پیش آیا۔ درمختار کی تصریح کے مطابق قصر صلوٰۃ کا حکم 4ھ میں نازل ہوا۔



## سفر کی نیت اور احکام سفر کی ابتدا و انتہا

نیت سفر کی صحت کی تین شرطیں ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ سفر کرنے والا نیت کرنے میں مستقل ہو، کسی دوسرے کا تابع نہ ہو یعنی سفر کرنے اور اقامت کرنے میں کسی دوسرے کا تابع نہ ہو پس عورت اور غلام کی نیت معتبر نہیں کیونکہ سفر و اقامت کی نیت میں عورت اپنے خاوند اور غلام اپنے آقا کا تابع ہوتا ہے۔ عورت اور غلام سفر و اقامت کی نیت میں مستقل نہیں ہوتے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر بالغ ہو۔ پس نابالغ لڑکے کی نیت صحیح نہیں۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مدت سفر تین دن سے کم نہ ہو۔

جس وقت مسافر اپنی آبادی کی عمارتوں سے نکل آئے۔ یعنی آبادی کے مکانات نظر سے اوجھل ہو جائیں اس وقت سے اس پر سفر کے احکام جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مسافر ہو جاتا ہے اور جب تک وطن کی آبادی میں داخل نہ ہو اس وقت تک مسافر ہی رہتا ہے۔

## اقامت کی شرطیں

حکم اقامت کی پانچ شرطیں ہیں:

1۔ اتحاد مکان یعنی ایک ہی جگہ اقامت کرنے کی نیت کرے۔ اگر دو جگہ اقامت کرنے کی نیت کریگا تو مقیم نہ ہوگا۔ مثلاً ایک شخص لاہور سے دہلی آتا ہے اور وہ نیت یہ کرتا ہے کہ دہلی میں بھی رہوں گا۔ اور غازی آباد میں بھی تو مقیم نہ ہوگا۔ ہاں اگر وہ ان دونوں جگہ میں سے ایک جگہ کو رات بسر کرنے کے لئے معین کرے تو پھر مقیم ہو جائے گا۔ کیونکہ اقامت انسان کا اطلاق رات کے رہنے کی جگہ پر ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ ایک ہی جگہ اقامت کی نیت کرنا شرط ہے۔

2۔ جس جگہ اقامت کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے قابل بھی ہو۔ جنگل یا دریا یا جزیرہ وغیرہ نہ ہو۔ اگر جنگل یا جزیرہ میں اقامت کی نیت کی تو وہ صحیح نہ ہوگی۔

3۔ مسافر چلنا موقوف کر دے۔ یعنی اپنے سفر کو قطع کر دے، اگر حالت سفر میں

اقامت کی نیت کی تو صحیح نہ ہوگی۔

4۔ پندرہ دن یا اس سے زائد اقامت کرنے کی نیت ہو۔

5۔ پانچویں شرط وہی ہے جو سفر کی نیت کے بیان میں لکھی گئی، یعنی مسافر اپنی رائے میں مستقل ہو، دوسرے کا تابع نہ ہو اور اقامت کی نیت خود اس کی رائے پر موقوف ہو۔

اگر مذکورہ بالا پانچویں شرطیں پائی جائیں گی تو مسافر مقیم ہو جائے گا، احکام سفر اٹھ جائیں گے، اور اگر یہ پانچویں شرطیں نہ پائی جائیں گی تو مسافر پر احکام سفر برابر جاری رہیں گے مثلاً ایک شخص نے اقامت کی نیت تو کی۔ مگر برابر چلتا رہا۔ یا پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی یا بیابان و کوہستان وغیرہ میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا جہاں بالعموم لوگوں کا قیام نہیں ہوتا یا دس روز دوسری جگہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ایک جگہ جم کر اقامت کی نیت نہ کی یا نو کرنے اپنے آقا کے تابع ہو کر اور عورت نے اپنے شوہر کے تابع ہو کر مجبوراً اقامت کی نیت کی تو ان صورتوں میں اقامت کے احکام جاری نہ ہوں گے، وہ بدستور مسافر رہے گا۔

**مسئلہ:** قصر کا حکم جاری ہونے کے لئے سفر کی نیت شرط ہے خواہ وہ سفر کسی جائز ضرورت کے لئے ہو خواہ کسی ناجائز و معصیت کے کام کے لئے۔ مثلاً جو شخص چوری اور ہزنی کی نیت سے سفر کرے اس کو نماز قصر کرنا چاہیے۔ (1)

**مسئلہ:** فتاویٰ ہندیہ میں ہے کہ جو شخص اقامت و سفر کی نیت میں غیر کا تابع ہے، وہ اسی غیر کی نیت کا مکلف ہے یعنی جس کا تابع ہے وہ اگر اقامت کی نیت کرے گا تو مقیم ہوگا اور اگر سفر کی نیت کرے گا تو مسافر مثلاً عورت اقامت و سفر کی نیت میں اپنے شوہر کے تابع ہے۔ (2)

**وطن اصلی اور وطن اقامت**

وطن اصلی وہ ہے جہاں انسان اپنے اہل و عیال اور دیگر متعلقین کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے یا جہاں پیدا ہوا اور جہاں زندگی بسر کرتا ہے اور وطن اقامت وہ ہے جہاں پندرہ دن یا زائد ٹھہرنے کا ارادہ کر لے۔ اگر انسان اپنے وطن اصلی سے قطع تعلق کر کے کسی دوسری جگہ

جا کر اقامت اختیار کر لے یعنی اہل و عیال کو بھی اپنے ہمراہ لے جائے تو وہی دوسری جگہ وطن اصلی بن جائے گا اور پہلی جائے رہائش سے وطن اصلی کا حکم جاتا رہے گا۔ وطن اصلی کو تبدیل کرنے کی ایک یہ صورت بھی ہے پھر سابقہ جگہ لوٹ کر آنے کی نیت بھی نہ ہو، نہ وطن اصلی میں کوئی ایسا سلسلہ باقی ہو جس سے بود و باش ظاہر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ کو چھوڑ کر مع اہل و عیال کسی دوسری جگہ پر رہائش اختیار کر لی جائے اور پہلی بود و باش کا کوئی تعلق بھی نہ رہے تو پھر وطن ثانی ہی وطن اصلی بن جاتا ہے۔ اور وطن اصلی سفر کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے، اگر پہلے وطن سے کچھ بھی تعلق باقی ہو مثلاً وہاں زمین ہو یا مکان ہو یا اور کچھ سلسلہ باقی ہو تو پھر یہی اصلی وطن رہے گا۔ اس میں اگر دو روز کے لئے بھی آئے گا تو مقیم سمجھا جائے گا۔ اور وطن ثانی کو دارالاقامت کہا جائے گا۔

### مسائل و احکام

مسافر کو صرف چار رکعت والی نمازوں میں قصر کرنی چاہیے تین رکعت یا دو رکعت والی فرض نماز میں قصر نہیں۔ ان کو پوری پڑھے یعنی مغرب اور فجر کی فرض نماز میں قصر نہیں صرف تین نمازوں یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں قصر کرنے کا حکم ہے۔ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو یعنی چار رکعت والی فرض نماز میں دو رکعت کم کر کے صرف دو رکعت پڑھے۔ اگر چار رکعت والی نماز میں قصر نہ کرے اور بھول کر پوری چار رکعت پڑھے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے سجدہ سہو کر لینے سے دو فرض ہو جائیں گے اور دو نفل۔

**مسئلہ:** اگر کوئی گھر میں ہی سفر کی نیت کرے تو جب تک وہ شہر سے باہر نہ ہو مسافر نہ ہوگا۔

**مسئلہ:** قصر صرف چار رکعت والی نماز میں ہے چار رکعت والی سنتوں میں نہیں۔ سنت کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ مسافر سرے سے سنتیں ہی نہ پڑھے صرف فرض اور واجب نمازوں پر اکتفا کرے اور بعض کہتے ہیں کہ سنتیں بھی ادا کرے۔ (ظہیری)

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص شہر میں اس نیت سے آئے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو اپنے

شہر میں واپس آ جاؤں گا تو وہاں اگر دو سال بھی رہے گا تو مقیم نہ ہوگا۔ بشرطیکہ غرض پندرہ روز سے کم میں پوری نہ ہو اور اس وقت اقامت کی نیت کرنے سے مقیم رہے گا۔

**مسئلہ:** مسافر اس وقت تک مسافر رہتا ہے جب تک وہ اپنے شہر میں نہ آئے جب مسافر اپنے شہر میں آ گیا تو مقیم ہو گیا خواہ اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے۔ یعنی وطن اصلی میں اقامت کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ (1)

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص کسی شہر میں دو سال تک مقیم رہے لیکن اقامت کی نیت نہ کرے اور اس کے دل میں بھی ارادہ رہے کہ میں آج کل میں سفر کروں گا۔ ایسا متردو مسافر دو سال تک بھی مقیم نہ ہوگا جب تک وہ اقامت کی نیت نہ کرے۔ ایسے مسافر کو نمازوں میں قصر کرنی چاہیے خواہ وہ کتنے ہی عرصہ تک رہے۔

### قصر میں اقتداء اور اقامت کا حکم

مقیم آدمی مسافر امام کی اقتداء وقتی اور غیر وقتی سب نمازوں میں کر سکتا ہے البتہ مسافر آدمی مقیم کی اقتداء میں صرف وقتی نماز ادا کر سکتا ہے۔ غیر وقتی نہیں کر سکتا نیز مسافر آدمی مقیم امام کی اقتداء ظہر، عصر اور عشاء کی قضا نمازوں میں نہیں کر سکتا مغرب اور فجر کی قضا نمازوں میں کر سکتا ہے۔

اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام اپنی رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور اپنی دو رکعت بعد میں پوری کر لے اور یہ رکعتیں جو امام کے سلام کے بعد پڑھے گا۔ ان میں قراءت نہ پڑھے بلکہ مقدار قراءت خاموش کھڑا رہے کیونکہ وہ ان میں بھی امام کا تابع رہے گا۔ (2)

اگر مقیم مقتدی مسافر امام کے پیچھے چوتھی رکعت میں آ کر شریک ہو تو بقیہ تین رکعتیں اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں جو کہ واقع میں اس کی دوسری رکعت ہے قراءت نہ پڑھے۔ مقدار قراءت خاموش کھڑا رہے پھر رکوع و سجود کر کے قعدہ کرے اس کے بعد

1- کنز الدقائق صفحہ 46، مکتبہ امدادیہ سعید کھنٹی کراچی

2- جوہرہ نیرہ صفحہ 111، میر محمد کتب خانہ کراچی

دوسری رکعت میں جو درحقیقت اس کی تیسری رکعت ہے اس میں بھی کچھ نہ پڑھے اور رکوع وسجود کر کے بغیر قعدہ کئے ہوئے کھڑا ہو جائے اس کے بعد تیسری رکعت میں جو دراصل اس کی چوتھی رکعت ہے۔ سبحانک اللہم، الحمد اور سورۃ پڑھ کر رکوع وسجود کر کے قعدہ میں بیٹھ کر سلام پھیر دے۔ (1)

اگر مقیم مقتدی مسافر امام کی اقتدا قعدہ اخیرہ میں کرے تو پہلی دو رکعتوں میں پر نہ پڑھے اور چھلی دور کعتیں پر پڑھے۔

**ہدایت** مسافر امام کے لئے مستحب ہے کہ امامت کرانے سے پہلے کہہ دے کہ میں مسافر ہوں دور کعتیں پڑھوں گا۔ تم اپنی دور کعتیں میرے سلام کے بعد پوری کر لینا اس طرح سلام کے بعد بھی کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو۔

جو لوگ رات دن بوجہ ملازمت دورہ میں رہتے ہیں جیسے گاڑڈ، ڈرائیور وغیرہ وہ حالت سفر میں مسافر نہیں کہلا سکتے ان کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔

**چلتی ریل اور کشتی وغیرہ پر نماز کا طریقہ**

اگر مسافر کو چلتی ہوئی ٹرین یا چلتی ہوئی کشتی یا چلتے ہوئے جہاز پر رکوع وسجود کی قدرت ملے تو اس کو اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ رکوع وسجود کرنا چاہیے اسی طرح اگر قیام پر قدرت ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے ہاں گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی وغیرہ سواری پر اشارہ ہی سے نماز پڑھ لینی جائز ہے رکوع وسجود کرنا جائز ہے۔

اگر کشتی کنارے پر بندھی ہوئی ہے یا زمین پر ٹھہری ہوئی اور یا ریل رکی ہوئی ہو تو رکوع وسجود کرنا چاہیے اور قیام بھی کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کشتی اور ریل سے باہر اتر کر نماز پڑھے تاکہ رکوع وسجود اور قیام وغیرہ ارکان اچھی طرح ادا ہو سکیں اگر باہر نکل کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو مثلاً ریل اتنی نہیں ٹھہرتی کہ نماز پڑھ سکے تو پھر بوجہ مجبوری ریل ہی میں پڑھے۔

**مسئلہ:** ایک مسافر اور مقیم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور دونوں چاہتے ہیں کہ اس قضا شدہ نماز

کو جماعت سے ادا کریں تو چاہیے کہ مسافر امامت کرے اور مقیم اقتدا کرے اگر مقیم امامت کرے اور مسافر اقتدا تو مسافر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر دو آدمی یعنی مقیم اور مسافر وقت نماز جماعت سے پڑھیں تو دونوں کی امامت صحیح ہوگی خواہ مقیم امامت کرے یا مسافر۔

## بیمار کی نماز کا بیان

جہاں اسلام نے حالت سفر میں نمازنی کے لئے بقدر ضرورت آسانیاں رکھی ہیں جن کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، وہاں حالت مرض میں بھی آسانیاں پیدا کر دی ہیں تاکہ نماز نہ پڑھنے کا کوئی تساہل آمیز اور نامعقول عذر باقی نہ رہے۔ شریعت نے مریض کے لئے جو آسانیاں رکھی ہیں وہ تین ہیں:

1۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو فرض نماز قیام کی مقدار بھی نہیں کھڑا ہو سکتا اور کھڑا ہونے سے واقعی ہی ضرر پہنچتا ہے یعنی مرض بڑھ جاتا ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہے یا مرض کے دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہے تو ان سب صورتوں میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یہ اس صورت میں اجازت ہے کہ مریض بالکل ہی کھڑا نہ ہو سکے اور اگر مریض بالکل سیدھا نہ کھڑا ہو سکتا ہو یا زیادہ دیر تک نہ کھڑا رہ سکتا ہو، جتنا بھی کھڑا ہو سکے اور جتنی دیر کھڑا رہ سکے اتنی ہی دیر قیام کرنا واجب ہے مثلاً ایک مریض تکبیر تحریمہ یا ایک آیت کی مقدار کھڑا ہو سکتا ہے زیادہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو اس کو اتنا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اگر لاشی کے سہارے سے یا دیوار کی ٹیک لگا کر یا کسی آدمی پر بوجھ ڈال کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اسی طرح کھڑا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں تک اور جتنا ممکن ہو کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ جب کوئی امکانی صورت ہی نہ ہو تو پھر بوجہ اتم مجبوری قیام ترک کر کے بیٹھ کر نماز پڑھے۔

2۔ اگر کوئی شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہ کر سکتا ہو افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز

پڑھے اور رکوع و سجود کے لئے اشارہ کرے کیونکہ قیام کی صورت میں رکوع و سجود کے لئے اشارہ کرنا نسبتاً دشوار ہے۔ اس لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع و سجود کے لئے اشارہ کرنا جائز

اور افضل ہے۔

3۔ اگر کوئی شخص قیام اور رکوع و سجود پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر سر کے اشارے سے نماز پڑھے رکوع میں ذرا کم اور سجدہ میں ذرا زیادہ جھکے۔ اگر سیدھا بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو آدمی دیوار کے سہارے بیٹھ کر نماز پڑھے الغرض جہاں تک ممکن ہو بیٹھ کر نماز پڑھے قعود پر قادر ہوتے ہوئے لیٹ کر نہ پڑھے۔

4۔ اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوئی امکانی صورت نہ ہو تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ بیمار کے لئے شریعت نے یہ چار سہولتیں رکھ کر بیماری کے تمام حیلے بہانوں کا قلع قمع کر دیا ہے اور اس حالت میں بھی اس فرض اتم کو اٹل بنا دیا ہے۔

### لیٹ کر نماز پڑھنے کی ترکیب

ترکیب یہ ہے کہ چت لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں کر لے مگر پاؤں موڑے رکھے، پھیلائے نہیں۔ کیونکہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر وہ ہے۔ مذکورہ قاعدہ کے مطابق چت لیٹ کر سر کے نیچے کوئی اونچا سا تکیہ رکھ لے۔ تاکہ رکوع و سجود اور قعدہ سے کسی قدر مشابہت پیدا ہو جائے۔ پھر سر کے اشارے سے رکوع و سجود کر لے۔

اگر اس طرح چت لیٹ کر نہ پڑھ سکے تو دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھے۔ اگر دائیں کروٹ سے بھی نہ لیٹ سکے تو بائیں کروٹ پر پڑھ لے۔ مگر بہر صورت منہ قبلہ کی طرف رہے۔ اگر منہ قبلہ کی طرف نہ رہ سکے اور اس طرف منہ پھیرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر مجبوری ہے جدھر کو منہ ہو اسی طرف پڑھ لے۔

### نماز کب ساقط ہوتی ہے؟

جتنی صورتیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بیٹھ کر، لیٹ کر اور سر کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے یہ فرض معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نہیں تو جب تک جان ہے اس وقت تک زبان تو ہلا سکتا ہے۔ اس حالت تک بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ البتہ جب انسان سر کے اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اب اگر مریض کی

ایسی شدت مرض ایک رات دن سے کم رہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے اور اگر ایسی حالت میں ایک دن رات سے زیادہ مدت گزر جائے تو پھر فوت شدہ نمازیں بھی معاف ہیں۔

بے ہوش اور مجنون آدمی کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی اگر بے ہوشی یا جنون کی حالت ایک دن رات طاری رہے تو فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے اگر اس سے زیادہ مدت گزر جائے تو قضا بھی معاف ہے لیکن یہ اس صورت میں حکم ہے کہ بے ہوشی، بیماری یا کسی قدرتی سبب کی وجہ سے ہو۔ اگر نشہ کی وجہ سے سرمستی و مدہوشی ہو تو خواہ کتنی ہی مدت تک رہے۔ نمازوں کی قضا واجب ہوگی۔

**مسئلہ:** اگر بے ہوش مریض کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے کبھی کبھی افاقہ بھی ہو جاتا ہے تو اس افاقہ کی دو صورتیں ہوں گی یا تو افاقہ کا کوئی وقت مقرر ہوگا یا اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہ ہوگا۔ اول صورت میں فوت شدہ نمازوں کی قضا واجب ہے۔ مثلاً ایک مرض ایسا ہے کہ اس کو صبح کے وقت افاقہ ہو جاتا ہے تو ایسے مریض پر قضا واجب ہے اور دوسری صورت میں قضا معاف ہے۔ مثلاً کبھی صبح کو افاقہ ہو جاتا ہو اور کبھی شام کو تو ایسے مریض پر قضا واجب نہیں۔

**مسئلہ:** اگر مریض قراءت، تسبیح اور تشہد پڑھنے سے بھی عاجز ہو تو بوجہ مجبوری ان کو ترک کر دے۔

**مسئلہ:** اگر مریض خود رکعتوں اور سجدوں کو شمار نہ کر سکتا ہو تو کسی دوسرے شخص کو پاس بٹھا لے اور مریض کو وہ شخص یاد دلائے۔

بیمار یا حاملہ عورت اگر کسی اونچی چیز کو سجدہ کے لئے زمین پر سامنے رکھ لے تو جائز ہے اور اگر وہ چیز کسی آدمی کے ہاتھ پر رکھی ہو تو جائز نہیں، اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔

اگر کسی کی پیشانی پر زخم ہو اور پیشانی پر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو صرف ناک پر سجدہ کر لے اس صورت میں اشارہ سے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر سجدہ کے لئے نہ جھک سکتا ہو تو پھر اشارہ سے سجدہ کر لے۔



## کسی جانور کی سواری پر فرض اور واجب نماز کا حکم

اگر کوئی شخص کسی جانور کی سواری پر ہو تو اس پر فرض اور واجب نمازیں مثلاً عیدین، نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت جائز نہیں۔ یعنی سواری پر فرض و واجب نمازیں نہیں پڑھی جاسکتیں۔ مگر ضرورتاً مثلاً سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں کسی چور یا ڈاکو کا ڈر ہے کہ میرے نفس کو یا جانور کو یا کپڑے کو نقصان پہنچے گا یا کسی درندے کا خوف ہے یا زمین پر کچھڑ ہے، یا جانور سرکش ہے کہ پھر اس کا قابو میں آنا مشکل ہے یا اس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہے تو ان سب صورتوں اور ضرورتوں میں فرض و واجب نمازوں کا سواری پر پڑھنا جائز ہے۔

سجدہ تلاوت سواری پر وہ جائز نہیں جو زمین پر واجب تھا۔ اگر سواری پر تلاوت کرتے ہوئے واجب ہو تو وہ جائز ہے۔

یہی حکم محمل میں نماز پڑھنے کا ہے یعنی اس میں فرض و واجب نمازیں جائز نہیں خواہ جانور چل رہا ہو یا کھڑا ہو۔ ہاں اگر محمل کے نیچے ایسی ٹیک لگادی گئی ہو جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو محمل میں کھڑے ہو کر نماز جائز ہے۔ اس وقت وہ زمین کے حکم میں ہے۔ (۱)

## کشتی میں نماز کا حکم

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو کشتی جاری ہو اس میں بلا عذر بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز صحیح ہے اور صاحبین کے نزدیک بیٹھ کر صحیح ہے مگر عذر کی حالت میں۔ جیسے دوران سر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ اس امر پر ان تینوں حضرات کا اتفاق ہے۔ کشتی میں اشارہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جو کشتی پانی کے اندر ٹھہری ہوئی ہو اور ہوا کی شدت سے ہلتی ہو تو وہ مذکورہ بالا احکام کے اعتبار سے جاری کشتی کے حکم میں ہے اور اگر ہوا سے ہلتی نہ ہو تو ٹھہری ہوئی کشتی کے حکم میں ہے اور اگر کنارے پر بندھی ہوئی ہو تو اس میں بالا جماع بیٹھ کر نماز جائز نہیں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے

بشرطیکہ کشتی کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا ہوا ہو۔ اگر اس کا کوئی حصہ بھی زمین پر لگا ہوا نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی۔ ہاں اگر کشتی سے باہر نکل کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر صحیح ہوگی۔ (1)

اگر کوئی شخص کشتی میں تکبیر افتتاح کے وقت قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز شروع کرے اور کشتی کا رخ قبلہ سے بدل جائے تو وہ بھی دوسری طرف پھر جائے اور قبلہ کی طرف متوجہ رہے۔

## سجدہ سہو کا بیان

سہو و نسیان سے کوئی بشر خالی نہیں۔ چنانچہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ لہذا انسان سے کبھی نہ کبھی غلطی لامحالہ ہو ہی جاتی ہے۔ اس لئے فقہ کی کتابوں میں بسلسلہ بیان نماز سہو کا بھی ایک باب مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق تفصیلی احکام بیان کئے گئے ہیں۔

سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟

سجدہ سہو دو صورتوں میں واجب ہوتا ہے:

اول یہ کہ واجبات نماز میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص وتر میں دعاء قنوت پڑھنا یا تعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھنا بھول گیا یا عیدین کی تکبیریں بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔

دوسرے یہ کہ کسی فرض میں تاخیر ہو جائے۔ (1)

ذخیرہ میں ہے کہ سجدہ سہو چھ باتوں سے واجب ہوتا ہے:

اول، کسی رکن کو مقدم کر دینے سے مثلاً قراءت سے پہلے رکوع کر لینا یا رکوع سے قبل سجدہ کرنا۔

دوم، کسی رکن میں تاخیر کرنا، مثلاً کوئی سجدہ ترک کر دیا یا دوسری رکعت میں یاد آیا اور وہ سجدہ ادا کر لیا۔

سوم، قیام میں تاخیر کرنا مثلاً رکعت اولیٰ کے سجدے کرنے کے بعد بیٹھ گیا۔ بعد میں یاد آیا اور کھڑا ہو گیا تو چونکہ قیام میں تاخیر ہو گئی اس لئے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔

چہارم، کسی رکن کو دوبارہ ادا کرنا مثلاً دو رکوع کر لینا یا تین سجدے۔

پنجم، کسی واجب میں تغیر کر دینا مثلاً جہری نمازوں میں آہستہ آہستہ قراءت کرنا یا سری نمازوں میں بلند آواز سے قراءت کرنا۔

ششم، کسی واجب کو ترک کر دینا مثلاً قعدہ اولیٰ کا ترک کر دینا۔  
 علاوہ ازیں سجدہ سہو کی ضرورت اس وقت بھی ہوتی ہے جب کہ نماز میں شک پڑ جائے  
 کہ کوئی رکعت کم پڑھی ہے یا زیادہ۔ مختصر طور پر اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ فرض میں تاخیر ہو جانے یا  
 کسی واجب کو ترک کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔

### سجدہ سہو کا طریقہ

سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کا جواز بھی احادیث سے ثابت ہے اور سلام سے قبل بھی  
 ثابت ہے۔ اسی بنا پر ائمہ میں سجدہ سہو کے محل کے بابت اختلاف ہے یعنی اس بارے میں  
 سجدہ سہو سلام سے قبل کرنا چاہیے یا بعد میں۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک  
 اس کا محل سلام پھیرنے کے بعد ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے  
 نزدیک سلام پھیرنے سے قبل ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صورت ہے کہ  
 اگر نماز میں سہو کوئی زیادتی ہوئی تو سجدہ سہو بعد میں کرنا چاہیے اور اگر سہو کچھ نقصان یا کمی  
 ہوئی ہے تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔

سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات پڑھنے کے بعد صرف داہنی طرف سلام پھیر کر دو  
 سجدے کرے ان کے بعد تشهد پڑھ کر سلام پھیرے۔ اگر کسی نے سلام پھیرے بغیر سہو کے  
 سجدے کر لئے تو بھی جائز ہے۔ مگر بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے لہذا  
 سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدے کرنے چاہئیں۔

نماز کے واجبات اگرچہ پہلے بیان کئے جا چکے ہیں لیکن آسانی اور حفظ کے لئے دوبارہ  
 لکھے جاتے ہیں کیونکہ سجدہ سہو کا دارومدار بہت حد تک انہی پر ہے۔

تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ الحمد شریف پڑھنا، پھر کوئی دوسری سورت ملانا، فرض  
 کی پہلی دو رکعتوں میں اور تر و نفل کی ہر ایک رکعت میں واجب ہے، الحمد کا سورت سے  
 پہلے پڑھنا اور ہر رکعت میں سورۃ سے پہلے ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، الحمد اور سورۃ کے  
 درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہونا، قراءت کے بعد موصلاً رکوع کرنا، ایک سجدہ کے بعد دوسرا  
 سجدہ کرنا، تعدیل ارکان یعنی رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ میں کم از کم اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں

ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، قومہ کرنا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ کرنا یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، قعدہ اولیٰ کرنا اور اس میں تشہد پر کچھ اضافہ نہ کرنا، دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، دعائے قنوت پڑھ کر تکبیر کہنا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں چھ تکبیریں کہنا، ہر نماز میں امام کو جہر سے قراءت کرنا اور غیر جہری نماز میں آہستہ قراءت کرنا، ہر نماز میں دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا، آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کرنا اور سہو نسیان واقع ہونے پر سجدہ سہو کرنا امام جب قراءت کرے تو مقتدی کا خاموش رہنا۔

نماز میں یہ تمام امور واجب ہیں اگر ان میں سے ایک چیز بھی رہ جائے تو اس کی تلافی کے لئے سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مگر یہ اس صورت میں ہے کہ ان میں سے کسی واجب کا ترک بھول کر ہوا ہو۔ اگر کسی نے قصداً کسی واجب کو ترک کیا تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہ ہوگی۔ نماز کا اعادہ کرنا یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔

اگر نماز کا کوئی فرض ترک ہو جائے تو اس کی تلافی بھی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی بلکہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے اگر نماز میں کوئی ایسا واجب ترک ہو جائے جو واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا وجوب خارج میں ہو تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں۔ مثلاً خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے مگر ترتیب کے موافق پڑھنا کے موافق پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں۔ اس لئے اس پر سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہوگا۔

سجدہ سہو واجب ہونے کی جو صورتیں ہیں، ہم نے ان کو بقدر امکان آسان کر کے لکھ دیا ہے اور ہر شخص نے ان کو دیکھ کر معلوم کر لیا ہوگا کہ فرض میں تاخیر ہونے اور واجب سہو ترک کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے واجبات نماز کو بھی دوبارہ لکھ دیا ہے، تاہم مزید آسانی کے لئے ہم ان صورتوں کو تفصیلاً درج کرتے ہیں۔

سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے

اگر فرض کی پہلی دو رکعتوں میں اور وتر و نفل کی کسی رکعت میں سورۃ الحمد کی ایک آیت

بھی رہ جائے یا کسی شخص نے سورت سے پہلے دوبارہ الحمد پڑھی یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو الحمد پر مقدم کیا یا الحمد کے بعد ایک یا دو چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور یاد آنے کے بعد پھر تین آیتیں پڑھ کر رکوع کیا تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔

اگر کسی شخص نے الحمد کے بعد سورت پڑھی اور اس کے بعد پھر الحمد پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی پچھلی رکعتوں میں فاتحہ کی تکرار سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر پہلی رکعتوں میں الحمد کا زیادہ حصہ پڑھ لیا تھا پھر اس کا اعادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔

اگر کسی شخص نے فرض کی پچھلی رکعتوں میں سورت ملائی تو سجدہ واجب نہیں۔ اسی طرح اگر پچھلی رکعت میں الحمد نہ پڑھی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر رکوع وجود اور قعدہ میں قرآن پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر کوئی شخص الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی اور بقدر ایک آیت کے پڑھ لی۔ اس کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ میں نے الحمد نہیں پڑھی تو اس کو چاہیے کہ الحمد پڑھ کر سورت پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر کسی نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کرنا بھول گیا تو سجدہ تلاوت کر کے پھر سجدہ سہو کرے۔

**ہدایت:** جو افعال نماز میں مکرر ہیں ان میں ترتیب رکھنا واجب ہے اگر ان میں سے کوئی فعل خلاف ترتیب ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مثلاً اگر قراءت سے پہلے رکوع کر دیا اور رکوع کے بعد قراءت نہیں کی تو نماز فاسد ہوگئی۔ کیونکہ فرض ترک ہو گیا اور اگر رکوع کے بعد قراءت تو کی مگر پھر رکوع نہیں کیا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہوگئی۔

کیونکہ قراءت کی وجہ سے رکوع جاتا رہا اور اگر بقدر فرض قراءت کر کے رکوع کیا مگر واجب قراءت ادا نہیں کی مثلاً الحمد نہیں پڑھی یا سورت نہیں ملائی تو اس صورت میں یہ حکم ہے کہ رجعت اختیار کرے اور الحمد و سورت پڑھ کر رکوع کرے اور پھر سجدہ سہو کرے اور اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو نماز جاتی رہی کیونکہ پہلا رکوع جاتا رہا۔

اگر کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا اور آخر میں یاد آیا تو اس بارے میں یہ حکم ہے کہ سجدہ کرے، پھر التحیات پڑھے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سے پہلے جو افعال کئے ہیں وہ باطل نہ ہونگے۔

اگر کوئی شخص تعدیل ارکان بھول گیا تو سجدہ سہو واجب ہے اگر کوئی فرض نماز میں قعدہ اولیٰ بھول گیا تو جب تک سیدھا نہ کھڑا ہو رجعت اختیار کرے۔ یعنی بیٹھ جائے اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے رجعت اختیار کی تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔

### مسائل متفرقہ

اگر مقتدی بھول کر کھڑا ہو گیا تو اس کے لئے واجب ہے کہ رجعت اختیار کرے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا اور تیسری رکعت یا چوتھی رکعت یا پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ ادا نہ کیا ہو جو زائد پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو رجعت اختیار کرے اور سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے گی۔ مثلاً ظہر کی نماز میں کوئی شخص قعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا اور پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہوتے ہی سجدہ سہو واجب ہو گیا اس کو چاہیے کہ جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو رجعت اختیار کرے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔

مسئلہ: اگر کسی نے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد صرف اتنا پڑھا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ تو سجدہ سہو واجب ہو گیا (1) یہ سجدہ سہو اس لئے واجب نہیں ہوا کہ اس نے درود شریف پڑھا بلکہ اس لئے واجب ہوا کہ تیسری رکعت کے لئے بعد تشہد کے فوراً قیام کرنا فرض تھا اس میں تاخیر ہوئی اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ میں صرف اتنی دیر بھی خاموش رہے جتنی دیر میں اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ پڑھتے ہیں تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اس مسئلے پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے پر سجدہ سہو کا حکم دینا مناسب نہیں کیونکہ اس سے درود شریف کی توہین ہوتی ہے ان کا یہ جذبہ محبت رسول تو قابل قدر ہے مگر یہ جذبہ واقعات و احکام کی نوعیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے وہ غلطی پر ہیں۔ ان کو اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص رکوع و سجود اور قومہ میں قرآن مجید پڑھے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے حالانکہ

قرآن مجید کلام الہی ہے تو کیا اس سے کلام الہی کی توہین ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ اسی پر درود شریف کو بھی قیاس کر لینا چاہیے کہ جب سجدہ سہو سے کلام الہی کی توہین نہیں ہوتی تو بدرجہ منزل درود شریف کی بھی توہین نہ ہوگی۔

**مسئلہ:** اگر فرض نماز کے پہلے دوگانہ میں بحالت قیام الحمد سے پہلے بھول کر تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور اگر الحمد کے بعد پڑھا تو واجب ہے۔ کیونکہ الحمد کے بعد اس چیز کا محل ہے جس کا پڑھنا الحمد کے بعد واجب ہے اس واجب میں تاخیر ہوئی لہذا سجدہ سہو واجب آیا اور فرض نماز کے آخر دوگانہ میں بحالت قیام تشہد پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور اگر یہ قیام و تریا سنت یا نفل کا ہو تو خواہ پہلا دوگانہ ہو یا پچھلا ہو، بہر حال اس کا وہی حکم ہے جو فرضوں کے پہلے دوگانہ کا ہے یعنی اگر الحمد سے قبل تشہد پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور اگر بعد میں پڑھا تو واجب ہے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر قعدہ اولیٰ کو بھول کر بغیر قعدہ کئے ہوئے تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اگر سیدھا نہ کھڑا ہوا ہو بیٹھنے کے قریب ہو اور اگر یاد آجائے تو لازمی طور پر بیٹھ جائے اس صورت میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا تو اب نہ بیٹھے بلکہ اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ حکم امام اور منفرد دونوں کا ہے اور مقتدی سیدھا کھڑا ہونے کے بعد وجوہاً بیٹھ جائے گا۔ اگر نہ بیٹھے گا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ امام کی اقتداء اس کے ذمہ بہر صورت لازم ہے۔ (2)

**مسئلہ:** اگر قعدہ اخیر کو بھول کر کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لازم ہے کہ رجعت کرے یعنی بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو کرے (3) اگر پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہو تو ایک رکعت اور ملا کر پوری چھ رکعتیں کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے یہ چھ کے چھ نفل ہو جائیں گے۔ کیونکہ قعدہ اخیر فرض تھا اس فرض کا تارک ہوا۔ (4) اگر قعدہ اخیرہ میں بقدر تشہد پڑھ کر پھر پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا تو اس صورت

2- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 127

1- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 127

4- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 129

3- فتاویٰ عالمگیری صفحہ 129



میں بھی اگر پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہو تو بیٹھ جانا واجب ہے اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا تو پھر پوری چھ کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اس صورت میں چار فرض اور دو نفل ہو جائیں گے۔ (1)

اس فرق کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قعدہ اخیرہ ترک کر کے پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا ہے تو چھ پوری کرنے کی صورت میں سب رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور قعدہ اخیرہ تشہد کر کے پھر پانچویں کے لئے کھڑا ہوا ہے تو چھ پوری کرنے کی صورت میں چار فرض ہو جائیں گی اور دو نفل۔

**مسئلہ:** مقتدی سے اگر کوئی واجب ترک ہو گیا ہو تو سجدہ سہو نہ کرنے کیونکہ اس کے لئے امام کی متابعت ضروری ہے اور بحالت متابعت سجدہ سہو کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ اگر امام کے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا تو امام کی مخالفت لازم آئے گی اور اگر بعد میں کرے گا تو سجدہ سہو نماز سے فارغ وقت میں ہوگا جو معتبر نہیں ہے (غایۃ الاوطار)

**مسئلہ:** مسبوق اپنی بقیہ نماز میں منفرد کی طرح ہے بقیہ نماز میں کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہے اور اگر امام کے ساتھ سہو ہوا ہے تو اتباع امام میں سجدہ سہو کرے اور اگر اس حصہ نماز میں صرف اسی کو سہو ہوا ہو جو امام کے پیچھے پڑھ رہا تھا تو اس کا حال مقتدی مدرک کی طرح ہے یعنی اس پر سجدہ سہو لازم نہیں۔ (2)

**مسئلہ:** مسبوق نے اگر امام کا اقتداء دوسرے سجدہ سہو میں کی پہلا سجدہ جو امام کر چکا ہے وہ اس سے جاتا رہا تو اب دوسرا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اس طرح اگر سہو کے دونوں سجدے کرنے کے بعد اس نے امام کی اقتداء کی تب بھی سجدہ سہو نہ کرے (3) لاحق سے اگر سہو ہو جائے تو وہ بھی سجدہ سہو نہ کرے کیونکہ امام کی پیروی میں لاحق مقتدی کی طرح ہے (4) ہاں اگر لاحق کے امام کو سہو ہو گیا اور اس نے سجدہ کیا تو پھر لاحق بھی سجدہ کرے مگر اپنی نماز کے آخر میں کرے کیونکہ امام نے بھی اپنی نماز کے آخر میں کیا ہے اور اگر امام کے ساتھ

کرے گا تو تب بھی دوبارہ لازم ہے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر امام کو سہو ہونے کے بعد حدث ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ مسبوق کو خلیفہ بنا دیا تو اس مسبوق کا چاہیے کہ سجدہ کرنے کے لئے کسی مدرک کو اپنی جگہ قائم کر دے تاکہ وہ امام کی بجائے سجدہ سہو کرے اور اگر مقتدیوں میں کوئی شخص مدرک نہ ہو تو سب کے سب اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے بعد علیحدہ علیحدہ سہو کریں۔ (2)

**مسئلہ:** اگر امام آخری قعدہ کر لینے کے بعد پانچویں رکعت کو کھڑا ہو گیا تو مقتدیوں کو چاہیے کہ امام کو اس سہو پر متنبہ کریں۔ یا تو اللہ اکبر آواز سے کہہ دیں یا التحيات۔ اگر سہو پر آگاہ کرنے کے بعد بھی امام نہ بیٹھے تو اس کے بیٹھنے کا انتظار کریں۔ اگر امام پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے بیٹھ جائے تو امام کے ساتھ سلام پھیر دیں ورنہ مقتدیوں پر اس حال میں امام کی متابعت واجب نہیں سب سلام پھیر کر علیحدہ ہو جائیں اور اگر امام کی اقتدا کرتے رہیں تب بھی درست ہے یعنی پانچویں رکعت میں مقتدیوں کو امام کی متابعت کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے بصورت اقتدا اگر امام نے چھٹی رکعت ملائی تو یہ بھی چھٹی رکعت کر لیں سب کے چار فرض اور دو نفل ہو جائیں گے اور اگر امام نے پانچویں رکعت کر کے نماز قطع کر دی تو امام پر دو رکعتوں کی قضا واجب نہیں مگر مقتدیوں پر قضا لازم ہے۔ (3)

**مسئلہ:** اگر امام سہو پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور مقتدی بھی سہو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر امام کو پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ گیا مگر مقتدیوں کو سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا اور وہ سجدہ کرنے کے بعد قعدہ میں لوٹے تو سب کی نماز صحیح ہو گئی کیونکہ اس صورت میں امام سے مقتدیوں کا ایک سجدہ زائد ہوا اور مقتدی کی سہو ایک رکن کی زیادتی امام کے خلاف مفسد نماز نہیں ہاں اگر امام رکوع سے پہلے قعدہ میں لوٹ آیا اور مقتدی رکوع و سجود کر کے لوٹے تو دو رکعتوں کی زیادتی کی وجہ سے سب کی

نماز فاسد ہو جائے گی۔ (غایۃ الاوطار) یعنی اگر امام کے خلاف مقتدیوں سے ایک رکن کی زیادتی ہوئی ہو تو یہ زیادتی مفسد نماز نہیں اور اگر دو رکنوں کی زیادتی ہوئی ہے تو مفسد نماز ہے۔

مسئلہ: اگر مسافر کو دو رکعتوں کے اندر سہو ہو گیا اور اس نے سجدہ سہو کر لیا پھر سجدہ سہو کے بعد قیام کی نیت کر لی تو دوبارہ سجدہ سہو کرنا چاہیے کیونکہ پہلا سجدہ سہو نماز کے اندر ہوا ہے اور سجدہ وسط نماز میں نہیں ہوتا بلکہ ختم نماز میں ہوتا ہے لہذا سجدہ سہو اول کا لعدم ہو گیا۔ (1)

### ضروری یادداشتیں و ہدایتیں

ہم نے سجدہ سہو کا طریقہ پہلے بیان کر دیا ہے لیکن چونکہ وہ ذرا مجمل ہے اس لئے مزید تفصیل کے ساتھ اسے دوبارہ درج کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قعدہ تشہد، درود اور دعائیں چیزوں سے فارغ ہو کر داہنی طرف سلام پھیر دے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جھک جائے اور سجدہ میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھ کر اَللَّهُ اَكْبَرُ کہہ کر جلسہ کر لے، پھر اَللَّهُ اَكْبَرُ کہہ کر دوسرا سجدہ کر لے اس کے بعد قعدہ میں بیٹھ کر دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دے۔

1۔ اگر کسی سے ایک نماز میں کئی واجب ترک ہو جائیں مثلاً الحمد شریف پڑھنا اور قعدہ اولیٰ کرنا دو واجب بھول جائے تو ایک ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یہ نہیں کہ جتنے واجب ترک ہوں اتنے ہی سجود سہو بھی واجب ہو جائیں سجدہ سہو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے اور چند اسباب کا تدارک ایک سجدہ سہو سے ہی ہو جاتا ہے۔ (2)

2۔ اگر فرضوں کے آخری دو گانہ میں کسی نے الحمد کے ساتھ سورت ملائی تو سجدہ سہو

واجب نہیں۔ (3)

3۔ تعدیل ارکان اگر سہو ترک ہو جائے تو سجدہ واجب ہوگا۔ (4) اور اگر عمد ترک کر

دیا جائے تو سخت گنہگار ہوگا۔

2۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 126

1۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 130

4۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 127

3۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 126

- 4۔ سجدہ سہو کا حکم فرض واجب سنت اور نفل سب نمازوں میں یکساں ہے۔ (1)
- 5۔ مقتدی سے اگر کسی واجب کا ترک ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں۔
- 6۔ اگر امام مسافر کو سہو ہوا ہو تو مقتدی مقیم کو بھی کرنا چاہیے۔ (2)
- 7۔ اگر کسی کو سجدہ سہو میں ہی سہو ہو گیا ہو تو مزید سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سجدہ سہو میں سہو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو سہو کا سلسلہ ہی لائقنا ہی ہو جائے۔ (3)
- 8۔ سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے یعنی سجدہ سہو کر کے دوبارہ التحیات ضرور پڑھنی چاہیے ورنہ واجب کا تارک ہو گا باقی التحیات کے علاوہ درود پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے خواہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اگر نہ پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی۔
- 9۔ اگر کوئی شخص قراءت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا اور اتنی دیر توقف کیا جتنی دیر میں تین دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہو گیا کیونکہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی۔
- 10۔ اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے اگرچہ مقتدی سہو ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا ہو اور اگر امام سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا تو مقتدی سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔

11۔ مسبوق کو بھی امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے اگرچہ اس کے شامل ہونے سے پہلے سہو واقع ہوا ہو اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا اور اپنی بقیہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے اور اگر بقیہ نماز میں مسبوق سے بھی کوئی سہو ہو جائے تب بھی ایک ہی سجدہ سہو کرنا کافی ہے اس اصول کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خواہ اسباب وجوب چند ہوں یا ایک سب کا تدارک ایک سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے۔

12۔ مذکورہ بالا مسئلہ کی دوسری صورت بھی ہے وہ یہ کہ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا پھر اپنی بقیہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور اس میں بھی سہو واقع ہو گیا تو اس صورت میں اسے اپنے سہو کے لئے بھی سجدہ کرنا چاہیے۔

13۔ اگر مسبوق جلدی سے کھڑا ہو گیا اور امام نے سجدہ سہو کیا تو جب تک مسبوق نے اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ کر امام کے ساتھ سجدہ کرے اور پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پوری کرے اگر اس نے رجعت اختیار نہ کی اور بغیر سجدہ سہو کے اپنی نماز پڑھ لی تو آخر میں سجدہ سہو کرے ان دونوں صورتوں کے علاوہ مسئلہ کی تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اس رکعت کا سجدہ بھی مسبوق نے کر لیا جو سجدہ کئے بغیر کھڑا ہوا تھا تو اب لوٹ کر نہ بیٹھے اگر رجعت کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

14۔ امام کے سہو سے لاحق پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔

### شک و ظن اور وہم کے مسائل

پہلے سہو، شک، ظن اور وہم وغیرہ کی تعریف اور فرق معلوم کر لیجئے۔ سہو کے متعلق اتنا جان لیجئے کہ سہو بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اب شک و ظن اور وہم کی تعریف اور ان کا فرق سنئے۔

جو تصور اور خیال انسان کے دل میں آتا ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں: اول یہ کہ اس کی صحت اور غلطی دل میں ایک سی ہو، نہ اس کی تصدیق کو غلبہ ہو اور نہ تکذیب کو، تصدیق و تکذیب کی دونوں طرفیں برابر ہوں، اس حالت کا نام شک ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی صحت اور غلطی میں سے ایک کا دل پر غلبہ ہو اور ایک کو دوسرے پر رجحان ہو لیکن ساتھ ہی اس کی ضد اور نقیض کے امکان سے بھی انکار نہ ہو تو اس حالت کو ظن کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کو دوسرے لفظوں میں سمجھیے تاکہ ساتھ ہی وہم کی تعریف بھی ہو جائے۔ شک کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں تردد کرنے کو کہتے ہیں بشرطیکہ کسی جانب گمان غالب نہ ہو اگر گمان غالب ہوگا تو گمان کو ظن اور مغلوب جانب کو جو اس کی ضد و نقیض ہے۔ وہم کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس کی صحت اور غلطی میں سے کسی جانب کو دل پر ایسا غلبہ ہو کہ اس کی ضد و نقیض کے امکان سے بھی انکار ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں جو خیال و تصور آتا ہے اس کی یہی چار حالتیں ہوتی ہیں جن کو وہم نے اوپر بیان کیا۔

سہو و شک دونوں کا حکم ایک ہے یعنی فقہاء کے نزدیک سہو و شک دونوں حکم میں برابر

ہیں۔ جس طرح سہو سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے اسی طرح شک سے بھی واجب ہو جاتا ہے شک کی سب صورتیں وجوب سجدہ میں برابر ہے (1) اب شک کی مختلف صورتوں کے متعلق چند ضروری احکام بیان کئے جاتے ہیں۔

**مسئلہ:** اگر کسی کو نماز میں شک ہو کہ معلوم نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اس شک کی دو صورتیں ہیں: اول یہ کہ وہ شک کرنے کا عادی ہے اور شکی مزاج کا آدمی ہے اس کو اکثر ایسا ہی شک ہوتا رہتا ہے دوسری صورت یہ کہ اس کو صرف پہلی مرتبہ اتفاق سے شک ہوا ہے۔ پہلی صورت میں یعنی شکی مزاج والے کے لئے حکم ہے کہ وہ رکعتوں کی کم تعداد اختیار کرے۔ مثلاً چار رکعت والی نماز میں اسے شک ہوا کہ نہ معلوم میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تین یا چار تو اسے تین رکعتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ کم مقدار ہے اگر پہلی رکعت میں شک ہوا کہ یہ اول ہے یا دوسری تو اسے رکعت اول ہی مقرر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں غالب گمان اول ہونے کا ہے اور اس رکعت کے بعد قعدہ کر لے کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے جس رکعت کو اول ٹھہرایا ہے وہ اول نہ ہو۔ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت کے بعد بھی قعدہ ضروری ہے پھر دوسری رکعت کا بھی قعدہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ جس رکعت کو اس نے اول مانا ہے وہ اول نہ ہو اور پہلا قعدہ بے محل ہوا ہو۔ لہذا یہ دوسرا قعدہ بر محل ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس تیسری اور چوتھی رکعت کے بعد بھی قعدے کرے گا اس صورت میں چار قعدے ہوں گے مگر کوئی قعدہ فرض یا واجب ترک نہ ہوگا۔ پھر آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز صحیح ہو جائے گی (2) دوسری صورت کے متعلق یعنی اگر پہلی مرتبہ شک ہوا ہو تو یہ حکم ہے کہ وہ از سر نو نماز پڑھے (3)۔

**نماز کے اندر بے وضو ہونے کا شک اور اس کا حکم**

مذکور بالا حکم رکعتوں کے شک کے بارے میں تھا۔ اب بے وضو ہونے کے شک کا حکم سنئے۔ اگر کسی کو نماز کے اندر شک ہوا کہ میں بے وضو ہوں تو اسی شک کی حالت میں ہی نماز

پڑھتا رہے اس شک کی وجہ سے نماز کو قطع نہ کرے یہ اس وقت تک حکم ہے جب شک ہی شک رہے اگر یہ شک یقین سے تبدیل ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں بے وضو ہوں تو اس کو فوراً نماز قطع کر دینی چاہیے اور پھر وضو کر کے از سر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر کسی شخص کو کسی رکن کے کرنے نہ کرنے کا تردد ہو اور کچھ دیر تک یہی سوچتا رہا دیر کے بعد اسے یقین ہوا کہ کر لیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو اسی یقین کے مطابق عمل کرے مگر اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ تردد توقف اتنی دیر رہا جتنی دیر میں تین بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہو گیا اور اگر اس سے کم تردد توقف کیا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔

**مسئلہ:** اگر وتر کی نماز میں شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری یا تیسری تو سب رکعتوں میں دعائے قنوت پڑھنی چاہیے اور رکعت کے بعد قعدہ بھی کرنا چاہیے نماز درست ہو جائے گی۔ (2)

**مسئلہ:** اگر نمازی بھولے سے دو رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور یہ خیال کر کے کہ چار رکعتیں ہو گئیں، بعد میں یاد آئے کہ دو رکعتیں ہی ہوئی ہیں تو یاد آتے ہی فوراً کھڑا ہو جائے اور چار رکعتیں پوری کر کے اخیر میں بوجہ تاخیر سجدہ سہو کر لے یعنی بھول کر دو رکعت کے بعد سلام پھیر دینے سے نمازی نماز سے باہر نہیں ہوتا اسی طرح اگر مسبوق بھی بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو وہ بھی نماز سے خارج نہ ہوگا مگر مسبوق پر سجدہ سہو لازم نہ ہوگا۔ (3)

**مسئلہ:** اگر نماز کے بعد کوئی شخص خبر دے کہ تم نے بجائے چار رکعتوں کے تین یا پانچ رکعتیں پڑھی ہیں یا دو کی بجائے تین پڑھ لی ہیں تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے وہ یقیناً صحیح ہے یا غلط؟ جس طرف یقین ہو اسی طرف عمل کرے۔ یعنی اگر اس کی خبر غلط ہونے پر یقین ہے تو بس نماز ہو گئی، اس کے کہنے سے تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں اور اگر صحیح ہونے کا یقین ہے تو از سر نو نماز پڑھے۔ مگر احتیاط اسی میں ہے کہ بہر حال نماز از سر نو پڑھ لے۔ (4)

2۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 131

1۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 131

4۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 131

3۔ در مختار جلد 2 صفحہ 559

**مسئلہ:** اگر سہو کے بارے میں امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو جائے، ہر ایک کو اپنے قول کا یقین ہو تو اگر امام کو اپنی صحت نماز کا یقین ہے تو وہ اپنی نماز کا اعادہ نہ کرے لیکن مقتدی ضرور اعادہ کریں کیونکہ غلط گمان سے ان کی نماز فاسد ہوگئی۔ (1)

**فائدہ** اگر سلام پھیرنے اور نماز کو ختم کرنے کے بعد کچھ شک ہو تو نماز فاسد ہوگئی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ (2)

**سجدہ سہو کب ساقط ہوتا ہے؟**

امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم تینوں حضرات کا متفقہ بیان ہے کہ سجدہ سہو اس وقت واجب جبکہ وقت میں گنجائش ہو اور گنجائش نہ ہو مثلاً نماز فجر میں سہو ہوا ہو سلام پھیرنے کے بعد ابھی پہلا سجدہ بھی نہیں کیا تھا کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو سجدہ سہو ساقط ہو گیا اگر جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کا وقت بھی قریب الاختتام ہو تب بھی یہی حکم ہے یعنی وقت کی تنگی سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔

اسی بنا پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر مسبوق نے اپنی نماز بچانے کے لئے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا اور اس کا یہ خیال ہے کہ اگر میں سجدہ سہو کروں گا تو نماز جاتی رہے گی مثلاً نماز فجر میں آفتاب طلوع ہو جائے گا یا جمعہ کی نماز میں عصر کا وقت آجائے گا یا موزے پر سح کی مدت گزر جائے گی تو ان تینوں صورتوں میں امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کرنے میں کچھ کراہت نہیں۔



## سجدہ تلاوت کا بیان

### سجدہ تلاوت کی حقیقت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا کہ جب کلام مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھی جاتی ہے جس کو سن کر اور پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہے اور مسلمان ایسی آیت پڑھ کر یا سن کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور بصدافسوس یہ کہتا ہے کہ ہائے میری بدبختی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا اور وہ نہایت اطاعت شعاری کے ساتھ اس حکم کی تعمیل بجالایا مگر میں نے اس حکم کی تعمیل نہ کی اور میرے لئے دوزخ ہے۔ (1)

اس حدیث سے سجدہ تلاوت کی فضیلت اچھی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ رہی سجدہ تلاوت کی حقیقت تو اس کے متعلق امام شیخ عبدہ مصری اپنی کتاب فضیلة الصلوة میں لکھتے ہیں کہ:

سجدہ خواہ کسی قسم کا ہو وہ اظہار عبودیت کا آخری درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے جب کہ انسان اپنی روح، اپنے دل، اپنی تمام قوتوں، اپنے تمام جذبات اور اپنی تمام خواہشوں کے ساتھ حضرت حق جل و علا شانہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ جسے اس نے بلند کیا۔ اس کی ہر مخلوق کے آگے بلند ہو کر اسی کے حضور میں جھکایا جاتا ہے۔ زیادہ عام فہم انداز میں یوں سمجھئے کہ اگر کسی عاجز بندہ نے سجدہ کیا تو اس نے گویا اپنے رب کے حضور میں اپنی عاجزی و تذلل و انکسار کو ظاہر کیا اور باری تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو تسلیم کیا۔ ذرا غور کیجئے اور اپنی بصیرت سے کام لیجئے کہ اس انداز اطاعت میں کیسی شان عبودیت پنہاں ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کو خدا نے حقیقی جذبہ اطاعت اور پاکیزہ روح عطا فرمائی۔

جس وقت بندہ بارگاہ کبریائی میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس وقت باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندے! ہمیں تیرا یہ انداز اطاعت اور شان عبودیت بہت پسند

1- سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 559، دارکتب العلمیہ بیروت۔

ہے۔ مجھے عارف کامل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں سجدے کی شرائط کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لئے تو یہ پیشانی اور ناک زمین سے مس ہو جائے اور ہمارے لئے یہ کہ جب ایک بار سجدہ میں گر جائے تو پھر دوبارہ زمین سے نہ اٹھے۔ اللہ اللہ! سجدہ کے ذریعہ کس قدر شان عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں جہاں تک سجدہ کی حقیقت پر غور کرتا ہوں، میرے نزدیک اظہار اطاعت کا یہ بہترین ذریعہ ہے اور میں صداقت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام کے معنی اطاعت حق کے سوا اور کچھ نہیں ہیں پس مسلمانو! سن لو کہ اسلام کا زبانی اور رسمی دعویٰ بیچ اور بے قدر ہے جب تک عمل سے اطاعت ثابت نہ ہو۔ میں اسلام کا دعویٰ کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو اس کا عملی ثبوت دینا چاہیے اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہر کام میں حق تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھا جائے۔ اگر ہمارے طرز عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ بے حقیقت ہے اور ہم اس دعویٰ کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے۔

### سجدہ تلاوت کا حکم

جاننا چاہیے کہ سجدہ تلاوت حنفیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ سجدہ تلاوت ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر پڑھنے اور سننے سے واجب ہو جاتا ہے (کبیری) پس کافر پر، دیوانہ پر، نابالغ پر، حیض و نفاس والی عورت پر نہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے اور نہ سننے سے۔ ہاں اگر ان کے منہ سے کوئی دوسرا عاقل اور بالغ مسلمان سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے واجب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ سجدہ کی آیت رواں پڑھی جائے۔ اگر ہجاء کے ساتھ پڑھی جائے گی تو نہ پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہوگا اور نہ سننے والے پر۔ (1)

سجدہ کی آیت خواہ کسی زبان میں پڑھی جائے جیسے عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں بہر حال پڑھنے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر اس وقت واجب ہوتا ہے

کہ اس کو کوئی شخص بتا دے کہ یہ سجدہ کی آیت ہے۔ اسی طرح عربی نہ جاننے والے بھی اس وقت تک معذور ہیں جب تک ان کو معلوم نہ ہو۔ (1)

### سجدہ تلاوت کا طریقہ

اگر نماز سے خارج سجدہ تلاوت واجب ہوا ہے۔ یعنی خارج از نماز تلاوت کرتے وقت تو اس صورت میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے اور سجدہ میں تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اس ترکیب سے سجدہ تلاوت کی سنتیں اور مستحب امور بھی آجاتے ہیں۔ سجدہ تلاوت میں دو تکبیریں سنت اور دو قیام مستحب ہیں۔ یہ طریقہ اس وقت ہے کہ جب سجدہ خارج از نماز واجب ہوا ہو اور اگر سجدہ نماز میں ہی واجب ہوا ہے تو سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کرتے ہی فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں چلا جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ جائے۔

اگر پڑھنے والا ایک اور سننے والے کئی ہوں تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے اور سننے والے اس کے پیچھے صف باندھ کر سجدہ کریں۔ یہ بھی مستحب ہے کہ سامعین قاری سے پہلے سر نہ اٹھائیں۔ اگر کسی نے بھی اس کے خلاف کیا یعنی قاری کی متابعت نہیں کی اور اپنی جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بہر حال سجدہ ادا ہو گیا۔

اگر کسی نے بیٹھ کر سجدہ کر لیا یعنی قیام نہیں کیا نہ اللہ اکبر کہا اور نہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھا تب بھی سجدہ ہو جائے گا مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ طریقہ حضور سرور کائنات ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کے خلاف ہے۔ دوسرے اس میں سہولت پسندی بھی پائی جاتی ہے جو شان عبودیت کے خلاف ہے۔

اگر کوئی شخص تنہا سجدہ کرے تو سنت یہ ہے کہ تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ خود سن لے اور دوسرے بھی سن سکیں۔ اگر تکبیر آہستہ سے کہی تب بھی سجدہ ہو جائے گا۔

## سجدہ تلاوت میں پڑھنے کی دعا

سجدہ تلاوت میں عام طور پر وہی معروف سجدہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى اس کے علاوہ نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور حاکم وغیرہ نے ایک اور دعا بھی روایت کی ہے۔ اور وہ یہ ہے:

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ  
بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

”یعنی میرے چہرے نے اس ذات کے لئے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور

صورت دی، کان اور آنکھیں کھولیں اپنی قدرت اور طاقت سے“۔ (1)

اس دعا کو کئی مرتبہ پڑھے مگر طاق مرتبہ اس کے علاوہ دو ایک دعائیں اور بھی آئی ہیں جن کو ہم بخوف طوالت نظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ ایک دعا ضرور لکھ دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آج میں نے خواب دیکھا کہ گویا ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتا ہوں اور جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور یہ دعا پڑھی۔

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَ  
اجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِن  
عَبْدِكَ دَاوُدَ

”یعنی اے میرے اللہ! میرے لیے اپنے پاس اس سجدہ کے سبب سے ثواب لکھ اور مجھ سے اس کے سبب گناہوں کا بوجھ دور رکھ اور اس کو میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر اور اس کو مجھ سے قبول فرما جیسے تو نے اس کو اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا“۔ (2)

سجدہ تلاوت میں ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى“ پڑھنا کافی ہے لیکن وہ دعائیں جو آنحضرت ﷺ سے سجدہ میں پڑھنا ثابت ہوئی ہیں، ان کا پڑھنا بھی افضل ہے۔ بعض

علماء نے کہا ہے کہ سجدہ تلاوت میں اس آیت کا پڑھنا بہت ثواب ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۳﴾ (الاسراء)

اگر ان میں سے کچھ بھی نہ پڑھے محض سجدہ کر لے تب بھی جائز ہے۔

## سجدہ کی آیتیں

سارے قرآن مجید میں سجدہ کی چودہ آیتیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی چودہ آیتیں ہیں مگر فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک سجدہ سورہ ”ص“ کی جگہ دوسرا سجدہ سورہ ”حج“ کا ہے۔ سورہ ”ص“ میں ان کے نزدیک سجدہ مؤکدہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گیارہ سجدے ہیں ان کے نزدیک سورہ ”نجم“ اور اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿۱﴾ (انشقاق) میں اور اِقْرَأْ بِاسْمِ (علق: 1) میں سجدہ نہیں لہذا چودہ میں سے تین نکالنے کے بعد صرف گیارہ سجدے رہ گئے۔

ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چودہ سجدے یہ ہیں:

1۔ سورہ اعراف کی آخری آیت:

اِنَّ الَّذِيْنَ جند رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْوَنَهُ وَ

لَهُ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۳﴾ (اعراف)

”جو لوگ پاس ہیں تیرے رب کے بڑائی نہیں کرتے اس کی بندگی سے اور یاد

کرتے ہیں اس کی پاک ذات کو اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔“

2۔ سورہ رعد کی یہ آیت:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَظَلَمَتْهُمْ

بِالْعُدُوِّ وَالْاَصٰلِ ﴿۱۳﴾ (الرعد)

”اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں خوشی سے اور زور سے اور

ان کے سائے صبح اور شام۔“

3۔ سورہ نحل کی یہ آیت:

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذٰلِكُمْ وَالْمَلَائِكَةُ وَ

هُم لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ (النحل)

”اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے اور وہ بڑائی نہیں کرتے۔“

4۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت:

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ  
لِلَّذِّقَانِ سُجَّدًا ﴿٥١﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا  
لَمَفْعُولًا ﴿٥٢﴾ وَيَخِرُّونَ لِلَّذِّقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿٥٣﴾

”بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے ہیں (ہر عیب و نقص سے) پاک ہے ہمارا رب۔ بلاشبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے اور گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل گر یہ وزاری کرتے ہوئے اور یہ قرآن ان کے (خضوع و خشوع) کو بڑھا دیتا ہے۔“ (سورہ بنی اسرائیل) (ضیاء القرآن)

5۔ سورہ مریم کی یہ آیت:

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿٥٤﴾ (سورہ مریم)

”جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیتیں رحمن کی گرتے ہیں سجدے کرتے اور روتے۔“

6۔ سورہ حج کی یہ آیت:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ  
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ  
النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَسْبُكَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
مِن مَّكْرٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٥٥﴾ (سورہ الحج)

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت آدمی اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ اور جس کو اللہ ذلیل

کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

7۔ سورہ فرقان کی یہ آیت:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا  
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ① (سورہ الفرقان)

”اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمن کو، کہیں رحمن کیا ہے۔ کیا سجدہ کرنے لگیں گے، ہم جس کو تو فرمائے گا اور بڑھاتا ہے ان کا سرکشی کرنا۔“

8۔ سورہ النمل کی یہ آیت:

أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّنَاتِ وَالْأَمْراضِ وَ  
يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ② اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ ③ (سورہ النمل)

”کیوں نہ سجدہ کریں وہ اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور  
جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی  
نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔“

9۔ سورہ سجدہ کی یہ آیت:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا  
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ④ (سورہ سجدہ)

”ہماری آیتوں کو وہ مانتے ہیں کہ جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے تو گر پڑتے ہیں سجدہ  
کرتے ہوئے اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی خوبیوں سے اور وہ بڑائی  
نہیں کرتے۔“

10۔ سورہ صر کی یہ آیت:

قَالَ لَقَدْ فَلَّكَ بِسُؤَالِ لَعَجَتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ⑤ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْمُطَّاعِينَ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ⑥ وَظَنَّ دَاوُدُ أَن مَّا فَتَنَهُ قَاتِلَهُ رَبَّهُ وَ

حَزْرًا كَعَاوَانَابٍ ﴿١٠﴾ (سورہ ص)

”داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دینی اپنی دنیوں میں ملانے کو مانگتا ہے اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کہتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔“

11۔ سورہ حم السجدہ کی یہ آیت:

وَمِن آيَاتِهِ الْبُيُوتُ الْمُبَاتِيحُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ  
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن اسْتَكْبَرُوا قَالِذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ  
بِالْأَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿١١﴾ (سورہ حم السجدہ)

”رات، دن، سورج اور چاند اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو پھر اگر وہ غرور و تکبر کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ نہیں تھکتے۔“

12۔ سورہ النجم کی یہ آیت:

فَاسْجُدْ وَابْتَهِ وَأَعْبُدُوا ﴿١١﴾ (سورہ النجم)  
”سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور عبادت کرو اس کی۔“

13۔ سورہ الانشقاق کی یہ آیت:

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ لِحَبْلِ الْمَوْتِ وَابْتَهِ  
﴿١٢﴾ (سورہ الانشقاق)  
”اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن کو تو سجدہ نہیں کرتے۔“

14۔ سورہ العلق کی یہ آیت:

لَا تَطْعَمُهُ وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٣﴾ (سورہ العلق)



”اور سجدہ کر اور نزدیک ہو“۔

سجدہ کی چودہ آیتیں ہیں ان میں سے کسی آیت کو سن کر اور پڑھ کر ہر حال میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے خواہ قصداً سنے یا بلا قصد۔ سجدہ واجب ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ پوری آیت پڑھی جائے بلکہ صرف وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ اس کے قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔

## احکام و مسائل

اگر کسی نے سجدہ کی آیت اتنی آواز سے پڑھی کہ سننے میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، مگر شور و غل یا بہرہ ہونے کی وجہ سے آواز نہیں آئی اور کسی دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ سجدہ آیت پڑھی گئی ہے تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ہلے اور آواز پیدا نہیں ہوئی تو سجدہ واجب نہ ہوا۔

1۔ اگر کسی نے سجدہ کی آیت پڑھی لیکن کسی دوسرے نے نہیں سنی تو سجدہ واجب نہیں ہوا اگر امام نے سجدہ کی آیت پڑھی مگر سجدہ نہیں کیا تو مقتدی کو بھی سجدہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ امام کی متابعت ضروری ہے۔ اگرچہ صاف طور پر سجدہ کی آیت سنی ہو۔

2۔ ایک شخص خارج از نماز تلاوت قرآن کر رہا تھا اس نے سجدہ کی آیت پڑھی اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے بھی سجدہ کی آیت سن لی تو اس نمازی پر سجدہ واجب ہو گیا اسے چاہیے کہ نماز سے فارغ ہو کر پھر سجدہ کرے۔ اگر نماز میں ہی سجدہ کرے گا تو کافی نہ ہوگا۔ دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا مگر نماز فاسد نہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جو سجدہ کی آیت بحالت نماز خارج سے سنی جائے گی تو خارج ہی میں سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر اس نمازی نے تلاوت کرنے والے کے ساتھ ہی اس کی اتباع کی نیت سے نماز میں سجدہ کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

3۔ ایک شخص سجدہ کی آیت پڑھ کر نماز میں شامل ہو گیا تو اس سے سجدہ ساقط ہو گیا۔

4۔ اگر کسی شخص نے خارج از نماز سجدہ کی آیت پڑھی تو فوراً سجدہ کرنا واجب نہیں۔ کچھ دیر بعد بھی کر سکتا ہے۔ مگر بہتر یہی ہے کہ فی الفور سجدہ کرے تاکہ بھول نہ جائے اور اگر وضو نہ ہو

یا کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ غسل کی حاجت ہو تو پھر مجبوراً سجدہ میں تاخیر کرنی پڑے گی کسی دوسرے وقت سجدہ کر لے۔ اگر سجدہ کی آیت سننے کے بعد کوئی شخص فی الفور سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے کو اور سجدہ سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے۔

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٥٨﴾ (بقرہ)

**مسئلہ:** اگر کوئی مقتدی بحالت اقتداء کوئی سجدہ کی آیت تلاوت کرے تو یہ اس پر سجدہ واجب ہے نہ امام پر اور نہ مقتدیوں پر۔ ہاں اگر کوئی بیرونی شخص مقتدی کی آیت سن لے گا تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ (1)

**مسئلہ:** اگر کسی بیرونی آدمی نے امام سے سجدہ کی آیت سنی اور امام اس وقت پہلی رکعت میں تھا مگر اس شخص نے اسی نماز کی دوسری رکعت میں آکر اقتداء کی تو اس کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ سجدہ خارج از نماز سن کر واجب ہوا ہے۔ خارج ہی میں کرنا چاہیے اور اگر اس نے پہلی رکعت میں آکر اقتداء کی اور امام نے اس وقت تک سجدہ نہ کیا ہو تو امام کے ساتھ سجدہ کرے۔ اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس سے سجدہ ساقط ہو گیا نہ نماز کے اندر سجدہ کرے نہ نماز سے باہر۔ (2)

**مسئلہ:** ایک نمازی پر نماز کے اندر سجدہ واجب ہوا مگر سہواً یا قصداً سجدہ تلاوت نہ کیا، تو پھر نماز سے باہر سجدہ نہ کرے کیونکہ جو سجدہ نماز کے اندر واجب ہوتا ہے۔ اس کے ادا کرنے کا محل نماز ہی ہے۔ نماز سے باہر قضا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کا سجدہ نماز کا جزو ہے۔ جو شخص قصداً ترک کرے گا وہ گنہگار ہوگا اس کی تلافی توبہ استغفار سے کرنی چاہیے۔

(غایۃ الاوطار)

**مسئلہ:** سوتے ہوئے یا نشہ والے آدمی سے اگر سجدہ کی آیت سنی جائے تو بھی سجدہ واجب ہوتا ہے بلکہ خود سونے والے اور نشہ والے پر بھی سجدہ واجب ہے۔ بشرطیکہ اس کو سجدہ کی آیت تلاوت کرنے کی اطلاع دی جائے۔ (3)

**مسئلہ:** اگر کسی نے نماز کے اندر سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کرنے سے پہلے نماز کسی وجہ سے فاسد ہوگئی تو اب یہ نماز کا سجدہ نہ رہا۔ نماز فاسد ہونے کے بعد تلاوت کا سجدہ ہو گیا لہذا خارج از نماز سجدہ کرنا واجب ہے۔ (1)

### چند سجدوں کی بجائے ایک سجدہ کافی ہونے کا بیان

چند سجدوں کی بجائے ایک سجدہ اس وقت کافی ہے جبکہ سجدہ کی آیت ایک ہی ہو اور اسی کو ایک مجلس میں بار بار پڑھا جائے۔ یعنی چند سجدوں کی بجائے صرف ایک سجدہ اس وقت کافی ہے جب کہ سجدہ کی آیت اور اس کی تلاوت کی جگہ ایک ہو۔ اگر آیت یا جگہ کا اختلاف ہوگا تو جتنی دفعہ مختلف آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اتنی دفعہ ہی سجدے واجب ہوں گے اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھایا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگرچہ اس مجلس میں کئی آدمیوں سے اس آیت کو سنا ہو۔

ہاں اگر پڑھنے والے نے کئی مجلسوں میں ایک آیت بار بار پڑھی اور سننے والے کی مجلس نہ بدلی تو پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر صرف ایک سجدہ واجب ہوگا۔

اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں آیت سجدہ پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا اور پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو اب دوبارہ سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ وہی پہلا سجدہ کافی نہیں ہے، اگر مجلس میں چند بار آیت پڑھی یا سنی اور آخر میں اتنی ہی دفعہ سجدے کرنا چاہے تو یہ خلاف مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ سجدہ کر لے۔

### مجلس کس طرح بدلتی ہے؟

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھایا سنا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے اور اگر پڑھنے والے نے کئی مجلسوں میں بار بار ایک آیت کو پڑھا اور سننے والے کی مجلس نہ بدلی تو پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا

اس پر اتنے سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا اور اگر پڑھنے والا ایک مجلس میں بار بار پڑھتا ہے۔ مگر سننے والے کی مجلس بدلتی رہے تو پڑھنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا اور سننے والے پر مجلسوں کی تعداد کے مطابق سجدے واجب ہوں گے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مجلس کس طرح بدلتی ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دو لقمہ کھانے یا ایک دو گھونٹ پانی پینے یا کھڑے ہونے یا ایک دو قدم چلنے یا سلام کا جواب دینے یا بات چیت کرنے یا مکان کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں چلے جانے سے مجلس نہیں بدلتی یعنی مجلس بدلنے کے حکم میں مذکورہ بالا باتیں داخل نہیں بلکہ مجلس بدلنے کے لئے اہم و نمایاں تغیر کی ضرورت ہے۔ مثلاً ایک بڑا محل ہے جس کے مختلف اور علیحدہ علیحدہ کچھ فاصلے سے متعدد کمرے اور حصے ہیں، ایسے محل کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ میں چلے جانے سے مجلس بدل جاتی ہے اگر معمولی مکان ہے تو نقل و حرکت سے مجلس نہ بدلے گی۔

اگر کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا ہے اور وہ چل رہی ہے تو نقل و حرکت سے مجلس نہ بدلے گی میرے خیال میں ریل کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔

اگر کوئی شخص جانور پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے نیز تین لقمے کھانے، تین گھونٹ پینے، تین کلمے بولنے، تین قدم میدان چلنے، کچھ خرید و فروخت کرنے اور کچھ دیر لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سواری پر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی بھی اس کے ہمراہ سوار ہے یا وہ کسی دوسری سواری پر چل رہا ہے مگر نماز میں مشغول نہیں ہے تو ایسی حالت میں اگر سجدہ کی آیت بار بار پڑھی جائے تو اس سے پڑھنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوتا ہے اور ساتھ چلنے والے پر اتنے سجدے واجب ہوتے ہیں جتنی دفعہ وہ سجدے کی آیت کو سنے۔

کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنے اور تسبیح و تقدیس، درس و تدریس اور وعظ و تلقین میں مشغول رہنے سے مجلس نہیں بدلتی۔ ہاں اگر اس عرصہ میں اگر کوئی دنیاوی کام کیا مثلاً کوئی شخص کپڑا سینے میں مشغول ہو گیا تو مجلس بدل گئی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کچھ دیر تک تسبیح و تقدیس میں

مشغول رہی پھر اس نے اپنے بچہ کو دودھ پلایا تو مجلس بدل گئی۔

اگر کسی نے نماز سے باہر سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کرنے کے بعد پھر نماز شروع کی اور نماز میں پھر وہی سجدے کی آیت پڑھی تو دوبارہ سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر پہلے سجدہ نہیں کیا تھا تو یہ سجدہ جو نماز میں کیا ہے باہر کے سجدے کا قائم مقام ہو جائے گا بشرطیکہ آیت پڑھنے اور نماز کے درمیان کوئی اجنبی فعل فاصل نہ ہو۔ اور اگر پہلے بھی سجدہ نہ کیا تھا اور اب بھی نہیں کیا یعنی نماز میں بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب دونوں سجدے ساقط ہو گئے۔ لیکن جس نے قصد ایسی کوتاہی کی وہ گناہ گار ہو گا اسے توبہ کرنی چاہیے۔

اگر کسی نے ایک رکعت میں بار بار سجدہ کی آیت پڑھی تو اس کے لئے ایک ہی سجدہ کافی ہے خواہ کئی دفعہ پڑھ کر سجدہ کیا یا صرف ایک دفعہ پڑھ کر سجدہ کیا۔ اگر کسی نے ایک نماز کی تمام رکعتوں میں وہ آیت پڑھی تو سب کے لئے ایک سجدہ کافی ہے۔

اگر کسی نے نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر وہی آیت پڑھی تو اگر اس نے کلام نہیں کیا تھا، تو وہی نماز والا سجدہ جو پہلے نماز میں کر چکا ہے اس دوسرے سجدہ کا بھی قائم مقام ہو جائے گا۔ دوبارہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر سلام پھیرنے کے بعد کچھ کلام کر لیا تھا تو دوبارہ سجدہ کرنا چاہیے۔ تیسری صورت اسی مسئلہ کی یہ ہے کہ اگر نماز میں سجدہ نہیں کیا تھا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر وہی آیت پڑھی تو اندرون نماز کا سجدہ ساقط ہو گیا۔ یعنی صرف ایک سجدہ کرنا چاہیے۔

**مسئلہ:** اگر مجلس میں سجدہ کی چند آیتیں پڑھی گئیں تو اتنے ہی سجدے کرنے چاہئیں۔ ایک سجدہ کافی نہیں۔

**متفرق ہدایات:** اگر سجدہ کی آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز کا سجدہ کر لیا تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی ہوتا ہم سجدہ ہو گیا۔ اگر سجدہ کی آیت سورت کے درمیان میں ہے تو افضل یہ ہے کہ اسے پڑھ کر سجدہ کرے۔ اگر سجدہ کی ایک آیت پر سورت ختم ہے اور آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ سے اٹھنے کے بعد دوسری اگلی سورت کی کچھ آیتیں پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ اگر دوسری صورت کی آیتیں پڑھے بغیر رکوع کر لیا تب بھی جائز ہے، اس میں

کوئی حرج نہیں۔ اگر سجدہ کی آیت کے بعد سورت کے ختم ہونے میں دو تین آیتیں باقی ہیں تو چاہے فوراً رکوع کر دے یا سورت ختم کرنے کے بعد کرنے، دونوں طرح جائز ہے۔ اگر تلاوت کے بعد امام رکوع میں گیا اور سجدہ کی نیت کرنی اور مقتدیوں نے نہیں کی تو مقتدیوں کا سجدہ نہیں ہوا۔ لہذا امام جب سلام پھیرے تو مقتدی سجدہ کر کے قعدہ کریں اور سلام پھیریں اس قعدہ میں تشهد واجب ہے۔ اور اگر قعدہ نہیں کیا تو نماز فاسد ہوگئی۔ مگر یاد رہے کہ یہ حکم جہری نماز کے متعلق ہے۔ سری نماز میں چونکہ مقتدی کو علم نہیں ہوتا لہذا وہ معذور ہے اور اگر امام نے رکوع سے سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کی تو اسی سجدہ نماز سے مقتدیوں کا بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا اگرچہ نیت نہ کی ہو۔ اس صورت میں امام کو چاہیے کہ رکوع میں سجدہ کی نیت نہ کرے۔ کیونکہ اگر مقتدیوں نے نیت نہیں کی تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔

اگر جہری نماز میں امام نے سجدہ کی آیت پڑھی تو سجدہ کرنا بہتر ہے یعنی قیام سے بغیر رکوع کئے ہوئے سجدہ میں چلا جائے۔ اگر سری نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی تو امام کو رکوع کرنا بھی مناسب ہے تاکہ مقتدیوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔

اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدیوں کو رکوع کا گمان ہوا اور وہ رکوع میں چلے گئے تو رکوع توڑ کر سجدہ کریں۔ اگر رکوع کے بعد سجدہ کر لیا تب بھی جائز ہے۔ اگر رکوع کے بعد دو سجدے کئے تو اس کی نماز فاسد ہوگئی از سر نو نماز پڑھنی چاہیے۔

### سجدہ تلاوت کے بھول جانے کا حکم

اگر کوئی نمازی سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا اور رکوع یا سجدہ یا قعدہ میں اسے یاد آیا تو بہتر یہ ہے کہ فوراً سجدہ کرے اور جس رکن میں تھا اس کی طرف عود کرے۔ مثلاً اگر وہ رکوع میں تھا تو سجدہ کرنے کے بعد رکوع کرنے۔ اگر رکن کا اعادہ نہ کیا تب بھی نماز ہوگئی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ رکن کا اعادہ کر لیا جائے۔

اگر کسی نے سجدہ کی ایک آیت پڑھی اور پھر اسی جگہ کسی دوسرے آدمی سے وہی آیت سنی

تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوا (غایۃ الاوطار)

اگر ایک شخص نے سجدہ کی ایک آیت کو آتے جاتے دونوں وقت پڑھا اور سننے والے

نے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سنا تو پڑھنے والے پر دو سجدے واجب ہو گئے اور سننے والے پر ایک کیونکہ پڑھنے والے کا مکان بدل گیا اور سننے والے کا مکان ایک ہی رہا۔

اگر کوئی شخص ایک ہی جلسہ میں سارا قرآن پڑھ لے تو اس پر چودہ سجدے واجب ہوں گے۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدہ کی آیت کو قصداً چھوڑ دینا مکروہ ہے۔

اگر امام، شافعی ہو، اور مقتدی، حنفی اور شافعی امام سجدہ کی وہ آیت تلاوت کرے جو حنفیہ کے نزدیک آیت سجدہ نہیں ہے تو متابعت امام کی وجہ سے مقتدی حنفی بھی سجدہ کرے ہاں اگر نماز سے باہر مذکورہ آیت سنے تو سجدہ نہ کرے (غایۃ الاوطار) یہی حکم مالکی امام کا بھی ہے۔

اقتداء کی حالت میں وجوب سجدہ کی ایک شرط یہ ہے کہ امام سجدہ کرے۔ چنانچہ اگر حنفی امام بھی سجدہ نہ کرے تو مقتدی پر بھی سجدہ نہیں ہے۔ خواہ مقتدی نے امام کی تلاوت کردہ آیت کو سنا ہو یا نہ سنا ہو۔

اگر کسی نے نماز کے اندر سجدہ کی آیت تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں تاخیر کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز سے باہر جو سجدہ واجب ہوا ہے تو اس میں تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ (غایۃ الاوطار)

سجدہ کی آیت پڑھنے والے پر اس وقت سجدہ واجب ہوتا ہے جب کہ وہ نماز کا اہل ہو۔ اگر وہ نماز کا اہل نہیں ہے تو اس پر سجدہ بھی واجب نہیں ہے۔ پس اگر کافر یا مجنون یا نابالغ یا حیض و نفاس والی عورت نے سجدہ کی آیت پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان عاقل اور نماز کے اہل نے ان سے سجدہ کی آیت سنی تو اس پر سجدہ واجب ہے۔ اگر بے وضو شخص نے یا اس شخص نے جس پر غسل واجب تھا سجدہ کی آیت پڑھی تو اس پر بھی سجدہ واجب ہو گیا، وضو یا غسل کے بعد سجدہ کرنا چاہیے۔

اگر کسی عورت نے نماز میں سجدہ کی آیت تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا یہاں تک کہ حیض جاری ہو گیا تو اب اس پر سے سجدہ ساقط ہو گیا اب اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

سجدہ شکر کا بیان

جس وقت کوئی نعمت انسان کو حاصل ہو یا کوئی مصیبت اور تکلیف سر سے نکل جائے تو

سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے اس کے کرنے والے کو نہ ثواب ملتا ہے اور نہ ترک کرنے والے کو عذاب۔ مگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے اور اس کی ہیئت وہی ہے جو سجدہ تلاوت کی ہے (1)۔

سجدہ شکر کے لئے صرف ایک سجدہ کیا جاتا ہے اور کم از کم تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھا جاتا ہے اوقات مکروہہ میں سجدہ شکر نہ کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ بلا سبب محض عادتاً سجدہ کیا کرتے ہیں۔ فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ لہذا اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے۔

### امامت و جماعت

اسلام میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انفرادی حیثیت سے بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام کی فطرت نظام اجتماع ہے اور وہ دینی و دنیوی امور میں سختی کے ساتھ اطاعت امیر کی تاکید و ہدایت کرتا ہے۔ اسلام بتلاتا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہیں وہ اقوام عالم کے رہبر ہیں اور دنیا میں ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اتحاد و اتفاق کی قوت قاہرہ سے خدا کی حکومت و بادشاہت قائم کریں اور یہ مقصد عظیم اس وقت بحسن و خوبی سرانجام پاسکتا ہے جب کہ مسلمان اطاعت امیر کے عادی ہوں، اپنے امیر کے اشارہ پر اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دینے کے خوگر ہوں، اس لئے اسلام نے نماز باجماعت کی تاکید کی ہے۔ دنیاوی امور میں اقتیاد امام کی روح سے جو قوت و کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ اظہر من الشمس ہے اور دنیا کی سمجھ دار قومیں اپنے ڈکٹیٹروں کے ذریعے جن قوتوں اور کامیابیوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان کو ساری دنیا جانتی ہے۔

اسلام نے ہمیں تاکید حکم دیا ہے کہ ہم انفرادی حیثیت سے علیحدہ علیحدہ نماز نہ پڑھیں بلکہ ایک امام کے پیچھے سب مجتمع ہو کر پڑھیں۔ اپنے میں سے ایک امیر یا امام کا انتخاب کر کے اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں تاکہ ان کی عبادت میں اجتماعیت کی شان پیدا



ہو اور مسلمانوں کو دن میں پانچ مرتبہ عملی طور پر اتحاد و اتفاق اور اطاعت و انقیاد امام کا سبق ملتا رہے۔ اسلام نے اس چیز کو ترقی و کامیابی کا پہلا قدم بتلایا ہے۔

جماعت کی ضرورت پر اس سے زیادہ کسی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظ خود اپنی خوبی، قوت، کامیابی اور شاندار اعمال کو ظاہر کر رہا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اتحاد اور قومی یگانگت کی زندہ تصویر جماعت میں نظر آتی ہے اور باہم ایک دوسرے کے ملنے ملانے سے وہ اہم قومی اغراض و مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو قومی زندگی کے لئے لابد ہیں۔ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے مغربی تہذیب نے کانفرنسوں، لیکچروں اور انجمنوں کا طریقہ ایجاد کیا ہے لیکن نبی امی ﷺ نے آج سے تیرہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا اور نماز باجماعت کا طریقہ ایجاد کر کے اتحاد قومی کی ایک بہترین سہیل پیدا کر دی۔

### نماز اور اطاعت امیر

مسلمانوں کو دن میں پانچ مرتبہ اطاعت امیر کا عملی سبق دیا جاتا ہے اور ان کی عبادت میں اجتماعیت کی شان پیدا کی جاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے! کہ اسلام نے عبادت کی بہترین صورت میں کس خوبصورتی کے ساتھ نظم اتحاد عمل اور اطاعت امیر کو قائم رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر اطاعت امیر کا اور کیا عملی سبق ہوگا۔ تمام دنیا کے مسلمان دن میں پانچ مرتبہ ایک امام کے پیچھے ہو کر اپنے حرکات و سکنات کو امام کی حرکات و سکنات کے تابع کر کے خدا کے حضور میں سجدہ ریز نظر آتے ہیں اور یہی چیز قومی زندگی کی اصل روج ہے۔

ہمارے اسلاف کی ترقی و کامیابی کا راز صرف اس امر میں مضمر تھا کہ وہ اپنے اندر اطاعت امیر کا مخلصانہ جذبہ رکھتے تھے۔ ہر مسلمان اپنے امیر کے حکم پر اپنی جان و مال کو فدا کرنا جانتا تھا اور ان کے تمام اعمال و افکار کا ایک مرکز تھا جہاں سے ان کے رگ و پے میں روح حیات دوڑتی تھی اور مسلمان خدا کی راہ میں اپنی جانیں ہنس ہنس کر فدا کر دیتے تھے چنانچہ اسلامی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔

اسلام اپنے تبعین سے کہتا ہے کہ تمہاری بقا نظام اجتماع میں ہے اور اسی سے مسرت

افزاء حضارت اور حسین تمدن پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کا اس درجہ اہتمام و انتظام کیا ہے کہ اپنے تمام عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و آداب میں اس کو ملحوظ رکھا اور اسلامی احکام کی روح رواں ٹھہرایا۔ چنانچہ اسلام نے اس کو عقائد میں ”توحید“ سے، عبادت میں ”نماز باجماعت“ سے اور سیاسیات میں ”حاکم و محکوم کے درمیان رشتہ اتحاد اور اطاعت امیر“ سے استوار و مستحکم ہے۔ کاش! مسلمان جماعت کے فوائد سے آگاہ ہوتے اور کما حقہ فائدہ اٹھاتے۔

### قرآن و حدیث سے جماعت کا ثبوت

خدائے حکیم و بصیر نے مسلمانوں میں نظام اجتماع باقی رکھنے کے لئے حکم دیا ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز باجماعت پڑھیں ارشاد ہوتا ہے: **وَ اٰتٰہَا كَعُوۡا مَعَ التَّرٰكِعِیۡنَ** (بقرہ) ”اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ“۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو اس میں لفظ **اٰتٰہَا كَعُوۡا** اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا اور چونکہ رکوع میں انتہائی تواضع پائی جاتی ہے اس لئے تمام نماز پر رکوع کا لفظ لایا گیا ہے۔ اور **التَّرٰكِعِیۡنَ** سے مراد جماعت ہے پس مطلب یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔

یہ زمانہ کجروی اور عقل پرستی کا ہے ممکن ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہے کہ اگر نماز میں جماعت کی اتنی ہی اہمیت ہوتی جتنی کہ ظاہر کی جاتی ہے تو چاہیے تھا کہ قرآن میں نماز باجماعت کا بالکل صاف اور واضح الفاظ میں حکم دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ”رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ“ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس نے نہایت خوبصورتی سے ایک مفہوم کو ادا کر دیا اب اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو زبان عربی سے واقفیت رکھتے ہوں۔

مقصود تو یہ تھا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، اس مفہوم کو مذکورہ بالا الفاظ میں ادا کر کے مقصود اصلی کو پورا کر دیا۔ اب یہ کیا ضروری ہے کہ جماعت کے الفاظ بھی ہوتے جو لوگ اس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنی کوتاہ فہمی، سطح النظری اور کم عقلی کا ثبوت دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔

اسلام میں قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے جو قرآن ہی کا جزو ہے۔ سنت کیا ہے؟  
قرآن کریم کی تفصیل و تشریح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے:

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة

الجماعة تفضل صلوة الفرد بسبع وعشرين درجة۔ (1)

”ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کی

نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ بڑھی ہوئی ہے۔“

اس حدیث میں صاف طور پر ”صلوة الجماعة“ کے الفاظ موجود ہیں گویا قرآن کریم

سے معنا نماز باجماعت کا ثبوت ہوتا ہے اور حدیث سے لفظاً اور قرآن و حدیث دونوں سے

مل کر نماز باجماعت کا قطعی طور پر ثبوت ہو گیا۔

### جماعت کی تاکید

اسلام جس طرح دنیاوی امور میں انفرادی زندگی کو مسلمانوں کی موت بتلاتا ہے اسی

طرح دینی امور یعنی عبادت میں بھی انفرادیت کو گوارا نہیں کرتا اور مسلمانوں کو ایک نظام

کے ماتحت لانا چاہتا ہے اس چیز پر اسلام نے کتنا زور دیا ہے؟ اور کیونکر مسلمانوں میں

اجتماعیت کی روح پھونکی ہے؟ سنئے:

عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم من ادرك الاذان في المسجد ثم

خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق

”حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ

نے کہ جس شخص نے مسجد میں اذان پائی پھر وہ بغیر حاجت کے مسجد سے نکل گیا اور

پھر واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تو وہ منافق ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

نے فرمایا: جس نے اذان سنی اور وہ مسجد میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی نماز فاسد نہیں

مگر عذر کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مدینہ میں سانپ بچھو بکثرت ہیں اور میں ناپینا ہوں کیا میرے لیے ترک جماعت کی رخصت ہے حضور نے فرمایا کہ کیا تم ”حَتَّىٰ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ“ کی آواز سنتے ہو؟ کہا ہاں فرمایا تو بس تمہیں مسجد میں آکر جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ (1)

حضور ﷺ کے ان ارشادات عالیہ سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے جماعت کی کس قدر تاکید کی ہے اور مسلمانوں کو کیونکر عبادات میں اجتماعی زندگی کا سبق پڑھایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں اور اس کے لئے اذان کہی جائے پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوئے، ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔

اس سے زیادہ نماز باجماعت کی تاکید کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جماعت میں شریک نہ ہونے والوں اور گھروں میں تنہا نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو نذر آتش کر دینے کی آرزو فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جماعت ترک کر کے تنہا نماز پڑھنا شدید ترین دینی و دنیوی نقصان کا باعث ہے، جب ہی تو آپ نے اتنے شدید الفاظ میں ایسے غیظ و غضب کا اظہار کیا اگر تنہا نماز پڑھنا ایسی ہی معمولی بات ہوتی جیسی کی اس زمانہ کے لوگ سمجھے ہوئے ہیں تو رحمۃ للعالمین کے الفاظ میں اتنا جوش اور اتنا غیظ نہ ہوتا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عام طور پر حکم دے دیا تھا کہ تم نماز میں خیال رکھا کرو کہ کون آیا اور کون نہیں آیا۔ اگر کچھ لوگ تمہیں نماز میں نظر آئیں تو تم ان کے گھر عیادت کے لئے جایا کرو اگر وہاں جا کر وہ تمہیں تندرست ملیں تو نماز باجماعت ترک کرنے سے انہیں منع کیا کرو اس لئے کہ جماعت میں سستی اور غفلت کسی طرح بھی مناسب نہیں۔

رسول اللہ ﷺ کے ارشادات عالیہ اور صحابہ کے طرز عمل و ہدایات نے اس زمانہ کے لوگوں کو جماعت کا اتنا محافظ و پابند دیا تھا کہ وہ جماعت ترک کرنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ جماعت کی خود بھی سختی سے پابندی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کراتے تھے، انتہا یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ جماعت ترک کرنے والوں اور نماز چھوڑ دینے والوں کے یہاں مصنوعی طور پر ”نماز کا جنازہ“ بنا کر جایا کرتے تھے۔ عوام کا احساس و احتساب اتنا تیز اور سخت تھا کہ لوگوں کو ہمت نہ پڑھی تھی کہ نماز کو ترک کر دیں یا جماعت میں نہ آئیں۔ لوگ اسے نہایت ہی معیوب و مصیبت سمجھتے تھے۔

### نماز باجماعت اور اس کے فضائل

جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور ثواب محض اتنا ہی نہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ ثواب کا باعث، بلکہ اس سے روز و شب کے معاصی و ذنوب بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ نماز باجماعت ایک ”جشن عبادت“ ہے اس سے ذاتی و ملی فوائد و برکات پر فتح ہوتی ہے اس کا سب کو فائدہ پہنچتا ہے خود کو بھی نفع ہوتا ہے اور ملت کو بھی۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز باجماعت پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ فجر سے لے کر اس وقت تک معاف کر دے گا، پھر عصر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو اس وقت تک کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ پھر اگر مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو عصر سے اس وقت تک کے گناہ معاف کر دے گا اور جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو فجر تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ پنج وقتہ نمازیں دن و رات کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اس سے زیادہ نماز باجماعت کی فضیلت اور کیا ہوگی؟ مگر یہاں اس امر کو سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں: ایک تو کبیرہ اور دوسرے صغیرہ۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ سو صغائر تو نماز باجماعت سے معاف ہو جاتے ہیں اور

کبار تو بہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں پس نماز صغائر کا کفارہ ہو جاتی ہے نہ کہ کبار کا۔  
 اللہ اللہ! خدا اور اس کا رسول امت مسلمہ پر کتنا مہربان ہے کہ صغیرہ گناہوں کی معافی  
 کی کیسی آسان تدبیر بتلا دی ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں یعنی نماز باجماعت کی پابندی  
 کریں تو صغیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں۔ چنانچہ رسول خدا ﷺ نے حضرت  
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ نماز پڑھنے والوں کے پاس بیٹھا کرو جو شخص ان کے ساتھ  
 نشست و برخاست رکھے گا وہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ)!! اگر تم  
 چاہتے ہو کہ اپنے جسم کو تمام آلائشوں سے پاک رکھو اور تمام برائیوں سے محفوظ رہو تو نماز  
 باجماعت کبھی ترک نہ کرو اس لئے کہ جو شخص بھی جماعت کی پابندی کرے گا۔ اللہ تبارک  
 و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت دونوں کی نعمت و بزرگی عطا فرمائے گا۔

فقیر ابو الیث فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ جماعت سے بیچ وقتہ نماز ادا کرتا رہے گا اس کو  
 خدا تعالیٰ پانچ باتیں عطا فرمائے گا۔

1۔ تنگی عیش اس سے اٹھالی جائے گی۔

2۔ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔

3۔ نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کی وجہ سے حساب میں نرمی  
 اور سہولت ہوگی۔

4۔ وہ پل صراط سے تیز پرندہ کی طرح گزر جائے گا۔

5۔ وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

### تازیانہ عبرت

حقیقت نماز سے غافل مسلمان نمازیو! اور سستی اور غفلت سے جماعت کرنے والے  
 نفس کے بندو! مذکور بالا حدیث کو بار بار غور سے پڑھو، اس کے مطالب و معانی پر غور کرو اور  
 اپنی حالت کا جائزہ لو۔ ذرا غور تو کرو کہ رسول اللہ ﷺ نے جماعت کی کتنی تاکید فرمائی  
 ہے؟ اور کیا فرمائے ہیں؟ ان تمام ہدایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نمازیوں کے ساتھ نماز  
 پڑھی جائے گی اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھی جائے گی۔ تو لازماً ہم میں محبت و

ہمدردی پیدا ہوگی۔ اخوت اسلامیہ کا جذبہ بڑھے گا اجتماعی قوتوں میں جان آئے گی اور کینہ سے پاک ہوں گے، خلوص و ایثار بڑھے گا، اجتماعی قوتوں میں جان آئے گی اور تمام صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور اگر سرے سے مسجد میں قدم ہی نہ رکھا جائے تو ان اوصاف حمیدہ اور فوائد و برکات میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہ ہوگی اور سراسر نقصان ہوگا کتنا بد بخت اور نادان ہے وہ مسلمان جو باوجود اتنے فضائل اور اتنی مہتم بالشان ذاتی و ملی فوائد رکھنے والی چیز کو اپنی غفلت و سستی سے ترک کر دے اور نقصان میں پڑا رہے اس کی بد بختیوں، محرومیوں اور غداریوں کو کن الفاظ میں واضح کیا جائے؟ اور ان کی حالت پر کس طرح ماتم کیا جائے؟ مسلمانو! خدا کے لئے اب بھی ہوش میں آؤ، اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو، اب بھی سمجھو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، نمازیں پڑھو، جماعت کی پابندی کرو اور دونوں جہان کی رسیا ہی نہ خریدو۔

## ترک جماعت کا عذاب

بقائے قوم کا راز اجتماع اور اتحاد و اتفاق میں ہے۔ اگر غور سے دیکھو تو یہ نظام عالم اور عظیم الشان کارخانہ حیات جذبات باہمی اور تناصر و تعاون پر چل رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے یہی چیز قوموں کی کامیابی اور بقاء کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے متبعین سے کہتا ہے کہ تمہاری بقا نظام اجتماع میں ہے۔ سب متحد و متفق ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور اس نظم و اتحاد میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اگر تم اس ہدایت کی پروانہ کرتے ہوئے آپس میں پھوٹ ڈالو گے تو تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا تمہاری ہوا خیزی ہو جائے گی اور تم ہر طرح ذلیل و خوار اور غلام و محکوم ہو جاؤ گے۔

مسلمانوں کو نظم و اتحاد سے ہٹانے اور پھوٹ سے محفوظ رکھنے کے لئے اسلام نے نماز باجماعت کا حکم دیا ہے جب تک ہم جماعت کے پابند رہے، ہمارا قدم آگے ہی بڑھتا رہا اور جب جماعت کو ترک کر دیا تو ہماری زندگی موت سے بدتر ہو گئی ترک جماعت نے اور ذرا اسی باتوں پر تنہا نماز پڑھنے کی عادت و دستور نے صرف یہ کہ ہماری نمازوں کو بے لطف کر دیا ہے۔ بلکہ ان کو ایک قسم کا بار بنا دیا ہے ان کو بے اثر اور بے کیف کر دیا ہے۔

نمازوں کی وہ اہمیت باقی نہ رہی جو عہد خلافت میں تھی اور اس طرح مسلمان نماز کے حقیقی فوائد سے محروم ہو گئے۔ ترک جماعت نے نمازوں کو بے اثر کر کے ان کو ایک رکی چیز بنا دیا ہے، لوگوں کو سرے سے ترک نماز کی جرأت دلائی ہے، ان کو گناہوں پر دلیر کیا ہے، خدا سے باغی بنایا ہے اور نمازوں سے ان کی توجہ کو ہٹایا ہے۔ جب تک مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی تھیں مسلمانوں میں باہمی محبت و ہمدردی تھی۔ نماز نہ پڑھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، مسلمان ایک جسم و جان تھے، نفس و شیطان نے ان پر پوری طرح قبضہ نہ کیا تھا، وہ اوصاف حمیدہ سے متصف تھے اور ان کی رو میں زندہ تھیں۔ لیکن جب سے جماعت کی اہمیت نظروں سے اوجھل ہوئی اور تنہا نماز پڑھنے کا منحوس و مطعون و ملعون رواج ہوا، ان سے اسلام کی حقیقی روح رخصت ہو گئی اور گویا اونگھتے کو ٹھیلنے کا بہانہ مل گیا یعنی ست کاروں اور مدہنت برتنے والوں نے اس پردہ اور آڑ میں نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی، پہلے ایک ایک دو دو وقت کی نمازیں قضا ہونی شروع ہوئیں پھر رفتہ رفتہ میدان ہی صاف ہو گیا اور ترک نماز کا ایک اچھا خاصہ معقول بہانہ ہاتھ آ گیا جہاں کسی نے مسجد میں نہ آنے پر ٹوکا تو کہہ دیا کہ ہم تو گھر پر پڑھ لیتے ہیں۔ امراء نے مسجد میں جانا ہی ترک کر دیا مخملی جانمازیں تیار ہونے لگیں۔ مسجدیں ویران ہو گئیں اور افتراق ملی کی تباہ کن اساس قائم ہو گئی۔

**نماز باجماعت کا مقصود اصلی**

نماز کا مدعا تو یہ تھا کہ شاہ و گدا اور محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے اسلامی مساوات کا ایک نہایت شان دار، جاذب توجہ اور انسانییت پرور منظر پیش کرتے، غرور و نخوت خاک میں ملتی، امارت و غربت کا امتیاز باقی نہ رہتا، ایک دوسرے کا ہم درد و غم گسار ہوتا، اتحاد و اتفاق قائم رہتا اور ساری دنیا مسلمانوں کی طاقت کے ساہمنے جھکتی۔ مگر ہوا یہ کہ ساری باتیں جاتی رہیں۔ امیروں کو غریبوں سے نفرت پیدا ہو گئی، امراء کو مسجدوں میں جانے سے شرم آنے لگی، اخوت اسلامیہ کا رشتہ پارہ پارہ ہو گیا۔ دلوں میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، امت واحدہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مسجدیں اکھاڑہ بن گئیں، حسنات کی جگہ سینات نے لے لی اور مسلمانوں پر دینی و دنیوی ترقی کے تمام



دروازے بند ہو گئے۔

ہم خدا کو کیوں بھول گئے ہیں؟ اس لئے کہ ہم نمازوں کی پابندی سے غافل ہو گئے ہیں اور نماز باجماعت کی طرف سہل انگار ہوتے ہیں۔ ہم پر افتراق و تفرقہ اور بغض و عناد کی لعنت کیوں مسلط ہے؟ محض اس لئے کہ جماعت کے تارک ہیں۔ ہم نے نماز باجماعت کو ایک قانونی درجہ دے دیا ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کو یک سرفراموش کر دیا ہے۔ انسانی فطرت میں تکاہل و نسیان بھی موجود ہے، اس میں بہت جلد سستی و غفلت آ جاتی ہے اور انسان بہت جلد خدا کو بھول جاتا ہے اس تکاہل و نسیان سے بچانے کے لئے خدائے قدوس نے ہمیں پنج گانہ نمازوں کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے خدا کو نہ بھول جائیں۔ نمازوں کے ذریعہ دن و رات میں پانچ بار اپنے خدا کا ذکر کرتے رہیں۔ مگر آہ ہم نے سرے سے نمازوں ہی کو ترک کر دیا اور خدا کو بھول گئے۔

### جماعت کے بارے میں مسلمانوں کی کجروی

خدا را سوچو اور ذرا غور کرو کہ اگر مسلمان نماز باجماعت کی پابندی کرتے تو کیا وہ فرقہ بند، منتشر، آوارہ اور پریشان حال ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ وہ ایک جسم، ایک جان ہوتے اور دشمنوں کے مقابلہ میں گائتھم بنیان مَرصُوعٌ (صف) فسوس ایسا نہیں ہوا۔

مسلمان نمازیو! جماعت کی تاکید اور اس کا فلسفہ تمہارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ تمہارے اندر کتنے ایسے نمازی ہیں جنہوں نے جماعت کے فلسفہ کو سمجھا ہو اور اس اجتماعی نظام کو اس کے اندر اصلی رنگ میں قائم و برقرار رکھا ہو۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جماعت کے فوائد و برکات کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر کسی نے سمجھا بھی ہے تو محض اتنا کہ یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے۔ مگر اس سے کوئی خاص فائدہ اور غرض مقصود نہیں۔ بلکہ شارع نے اس کی یونہی تاکید و ہدایت کر دی ہے۔ جیسی تو بلا عذر تنہا نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ جہاں کہیں کسی امام یا کسی مقتدی سے ان بن ہوئی اور جھٹ اپنی اڑھالی اینٹ کی علیحدہ مسجد بنالی۔

اب کیا مجال کہ جو مسجد میں قدم بھی رکھیں، اپنا گروہ اور پنج وقتہ نمازیں۔ بعض سفلہ مزاج نمازی صرف اس وجہ سے امام صاحب سے بگڑ جاتے ہیں کہ اس نے جماعت میں ان کا

انتظار نہیں کیا۔ الہی توبہ یہ خدا پرستی ہے یا نفس پرستی کہ ذرا ذرا سی باتوں پر جماعت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور شریعت کی اس نافرمانی کو چنداں نافرمانی بھی نہیں سمجھا جاتا۔  
 آہ! ہماری حالت میں کس درجہ انقلاب آ گیا ہے اور کیسا عظیم دردناک فساد و اختلال رونما ہوا کہ مسجدیں اس لئے تھیں کہ ان سے مسلمانوں کو دین میں پانچ مرتبہ نظم و اتحاد، مودت و اخوت، محبت و یگانگت اور خدا پرستی کا عملی سبق ملتا رہے مگر اب ان مسجدوں سے فتنہ پردازی، تکفیر و تفسیق، بغض و عناد، ہنگامہ آرائی اور جنگ و جدال کا سبق ملتا ہے۔

### امامت کا بیان

امامت کے معنی سرداری کے ہیں اور امام کسی قوم کے پیشوا کو کہتے ہیں۔ امامت کی دو قسمیں ہیں: اول امامت کبریٰ یعنی دین و دنیا کے مصالح کی حفاظت کے لئے آنحضرت ﷺ کا نائب ہونا اس کو خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری امامت صغریٰ یعنی نماز میں مقتدیوں کی چند شرائط کے ساتھ پیشوائی کرنا۔ یہاں اسی امامت کا بیان کرنا مقصود ہے۔

امامت اذان سے افضل ہے۔ شروط صحت امامت مردوں کے لئے چھ چیزیں ہیں:

۱۔ اسلام ۲۔ بلوغ ۳۔ عقل

۴۔ ذکوریت ۵۔ قراءت ۶۔ عذروں سے سلامت ہونا جیسے نکسیر وغیرہ۔

یعنی امامت کی صحت کی چھ شرطیں ہیں۔

۱۔ مسلمان ہونا ۲۔ بالغ ہونا ۳۔ عاقل ہونا ۴۔ مرد ہونا

۵۔ قرأت پڑھنے کے قابل ہونا ۶۔ اعذار سے سلامت ہونا۔

پس کافر، نابالغ لڑکے، نشہ سے سرمست انسان اور عورت کی امامت صحیح نہیں، اسی

طرح جو ہمیشہ صاحب عذر رہتا ہے۔ مثلاً قطرے کا مرض ہے یا نکسیر کا مرض ہے یا کوئی ایسا

مرض ہے کہ پاک نہیں رہ سکتا اس کی امامت بھی صحیح نہیں۔

## نابالغ کی امامت

صحیح اور مختار قول کے مطابق کسی نماز میں نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز صحیح نہیں خواہ عید کی نماز ہو یا کسوف و خسوف کی یا وتر کی یا تراویح کی، الغرض کوئی نماز بھی نابالغ کے پیچھے صحیح نہیں۔ کیونکہ نابالغ لڑکے کے ذمہ کوئی نماز واجب نہیں۔ اس کو صرف عادت ڈالنے کے لئے قبل از بلوغ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

جن مشائخ کے نزدیک نابالغ لڑکے کے پیچھے نفل نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک بھی نابالغ لڑکے کو امام بنانا درست نہیں۔ کیونکہ نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والوں کا امام نہیں بن سکتا۔ یہ صورت تو فرض نمازوں کی اقتداء کی ہے باقی نفلوں میں نابالغ کی امامت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بالغ کی نفل نماز نابالغ کی نفل نماز سے قوی تر اور متفق علیہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بالغ کی نفلیں شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے نیت توڑ دی گئی تو قضا کرنی لازم ہے۔ بہر صورت دونوں قولوں کے بموجب نابالغ لڑکے کی کسی نماز میں بھی امامت درست نہیں۔ (غایۃ الاوطار)

امام بننے کا کون شخص زیادہ مستحق ہے؟

امامت کے لئے لائق تر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ عالم و فقیہ اور نماز کی صحت و فساد کے مسائل زیادہ جاننے والا ہو۔ اس کے بعد وہ شخص جو عمر میں زیادہ ہو۔

بہر حال امام ایسا ہونا چاہیے جو زیادہ متقی ہو یعنی ظاہر گناہوں پر مطعون ہوئے سے بچا ہوا ہو اور قرأت مسنونہ سے بھی اچھی طرح واقف ہو، اگر اس بات میں دو آدمی برابر ہوں تو جو قاری ہو یعنی فن تجرید و قرأت سے واقف ہو، اسے امام بنایا جائے۔ اگر اس صفت میں بھی دو آدمی شریک ہوں اور ایک جیسے ہوں تو جو صاحب ورع ہو یعنی مشتبہ گناہوں سے بچتا ہو اس کو امام بنایا جائے۔ اس کے بعد زیادہ عمر کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر ان تمام باتوں میں بھی کچھ آدمی برابر کے شریک ہوں تو پھر ان میں سے خوش اخلاق آدمی کو ترجیح و فضیلت دی جائے گی۔ اس کے بعد وجیہ اور خوبصورت آدمی کو قابل ترجیح سمجھا جائے گا پھر شرافت حسب اور ذاتی کمالات کا لحاظ کیا جائے گا۔ اگر اس میں بھی مساوات ہو تو سب سے زیادہ شریف

النسب کو اولیٰ سمجھا جائے گا اور سید کی امامت افضل مانی جائے گی۔ اس کے بعد سب سے زیادہ خوش آواز کو مقدم رکھا جائے گا۔

اس کے بعد زیادہ مالدار اور دنیوی جاہ و اعزاز زیادہ رکھنے والے کا لحاظ رکھا جائے گا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ امام ایسا شخص ہونا چاہیے جو بلحاظ علم و تقویٰ اخلاق حمیدہ سے متصف ہو، فن قراءت سے اچھی طرح واقف ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو اور صحیح الاعضاء تندرست ہو۔ اس کو اس مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ گویا امام مسلمانوں کا کمان افسر ہوتا ہے اور مقتدی سپاہی کی مانند ہوتے ہیں ان اللہ کے سپاہیوں کا دنیا میں کام یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ ہر قسم کی طہارت اور پاکیزگی حاصل کر کے دنیا میں خدا کی حکومت و بادشاہی قائم کریں۔ اب سب جانتے ہیں کہ فوج کا کمان افسر وہی ہوتا ہے جو عقل و علم رکھتا ہو، اپنے فرائض منصبی سے کما حقہ واقف و آگاہ ہو اور ہر وقت مستعد و سرگرم رہے۔ تم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی فوج کا کمان افسر جاہل، بدھو، اندھا اور خسیس طبیعت ہو مگر یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ مسلمانوں کے امام اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج دنیا بھر کے ناکارہ اور اپانج لوگ ہماری مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں۔

وہ لوگ جن کی امامت ناجائز یا مکروہ ہے

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مذکور ذیل اشخاص کے پیچھے نماز ناجائز ہے:

۱۔ دائمی مجنون ۲۔ مدہوش ۳۔ نابالغ

۴۔ عورت ۵۔ خنثی ۶۔ معذور

یعنی وہ شخص جو توتا ہو یا ہکلا ہو، یا سلسل بول وغیرہ مرض میں مبتلا ہو۔ اور مقتدی غیر معذور ہوں اگر مقتدی و امام کو ایک ہی عذر ہو۔ مثلاً دونوں ہکے ہوں یا دونوں توتلے ہوں یا دونوں کو سلسل البول کا عارضہ ہو تو ان صورتوں میں نماز ناجائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں صاحب عذر ہیں،

۷۔ مسبوق ۸۔ لاحق ۹۔ بدعتی

کے پیچھے بھی نماز ناجائز ہے۔ مسبوق اور لاحق کا بیان آگے آتا ہے۔ بدعتی بداعتقاد

لوگوں کو کہتے ہیں۔ یعنی جو دین میں اعتقاداً کوئی نئی بات پیدا کریں۔ مثلاً رافضی یا خارجی یا جبری اور قدری وغیرہ۔

### فاسق کی امامت

فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو علانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہو مثلاً شراب پیتا ہو یا زنا کرتا ہو یا جوا کھیلتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبیرہ گناہوں کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو انتخاب امام میں آسانی ہو اور ان کی نظر و فکر کو مدد ملے۔ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کے لئے شرع میں عید مقرر ہوئی ہے یا اس پر عید مقرر ہوئی ہو یا جس کی قرآن شریف اور صحیح و صحیح قطعاً حدیث سے ممانعت آئی ہو۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد جو حدیث سے ثابت ہے، سترہ ہے۔ ان کبار کے درجوں میں تفاوت ہے بعض بعض سے ذات تراویح ہیں وہ یہ ہیں: چار گناہ دل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

اول: شرک کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً اللہ کی ذات میں، عبادت میں، علم میں، قدرت میں، حکم چلانے میں، پیدائش میں شرک کرنا۔

دوسرا: کبیرہ گناہ پر اصرار اور ہٹ دھرمی کرنا۔

تیسرا: اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا۔

چوتھا: اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا۔

یہ چار کبیرہ گناہ ہیں جو دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چار گناہ زبان سے تعلق رکھتے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے:

اول: جھوٹی قسم کھانا۔

دوم: جھوٹی گواہی دینا۔

سوم: نیک مرد یا عورت کو گالی دینا۔

چہارم: جادو کرنا۔

تین گناہ پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو یہ ہیں۔

اول: شراب پینا۔

دوم: یتیم کا مال کھانا۔

سوم: سود لینا۔

دو گناہ قبل و دبر سے علاقہ رکھتے ہیں۔

اول: زنا

دوم: لواطت

دو گناہ ہاتھ سے علاقہ رکھتے ہیں۔

اول: ناحق کسی کو مار ڈالنا۔

دوم: چوری کرنا۔

ایک گناہ پاؤں سے علاقہ رکھتا ہے۔

اول: جہاد سے بھاگنا۔

ایک گناہ تمام بدن سے رکھتا ہے۔

اول: والدین کی نافرمانی کرنی اور ان کو ستانا و دکھ دینا ہے۔

یہ کل سترہ کبیرہ گناہ ہوئے۔ جو شخص علانیہ ان گناہوں کا مرتکب ہو وہ فاسق ہے جس

کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔

مذکور ذیل اشخاص کے پیچھے نماز مکروہ تنزیہی ہے۔

۱۔ غلام ۲۔ جاہل ۳۔ حرامی ۴۔ بے وقوف

یعنی سادہ لوح، فالج زدہ، مبروص اور جذامی، یہ کراہت اس وقت ہے کہ جب کہ

مقتدیوں میں ان سے بہتر اور کوئی شخص امامت کرنے والا موجود ہو ورنہ نہیں۔

(غایۃ الاوطار)

نابینا کی امامت

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابینا کی امامت مکروہ ہے۔ چنانچہ در مختار

میں ہے۔

يكره تنزيها امامة عبد واعرابي وفاسق واعمى الا ان

يكون غير الفاسق اعلم القوم (1)

”یعنی غلام یا بدوی، فاسق اور اندھے کا امامت کرنا مکروہ تشریحی ہے۔ مگر یہ کہ ہو سوائے فاسق کے یعنی غلام، بدوی اندھا بہ نسبت اوروں کے زیادہ علم رکھنے والا۔“  
پس اگر مقتدیوں میں سب سے زیادہ عالم اندھا ہو تو اس کی امامت مکروہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اندھے کی امامت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں مکروہ تشریحی ہے جب کہ مقتدیوں میں اس سے زیادہ عالم موجود ہو ورنہ نہیں۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابن ام مکتوم کو امام بنایا تھا حالانکہ وہ نابینا تھے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ان کو اس وقت امام بنایا تھا جب کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے سفر کیا تھا اور مدینہ میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم موجود نہ تھا۔ اس حالت میں رسول اللہ نے عتبان کو بھی امام بنالیا تھا جو نابینا تھے۔ خلاصہ یہ کہ اندھے سے زیادہ عالم کی موجودگی میں اس کا امام بنانا مکروہ تشریحی ہے۔

تنبیہ: مسلمانوں کو اس مسئلہ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس پر کہاں تک عامل ہیں۔ سو دیکھنے میں تو یہ آرہا ہے کہ اکثر جاہل اندھے ہماری مسجدوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور اندھوں کے پیچھے اپنی نمازوں کو مکروہ نہ کریں۔

امامت کا مقصود

مسلمانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی جماعتی زندگی اور ترقی و کامیابی کا راز انتخاب امام، انقیاد امیر اور اتحاد عمل میں پوشیدہ ہے جس کا عملی سبق انہیں پنج وقتہ نمازوں میں ملتا ہے۔ اگر مسلمانوں نے آج تک امامت اور نماز باجماعت کی حقیقت کو نہیں سمجھا تو آج سمجھ لیں کہ ان کا مقصد اصلی یہی ہے کہ لوگ امیر کا انتخاب کریں اور انتخاب کے بعد اس کی پوری پوری اطاعت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امامت کے لئے لازمی اور

ضروری ہے کہ مسلمانوں کا امام اعلیٰ درجہ کا متقی، پرہیزگار، عالم، عاقل اور وجیہ ہو اور اس کی امامت کو لوگ دل سے قبول کرتے ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُمْ مِنْ يَقْدُمُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

”تین شخص ہیں کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں ایک وہ کہ قوم کا امام ہو اور لوگ اس سے ناراض ہوں۔“

یعنی جس امام سے لوگ ناراض ہوں ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اس کا مسلمانوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔

مذکورہ بالا باتوں سے دو باتوں کا ثبوت ہوا۔ ایک تو یہ کہ امامت کے لئے بہترین شخص کا انتخاب ہونا چاہیے جو لوگوں میں اپنے علم و عمل کے لحاظ سے ممتاز و نمایاں ہو اور انتخاب کے بعد سچے دل سے اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ امامت کا فائدہ اور نتیجہ اسی وقت مرتب ہو سکتا ہے جب کہ یہ دونوں باتیں پائی جائیں۔

ائمہ مساجد کی اجارہ داری

امامت کوئی دنیا کمانے اور اس پر ناجائز قبضہ جمائے رکھنے کا نام نہیں۔ لیکن ائمہ مساجد نے یہی سمجھ رکھا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ نماز کے بارے میں مسلمانوں کی کوئی بات بھی شریعت کی روشنی میں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں۔ مقتدی اور امام دونوں نا اہل ہیں، مقتدی انتخاب کرنا نہیں جانتے اور امام امامت کرنا نہیں جانتے۔ مقتدی صرف اتنا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی الٹی سیدھی نمازیں پڑھا دے خواہ وہ کوئی ہو اور کیسا ہی ہو اور امام اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں کہ خواہ مقتدی راضی ہوں یا ناراض چونکہ مسلمان ائمہ مساجد کا انتخاب و تقرر کرنا نہیں جانتے۔ اس لئے امامت پر نا اہلوں، اندھوں اور جمعراتی ملاؤں کا قبضہ ہو گیا ہے، انہوں نے امامت کو اپنی ریاست سمجھ رکھا ہے، امامت ان کی، ان کے باپ کی اور ان کے بیٹے کی جاگیر ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا جمعرات کی روٹیاں کھاتا رہے گا اور مسجد کا واحد ٹھیکے دار بنا رہے گا اور جب وہ مر جائے گا تو اس کی امامت اس کے بیٹے کو بطور وراثت مل جائے گی۔ گویا اس زمانے میں امامت ایک مطلق العنان بادشاہت بن گئی ہے کسی مسلمان کو



کیا مجال کہ اپنے امام سے آنکھ ملا سکے چاہے، وہ دین الہی کی حرمت کفار و مشرکین کے ہاتھ پیچیں، خواہ وہ کتنے ہی جاہل، کندہ ناتراش، فتنہ انگیز اور دنیا پرست کیوں نہ ہوں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے ائمہ مساجد کے نصب و عزل کا اختیار ختم ہوا ہے اور مساجد اللہ میں استبداد و مطلق العنانی کی نحوست و لعنت آئی ہے۔ اسی وقت سے ہماری مسجدیں اپنی حقیقی شان کھو چکیں اور علوم و عرفان سے محروم ہو گئیں اور منبروں پر گندم نما جو فروش، غلامی پسند، اغیار نواز، فتنہ انگیز اور کندہ ناتراش دھرے ہوئے ہیں۔

### ائمہ مساجد کی ہٹ دھرمی

بعض جگہ تو ائمہ مساجد کی ہٹ دھرمی سے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ لوگ ان کی امامت سے ناخوش ہوتے ہیں مگر وہ امامت چھوڑنے میں نہیں آتے۔ اپنی امامت کو بحال رکھنے کی خاطر وہ طرح طرح کی خوشامد و چاپلوسی، ہتھکنڈوں اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں تفریق اور جھگڑے بندی کی آگ مشتعل کرتے ہیں، سرپٹول کراتے ہیں اور فوجداری کر دیتے ہیں۔ بہر حال اپنی امامت کو نہیں جانے دیتے۔ اس ہٹ دھرمی و اجارہ داری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف و موافق دو جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک مسجد میں دو جماعتیں ہونے لگتی ہیں۔ مسجدیں اکھاڑہ و دنگل بن جاتی ہیں اور شریعت عظمیٰ کا مقصد امامت فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ ذرا غور کرو جب بد بخت و ناسمجھ قوم کے ائمہ مساجد ایسے ہوں ان کی نمازیں اور مقتدی کیسے ہوں گے۔

یہ سب خرابیاں کیوں رونما ہوئیں؟ اس لئے کہ مسلمان یہ جانتے ہی نہیں کہ امامت کیا چیز ہے؟ امام کیسا ہونا چاہیے اور اس کے نصب و عزل کے شرعی قوانین کیا ہیں؟ اگر مسلمان احکام شرعیہ کی روشنی میں سچے دل کے ساتھ امامت کے فوائد و نتائج کو حاصل کرنا چاہیں تو آج جمعراتی ملاؤں اور خرابیوں سے نجات مل سکتی ہے۔

فائدہ: مذکورہ بالا تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان منصب امامت کے بارے میں سختی سے احکام شرعیہ کو ملحوظ رکھیں اور امامت کے بارے میں نہایت حزم و احتیاط سے کام لیں تاکہ نماز باجماعت کا اثر و نتیجہ مرتب ہو اور ان کی نمازوں میں جان آئے۔ مگر یاد رہے سابق

میں ہم نے امام کے جتنے اوصاف لکھے ہیں۔ وہ صرف امامت کی افضلیت سے متعلق ہیں۔ اگر ایسا قابل امام نہ ملے تو بہر حال جماعت ساقط ہو جاتی ہے اور تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جماعت کو ہر حال میں لازم سمجھنا چاہیے اور انفرادیت سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ انفرادیت موت ہے اور جماعت سے مسلمانوں میں اتحاد و الفت کا سلسلہ منظم رہتا ہے مسائل شرعی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمسایوں، اہل محلہ اور اہل شہر کا حال دریافت ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اخوت اسلامیہ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور مسلمانوں کو غیر مذاہب کی نظر میں جلال و قوت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اپنی طرف سے پہلے کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ امام بہتر، قابل اور لائق ملے۔ اگر ایسا نہ ملے تو فاسق و فاجر کے پیچھے بھی مجبوراً نماز ہو جاتی ہے الغرض جماعت کو بہر صورت قائم رکھنا چاہیے۔

## جماعت کے احکام و مسائل

پنج وقتہ فرض نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر جماعت ترک کرنے والا گنہگار ہے اور نماز کی اقتداء کی شرطیں حسب ذیل ہیں:

۱۔ مقتدی اقتدا کی نیت کرے۔

۲۔ مقتدی اور امام کی جگہ ایک ہو۔

۳۔ مقتدی اور امام کی نماز بھی ایک ہی ہو۔

۴۔ مقتدی کے گمان میں امام کی نماز صحیح ہو۔

۵۔ امام سے مقتدی کے پاؤں کی ایڑیاں آگے نکلی ہوئی نہ ہوں۔

۶۔ مقتدی یہ جان رہا ہو کہ اب امام رکوع میں گیا، اب سجدہ میں گیا، اب کھڑا ہوا اور

اب بیٹھا مطلب یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی حرکات و سکنات سے آگاہی ہونا شرط ہے۔ اب

یہ بات خواہ دیکھ کر جانے یا سن کر یا دوسروں کو دیکھ کر، مقصود تو امام کی حرکات کو جاننا ہے وہ

خواہ کسی طرح ہو۔

۷۔ مقتدی امام کی حالت جانتا ہو کہ امام مقیم ہے یا مسافر؟ خواہ یہ علم نماز سے پہلے ہو یا

بعد کو ہو جائے۔

۸۔ مقتدی تمام ارکان میں امام کی اقتدا کرے۔

۹۔ مقتدی بہ نسبت امام کے نماز کے ارکان و شرائط کی بھی بجا آوری میں کمتر ہو یعنی اگر امام رکوع و سجدہ کرے اور مقتدی بھی رکوع و سجدہ کرے تو اقتدا صحیح ہے یا امام رکوع و سجدہ کرتا ہو اور مقتدی کسی عذر کی وجہ سے رکوع و سجود اشارہ سے کرے تب بھی اقتدا صحیح ہے یا امام و مقتدی دونوں معذور ہوں دونوں اشارہ سے رکوع و سجود کر رہے ہوں تب بھی اقتدا صحیح ہے۔ ہاں اگر امام رکوع و سجود کا اشارہ کرتا ہو اور مقتدی رکوع و سجود کرتا ہو تو اقتدا صحیح نہیں۔ (۱)

اقتدا صحیح ہونے کی یہ نو شرطیں ہیں، جن کا اوپر بیان ہوا۔ ان شرائط کی بنا پر جو عدم صحت اقتدا کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ اگر امام سوار ہو اور مقتدی پیادہ، یا مقتدی سوار اور امام پیادہ یا مقتدی ایک سواری پر ہو اور امام دوسری سواری پر، یا امام ایک مکان میں ہو اور مقتدی دوسرے مکان میں تو ان سب صورتوں میں چونکہ اتحاد مکان نہیں اس لئے اقتدا صحیح نہیں۔

۲۔ اگر امام نفل پڑھتا ہو اور مقتدی فرض، یا امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی دوسرے فرض تو اقتدا صحیح نہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ امام فرض پڑھتا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے نفل پڑھ لے۔

۳۔ اگر مقتدی کی دانست میں امام کی نماز صحیح نہ ہوگی تو امام کی امامت اور مقتدی کی اقتدا صحیح نہیں۔

۴۔ پانچویں شرط کی صورت اور مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو اور دائیں ہاتھ کو کھڑا ہو تو مقتدی کی ایڑیاں امام سے آگے نہیں ہونی چاہئیں ورنہ مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ ہاں اگر مقتدی کے قدم لمبے ہوں اور اس کے طول کی وجہ سے مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں سے آگے بڑھ جائیں تو کچھ حرج نہیں۔

۵۔ ساتویں شرط کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ امام نے چار رکعت والی نماز میں دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور مقتدیوں کو یہ معلوم نہیں کہ امام نے بھول کر سلام پھیرا یا سفر کی وجہ سے تو اقتدا صحیح نہیں۔

۶۔ اگر کسی رکن میں مقتدی نے اپنے امام کی متابعت نہ کی یا کسی رکن کو امام سے پہلے کر لیا تو اقتدا صحیح نہیں۔

ترک جماعت کے عذر

بلا عذر جماعت کو ترک کرنا سخت گناہ ہے مگر مذکورہ ذیل عذروں کی وجہ سے جماعت کا

ترک کرنا گناہ نہیں۔ وہ اعذار یہ ہیں:

۱۔ بیماری کی وجہ سے۔

۲۔ اپنا حج ہونے کی وجہ سے۔

۳۔ مینہ اور کچھڑ کی وجہ سے۔

۴۔ زیادہ سردی کی وجہ سے کہ بیماری کا اندیشہ ہو۔

۵۔ سخت اندھیرا ہونے کی وجہ سے۔

۶۔ رات کے وقت آندھی آجانے کی وجہ سے۔

۷۔ زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے۔

۸۔ علم دین میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔

۹۔ مریض کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔

۱۰۔ مال کے چوری ہو جانے کے خوف سے۔

۱۱۔ قرض خواہوں کے خوف سے۔

۱۲۔ ظالم کے ظلم کی وجہ سے۔

۱۳۔ قافلہ کے چلے جانے کے خوف سے۔

یہ تیرہ اعذار ہیں جن کی وجہ سے جماعت ترک کرنا گناہ نہیں۔ ان کے علاوہ اگر کسی خود ساختہ عذریاتن آسانی و سہل پسندی کی وجہ سے جماعت ترک کرے تو سخت گناہ لازم آتا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق ہی جماعت کو ترک کرتا ہے۔

یاد رہے یہ اعذار بھی اسی وقت قابل قبول ہو سکتے ہیں جب کہ یہ اپنی انتہائی صورت

میں موجود ہوں۔ یہ نہیں کہ تیماردار کے مسجد جانے میں مریض کو کوئی خطرہ نہیں اور محض سستی کی وجہ سے تیمارداری کو عذر بنا کر جماعت ترک کر دی یا معمولی اندھیرا، کچھڑ یا آندھی کی وجہ سے گھر سے نہ نکلے۔ خلاصہ یہ کہ ان اعذار کے پردہ میں کسل مندی اور غفلت و سستی کو نہ آنے دینا چاہیے۔ تن آسانی کی وجہ سے یا امارت کی وجہ سے یا کسی نفسانی بغض و عناد کی وجہ سے جماعت ترک کرنا گناہ ہے۔

**فائدہ:** اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ تمام ڈھکی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص مذکورہ اعذار کی وجہ سے جماعت کی نماز نہ پڑھ سکے لیکن دل میں جماعت کی حسرت ہے تو اسے جماعت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام کمزوریوں سے اور عذروں سے واقف ہے اس کی نظر دلوں پر ہے اور وہ اپنے بندوں کی آسانی چاہتا ہے۔

### جماعت کے متعلق مختلف مسائل

اگر پنج وقتہ فرضی نماز میں امام کے سوا دو آدمی ہوں اور جمعہ میں امام کے سوا تین آدمی ہوں تب جماعت کا حکم ہے۔ یعنی جماعت کا نصاب دو مقتدی اور ایک امام ہے۔ خواہ دو مقتدیوں میں ایک سمجھ دار لڑکا ہی ہو۔ ایسی صورت میں بھی جماعت ترک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ (1)

جماعت جس طرح مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں دوکانوں میں اور جنگل میں بھی ہوتی ہے۔ رہا مسجد کی جماعت کا ثواب تو وہ تو مسجد ہی کے ساتھ مخصوص ہے گھروں اور جنگلوں میں ثواب نہیں مل سکتا۔ چنانچہ محلہ کی مسجد میں گھر کی نماز سے پچیس گنا زیادہ ثواب ہے۔ جامع مسجد میں محلہ کی مسجد سے پانچ سو نمازوں کا زیادہ ثواب ہے۔ بیت المقدس کی مسجد میں پانچ ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں پچیس ہزار کا ثواب ملتا ہے اور مکہ معظمہ میں ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ (در مختار)

اگر محلہ کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو تو محلہ داروں کے لئے محلہ کی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھنا درست نہیں۔ خواہ وہ جامع مسجد میں کیوں نہ ہو۔ کیونکہ محلہ داروں

پر اسی مسجد کا حق ہے جو ان کے محلہ میں ہے۔ لہذا اسی مسجد میں اذان کہہ کر تنہا پڑھ لینی چاہیے تاکہ مسجد آباد رہے۔ اس مسجد میں تنہا نماز پڑھنا اور مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ان کے حق میں افضل ہے۔ (در مختار)

اگر محلہ میں دو مسجدیں ہوں تو جو سب سے زیادہ قریب ہو اس میں نماز پڑھنی چاہیے۔ (در مختار)

اگر دونوں کا فاصلہ برابر ہو تو جو زیادہ قدیمی مسجد ہو اس میں پڑھنی چاہیے۔ (غایۃ

الاطار)

اگر کسی مسجد میں اذان ہو جائے تو پھر بغیر نماز پڑھے مسجد سے چلے جانا مکروہ ہے ہاں امام و مؤذن کو اگر دوسری جگہ میں اذان دینی اور نماز پڑھانی ہو تو ان کے لئے مکروہ نہیں۔ (عالمگیری)

### صفوں کی درستی و ترتیب

وہ چیز جو اسلام کو تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ اس کی ہر عبادت میں باطنی آداب اور دلی رجوع کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر نظم و درستی ترتیب، خوش سلیقگی، صفائی اور ظاہری خوبصورتی کو بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نماز کی ہر بات میں یہی نظم و انضباط اور درستی و ترتیب نظر آتی ہے جو دیکھنے والے کو بھی معلوم ہوتی ہے۔ صفوں کی درستی و ترتیب کے لئے حدیث میں آیا ہے:

يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلَفُوا

فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ لِيَنِي مِنْكُمْ اُولُو الْاِحْلَامِ وَالنَّهْيُ ثُمَّ

الذِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الذِّينَ يَلُونَهُمْ (1)

”جماعت کی نماز کے وقت رسول اللہ ﷺ ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے: سیدھے ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ رہو اگر تم بے ترتیبی اور اختلاف کرو گے تو تمہارے قلوب میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میرے نزدیک وہ لوگ کھڑے ہوں جو

بہت عقل مند اور سمجھ دار ہیں پھر وہ جوان سے قریب ہوں اور پھر وہ جوان سے قریب ہوں۔“

نیز حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

سوا صفوفکم فان تسوية الصفوف من تمام الصلوة (1)

”صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کا سیدھا کرنا نماز کا کمال ہے۔“

نیز فرمایا اپنی صفوں کو مضبوط باندھو، دو صفوں میں نزدیکی رکھو اور اپنے کندھوں کو ملاو، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں صفوں کی درزوں سے شیطان کو داخل ہوتا دیکھتا ہوں۔ اندازہ لگائیے حضور ﷺ نے صفوں کی درستی و ترتیب پر کتنا زور دیا ہے۔ اس بات کا بھی نمازیوں کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔

امام کے نزدیک ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جو دین میں زیادہ سمجھ رکھتے ہوں۔ پہلی صف میں شامل ہونے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ مقتدیوں کو لازم ہے کہ پہلے پہلی صف کو پوری کریں پھر دوسری تیسری وغیرہ کو، کندھے سے کندھا اور قدم ملا کر کھڑا ہونا چاہیے، صف سے الگ ہو کر نماز پڑھنی درست نہیں۔

سب سے اول مردوں کی صفیں ہوں پھر لڑکوں کی پھر خنوں کی اور پھر عورتوں کی، اس ترتیب کا اچھی طرح خیال رکھنا چاہیے۔ نماز میں لڑکوں کو پیچھے کھڑے ہونے کا اس لئے حکم ہے کہ ایسا نہ ہو کسی کی ہوا خارج ہو جائے یا کسی امر پر ہنس پڑیں تو دوسروں کی نماز میں خلل آئے۔ شریعت نے جو جماعت کی نماز میں زیادہ ثواب رکھا ہے اور صفوں کی درستی و ترتیب کی تاکید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے وحدت و یگانگت اور یک رنگی و یک جہتی پیدا ہوتی ہے، اس وحدت کو عمل میں لانے کی شارع نے یہاں تک تاکید و ہدایت کی ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں، صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے کے کندھے ملے ہوئے ہوں، اس سے غرض یہ ہے کہ ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے، نہ رہے۔ یاد رکھو انسان میں قدرت نے یہ قوت رکھی ہے کہ وہ دوسرے

کے انوار کو جذب کر لیتا ہے۔ تمام جماعت میں وحدت اور نورانیت کی ایک برقی لہر دوڑ جاتی ہے اور تمام نمازیوں میں وحدت و یک رنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

وہ امور جو امام کے لئے مکروہ تحریمی ہیں

اماموں کو چاہیے کہ وہ ان امور سے اجتناب کریں کیونکہ یہ امور مکروہ تحریمی ہیں:

۱۔ قراءت واذکار مسنونہ کو زیادہ طول دینا یعنی امام کو ضعفاء، کمزور، بیمار اور حاجت مندوں کا خیال رکھ کر قراءت میں تخفیف کرنی چاہیے۔

۲۔ ایسی جگہ میں صرف اجنبی عورتوں کی امامت کرنی جہاں امام کی محرم عورتوں میں

سے کوئی موجود نہ ہو۔

۳۔ امام کا صف کے بیچ میں کھڑا ہونا بشرطیکہ صف میں دو مقتدیوں سے زائد ہوں اگر

دو مقتدیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا تو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر مقتدی ایک ہو تو امام کے دائیں

جانب کھڑا ہو اور مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس ہوں، ایک مقتدی کا

بائیں طرف کھڑا ہونا مکروہ تنزیہی ہے۔

مسئلہ: اگر ایک مقتدی امام کے برابر کھڑا تھا اور دوسرا آگیا تو یہ دوسرا شخص اس مقتدی کو

پیچھے کھینچ لے خواہ نیت باندھ کر کھینچے یا نیت باندھنے سے قبل۔ مقتدی کھینچتے وقت اصلاح نماز

کی نیت کرے۔ اگر مقتدی کی یہ نیت نہ ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر پہلا مقتدی اپنی

جگہ سے نہ ہٹے گا اور اس کے پیچھے اور مقتدی صف باندھ لیں گے تو نماز بالاتفاق مکروہ ہوگی

ہاں اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو تو امام کو پھر ایک قدم بڑھ جانا چاہیے۔

اگر ایک شخص ایسے وقت میں آیا کہ پہلی صف بالکل بھر چکی تھی اور اس میں ایک آدمی کی

بھی گنجائش نہ تھی تو اسکو امام کے رکوع تک دوسرے مقتدی کا انتظار کرنا چاہیے، اس اثناء میں

اگر کوئی دوسرا مقتدی آجائے تو دونوں کو پچھلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔

اگر دوسرا مقتدی نہ آئے تو جس وقت امام رکوع میں جائے کسی مسئلہ جاننے والے کو اول یا

دوسری صف میں سے کھینچ لے اور اگر ایسا شخص نہ ہو جو اس مسئلہ کو جانتا ہے تو خود اکیلا امام

کے پیچھے دائیں ہاتھ کو بچا ہوا کھڑا ہو جائے اس وقت اکیلے کھڑا ہونا مکروہ نہ ہوگا ورنہ



مکروہ۔ (غایۃ الاوطار)

**مسئلہ:** عید گاہ میں، جنازہ گاہ میں اور مسجد میں تو امام اور مقتدیوں کے درمیان جتنا فاصلہ بھی ہو جائز ہے۔ مگر جنگل میں ایک صف کے لائق فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس سے زائد اگر بقدر دو وصفوں کے ہوگا تو ناجائز ہے اور اگر امام سر راہ نماز جنازہ پڑھانے کو کھڑا ہو اور مقتدی بھی اس کے پیچھے راستہ میں کھڑے ہوں تو اس قدر فاصلہ چھوڑنا چاہیے کہ گاڑی درمیان سے گزر سکے اس سے زائد فاصلہ چھوڑنا ناجائز ہے۔ نماز صحیح نہ ہوگی۔ (1)

**مسئلہ:** اگر امام مسجد کی چھت پر ہو اور لوگوں پر اس کی حالت مشتبہ ہو، اس کی حرکات و سکنات دیکھ سکتے ہوں تو اقتدا جائز ہے۔ ورنہ نہیں۔ (2)

وہ صورتیں جن میں مقتدی پر امام کی تابعداری لازم نہیں

مقتدی کو امام کی اقتدا و تتبع کرنا لازم ہے۔ رکوع، قیام اور سجدہ میں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے سر اٹھائے گا، اس کا سر قیامت کے روز گدھے جیسا ہوگا۔ یعنی جو امام سے پہلے سر اٹھائے وہ بے وقوف اور احمق ہے اس نے اطاعت امام کے فلسفہ کو سمجھا ہی نہیں، پس امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرنا چاہیے۔ لیکن مذکورہ ذیل صورتوں میں مقتدی پر امام کی تابعداری لازم نہیں۔

۱۔ اگر امام عیدین کی تکبیریں سولہ سے زائد کہے تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں

۲۔ اگر امام جنازہ کی نماز میں چار سے زائد تکبیریں کہے تو مقتدی اسکی تابعداری نہ کریں صرف چار تکبیریں کہیں۔

۳۔ اگر امام کسی رکن میں زیادتی کرے مثلاً دو سجدوں کی بجائے تین کرے یا ایک رکوع کی بجائے دو رکوع کرے تو مقتدی تیسرے سجدے اور دوسرے رکوع میں امام کا ساتھ نہ دیں۔

۴۔ اگر امام پانچوں رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے تو مقتدی کھڑے نہ ہوں۔

(غایۃ الاوطار)

یہ چار صورتیں ہیں جن میں مقتدی پر امام کی تابعداری لازم نہیں اور وہ امور جن کو اگر امام ترک کر دے تو مقتدی ان کو ترک نہ کرے بلکہ ان کو مقتدی ادا کریں یہ ہیں:

۱۔ اگر تکبیر تحریمہ کے وقت امام ہاتھ نہ اٹھائے تو مقتدی ضرور اٹھالیں امام کی متابعت میں ترک نہ کریں۔

۲۔ اگر امام سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ نہ پڑھے تو مقتدی ضرور پڑھیں۔

۳۔ اگر امام تکبیرات انتقالی یعنی رکوع و سجود کے وقت اللہ اکبر نہ کہے تو مقتدی ضرور کہیں۔

۴۔ اگر امام رکوع سجود میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى نہ کہے تو مقتدی ضرور کہیں۔

۵۔ اگر امام قومہ میں سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نہ کہے تو مقتدی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ضرور کہیں۔

۶۔ اگر امام تشہد نہ پڑھے تو مقتدی ضرور پڑھیں۔

۷۔ اگر امام لفظ السلام علیکم نہ کہے تو مقتدی ضرور کہیں۔

۸۔ اگر امام ایام تشریق کی تکبیریں نہ کہے تو مقتدی ضرور کہیں۔

ہدایات: امام سے پہلے رکوع و سجود میں جانا یا سرائٹھانا مکروہ تحریمی ہے۔ (1)

اگر مقتدی سے قبل امام قعدہ اولیٰ میں التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے یا قعدہ اخیرہ میں مقتدی سے قبل امام درود دعا پڑھ کر سلام پھیر دے یا رکوع و سجود کی تسبیحات پڑھ کر مقتدی سے قبل امام سرائٹھالے اور یا مقتدی سے پہلے امام دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو ان سب صورتوں میں مقتدی پر لازم ہے کہ باقی حصہ چھوڑ کر امام کی تابعداری کرے۔ (2)

## مقتدی کی قسمیں

مقتدیوں کی چار قسمیں ہیں:

مدرک، لاحق، مسبوق اور مسبوق لاحق۔

مدرک کے معنی ہیں پانے والا یعنی وہ مقتدی جس نے امام کے ساتھ اول سے آخر تک پوری نماز ادا کی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مدرک وہی ہے جو تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شامل ہوا بلکہ وہ بھی مدرک ہے جس نے پہلی رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شرکت کی۔ لاحق وہ ہے جس نے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کی نیت باندھی لیکن درمیان نماز میں بے وضو ہو گیا یا اور کوئی وجہ ہو گئی اور مقتدی چلا گیا، بعد میں آکر قضا شدہ رکعت تنہا پوری کی۔ مطلب یہ کہ لاحق مقتدی وہ ہے جو شروع نماز سے امام کے ساتھ شریک ہوا پھر درمیان میں کوئی امر مانع صلوة لاحق ہو گیا اور وہ نماز چھوڑ کر چلا گیا اور پھر بقیہ نماز تنہا ادا کی۔

مضبوق وہ ہے جو ایک دو رکعت فوت ہو جانے کے بعد جماعت میں آکر شریک ہوا ہو۔ مسبوق لاحق وہ ہے جو دوسری رکعت میں بحالت قیام جماعت شریک ہوا پھر تیسری یا چوتھی رکعت میں بے وضو ہو گیا یا سو گیا اور نماز کے آخری حصہ میں یا امام کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے آیا یا بیدار ہوا بقیہ نماز پوری کی، اب ان سب کے احکام الگ الگ بیان کئے جاتے ہیں۔

### مضبوق کے احکام

مضبوق کی نماز ادا کرنے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس طرح اس کی نماز فوت ہوئی ہے اسی طرح بقیہ نماز ادا کرے۔ مثلاً ظہر کی نماز میں مسبوق کو امام کے ساتھ صرف چوتھی رکعت ملی یعنی امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی تو جس وقت امام سلام پھیر دے۔ یہ مسبوق کھڑا ہو جائے اور اس طرح نماز پڑھے گویا اب نماز شروع کی ہے۔ یعنی سبحانک اللہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد اور کوئی سورۃ پڑھ کر رکوع کر کے سجدہ کرے اور تشہد کے

لئے بیٹھ جائے۔ کیونکہ ایک رکعت اس کو امام کے ساتھ ملی ہے اور ایک رکعت یہ ہوگئی اس طرح دو رکعتیں ہو گئیں اور دو رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھنا لازم ہے۔ تشہد سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے، یہ دوسری رکعت پوری کر کے تیسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اس طرح پوری چار رکعتیں ہو جائیں گی ایک امام کے ساتھ اولیٰ اور تین یہ مگر اپنی اخیر کی دو رکعتوں کو اس طرح پڑھے گا کہ تشہد سے اٹھنے کے بعد بسم اللہ شریف، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے گا اور کچھ نہ پڑھے گا۔ اس طرح دو رکعتیں پڑھے گا اور دو خالی کیونکہ ظہر کی رکعتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ الغرض جس طرح نماز فوت ہوئی ہو، اسی طرح پڑھی جائے گی۔

**مسئلہ:** مسبوق اگر امام کے سلام پھیرنے سے قبل کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ بقدر تشہد نہ بیٹھا تو خواہ ایسی حرکت کسی عذر کی وجہ سے کی یا بلا عذر بہر حال نماز فاسد ہوگئی۔ کیونکہ قعدہ اخیرہ جو فرض تھا اس کا ترک ہو گیا۔ اگر بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد سلام سے پہلے بلا عذر کھڑا ہو گیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو نماز میں کوئی حرج واقع نہ ہوگا۔ (1)

**تشریح:** وہ اعذار جن کی وجہ سے مسبوق کو بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے قبل کھڑا ہو جانا جائز ہے یہ ہیں:

۱۔ بے وضو ہو جانے کے خوف سے۔

۲۔ وقت کے جاتے رہنے کے خوف سے۔

۳۔ مدت مسح پوری ہو جانے کی وجہ سے۔

۴۔ کسی آدمی کے سامنے سے گزر جانے کے خوف سے۔ (2)

**مسئلہ:** اگر مسبوق بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد عذر کی وجہ سے امام کے سلام پھیرنے سے قبل کھڑا ہو گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ امام نے سجدہ سہو کیا تو اب اگر مسبوق نے اپنی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو جس حالت میں ہو اس سے عود کر کے سجدہ سہو میں شریک ہو جائے۔ اگر اپنی رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اخیر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر اخیر میں سجدہ سہو نہ کرے گا تو نماز فاسد

ہوگی (غایۃ الاوطار)۔

مذکورہ صورت میں اگر بعد میں معلوم ہوا کہ امام نے سجدہ تلاوت کیا ہے تو جب تک اپنی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ کر سجدہ تلاوت میں شریک ہو جائے اور سجدہ بھی کرے پھر اپنی نماز پڑھے، اور اگر اپنی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو تو پھر خواہ عود کرے یا نہ کرے بہر حال نماز فاسد ہو جائے گی۔ (1)

**مسئلہ:** اگر مسبوق دوسری رکعت میں اس وقت شریک ہوا کہ امام بلند آواز سے قراءت پڑھ رہا تھا یعنی جہری نماز تھی، تو اس کو سبحانک اللہم نہ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن کا سننا واجب ہے اور ثناء کا پڑھنا سنت، لہذا واجب کے مقابلہ میں سنت کو ترک کر دے اور اگر مسبوق سری نماز کی دوسری رکعت میں شریک ہوا ہو تو اس صورت میں سبحانک اللہم پڑھے اور اپنی رکعت میں بھی۔ یعنی جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اس میں بھی ثناء پڑھے۔ (2)

اگر مسبوق نے امام کو رکوع یا سجدہ میں پایا اور اس کو ظن غالب ہے کہ میں ثناء پڑھ کر رکوع یا سجدہ میں شریک ہو سکوں گا تو ثناء پڑھ لے ورنہ ثناء ترک کر کے رکوع یا سجدہ میں شریک ہو جائے۔ (3)

**مسئلہ:** اگر امام چوتھی رکعت کا قعدہ اخیرہ کر کے سہواً پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا اور مسبوق بھی اس کی اقتداء میں کھڑا ہو گیا تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ مسبوق نے امام سے علیحدہ ہو جانے کی صورت میں اس کی اقتداء کی اور اگر امام قعدہ اخیرہ ترک کر کے پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہوا ہو تو مسبوق کی نماز اس وقت تک فاسد نہ ہوگی جب تک امام پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرے۔ پانچویں رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعد مسبوق کی، امام کی اور سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (4)

2۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 91

4۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 92

1۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 92

3۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 90

## مسبق کے لئے ہدایات

۱۔ مسبق کو چاہیے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر دے اور یہ معلوم ہو جائے کہ اب امام کے ذمہ کوئی سجدہ سہو وغیرہ باقی نہیں تو اس وقت اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوتا کہ ہر طرح کی خرابی اور احتمال سے محفوظ رہے۔ (1)

۲۔ مسبق کو چاہیے کہ جب امام قعدہ اخیرہ میں بیٹھے تو جلدی جلدی تشہد نہ پڑھے بلکہ ذرا ٹھہر ٹھہر کر اتنی دیر میں پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے تک ختم ہو اور خالی نہ بیٹھا رہے۔ اگر امام کے سلام سے پہلے تشہد فارغ ہو گیا تو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تکرار کرتا رہے یا خاموش بیٹھا رہے، اختیار ہے (غایۃ الاوطار)۔ (2)

۳۔ اگر مسبق نے امام کو قعدہ میں پایا تو ثناء نہ پڑھے قعدہ میں شریک ہو جائے۔ (3)

## لاحق کا حکم

لاحق جس وقت وضو کر کے آئے تو جس رکن میں امام ہو اس میں آکر شریک نہ ہو۔ بلکہ جس طرح اور جس رکن کو امام ادا کر چکا ہے۔ اس ترتیب سے یہ بھی پہلے اسی رکن کو ادا کرے، مثلاً پہلی رکعت کے سجدہ میں اس کو حدث ہو گیا اور یہ وضو کرنے چلا گیا۔ حتیٰ کہ جتنی دیر میں وہ وضو کرتا ہے اتنی دیر میں امام دوسری رکعت کے قعدہ میں پہنچ گیا تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ قعدہ میں ہی آکر شریک ہو جائے بلکہ اس کو چاہیے کہ جس سجدہ میں اس کو حدث ہوا تھا پہلے وہ سجدہ ادا کرے۔ پھر وہ دوسری رکعت ادا کرے جو امام اس کی عدم موجودگی میں پڑھ چکا ہے۔ اب امام آگے پڑھتا جائے گا اور یہ اس کے ادا کئے ہوئے ارکان کو ادا کرتا جائے گا۔ اگر آخر نماز میں امام کی نماز تک پہنچ جائے تو فہما اور اگر امام نماز ختم کر چکے اور یہ اس کو نہ پکڑ سکے تو اپنی نماز پوری کرے مگر ترتیب کا خیال رکھے۔ للاحق کے لئے ادائے نماز کا طریقہ یہی ہے۔ (4)

2۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 91

4۔ درمختار جلد 2 صفحہ 345

1۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 91

3۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 91

## مسبق لاحق کا طریقہ اداء نماز

مسبق لاحق پہلے اس نماز کو ادا کرے جو اقتداء کی حالت میں فوت ہوئی ہو اور پھر اس نماز کو ادا کرے جو شروع ہی سے فوت ہو چکی ہے۔ مثلاً ایک شخص ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہو اور تیسری رکعت میں اس کو حدث ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ جماعت سے علیحدہ ہو کر وضو کرے پھر پہلے تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرے۔ مگر خالی بغیر سورۃ کے پھر قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور اس رکعت کو ادا کرے، جو ابتداء ہی سے رہ گئی تھی، اس رکعت میں سبحانک اللہم، اعوذ، بسم اللہ، الحمد اور کوئی سورت پڑھے پھر بیٹھ کر باقاعدہ سلام پھیر دے۔ (1)

## بناء نماز کے احکام

اگر امام کو نماز میں حدث ہو جائے تو اس کے متعلق ہم پہلے تفصیلی روشنی ڈال آئے ہیں۔ یہاں دوبارہ مختصراً اس کے احکام لکھے جاتے ہیں۔ جس وقت امام کو نماز میں حدث ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی جگہ کسی ایسے شخص کو جو خلیفہ ہونے کے مسائل سے واقف ہو، خلیفہ بنا کر فوراً اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وضو سے فارغ ہو کر واپس آجائے اور خلیفہ کی جگہ کھڑے ہو کر خلیفہ کے پیچھے اپنی بقیہ نماز پوری کرے اسی کو بناء کہتے ہیں۔

امام، مقتدی، اور تنہا نماز پڑھنے والے کو سب کو بناء نماز جائز ہے۔ ان میں سے جس کسی کا بھی وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے گذشتہ پڑھی ہوئی نماز سے آگے آ کر شروع کرے مگر امام و مقتدی کے لئے بناء کرنا از سر نو نماز پڑھنے سے افضل ہے ورنہ جماعت کے ثواب سے محروم رہیں گے اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے از سر نو نماز پڑھنا افضل ہے۔ (2)

## ضروری مسائل

اگر کسی امام کی امامت سے لوگ کسی امر شرعی کی بناء پر ناخوش ہوں اور اس کو امام رکھنا نہ چاہتے ہوں، تو اس حالت میں اس امام کو امامت کروانا مکروہ تحریمی ہے، اور لوگ کسی امر

دنیاوی کی وجہ سے امام سے ناراض ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کی امامت صحیح ہوگی۔  
(غایۃ الاوطار)

مسئلہ: اگر امام اور مقتدیوں میں نماز کے کسی امر پر اختلاف ہو جائے مثلاً مقتدی کہیں کہ تین رکعتیں پڑھی گئیں اور امام کہے پوری چار ہو گئیں اور امام کو اس بات کا کامل یقین بھی ہو تو امام کا قول معتبر ہوگا۔ اور مقتدیوں کے کہنے سے نماز کا دوبارہ اعادہ نہ کیا جائے۔ اور اگر امام کو اپنے قول میں شک ہو تو پھر مقتدیوں کا قول قابل اعتبار ہوگا اور نماز مکرر پڑھی جائے گی۔ (1)

مسئلہ: اگر مقتدیوں میں باہم اختلاف ہو جائے، کوئی کہے تین رکعتیں ہوئی ہیں اور کوئی چار کہے تو جس فریق کے ساتھ امام ہوگا اسی کا قول قابل اعتبار ہوگا خواہ امام کے ساتھ ایک ہی آدمی ہو اگر ایک مقتدی کو یقین ہے کہ تین رکعتیں ہوئیں۔ دوسرے کو یقین نہیں تو بس کچھ نہ کیا جائے نماز ہو گئی مکرر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (ص)

ایک مقتدی کو یقین ہے کہ تین رکعتیں ہوئیں اور باقی مقتدیوں اور امام کو تین یا چار ہونے میں شک ہے تو احتیاطاً دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ (3)

مسئلہ: ایک شخص کو فجر یا ظہر یا عصر کی امام کے ساتھ ایک رکعت ملی تو یہ جماعت سے نماز پڑھنے والا شمار نہ ہوگا۔ مگر جماعت کا ثواب ضرور مل جائے گا۔ (4)

اگر چار رکعتوں والی نماز میں سے تین رکعتیں امام کے ساتھ مل گئیں تو جماعت سے نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ (5)

اگر کوئی شخص امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے قبل شریک ہو گیا تو اسے وہ رکعت مل گئی اور اگر اس کے رکوع میں جھکنے سے پہلے امام نے سر اٹھایا تو رکعت فوت ہو گئی۔ (6)

اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو گیا تو وہ رکعت مل گئی ورنہ نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رکعت پانے کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم رکوع میں

2۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 93

4۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 514

6۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 120

1۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 93

3۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 93

5۔ مالگیری جلد 1 صفحہ 120



ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم بھی کہا ہو تب وہ رکعت ملے گی ورنہ نہیں۔

**مسئلہ:** ایک شخص فجر یا مغرب کی تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اگر اس نے دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو اپنی نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو پھر نہ توڑے اسی کو پورا کرے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کہ اتنے میں جماعت کھڑی ہوگئی تو اگر دوسری رکعت کو سجدہ نہ کیا تو نماز قطع کر کے جماعت میں شریک ہو جائے اس کی تنہا دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور فرض امام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اگر تین رکعتیں پڑھ چکا تھا کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر کے جماعت میں شریک ہو جائے اور اگر کر لیا ہو تو قطع نہ کرے۔ اپنی نماز پوری کر لے، اس کے بعد اختیار ہے چاہے جماعت میں شریک ہو یا نہ ہو مگر عصر میں یہ اختیار نہیں، یعنی عصر کی جماعت میں شریک نہ ہو کیونکہ اپنی نماز علیحدہ پڑھ کے جو شخص جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ وہ نفل ہو جاتے ہیں اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں لہذا عصر کی نماز میں دوبارہ شریک جماعت نہ ہو۔ ظہر اور عشاء کی نماز میں شریک ہو جائے مگر اپنے اختیار پر منحصر ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ نفل تین ہوں گے اور نفل تین نہیں ہوتے۔ فجر کی نماز میں بھی شریک نہ ہو۔ کیونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل ہی نہیں۔ (2)

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا اور جماعت کھڑی ہوگئی تو اس وقت تک قطع نہ کرے جب تک جماعت کے ساتھ کم از کم قعدہ اخیرہ مل جانے کا قوی خیال ہو، ورنہ قطع کر دے اور اگر فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی اور وقت کی سنتوں میں ایسا اتفاق ہو تو اگر پہلی دو رکعت کے بعد جماعت کھڑی ہو تو دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے اور اگر تیسری یا چوتھی رکعت کے وقت جماعت کھڑی ہو تو چاروں رکعتیں پوری کر کے جماعت میں شریک ہو۔ (3)

مگر یاد رہے اگر جماعت میں شریک ہونے کے لئے سنتوں کو قطع کیا ہو تو پھر دوبارہ بعد میں سنتوں کی قضا کرنی ہوگی۔ (1)

مسئلہ: ایک شخص بوقت فجر ایسی حالت میں مسجد میں آیا کہ جماعت ہو رہی تھی اور اس نے سنتیں نہ پڑھی تھیں تو اگر اسے قعدہ اخیرہ مل جانے کی قوی امید ہو تو کسی علیحدہ جگہ سنت ادا کر کے جماعت میں شریک ہو ورنہ مجبوراً سنتوں کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ مگر یہ حکم صرف فجر کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے، ظہر و جمعہ کی سنتوں کا یہ حکم نہیں ہے، ظہر یا جمعہ کی جماعت شروع ہو جائے اس وقت بھی سنتیں شروع نہ کرے (2) فرض نماز کے بعد ظہر و جمعہ کی سنتیں پڑھ لے۔ (3)

مگر یہ سنتیں آخر کی سنتوں سے پہلے ادا کرے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فجر کی سنتیں قضا ہونے کے بعد پھر ادا نہیں کی جاسکتیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظہر و جمعہ کی سنتوں کا وقت جماعت ہونے کے بعد موجود ہے اور فجر کی سنت کا وقت جماعت کے بعد موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر طلوع آفتاب کے بعد فجر کی قضا شدہ سنتوں کو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، امام محمد کے نزدیک طلوع آفتاب کے بعد فجر کی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ (4)

عصر اور عشاء کی سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ کیونکہ عصر و عشاء کی سنتیں مؤکدہ نہیں کیونکہ ظہر و جمعہ کی سنتیں مؤکدہ ہیں اس لئے وقت کے اندر ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد ان کی بھی قضا نہیں۔ (کبیری)

### جماعت ثانیہ کا حکم

محلہ کی اس مسجد میں جس میں امام، مؤذن اور مقتدی معین ہوں دوسری جماعت محراب سے ہٹ کر بغیر دوسری اقامت کے بالاتفاق جائز ہے۔ ہاں ایسی مسجد میں دوسری اذان دے کر مکرر جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اگر مسجد ایسی ہو کہ نہ امام مقرر ہو، نہ مؤذن اور نہ نمازی تو ایسی مسجد میں دوسری اذان کے ساتھ بھی مکرر جماعت بلا کراہت جائز ہے۔ (5)

1۔ درمختار جلد 2 صفحہ 506 2۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 120 3۔ نور الایضاح صفحہ 106-07

4۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ 512 5۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ 83

## امام کے لئے دس آداب

انتخاب امام کے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امام ایسا شخص ہونا چاہیے جو قرآن سب سے زیادہ اچھا پڑھتا ہو۔ یعنی بقدر ضرورت فن تجوید و قراءت سے واقف ہو یا کم از کم صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ائمہ مساجد غلط قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مقتدیوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اور نہ امام کو مقرر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ صحیح قرآن پڑھنے والا امام رکھا جائے۔ حالانکہ اس پر نماز کا ایک رکن قراءت موقوف ہے۔ حضرت امام شافعی نے تو اس چیز کو یہاں تک اہمیت دی ہے کہ ان کے نزدیک قرآن کا اچھا پڑھنے والا عالم پر مقدم ہے۔

علاوہ ازیں امام کیلئے دس انسانی اور شرعی آداب ہونے ضروری ہیں۔ تاکہ مقتدیوں کی نماز اچھی طرح ہو۔ وہ آداب یہ ہیں:

- ۱۔ تکبیریں باقاعدہ اور کامل طور پر کہے۔
- ۲۔ رکوع و سجود اچھی طرح یعنی اطمینان و سکون کے ساتھ کرے۔
- ۳۔ اپنے آپ کو حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچائے رکھے۔
- ۴۔ بدن اور لباس کو حتی الامکان پاک و صاف رکھے۔
- ۵۔ قراءت میں لوگوں کا لحاظ رکھے یعنی زیادہ طویل نہ کرے تاکہ مقتدیوں پر بار نہ گزرے۔
- ۶۔ دماغ میں غرور و نخوت نہ ہو۔
- ۷۔ نماز شروع کرنے سے پہلے تمام گناہوں سے استغفار کرے۔
- ۸۔ مقتدیوں کے لئے بھی استغفار کرے کیونکہ ان کا امام ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد صرف اپنے ہی لئے دعا نہ کرے بلکہ سب کے لئے دعا کرے۔
- ۹۔ جب مسجد میں کوئی مسافر آجائے تو اس کی حاجت دریافت کرے، بقدر طاقت خود اس کی امداد کرے اور دوسروں سے کرائے۔
- ۱۰۔ ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور اپنے مقتدیوں کے دلوں میں

گھر کرے۔

تنبیہ: بعض ائمہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن کو راگ کی طرح پڑھتے ہیں اور اس کو مقتدی قاری سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کو گا کر پڑھنا بہت گناہ ہے بلکہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ یہ کتنی بڑی کور ذوقی اور دماغی افلاس ہے کہ جو امام قرآن کو گا کر پڑھے اس کو قاری سمجھا جاتا ہے۔ خواہ وہ غلط پڑھتا ہو۔ اچھی آواز کو دیکھا جاتا ہے اور قرآن کو صحیح یا غلط پڑھنے کا ذرا سا بھی ذوق و احساس نہیں ہوتا۔

## مسجد کے احکام و آداب

اسلام میں مساجد کا درجہ

مفردات میں ہے: ”المسجد بکسر الجیم موضع السجود“ (یعنی مسجد بکسر جیم ہے اور اس سے مراد وہ مقام ہے جس میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے جبین نیاز رکھی جائے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ مساجد کے لئے اللہ پاک سورہ جن میں فرماتا ہے:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ (الجن: 18)۔

”مسجدیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں“۔

یعنی مسجدوں کے اندر صرف وہی اعمال سرانجام دینے چاہئیں جو صرف اللہ کے لئے مخصوص ہوں۔ دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (جن) مسجد میں سوائے اللہ کے کسی کی بندگی و پرستش نہ کرنی چاہیے ان کو خالص طور پر خدا کے ذکر و عبادت کے لئے مخصوص رکھنا چاہیے۔ فضول و لغو اور بیکار دنیاوی ذکر و اشتغال، حکام و حکومت کی خوشامد و چاپلوسی غلامانہ اغراض اور شرک و بدعت کی نشرو اشاعت سے مساجد اللہ کو طوٹ اور بے حرمت نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت امام طبری حضرت ابن عباس کی تفسیریوں نقل کرتے ہیں:

افردوا المساجد بذكر الله تعالى ولا تجعلوا لغير الله

فيها نصيبا

”مسجدوں کو صرف اللہ کے ذکر کے لئے مخصوص کر دو۔ اللہ کے سوا غیروں کے ذکر

کے لئے وہاں کوئی حصہ نہ ہو۔

۱۔ مساجد کی تعمیر اور ان کا قیام صرف اس لئے ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کیلئے مخصوص کر دی جائیں۔ ان میں مسلمان محض اس لئے جمع ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت بجلائیں۔  
۲۔ مساجد میں بادشاہوں، حکام، امراء اور اخیار و اجانب کی قصیدہ خوانی اور تعریف و توصیف بیان کرنا ان کی خوشامد و چاپلوسی کا ذلیل و مکروہ مظاہرہ کرنا اور ان کے لئے دعائیں مانگنا ناجائز ہے۔

۳۔ مساجد میں دنیاوی امید کا سرانجام دینا اور فضول اور لغو باتیں کرنا سخت ممنوع ہے اس ممانعت میں وہ باتیں داخل نہیں جن کا تعلق ملکی و ملی فلاح و بہبود سے ہو۔  
پس جو لوگ آج کل مساجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں وہ مساجد کی حرمت و عظمت کو بے لگاتے اور سخت گنہگار ہوتے ہیں۔ اس مفسدہ کی روک تھام ہر مسلمان کا فرض ہے تاکہ مساجد کی حرمت قائم ہو اور وہ اللہ کے ذکر و عبادت کے لئے مخصوص ہو جائیں۔

### اسلام کی پہلی مسجد اور اس کے اغراض و مقاصد

جب آنحضرت سرور کائنات ﷺ مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے شہر سے باہر بنی عمرو بن عوف کے محلہ میں قیام فرمایا اور سب سے پہلے اس مسجد کی بنیاد ڈالی جس کو مسجد نبوی یا مسجد قبا کہا جاتا ہے اور اب تعمیر ملت کا اصلی کام شروع ہوا، گویا یہ مسجد مسلمانوں کی دینی، سیاسی اور مجلسی اصلاح و تعمیر کا پہلا مرکز اور ہال تھی جہاں ملکی و ملی ضروریات پر غور و مشورہ کیا جاتا تھا اور اہم امور سرانجام پاتے تھے۔

مدینہ میں جو منافق تھے اور اسلامی اثر و اقتدار کے سامنے خائب و خاسر ہو کر مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر آگ کے انگاروں پر لوٹے جا رہے تھے، ان کے روساں نے مسجد قبا کے مقابلہ میں اپنی اسلام آزار اغراض کی تکمیل اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لئے اپنی علیحدہ مسجد بنا ڈالی جس کا مقصد وحید نفاق و فساد تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ان دونوں مسجدوں کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِغْوَاءً لِّعَن حَارِبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلُ ۗ وَ  
 لِيُخَلِّفُنَ إِنَّ أَرَادْنَا إِلَّا الْخُسْفٰنَ ۗ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿٥٠﴾  
 لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۗ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ  
 أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۗ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا ۗ وَاللَّهُ  
 يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿٥١﴾ (سورة التوبہ)

”اور جن منافقوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کر کھڑی کی کہ خدا اور اس کے  
 رسول کے ساتھ کفر کریں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں اور ان لوگوں کو پناہ دیں جو  
 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قتال کر چکے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اس مسجد  
 سے ہمارا مقصد صرف بھلائی ہے۔ سو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں  
 اگرچہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں۔  
 اے پیغمبر! آپ اس مسجد میں جا کر کھڑے بھی نہ ہونا۔ ہاں وہ مسجد مقدس جس کی  
 بنیاد روز ازل سے ہی اتقاء اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ یقیناً اس بات کی مستحق  
 ہے کہ آپ اس میں نماز کے لئے کھڑے ہوں کیونکہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو  
 صاف دستھار رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو درست رکھتا ہے۔“

### مساجد کی آبادی اور سعی تخریب

مساجد کی غرض یہ ہے کہ ان سے مسلمانوں کو دن میں پانچ مرتبہ اتحاد و اتفاق کا سبق ملتا  
 رہے اور ان کے قلوب و ارواح کو احکام الہیہ کی روشنی ملتی رہے پس اگر مسجدوں سے یہ غرض  
 پوری ہوتی ہے اور منبروں سے کتاب و سنت کے مطابق ان کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے، تو وہ  
 مسجدیں آباد ہیں خواہ وہ کچی ہوں اور ظاہری ساز و سامان کچھ نہ ہو۔ درحقیقت مساجد کی  
 آبادی کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ائمہ دینی بصیرت رکھنے والے اور اسلام کی صحیح روشنی دینے  
 والے ہوں اور مسلمانوں کی تعمیر و اصلاح کا کام بخوبی سرانجام پارہا ہو، اور جن مسجدوں سے  
 ملت مسلمہ کی غرض پوری نہیں ہوتی، وہ ویران ہیں۔ خواہ وہ کتنی ہی شان دار اور با عظمت

ہوں۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سن لینا چاہیے کہ مسجدوں کی آبادی و رونق تین چیزوں سے ہے: ایک تو یہ کہ ان میں نمازیوں کی کثرت ہو اور وہ سب کے سب کسی نہ کسی حد تک اسلامی عقائد و اخلاق کا سچا نمونہ ہوں اور دوسرے یہ کہ ان میں ایسے ائمہ ہوں جن سے قرآن حکیم کے صحیح علم و عمل کے چشمے جاری ہوں اور اتحاد و اتفاق کا سبق ملتا ہو اور تیسرے یہ کہ مسجدوں میں ہر مسلمان کو ذکر و عبادت الہی کرنے کی آزادی ہو۔ اور سعی و تخریب سے مراد یہ ہے کہ نمازی کم ہوں، جو ہوں بھی تو اسلام کے علم و عمل سے محروم ہوں، خدا کے بندوں کو خدا کے ذکر سے روکا جاتا ہو اور فرقہ بندی و ہنگامہ آرائی کا سبق ملتا ہو۔ چنانچہ شیخ علی البہمانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ويذكر فيها اسمه اذا منع لم يهتم لعمار لهم فكانما سعی

في خرابها.

”جب کہ کسی نے لوگوں کو ذکر الہی سے روکا تو اس نے مسجد کی آبادی کا اہتمام نہیں کیا اور ایسا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ گویا اس نے مساجد کی خرابی کی سعی کی۔“  
حضرت امام رازی اس کی مزید تشریح و توضیح یوں کرتے ہیں:

السعی فی تخریب المسجد قد یکون لوجهین احدهم

مع المصلین و المتعبدين و المتعهدین له فیکون ذلک

تخریبا و الثانی بالهدم و التخریب۔

”مسجدوں کو دیران کرنے کی کوشش کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں، عبادت گزاروں اور وابستگان مساجد کو منع کیا جائے۔ ایسا کرنا مسجد کی تخریب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی عمارت کو منہدم کیا جائے۔“

سعی تخریب کرنے والوں کے لئے سخت وعید

مذکورہ بالا تفصیل سے ثابت ہوا کہ سعی تخریب یہ ہے کہ مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے

لوگوں کو روکا جائے، ان کی آبادی کا انتظام و اہتمام نہ کیا جائے اور اس کی عمارت کو منہدم کیا

جائے۔ جو لوگ مسجدوں کی دیرانی میں سعی ہوئے ہیں، ان کو یہ سخت وعید سن کر لرز جانا

چاہیے اور اپنی اسلام شکن حرکت پر ماتم کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِبِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۷﴾ (سورۃ البقرہ)

”اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کئے جانے سے روکے اور ان کے ویران ہونے میں کوشش کرے ان لوگوں کو تو کبھی بے خوف ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔“

صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے ویرانی مسجد حرام کی کوشش کی تھی حق تعالیٰ نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد کیا: ”اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کئے جانے سے روکے الخ۔“

اس آیت کی رو سے وہ لوگ بڑے ظالم اور شریر ہیں جو ذکر الہی سے روکتے اور فتنہ و فساد برپا کر کے ملت واحدہ کے شیرازہ کو اور زیادہ بکھیرتے ہیں۔ پس مسلمانوں کو اپنی اس حرکت قبیحہ سے باز آ جانا چاہیے اور مساجد کو خدا تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تسبیح و تقدیس کے لئے عام کر دینا چاہیے، ورنہ ظالم و شریر ٹھہریں گے اور وہ دین اور دنیا میں رسوائی حاصل کریں گے۔

مسجدوں کے متولی کیسے ہونے چاہئیں؟

حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جس قدر زیادہ قرآن حکیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اسی قدر ان کی زندگی اور ذہنیت تاریک ہوتی جا رہی ہے اور ان کا دینی نظام ابتر و ناکارہ ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی تمام خرابیوں اور گمراہیوں کی جڑ یہ ہے کہ وہ اسلامی احکام و فرامین کو سامنے رکھ کر اپنے کسی دینی کام کو سرانجام دینا نہیں جانتے۔

چنانچہ مساجد کی تعمیر و تولیت کے بارے میں تو وہ جانتے ہی نہیں کہ اس باب میں اسلام نے کیا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ عموماً مساجد کی تعمیر و تولیت کے لئے ایسے شخص کا



انتخاب کیا جاتا ہے جو محلہ و شہر میں صاحب اثر و رسوخ، بڑا سمجھا جاتا ہو، حکام رس ہو، مال دار ہو یا اس کا باپ دادا پہلے سے مسجد کا متولی چلا آتا ہو۔

الغرض ہم نے اپنی نا سمجھی سے امامت کی طرح تولیت کو بھی جدی وراثت سمجھ لیا ہے مگر اسلام نے مساجد کی تعمیر و تولیت کے لئے کس شخص کو مستحق ٹھہرایا ہے؟ ذرا سنیے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ  
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥١﴾ (سورہ توبہ)

”اللہ کی مسجدیں آباد کرنے والا تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی، اور پھر یہ کہ وہ کسی سے نہ ڈرا مگر صرف اللہ سے توبے شک ایسا شخص قریب ہے جو ہدایت یافتہ اور کامیاب ہو۔“

اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والا اور متولی بننے کا وہ شخص مستحق ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ پنج وقتہ نماز کی پابندی کرے زکوٰۃ دے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے ایسا ہی شخص ہدایت یافتہ ہے۔ جو شخص ان صفات سے محروم ہے اور دین دار نہیں، وہ شخص مسجد کا متولی نہیں بنایا جاسکتا۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں کے متولیوں کا جائزہ لیں۔ اگر وہ ان صفات سے محروم نظر آئیں تو ان کو تولیت سے الگ کر دیں اور تعمیر و تولیت کے انتخاب کے وقت ان صفات اربعہ کو مد نظر رکھا کریں۔

مسجد کا متولی بے خوف و نڈر ہونا چاہیے

آیت مذکورہ میں جو تولیت کی چار شرطیں بیان کی گئی ہیں ان میں آخری شرط نہایت اہم اور ضروری ہے اور اگر سچ پوچھو تو سب شرطوں کی جان ہے۔ آخری شرط گویا اصل ہے اور بقیہ تین شرطیں اس کی فرع اور وہ اہم شرط یہ ہے کہ مسجد کا متولی اپنے تمام اعمال و افعال میں نڈر اور بے خوف ہو۔ اللہ کے سوا اور کسی کی قوت و عظمت سے مرعوب نہ ہو۔ دراصل یہ بے خوفی ایمان باللہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے حقیقی مومن کی علامت ہی یہ ہے

کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ نماز کا اثر اور سچے نمازی کی پہچان ہی یہی چیز ہے۔ نماز کے ذریعہ مسلمانان عالم کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ انسان کے سینہ میں ایک دل ہے اور ایک سر ہے دل میں صرف ایک اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور سر بھی صرف خدائے واحد ہی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ مسلمان نمازی صرف اپنے خالق و مالک کا بندہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا اور وہ دنیاوی حاکموں اور حکمرانوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ایک سچے مسلمان نمازی کی پہچان یہی ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے اور اپنے دل سے تمام فرائین و نماردہ کے خوف کو نکال ڈالے۔

ماسوی اللہ را مسلماں بندہ نیست . پیش فرعونے سرش افگندہ نیست

اس وقت توحید اور جذبہ ملی کا اظہار مسجدوں میں نمایاں طور پر ہونا چاہیے بالخصوص مسجد کے متولی اور امام کو تو ضرور اس نقشہ توحید اور جذبہ اعلیٰ سے سرشار ہونا چاہیے جو غیروں سے ڈرتے اور کفر و تثلیث کی غلامی کرتے ہوں وہ مسجدوں کے متولی اور مسلمانوں کے امام ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر آج ہماری بد قسمتی سے ایسا ہی نظر آتا ہے تو کہنا پڑتا ہے۔

چوں کفر از کعبہ بر خیزد کجا ماند مسلمانی

ائمہ مساجد کی حالت پر خون کے آنسو

اسلام نے امامت و جماعت کے ذریعہ مسلمانوں کی ترقی و فلاح اور اصلاح و تعمیر کا ایک ایسا مضبوط اور نتیجہ خیز نظام قائم کر دیا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں اپنی اصلی حالت اور بنیادوں پر استوار ہو جائیں اور مسلمان اس کی عظمت و حقیقت کو سمجھ لیں تو ان پر آج ہی دینی و دنیوی ترقی کے ابواب کھل جائیں اور وہ آسمان عزت پر چڑھتے ہوئے نظر آئیں مگر ایسا نہیں۔ ہم نے امامت و جماعت کی حقیقت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدیں صلاح و فلاح اور ہدایت و کامرانی کے نور سے محروم ہیں۔ ہماری بستیوں میں الحاد و ارتداد کی وباں پھیل رہی ہیں۔ امت مسلمہ عصیان و طغیان کے سیلاب میں بری طرح ہی چلی جا رہی ہے۔ فرقہ بندی اور تکفیر و تفسیق کی آگ ہماری امیدوں اور عزائم کے دامن کو جلائے جا رہی ہے، پھوٹ اور نفاق کی آندھیوں نے تعمیر ملت کی شاندار عبارتوں کو پوند

زمین بنا رکھا ہے اور فرقہ بندی، بد نظمی، جہالت و افلاس اور غلامی و محکومی نے ہماری شخصی اور جماعتی زندگی کی ہر شاخ کو مردہ اور پامال کر رکھا ہے۔

حالانکہ نصب امامت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کی شخصی و جماعتی زندگی کی ہر شاخ کو قوت و سرسبزی ملے، ان کی دینی و سیاسی زندگی مضبوط بنیادوں پر قائم رہے۔ اور ان کو دن میں پانچ بار علی العموم اور جمعہ کے دن بالخصوص قرآنی احکام و ہدایات ملتی رہیں۔ مگر ہمارے ذوق انتخاب کی پستی اور دینی نظام کا مسخرہ پن ملاحظہ ہو کہ ہم نے امامت کے تاج اور دینی بادشاہت کے لئے دنیا بھر کے اندھے، بہرے، اپاہج، مریض، نکلے عہدی، جاہل، کوون، شکم پرست، مردہ شو، بد باطن اور بد اخلاق، قل اعوذی، ملانوں کو منتخب کر رکھا ہے۔ ہماری مسجدوں میں ایسے نا اہل امام بھرے پڑے ہیں جن کے پاس نہ صحت مند جسم ہے، نہ ذمہ دار روح، نہ روشن ذہن ہے، نہ با احساس دماغ، نہ مستقیم نظر ہے نہ مصلحت اندیش عقل اور نہ حیات افروز اخلاق۔ ان کے علم و عمل کی کل کائنات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نماز کے مفہوم و مطالب تک سے نا آشنا ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہے کہ الٹی سیدھی نمازیں پڑھا دیا کریں۔ جمعرات کی روٹیاں اکٹھی کر کے کچھ کھالیا کریں اور کچھ بیچ دیا کریں۔ مریض اور آسیب زدہ بچوں کو جھاڑا پھونکی اور تعویذ گنڈے کر دیا کریں۔ یہ ہے ہمارے ائمہ مساجد کی اہلیت و حقیقت اور اس میں ہمارا سارا معاشرہ قصور وار ہے جو اپنے ذہن افراد کی ایک بڑی کھیپ تو دوسرے امور کے لئے وقف کر دیتا ہے اور جو کہیں کا نہ ہو۔ اسے کسی مسجد کے لئے وقف کر دیا جاتا ہے، اس طرح ہم نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے۔ کیونکہ امور دنیا میں مصروف شخص تو دین سے بے بہرہ رہتا ہے اور ایک نا اہل فرد صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی معاشرے کی صحیح راہنمائی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو زندہ کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ قابل افراد اس کے لئے وقف کریں۔

مساجد کے بارہ میں ایک ضروری اور قابل توجہ چیز

اسلام میں مذہب و سیاست کی تفریق نہیں۔ وہ بیک وقت مذہب بھی ہے اور سیاست بھی۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ دونوں چیزیں ایک ہیں۔ مسلمانوں میں مذہبی و سیاسی تفریق کی

ابتداء کرنے والا مغربی دماغ ہے۔ جس نے اپنے اغراض و مقاصد کے لئے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس تفریق کو گھسیڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ اسلام سوز فتنہ دیکھنے اور سننے میں آتا رہتا ہے کہ مسجدیں تو صرف خدا کی عبادت کے لئے ہیں۔ ان کو خطبات سیاسیہ سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس تباہ کن اور خلاف اسلام ذہنیت کی بناء پر مسجد کا ہر متولی فرد آزادی و بے باکی کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، سیاسی تقریر سے روک دیتا ہے۔

سخت حیرت اور تعجب ہے کہ اغیار نواز اور غلامی پسندوں کو مذہب و سیاست تفریق کر کے مساجد میں خطبات سیاسیہ بند کر دینے کی جرأت و ہمت کیونکر ہوتی ہے اور وہ اس قسم کا جاہلانہ و گمراہ کن اعلان کر کے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور یقین کیسے کرتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم اور سیرت نبوی ﷺ سے ناواقف اور اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور ناکامی و پستی کا سامان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے اس کو سمجھنے والے اور سیرت نبوی سے تمسک کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مذہب و سیاست کی تفریق کا خیال کرنا ہی کفر ہے۔

یاد رکھیے اسلام صرف نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، وہ صرف اللہ اللہ کرنا اور تسبیح پھیرتے رہنا ہی نہیں سکھاتا۔ بلکہ جسمانیات و مادیات کا انتظام و انصرام بھی کرتا ہے۔ دنیوی و تمدنی ترقی کو مذہبی ترقی قرار دیتا ہے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی بتلاتا ہے۔ آزادی کی تعلیم دیتا ہے، غلامی کی ہر طرح بیخ کنی کرتا ہے، مسلمانوں سے تمکین اور استخلاف فی الارض کا وعدہ کرتا ہے۔ تجارت اور صنعت و حرفت کی ترغیب دلاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے احکام دیتا ہے، نکاح و طلاق اور دیگر معاملات دنیوی کے قوانین نافذ کرتا ہے اور چوروں و زانیوں کی سزا مقرر کرتا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں تو پھر بتاؤ سیاست کس چیز کا نام ہے اور مسجدوں کے متولی مسلمان ہوتے ہوئے خطبات سیاسیہ سے کیونکر روک سکتے ہیں؟

مسجد نبوی اور سیاسی امور

سیرت النبی ﷺ اس امر پر شاہد ہے کہ رسول خدا ﷺ ساری عمر مسجد میں بیٹھے

ہوئے اللہ اللہ ہی نہیں کرتے رہے اور آپ کے صحابہ نے راہبانہ زندگی بسر نہیں کی بلکہ حضور ﷺ نے جہاد کئے۔ دوسرے ممالک پر لشکر کشیاں کیں، اقوام و ممالک سے معاہدے کئے اور مخالف اسلام قوتوں کا مقابلہ کیا اور وہ سب امور سیاسی، مسجد ہی میں سرانجام پاتے تھے۔ عہد نبوی ﷺ میں مسجد کے اندر صرف نماز و روزہ ہی کے وعظ نہ ہوتے تھے بلکہ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے خطبات بھی دیے جاتے تھے، عسا کر مرتب ہوتے تھے، ان کے احکام و فرامین نافذ کئے جاتے تھے۔ سفراء اور وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، مقدمات و نزاعات کے فیصلے ہوتے تھے، اموال غنیمت تقسیم کئے جاتے تھے اور یہ تمام سیاسی امور خود داعی برحق ﷺ اپنی مسجد میں سرانجام دیتے تھے، ان روشن امور کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کی طاقت ہے جو کہ مسجدوں سے سیاست کو خارج کر سکے؟

اور اگر متولیان و ائمہ مساجد کا کوئی دوسرا خود ساختہ مذہب ان سیاسی امور کو مسجد سے خارج کرتا ہے تو ایسے ناپاک، سڑیل اور مردہ مذہب کو پتھر پر دے مارو۔

الغرض مسلمانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مسجدوں میں وہ تمام مذہبی، سیاسی اور ملکی امور کے لئے صلاح و مشورہ اور تقریر کی جاسکتی ہے جن کا تعلق اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی و ترفع سے ہو اور پوری آزادی کے ساتھ مساجد میں سیاسی مجالس کا انعقاد ہو سکتا ہے کسی سرکار پرست متولی کو سیاسی تقریر سے روکنے کا حق نہیں ہے۔

یہ مسجد ہے جہاں دخل کلیسا ہو نہیں سکتا یہاں قانون کا جھگڑا گوارا ہو نہیں سکتا

مسلمانوں کے لئے واضح اور روشن صراط عمل

اگر مسلمان حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی تمام تر توجہ مسجدوں کو آباد، آزاد کرنے اور بہترین و قابل اماموں کے پیدا کرنے پر مبذول کر دیں۔

ان کا مقدم فرض یہ ہے کہ یہ ائمہ مساجد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں اور ایسے امام پیدا کریں جو اپنے مقتدیوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں جو منشاء شریعت کے مطابق ان کی دینی و دنیوی زندگی کی تعمیر و اصلاح کریں، اس کے بغیر مسلمانوں کی تنظیم و اصلاح کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔

کیا تم نے سنا نہیں کہ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس صرف ایک مسجد تھی جس سے انہیں وہ طاقت ملی تھی کہ ان کی قلت و بے سروسامانی نے کثرت کے چھکے چھڑا دیے، طاغوتی طاقتوں کے دل بادل کو کائی کی طرح پھاڑ کر رکھ دیا اور وہ دین و دنیا کے مالک بن گئے۔ ملکی زندگی کی تباہ حالی اور مظلومیت کو اسی ایک مسجد نے موج اقبال و کامرانی سے بدلا، حیرانی اور تعجب ہے کہ صحابہ کو تو صرف ایک مسجد نے سب کچھ بنا دیا تھا۔

مگر آج ہم ہندوستان میں آٹھ کروڑ ہوتے ہوئے اور ستر ہزار مساجد رکھتے ہوئے بھی مظلومیت و تباہ حالی کے فرشِ ذلت پر پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ہمارے امام و متولی قابل نہیں۔ ہم نماز و جماعت کی حقیقت کو نہیں جانتے اور تمام مساجد ایک نظام کے ماتحت نہیں۔

غضبِ خدا کا مسجدیں ویران و غلام ہیں اور زنا کاری کے بازار گرم ہیں، شراب خانے آباد ہیں اور مجالس پر رونق ہیں، پھر بھلا ہم خدا کے گھروں کو ویران غلام اور منتشر کر کے کیسے دین و دنیا میں فلاح یاب ہو سکتے ہیں؟

## مسجد کے آداب

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ نے فرمایا: مرد کی نماز جماعت سے مسجد کے اندر گھر میں نماز پڑھنے سے پچیس درجے زائد ہے اور جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ہر قدم پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو اطمینان سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لئے آتا ہے تو وہ مسجد سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ بلکہ اپنے ساتھ اجر و ثواب کا ایک سرمایہ لے جاتا ہے اور زیادہ نفع میں وہ رہتا ہے جو زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں فرمایا: جس وقت طبیعت میں

سستی و کاہلی کا غلبہ ہو اس وقت وضو کر کے نماز کے لئے مسجد میں آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کی تاریکی اور غفلت و سستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح صابن سے میل دور ہو جاتا ہے۔ بالخصوص صبح و شام کے وقت مسجد میں آنا از قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جو لوگ رات کے وقت اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتے ہیں حق تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ایک نور کامل عطا فرمائے گا۔

حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانو! جب تم کسی شخص کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو شخص اللہ کی رضا مندی کا طالب ہے وہ کبھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے مسجدوں میں جانا ترک نہیں کرتا اور گھر میں نماز پڑھنے کی عادت نہیں ڈالتا۔

مسجد میں آنے کے اور ٹھہرنے کے آداب و احکام

ابوداؤد میں یہ روایت آئی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے وقت یہ دعا

پڑھے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (1)

”یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو عظمتوں والا ہے، اس کی بزرگ ذات کی اور اس

قدیم بادشاہت کی شیطان مردود سے۔“

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی مسجد میں جانے کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ شخص تمام دن مجھ سے محفوظ رہا۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب یہ ہیں: مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھے۔ بعد میں بائیں اور نکلتے وقت پہلے بائیں پاؤں نکالے اور پھر دایاں۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حاتم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے بائیں پیر رکھا تھا کہ

اچانک اس خلاف ادب فعل کا خیال آ گیا اسی وقت ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور گھبرا کر نکل آئے اور پھر دوبارہ داہنا پاؤں رکھ کر داخل ہوئے لوگوں نے اس گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے مسجد کے آداب میں ایک ادب چھوڑ دیا تھا مجھے خوف ہوا کہ مبادا اللہ تعالیٰ ولایت و فضل کی نعمت مجھ سے نہ چھین لے۔

مشہور ہے کہ سفیان ثوری نے مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھا تھا، ان کے استاذ نے ترک ادب پر انہیں تنبیہا ثور (بیل) کہا۔ یعنی بیل ہے کہ مسجد کا ادب نہیں جانتا۔ آپ اسی روز سے سفیان ثوری مشہور ہو گئے۔

مسجد کا ایک قابل اہتمام و لائق توجہ ادب یہ ہے کہ بے ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کرے۔ ایشاہ و نظائر میں لکھا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا عملوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے۔ آج کل نمازی اس ادب کا قطعاً خیال نہیں رکھتے اور مسجد میں آتے ہی دنیا جہاں کے قصے جھگڑے چھیڑ دیتے ہیں۔ چیخ بک بک سے ایک طرف اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں۔ دوسری طرف دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ انہیں اس قبیح عادت کو فوراً ترک کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو بیٹھک نہ بنانا چاہیے۔ بلکہ مسجد میں آ کر ذکر الہی، نماز، تلاوت، قرآن معلوم دینی، امر بالمعروف میں مصروف ہو جائیں، اگر ان امور میں سے کچھ نہ کریں تو کم از کم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر چپکے سے ہی بیٹھے رہیں۔

ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے:

وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْلَمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (1)

”اور جب مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ پیغمبر خدا ﷺ پر سلام بھیجے۔“

یعنی یوں کہے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں ایک روایت میں یوں دعا آئی ہے:



اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ  
 ”یا اللہ! ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول اور ہمارے لئے اپنے رزق  
 کے دروازے کو آسان کر۔“

مسجد میں خرید و فروخت

ترمذی اور نسائی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مسجد میں کچھ خرید و فروخت  
 کرتے ہوئے دیکھے تو یوں کہے کہ اللہ تیری سوداگری میں نفع نہ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ  
 مسجد میں خرید و فروخت کی سخت ممانعت ہے۔ اسی طرح مسلم اور ابوداؤد وغیرہ میں آیا ہے:

من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لا ردھا

اللہ علیک فان المساجد لم تبین لہذا (1)

”اگر مسجد میں ایسے شخص کی آواز سنے جو گم ہوئی چیز کو ڈھونڈتا ہے تو چاہیے کہ یوں  
 کہے کہ اللہ اس کو تجھ پر نہ پھیرے یعنی خدا کرے وہ چیز تجھے نہ ملے کیونکہ مسجدیں  
 اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔“

ظاہر یہ ہے کہ دعا کے ساتھ اخیر جملہ کو بھی ملا لے اور اس کی تشبیہ کے لئے زبان سے  
 دعا کرے نہ کہ دل سے، تاکہ وہ مسجد میں پھر ایسی حرکت نہ کرے۔ اس حکم میں سب ایسی  
 چیزیں داخل ہیں جن کے لئے مسجدیں نہیں بنائی گئیں مثلاً خرید و فروخت، دنیاوی باتیں،  
 سینا پر ونا، اجرت پر لکھنا اور وہ باتیں جن سے نماز پڑھنے والے کا دھیان بٹے، یہ سب باتیں  
 منع ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا حرام ہے۔ اسی لئے  
 سائل کو مسجد میں مانگنا بھی منع ہے۔ بعض علماء تو حرام بتلاتے ہیں۔

ابن عباس کہتے ہیں جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ مسجد میں ہنسنا، قبر میں اندھیرا  
 ہونے کا باعث ہے۔ نیز فرمایا: ہر ایک چیز کے لئے ایک میل اور آلودگی ہوتی ہے اور مسجد کی  
 آلودگی لاواللہ اور بلی واللہ کہنا ہے۔

مسجد میں کھانے پینے کے لئے بیٹھنا، سونا، چھپنے لگانا جائز ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ

اللہ نے ایک ایسے شخص سے جو مسجد میں کچھ بیچ رہا تھا فرمایا کہ دنیا کے بازاروں میں جا کر بیچ یہ تو آخرت کا بازار ہے۔

مسجد سے نکلنے کا بیان

جب مسجد سے نکلے تو چاہیے کہ پیغمبر خدا ﷺ پر سلام بھیجے اور یوں کہے:

اللَّهُمَّ اغْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (1)

”یا اللہ! مجھ کو شیطان سے بچاؤ“ یا یہ الفاظ کہے:

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (2)

”یعنی میں نکلتا ہوں اللہ کے نام سے اور سلام ہو رسول خدا پر“۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نہ بیٹھے مسجد میں جا کر یہاں تک کہ دو رکعتیں نہ پڑھ لے (3)۔ اس دوگانہ کا واجب ہونا ثابت کیا ہے اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ دوگانہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آکر قضا نماز پڑھے یا سنتیں یا اور کوئی نماز، تب بھی اس کو تحیۃ المسجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔

مسجد کی خدمت کرنے کا ثواب

ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس بندہ کو اللہ تعالیٰ دوست رکھنا چاہتا ہے، تو اسے مسجد کا خادم اور محافظ بنا دیتا ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو خدا کو دوست رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ مجھے دوست رکھے اور جسے میری محبت کا خیال ہے اسے میرے صحابہ کو دوست رکھنا چاہیے اور میرے صحابہ سے دوستی کرنے والوں کو لازم ہے کہ قرآن سے محبت کریں اور جو شخص قرآن سے محبت رکھتا ہے اسے مسجدوں سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ مسجدیں خدا کے صحن اور اس کے گھر ہیں خدا نے ان کے اونچے کرنے اور پاک رکھنے کا حکم فرمایا ہے، ان میں اپنی برکت رکھی ہے۔ وہ خود بھی مبارک اور ان میں رہنے والے بھی مبارک ہیں۔ وہ خود محبوب اور اسکے رہنے والے بھی محبوب

ہیں۔ وہ تو نماز میں ہوتے ہیں اور خدا ان کی حاجتیں پوری کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔  
 قرطبی کی تفسیر سورہ نور میں ہے۔ فرمایا جناب نبی کریم ﷺ نے: مسجد کا چراغ  
 جلانے والے کے لئے عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور دوسرے فرشتے اس وقت تک  
 اس کے لئے رحمت کی دعا مانگتے اور بخشش چاہتے ہیں جب تک چراغ کی روشنی رہتی ہے۔  
 جب تمیم داری نے مسجد میں قدمیں لٹکائیں تو رسول خدا ﷺ نے اس سے فرمایا: تو  
 نے اسلام کو روشن کیا ہے۔ خدا تعالیٰ تجھ پر دنیا اور آخرت میں نور برسائے۔ اگر میری کوئی  
 لڑکی بے نکاحی ہوتی تو میں اسے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا: کہ  
 حضرت میں اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دے دیتا ہوں چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔  
 ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو شخص مسجد میں سے کوڑا کرکٹ نکال کر پھینک  
 دے گا خدا تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔

### تصویر کے متعلق احکام

جس کپڑے پر کسی جاندار کی تصویر ہو۔ اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز  
 کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ صورت واقع ہو کہ نماز پڑھنے والے  
 کے سامنے یا چھت پر یا محل سجود پر کسی جاندار کی تصویر ہو تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی  
 طرح دائیں طرف یا بائیں طرف تصویر کا ہونا بھی باعث کراہت ہے۔ ہاں اگر تصویر  
 جاندار کی نہ ہو بلکہ کسی عمارت یا صحرا یا سمندر کی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔  
 اگر ہاتھ میں یا بدن میں کسی اور جگہ تصویر ہو تو اس صورت میں نماز مکروہ نہ ہوگی، جس  
 مکان میں نماز ہو رہی ہے اس کی دیوار پر کسی جاندار کی تصویر آویزاں ہے۔ اس کا چہرہ مٹا ہوا  
 ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ نہ ہوگی۔

حکومت کے سکے جیسے نوٹ اور روپے وغیرہ جن پر بادشاہ کی تصویر ہوتی ہے اگر نماز  
 کے وقت جیب میں رہیں تو نماز میں کراہت نہیں۔

ایک صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس میں  
 رحمت کے فرشتے نہیں آتے اسلئے فرمان رسالت کی رو سے گھر میں ایسی تصویر رکھنا ممنوع ہے۔

## نماز جمعہ کا بیان

جاننا چاہیے کہ نماز جمعہ فرض عین ہے جو کتاب و سنت اور اجماع تینوں سے ثابت ہے۔ اس کو جمعہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں یعنی یہ مبارک دن شہر کے تمام مسلمانوں کو جمع کرتا اور ان کو درس اخوت اور اتحاد دیتا ہے۔ نماز باجماعت محلہ کے مسلمانوں کا نظام اجتماع ہے اور جمعہ تمام اہل شہر کے لئے۔ قرآن پاک سے اس کا ثبوت اس آیت مبارک سے ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (جمعہ: 9)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو ذکر الہی یعنی نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔“

نیز ابوداؤد اور حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے:

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدًا مَمْلُوكًا  
أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا (1)

”نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ ہر مسلم پر واجب ہے سوائے ان چار کے: غلام، عورت، لڑکا نابالغ اور مریض۔“

جمعہ کہاں فرض ہوا

اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ جمعہ کہاں اور کس موقع پر فرض ہوا؟ بغوی سورہ اعراف کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں فرض ہوا اور شرح مہذب میں ابو حامد سے منقول ہے کہ مکہ میں فرض ہوا۔ طحاوی حاشیہ درمختار میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ مدینہ میں

فرض ہوا کیونکہ آیت جمعہ مدنی ہے۔ حاشیہ ابی مسعود میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے پہلا جمعہ مدینہ میں بطن وادی وادی رانونا کی مسجد میں ادا کیا۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں رونق افروز ہوئے۔ حاشیہ شبلی میں ہے کہ انصار نے کہا کہ یہود کے لئے ہفتہ کا دن ہے جس میں وہ جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح نصاریٰ کا بھی ایک دن ہے۔ کاش! ہمارے لئے بھی ایک ایسا دن ہوتا کہ ہم اس میں جمع ہوتے، اللہ کا ذکر کرتے اور نماز پڑھتے؟ اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ یہ یوم ہفتہ یہود کے لئے ہے اور اتوار نصاریٰ کے لئے۔ مگر ہمیں یوم عروبہ کو اختیار کر لینا چاہیے۔

چنانچہ اس قرارداد کے مطابق لوگ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور اس روز دو رکعتیں پڑھیں اور لوگوں سے اس بات کا ذکر کیا تو لوگوں نے بوجہ اجتماع کے اس دن کا نام جمعہ رکھ دیا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے یوم عروبہ کا نام جس نے سب سے پہلے جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہے۔ اس روز کو ایام جاہلیت میں عروبہ کہا جاتا تھا اور روز جمعہ اس کا اسلامی نام ہے۔

### جمعہ کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جمعہ کی رات و دن کی چوبیس گھنٹیاں ہیں ان میں سے کوئی گھنٹی بھی ایسی نہیں جس میں خدا تعالیٰ چھ لاکھ گناہ گاروں کو عذاب دوزخ سے آزاد نہ کرتا ہو۔

ابوموسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث اوس بن اویس میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جملہ ایام میں بہترین یوم جمعہ ہے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ سید الا ایام یوم جمعہ ہے۔ اس روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے، اسی روز بہشت میں داخل ہوئے، اسی روز زمین پر آئے اور اسی روز قیامت برپا ہوگی۔

امام احمد سے ایک روایت یوں آئی ہے کہ جناب رسالت مآب ﷺ نے ایک مرتبہ

فرمایا: لوگو! کیا میں تمہیں وہ تین خوش خبریاں نہ دوں جس کی بشارت مجھے جبریل علیہ السلام دے گئے ہیں؟

حاضرین نے عرض کیا: ضرور، فرمایا: ایک بات تو جبریل مجھ سے یہ کہہ گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جمعہ کی رات کو ستر ہزار گنہگار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ دوسری یہ کہ ہر جمعہ کی شب کو ننانوے مرتبہ باری تعالیٰ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس خوش نصیب پر حضرت حق جل و علا شانہ کی نظر رحمت پڑ جائے وہ عذاب الہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی رات ہوتی تو جناب رسول خدا ﷺ فرماتے:

مرحبا بليلة العتق والمغفرة طوبى لمن عمل فيك

خيرا وويل لمن عمل فيك شرا

”یعنی جس رات کو لوگ دوزخ سے آزاد کئے جاتے ہیں اور مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ وہ نہایت ہی مبارک رات ہے، اس رات میں بھلائی کرنے والوں کے لئے خوشی ہو اور برائی کرنے والوں کے لئے ہلاکت و خرابی ہو“۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اے عمر! جمعہ کی نماز پر مداومت کرو کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے تمہارا ایک غلام اپنے گھر سے خاک مٹی جھاڑتا ہے۔ اے عمر! جو بندہ نماز جمعہ کے لئے نہادھو کر اور پاک صاف ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ہر پتھر اور ڈھیلا اس کی گواہی دیتا ہے اور ہر کنکر اور پتھر اس کے لئے بخشش کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ عمر! خدا تعالیٰ جمعہ کے دن اپنے فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ یہاں آ کر اذان ہونے تک چلتے پھرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ فرشتے مسجدوں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اذان سے پہلے کون کون لوگ مسجد میں آتے ہیں جب وہ نمازیوں کو رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں تو یوں دعا مانگتے ہیں:

الہی! ان بندوں کے گناہوں سے درگزر کر اور ان کی نماز قبول فرما۔ پھر وہ نماز پڑھنے

والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ جب امام منبر پر خطبہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو خطبہ سنتے ہیں اور سننے والوں کے لئے دعا کرتے ہیں۔

جمعہ کی رات افضل ہے یا دن؟

امام احمد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ افضل ہے کیونکہ حضور سرور کائنات ﷺ نے شب جمعہ کو ہی رحم مادر میں قرار پایا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی مشہور کتاب غنیۃ میں لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے جمعہ کی رات کو شب قدر پر ترجیح و فضیلت دی ہے کیونکہ شب جمعہ مکرر اور بار بار آتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سے آثار ہیں جن سے شب جمعہ کی فضیلت و برتری ثابت ہوتی ہے لیکن قرین عقل و قیاس سے یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ روز جمعہ افضل ہے کیونکہ اس میں جماعت کا بھلا ہوتا ہے اور لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی نورانیت، قلوب وارواح میں سرایت کرتی ہے۔

جمعہ کے دن یا شب میں مرنے والے خوش قسمت مسلمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری امت کا کوئی شخص جمعہ کے دن یا شب کو مرے گا تو خدا تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا (صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں)۔

حضرت جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن یا شب میں مرے گا، وہ قیامت کے دن عذاب الہی سے امن میں رہے گا اور اس پر شہیدوں کی سی مہر لگائی جائے گی۔

روبانی کہتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن یا رات کو مر جائے اس پر نماز پڑھنا اور اس کے ذن میں شریک ہونا تا کیدلی استجاب میں ہے۔

پس وہ مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں جن کو جمعہ کے دن یا رات میں موت آئے مگر یاد رہے جو شخص کفریہ و شرکیہ عقائد رکھتا ہو اور نماز و روزہ وغیرہ عبادات اسلامی کا پابند نہ ہو، بد اخلاق ہو، معاملات میں اچھا نہ ہو۔ حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرتا ہو اور بدکار و عصیاں

شعار ہو، اس کے لئے سب دن برابر ہیں، اس کے لئے جمعہ کے دن یا رات میں مرنا باعث اجر و ثواب نہیں۔

## جمعہ کے احکام و مسائل

وجوب جمعہ کی چار شرطیں ہیں:

(1) مرد ہونا (2) آزاد ہونا

(3) بے عذر ہونا (3) مقیم ہونا

پس عورت پر، غلام پر اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں۔ اسی طرح بیمار، بیمار دار، اندھے، لنگڑے اور اپاہج وغیرہ پر بھی جمعہ فرض نہیں، قیدی پر بھی جمعہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سب معذور ہیں۔ ہاں اگر غلام کو اس کا مالک اجازت دے دے تو وہ پڑھ لے، لیکن فرض پھر بھی نہیں۔ مزدور پر جمعہ واجب ہے اور مزدور کی مزدوری بھی بحساب اجرت وضع کر لی جائے گی۔ مثلاً مسجد اتنی دور ہے کہ آمد و رفت میں دو گھنٹے لگتے ہیں اور بارہ گھنٹے یومیہ کام کرنا پڑتا ہے تو اسی حساب سے دو گھنٹے کی مزدوری وضع ہو جائے گی۔ ہاں اگر مسجد اتنی دور نہ ہو تو پھر مزدوری ساقط نہ ہوگی۔ (شامی)

الانوار الساطعہ میں ہے کہ نماز کے واجب ہونے کی بارہ شرطیں ہیں:

- (1) عاقل ہونا، مجنون پر واجب نہیں۔
- (2) اسلام، کافر پر واجب نہیں۔
- (3) بالغ ہونا، نابالغ لڑکے پر جمعہ واجب نہیں۔
- (4) مرد ہونا، عورت پر اور خنثی پر نہیں۔
- (5) آزاد ہونا، غلام پر نہیں۔
- (6) شہر میں یا اس کے آس پاس ہونا، مسافر پر نہیں۔
- (7) تندرست ہونا، بیمار پر واجب نہیں۔
- (8) چلنے پر قادر ہونا، پس ایسا بوڑھا جو چلنے پر قادر نہیں اور ایسا شخص جس کے پیر کٹے



ہوئے ہوں اس پر جمعہ واجب نہیں۔ اگر کوئی غیر اس معذور کو مسجد میں لے جائے تو وہ قادر نہ سمجھا جائے گا۔

(9) بیٹا ہونا، اندھے پر جمعہ نہیں۔

(10) قیدی نہ ہونا، قیدی پر جمعہ نہیں۔

(11) کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ پس جس کو کسی ظالم یا ڈاکو کا خوف ہو تو اس پر جمعہ نہیں

(12) سخت بارش کا نہ ہونا، لہذا اگر شدید بارش ہو رہی ہو اور مسجد کے راستے سے گزر

مشکل ہو تو جمعہ واجب نہیں۔

مسئلہ: وہ شخص جس پر جمعہ واجب نہیں۔ جیسے مسافر، غلام اور مرلیض وغیرہ اگر وہ جمعہ ادا

کرے تو جائز ہے اور وہ ظہر کی نماز سے مستغنی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے

جمعہ کی نماز، ظہر کی نماز کے لئے کافی ہے۔

جمعہ کے دن سفر کرنے کا حکم

جس شخص پر جمعہ فرض ہو۔ اس کے لئے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے سفر کرنا

حرام ہے۔ لیکن اگر اس کا خیال اور ارادہ ہو کہ مجھے راستہ میں جمعہ مل جائے گا اور میں اسے

ادا کر لوں گا تو پھر سفر کرنا حرام نہیں، سفر کی اجازت ہے اور اگر کسی کو اس دن سفر نہ کرنے سے

سخت ضرر کا خوف ہو یا اپنے رفیقوں سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے وحشت و تنہائی کا خیال

ہو، تو ان دو صورتوں میں بھی سفر کی اجازت ہے۔

ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشاء کا وقت ہونے سے لے کر جمعہ کی نماز تک سفر کرنا

حرام ہے لیکن محبت طبری بعض علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو سفر کرنا مکروہ ہے۔

صحت جمعہ کے شرائط

پہلے وجوب و صحت کی شرطوں کا فرق معلوم کر لینا چاہیے۔ وجوب جمعہ کے اور صحت

جمعہ کی شرائط میں فرق یہ ہے کہ اگر صحت جمعہ کی شرطیں نہ ہوں گی تو جمعہ صحیح نہ ہوگا اور اگر

وجوب کی شرطیں نہ ہوں گی تو جمعہ صحیح ہو جائے گا۔ مگر واجب نہیں ہے۔ مثلاً بیمار یا عورت یا

مسافر وغیرہ شرائط صحت کے ساتھ جمعہ ادا کریں تو اس وقت کا فرض ظہر ان کے ذمہ سے ادا ہو جائے گا اور نماز ظہر ان کے ذمہ باقی نہ رہے گی اور اگر کوئی شخص جوان ہو، تندرست ہو اور مرد بھی ہو مگر ظہر کا وقت نہ ہو یا جماعت نہ ہو، یا خطبہ نہ ہو، یا علاوہ ازیں شرائط صحت جمعہ میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو اور وہ جمعہ پڑھے تو درست نہیں جمعہ صحیح نہ ہوگا اور ظہر کی وقتی نماز بدستور اس کے ذمہ باقی رہے گی۔ جو لوگ معذور ہیں ان کو بہ نسبت ظہر کے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لئے جمعہ سے ظہر افضل، باوجود اس کے اگر عورت نے جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی۔ (1)

اب شرائط صحت جمعہ کی چھ شرائط ہیں:

- (1) شہر کا ہونا۔
  - (2) سلطان یا نائب سلطان کا ہونا۔
  - (3) ظہر کا وقت ہونا، اس سے قبل صحیح نہیں۔
  - (4) نماز جمعہ سے پہلے خطبہ پڑھنا۔
- خطبہ کے لئے حسب ذیل باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول خطبہ کا قصد بھی ہو۔ پس اگر خطیب کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کہا تو یہ تمہید کے قائم مقام نہ ہوگی۔ دوسرے خطبہ کے سننے والے بھی ہوں۔ خواہ ایک ہی سننے والا ہو۔
- (5) اذن عام کا ہونا۔

(6) جماعت کا ہونا اور جماعت کا اطلاق سوائے امام کی تین مقتدیوں پر ہوتا ہے خواہ وہ تین مقتدی غلام ہوں یا مریض و مسافر وغیرہ۔ ان تین مقتدیوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ امام کے ساتھ کم از کم پہلی رکعت کے سجدہ تک شامل رہیں اگر نماز فاسد ہو نیکی وجہ سے وہ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اکیلے امام کا جمعہ ہو جائے گا (2)۔

مصر کی بحث

صحت جمعہ کی پہلی شرط یعنی شہر کا ہونا ہے۔ اب شہر کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض

علماء نے شہر کی تعریف یہ کی ہے جہاں امیر اور قاضی ہو وہ شہر ہے۔ یہ تعریف غلط ہے کیونکہ اگر اس کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہندوستان کا کوئی بڑے سے بڑا شہر مصر کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا اور کہیں بھی جمعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، امیر اور قاضی کہیں موجود نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا شہر بمبئی، کلکتہ اور دہلی تک میں امیر اور شرعی قاضی نہیں۔ جس کے پاس شریعت کے مطابق دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے ہوتے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر کی یہ تعریف غلط ہے اگرچہ یہ تعریف بڑے بڑے فقہاء نے کی ہے حد یہ ہے کہ درمختار اور ہدایہ وغیرہ کتب فقہ میں بھی یہی تعریف درج ہے۔ اکثر علماء نے دوسری تعریف شہر کی یہ کی ہے کہ شہر اتنی بڑی بستی کو کہتے ہیں کہ اگر وہاں کے تمام مکلف مسلمان نماز جمعہ کے لئے اکٹھے ہوں تو وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں نہ سما سکیں اور بڑی مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جو کم از کم پچیس گز کی ہو۔ یعنی طول میں ۲۵ گز اور عرض میں بھی اتنی ہی ہو۔ اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں اتنی بڑی مسجد نہ ہو وہاں جمعہ ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کی آبادی کی مقدار، مذکور شرط کے مطابق ہو، مسجد اتنی بڑی ہو یا نہ ہو جمعہ ہو جائے گا۔

یہ تعریف اکثر دیہات پر بھی صادق آتی ہے۔ چنانچہ صاحب شامی کہتے ہیں:

هذا يصدق على كثير من القرى (1)

”یعنی اس تعریف میں اکثر دیہات بھی آجاتے ہیں۔“

پس بڑے بڑے دیہات میں جن کی آبادی مذکور شرط کے موافق ہو۔ بلا تکلف جمعہ ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اکثر فقہاء کا مفتی بہ قول یہی ہے اور اسی پر ہندوستان میں عمل در آمد ہے۔

گاؤں میں جمعہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

مسلمانوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا اور

ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ جو تخریج احادیث ہدایہ میں مذکور ہے:

روی عبدالرزاق عن عليّ موقوفا لا تشریق ولا جمعة

الافی مصر جامع واسناد صحیح (1)

”یعنی روایت کی عبدالرزاق نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ نہیں ہے تشریق اور نہ نماز جمعہ مگر شہر میں اس کی اسناد صحیح ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شہر کے ساتھ جمعہ کو خاص کر دیا ہے اور گاؤں میں جمعہ جائز نہیں رکھا اور حسب قاعدہ اصول حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔

بعض اہل حدیث حضرات حنفیہ کے اس مسلک پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا خلاف کیا ہے جو بخاری اور ابوداؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی ہے کہ جمعہ جو اٹھائی میں پڑھا گیا جو بحرین کے گاؤں میں سے ہے۔ ہماری طرف سے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگرچہ روایت میں قریہ کا لفظ آیا ہے مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مقام جو اٹھائی گاؤں تھا، شہر نہ تھا۔ اس وجہ سے کہ لفظ قریہ اگرچہ بلغت عرب گاؤں کے معنی میں یہ آتا ہے۔ مگر بہت سے مواقع پر اس کا اطلاق شہر پر بھی آتا ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا ہے: وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ (سورة البقرة: 58) اس میں شہر پر لفظ قریہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں اور بہت سی جگہ شہر پر قریہ کا اطلاق کیا گیا ہے پس کسی جگہ قریہ کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بالضرور گاؤں ہی ہو شہر نہ ہو۔ ممکن ہے جو اٹھائی شہر ہو۔

خطبہ کا بیان

صحت جمعہ کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر خطبہ پڑھا جائے۔ خطبہ سے مقصود یہ ہے کہ شہر میں مسلمان ہفتہ میں ایک مرتبہ مذہب کی جملہ ضروریات سے واقف و باخبر ہو جائیں۔ آٹھویں دن ان کو اسلامی احکام و قوانین اور ملکی و ملی ضروریات سے آگاہی ہوتی رہے۔ ذرا غور کیجئے۔ اسلام نے کس خوبصورتی کے ساتھ مذہبی

واقفیت حاصل کرنے کا کتنا آسان اور قلیل وقت نکالا ہے۔ اکثر لوگ اپنے اپنے دنیاوی کاروبار اور معاشی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں۔

انہیں فکر معاش گھیرے رہتا ہے۔ اس لیے وہ مذہبی واقفیت حاصل کرنے کا وقت نہیں نکال سکتے۔ جن لوگوں کو ذوق و شوق ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح بھاگ دوڑ کر وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ مگر یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں۔ عدیم الفرصت لوگوں کے لئے باری تعالیٰ عز اسمہ نے اس ضرورت کی تکمیل کا بھی عبادت کے ساتھ ہی انتظام کر دیا ہے کہ اگر اس کے مقصد اعلیٰ کو سمجھ لیں، خطبات کو ضروریات ملکی و ملی کے مطابق بنالیں اور ان کی تنظیم کر لیں تو مذہب سے ناواقفی نہ رہے جو اب دیکھنے میں آرہی ہے۔

مسلمانوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ خطبات عبادت کا ایک جز و لاینفک نہایت ضروری اور اہم حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطبہ کو اس لئے فرض کیا ہے کہ شہر کے تمام مسلمانوں کے کانوں تک تمام ضروری و مذہبی و ملی معلومات و ضروریات پہنچتی رہیں کہ مسلمان مذہبی، سیاسی، تمدنی، اخلاقی اور قومی ضروریات سے ناواقف و جاہل نہ رہے۔ پھر اسلام نے نماز جمعہ سے بیشتر خطبہ مقرر کر کے اس کی نفع خیزی کو بھی زیادہ وسیع و اہم کر دیا ہے لامحالہ ہر مسلمان کو طوعاً و کرہاً خطبہ سننا پڑتا ہے اور زبردستی اس کے کانوں میں آواز مذہب ڈالی جاتی ہے اگر خطبہ نماز کے بعد پڑھے جانے کا حکم ہوتا تو اکثر لوگ نماز پڑھتے ہی بھاگ جایا کرتے۔

دنیا نے آج اصلاح و ترقی کے کئی وسائل معلوم کئے ہیں اور ہر قوم اپنی اصلاح و ترقی کے لیے مختلف انجمنیں بناتی، مختلف کانفرنسیں کرتی اور شاندار جلسے منعقد کرتی ہے مگر قربان اس نبی امی ﷺ کے جس نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی اپنی امت کی اصلاح و ترقی کا سامان کر دیا تھا اور خطبات جمعہ میں مسلمانوں کے ہاں ہر شہر و قصبہ میں ہر ساتویں دن ایک عظیم الشان اجتماع جلسہ بڑی آسانی و اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پر شکوہ تقریر کی جاتی ہے جس کو پورے ادب و احترام سے سننا ہر عالم و جاہل مسلمان پر فرض ہے۔ تنظیم مسلمین کا اس سے بڑھ کر مظاہرہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ گویا یوں سمجھئے کی یہ مسلمانوں کی

ذہبی، ملی، تنظیمی، تعلیمی، معاشرتی اور اقتصادی اصلاح و ترقی کا ایک خدائی وابدی لائحہ عمل ہے۔

کاش! مسلمان اس خدائی انتظام و اہتمام کی قدر کریں اور اس سے کما حقہ فائدہ بھی اٹھائیں۔ انہیں اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ جو چیز اور جو بات غیر مسلموں کو ہزاروں روپے بیک وقت صرف کرنے اور صد ہزار مساعی عمل میں لانے سے بھی میسر نہیں آسکتی وہ مسلمانوں کو مفت اور بے منت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔

### خطبہ کی مقدار واجب و مسنون

اسقاط فرضیت کے لئے صرف الحمد لله یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ ایک بار کہنا کافی ہے۔ مگر یہ محض جواز کی صورت ہے نہ کہ عملی حکم۔ لہذا اس مقدار میں کفایت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں کہ سنت رسول اللہ کے خلاف ہے۔ (1)

ایک طویل مفصل سورت کی برابر خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس سے کمی بیشی کرنا مکروہ ہے اور یہ مقدار دونوں خطبوں میں سے ہر ایک میں ہونی چاہیے۔ (2)

دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرنا بھی مسنون ہے اس جلسہ میں خواہ درود شریف پڑھے یا خاموش رہے اختیار ہے۔

خطبہ کے وقت رسول اللہ ﷺ کا نام مبارک آنے پر بعض لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ ہاں دل ہی دل میں یا چپکے چپکے زبان سے پڑھنا درست ہے۔ خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار حضرت امیر حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اصحاب کبار رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ (3)

خطیب کا ادھر ادھر منہ کر کے لوگوں کی طرف دیکھنا بدعت ہے۔ خواہ خطبہ اولیٰ میں ایسا کرے یا ثانیہ میں دونوں صورتوں میں بدعت ہے۔ (4)

حمد و ثناء کے بعد کلمہ ”اما بعد“ کا کہنا مسنون ہے۔ چنانچہ بخاری نے اس کے لئے

2- شرح وقایہ صفحہ 242

1- در مختار جلد 3 صفحہ 20

4- فتاویٰ شامی جلد 3 صفحہ 21

3- در مختار جلد 3 صفحہ 21

ایک علیحدہ باب باندھا ہے۔ نیز فتح الباری میں اس امر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کلمہ اول کس نے کہا! طبرانی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث مرفوع سے لائے ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔

### خطبہ کے وقت عصا یا تلوار کا رکھنا

خطبہ کے وقت کمان یا عصا پر تکیہ کرنا چاہیے۔ لیکن روایات فقہ حنفی میں آیا ہے کہ کمان یا عصا وغیرہ پر تکیہ کرنا مکروہ ہے۔ مدارج النبوة میں ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مکروہ نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر خطبہ دار حرب میں دیا جائے تو تلوار پر سہارا کرنا چاہیے۔ صاحب سفر السعادت کہتے ہیں کہ کمان و عصا پر تکیہ کرنا منبر بننے سے پہلے تھا۔ جب منبر بن گیا تو کسی چیز پر تکیہ کرنا محفوظ نہ رہا۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ کسی چیز پر تکیہ نہ کرنا چاہیے۔

آنحضرت سرور کائنات ﷺ بہ نسبت نماز کے خطبہ کو کوتاہ اور نماز کو دراز کیا کرتے تھے۔ ابی داؤد میں آیا ہے کہ حضور کی نماز اور خطبہ دونوں میانہ ہوتے تھے اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نماز میں درازی اور خطبہ میں کوتاہی کرنا فقہ و دانشوری کی علامت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وعظ و نصیحت کے لئے ایک حرف ہی کافی ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ”کردار باید نہ گفتار“۔ یعنی عمل ہونا چاہیے نہ کہ گفتار۔

### خطبہ پڑھنے کی ترکیب

اول امام منبر پر جائے جب مؤذن اذان سے فارغ ہو چکے تو پھر کھڑا ہو کر لوگوں کی طرف منہ کر کے آہستہ آہستہ پڑھے پھر بسم اللہ کہے۔ پھر حمد و ثناء پڑھ کر شہادت و توحید و شہادت رسالت کہے پھر درود شریف پڑھ کر موقع کے موافق لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے۔ اخیر میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر ختم کر دے پچھلا خطبہ بھی اسی طرح پڑھے۔ مگر اس میں آیت قرآن کا پڑھنا مسنون ہے۔

## خطبہ کے مسائل

دونوں خطبے ثواب میں جمعہ کی نصف نماز کے برابر ہیں (شامی)  
 اگر خطبہ و نماز کے درمیان فصل ہو جائے مثلاً امام خطبہ کے بعد گھر چلا جائے یا کھانا  
 کھالے یا کوئی کام مانع نماز کر لے تو خطبہ از سر نو پڑھا جائے گا۔  
 جو باتیں نماز میں کرنا ناجائز ہیں وہی خطبہ کے وقت کرنا ناجائز ہیں۔ کیونکہ خطبہ بھی  
 عبادت ہے۔ مثلاً کھانا، کلام کرنا، سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا اور چلنا پھرنا وغیرہ تمام  
 امور ناجائز ہیں۔ البتہ اگر کسی کو اشارہ سے کسی بری بات یا شور و غل سے منع کیا جائے تو  
 جائز ہے۔ (1)

امام کو خطبہ پڑھنے سے قبل محراب کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔  
 خطیب کے سوا کسی دوسرے شخص کو امامت کرنا مناسب ہے۔ (2)  
 ہاں اگر خطبہ پڑھنے کے بعد امام کو حدث ہو جائے تو کسی ایسے آدمی کو اپنا جانشین  
 کر دے جو خطبہ سننے میں شریک رہا ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنائے جس نے خطبہ نہیں  
 سنا تو جائز نہیں اور اگر خطیب کو نماز کے اندر حدث ہو تو جس کو چاہے خلیفہ بنا دے۔ (3)  
 اگر کسی قلعہ کے اندر مسجد میں آنے جانے یا اور کسی کو آنے جانے سے روکے اور اپنے  
 آپ چند فوجی اور باشندگان قلعہ کو لے کر جمعہ ادا کرے تو دوسرے لوگوں کا جمعہ صحیح نہ  
 ہوگا۔ کیونکہ جمعہ کے لئے اذن عام کی ضرورت ہے اور یہاں اذن عام نہیں بغیر اذن عام  
 کے جمعہ صحیح نہیں ہوتا۔ اذن عام صحت جمعہ کے لئے بہت ضروری ہے۔ علی ہذا القیاس قیدی  
 جمعہ ادا کر نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہاں بھی اذن عام نہیں ہوتا۔ اگر ایسے لوگ جمعہ کی نماز  
 پڑھیں گے تو ان کے ذمہ سے ظہر کی نماز ادا نہ ہوگی۔ (4)

مسئلہ: شہر میں جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں جس پر جمعہ فرض  
 ہی نہیں۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر پڑھ لیں تو ان کی نماز ہو جائے گی۔ مگر

1- درمختار جلد 3 صفحہ 35

2- درمختار جلد 3 صفحہ 39

3- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 147

4- درمختار جلد 3 صفحہ 25-26



جماعت نہ کریں۔ کیونکہ جمعہ کے روز ظہر کی نماز کے واسطے جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ (1)  
**مسئلہ:** جہاں پر جمعہ درست نہیں وہاں کے باشندے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف شہر والوں کو جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھنا درست نہیں۔ (2)

**مسئلہ:** ایک شخص نے ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے گھر پڑھ لی اور پھر جمعہ کی نماز پڑھنے گھر سے نکلا تو اگر اس کو امام کے ساتھ جمعہ مل گیا تو ظہر کی فرضیت باطل ہوگئی جمعہ کی نماز پڑھ لے خواہ معذور ہو یا غیر معذور اور اگر اس کو جمعہ نہ ملا تو اگر امام اسی وقت فارغ ہوا۔ جس وقت یہ گھر سے نکلا تھا تب تو بالا جماع ظہر کی فرضیت باطل ہوگئی اور پہلی نماز نفل ہوگئی از سر نو ظہر کی نماز پڑھے۔ (3)

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں تشہد میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہیے خواہ مسافر ہو یا مقیم بلکہ اگر سجدہ سہو کی انتہیات میں بھی آکر شریک ہوا۔ تب بھی یہی حکم ہے۔ (4)

**مسئلہ:** اگر گاؤں والے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ جمعہ کے دن شہر میں نماز جمعہ پڑھنے کے لئے آئیں اور مقصود اصلی نماز جمعہ ہی ہو تو ان کو جمعہ کا ثواب مل جائے گا اور اگر اصلی غرض کچھ اور ہے۔ مثلاً سو داسلف لینے آئیں، ضمناً نماز جمعہ بھی پڑھ لی تو جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔

### فرض احتیاطاً

جمعہ کے بعد چار رکعت فرض احتیاطاً اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر جمعہ کی نماز ہوگئی تو چاروں نوافل ہو جائیں ورنہ ظہر کی نماز ادا ہو جائے اور فرض یقینی طور پر ذمہ سے ساقط ہو جائے۔ یہ صورت احتیاط پر مبنی ہے اور اس احتیاط کی وجہ وہی مصر کا اختلاف ہے۔ اس طرح فرض احتیاطاً پڑھنا اچھا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان چار رکعتوں کا

پڑھنے والا عدم فرضیت جمعہ کا قائل و معتقد نہ ہو جائے یعنی یہ نہ سمجھے کہ جمعہ سرے سے ہوتا ہی نہیں۔

ان چار رکعتوں کا پڑھنے والا ان کی نیت اس طرح کرے: ”نیت کرتا ہوں چار رکعت نماز اس ظہر کی جس کا وقت میں نے پایا اور ابھی تک اس کو ادا نہ کیا۔“ اس نیت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بموجب روایات ضعیفہ کے جمعہ نہ ہو اتب تو چار رکعتیں ظہر کی ہو جائیں گی اور ظہر کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور اگر بموجب اقوال یہ جمعہ درست ہو تو کوئی ظہر کی قضا نماز اگر اس کے ذمہ ہوگی تو وہ ادا ہو جائے گی اور اگر قضا نماز نہ بھی ہوگی تو نوافل ہو جانے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ (1)

ان چار رکعتوں کو پڑھنا چاہیے۔ بشرطیکہ اس کے ذمہ کوئی اور قضا نماز نہ ہو اور اگر ہو تو دو پر اور دو خالی پڑھنی چاہیے۔ ہم نے عام فقہ کی کتابوں کے مطابق اس مسئلہ کو لکھ دیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس جھنجھٹ میں پڑنے اور خواہ مخواہ احتیاط کرنے کی ضرورت کیا ہے جب اقوال قویہ کے مطابق جمعہ درست ہو جاتا ہے پس خواہ مخواہ شبہ میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ یہ سب ایجاد بندہ ہیں۔ قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق کیوں نہ یقین کر لیا جائے کہ جمعہ درست ہے اگر شک و تذبذب کے پیر اسی طرح پھیلنے دیے جائیں تو شاید اسلام کے اس قسم کے دوسرے مسائل بھی یقینی طور پر ثابت نہ ہو سکیں گے۔ واللہ علم بالصواب

**مسئلہ:** جمعہ کی دو رکعتیں ہوتی ہیں اور دونوں جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا پڑھنا مسنون ہے ورنہ جو یاد ہو وہی پڑھ سکتا ہے۔

جمعہ کی اذان

جمعہ کے لئے ایک اذان کا ہونا تو آنحضرت کے عہد مبارک اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت سے برابر چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں کی زیادہ کثرت ہونے اور دور بیٹھنے والوں کو نماز قائم ہونے کی

شناخت میں دشواری ہونے لگی تو آپ نے دوسری اذان کا حکم دے دیا اور اس وقت دوسری اذان شروع ہوئی۔

پہلی اذان کو سن کر خرید و فروخت اور دوسرے دنیاوی کاروبار ترک کر کے حسب ارشاد الہی نماز کے لئے مسجد میں آجانا چاہیے۔ اس پہلی اذان کو سن کر کاروبار دنیاوی میں مشغول رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ (1)

### جمعہ کے دن کیا کیا باتیں مسنون و مستحب ہیں

ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد اور اس کی بیوی جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان دونوں کے غسل کے پانی کے ایک ایک قطرہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت کے دن تک ان دونوں کے لئے بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے دو مرد باہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے تو اس شخص سے بدتر ہے جو جمعہ کا غسل نہیں کیا کرتا۔ گویا یہ ایک ضرب المثل تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تو تمام لوگوں سے بدتر ہے۔ یعنی جمعہ کا غسل ترک کرنا بہت بری بات ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے سفر و حضر میں کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم ﷺ نے فرمایا: عرش کے نیچے ایک شہر اس دنیا سے ستر حصے زیادہ آباد ہے۔ اس میں فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ہر وقت کہتے ہیں: الہی! جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے مسجد میں آئے اُسے بخش دیجیے۔

کبیر و اوسط میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اس کے تمام گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور جب مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے۔ ہر ہر قدم پر بیس بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے تو دو سو برس کے عمل سے کفایت کرتا ہے۔

ان تمام آثار و اقوال سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا بہت بڑے ثواب کا موجب ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح کر دینے کے قابل ہے کہ کوئی شخص غسل جنابت اور غسل جمعہ دونوں اکٹھا کرنا چاہے تو اسے جنابت کی نیت مقدم کرنا اولیٰ ہے۔

کتاب النورین فی اصلاح الدارین میں ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن اتار لیتا ہے وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تمام آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن لبیں لے اور اپنی بیوی کی خوشبو میں سے کچھ ملے۔ اگر اس کے پاس خوشبو ہو، عمدہ کپڑے پہنے۔ پھر جمعہ میں لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا نہ آئے اور خطبہ نہایت خاموشی کے ساتھ سنے تو ان دونوں جمعوں کے درمیان جس قدر گناہ ہوئے ہوں گے، یہ ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور جو شخص لوگوں کی گردنیں پھاندتا ہوا جائے گا اور خطبہ کے وقت لغو باتیں کرے گا، اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گا۔ بلکہ وہ نماز ظہر ہوگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو نے خطبہ کے وقت اپنے پاس والے سے کہا: انصت یعنی خاموش رہ تو لغو کیا۔ یعنی جمعہ کے ثواب سے محروم رہا۔

جمعہ کے دن وہ خوشبو ملنی چاہیے جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور معطر ہو اور ایسی خوشبو کا ملنا مستحب ہے جس کا رنگ تو مخفی ہو اور خوشبو ظاہر ہو۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں بھاتی ہیں، خوشبو، عورتیں اور نماز اور خصوصاً نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مہر کا دو ٹکٹ حصہ عطر و خوشبو کے لئے مقرر کرنا۔ رسول خدا ﷺ مشک کا اکثر استعمال کیا کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ عطریات کے استعمال سے بالکل بے نیاز تھے۔ حضور ﷺ کے جسم اطہر سے قدرتی طور پر نہایت تیز اور پاک خوشبو کے حلے اڑ اڑ کر گلیوں اور بازاروں کو معطر کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے لئے مشک و عنبر کی کیا حقیقت تھی۔ آپ کو خوشبو محض فرشتوں کے حقوق پورا کرنے اور اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے محبوب تھی۔ الغرض جمعہ کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا اور

دوسرے تمام غسلوں سے زیادہ موکدہ اور باعث ثواب ہے۔

جمعہ کے دن عمامہ باندھنا اور سفید کپڑے پہننا مستحب ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ خدا اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں جو جمعہ کے دن عمامے باندھتے اور سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ عمامہ سے ایک نماز پڑھنا ان پچیس نمازوں سے افضل ہے جو بے عمامہ پڑھی جائیں۔

رسول خدا ﷺ جب کوئی نیا کپڑا بنواتے تو اسے جمعہ کے دن زیب بدن فرمایا کرتے تھے۔ (خیر الموائس)

جمعہ کے دن کے درود و اذکار

سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ بخش دے گا، لوگوں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر کیوں کر درود پڑھیں؟ فرمایا یوں کہا کرو: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ" احياء العلوم میں ہے کہ جو شخص اس درود کو سات جمعوں تک سات سات مرتبہ پڑھے اسے آنحضرت ﷺ کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ (1)

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کی رات کو یسین پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جو جمعہ کے دن یا رات کو حَمَّ الدُّخَانِ پڑھے گا۔ خدا اس کے لئے جنت میں ایک خوش نما مکان بنائے گا۔

جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں آلم السُّجْدَه اور دوسری میں هَلْ أَكُنَّ (دہر: 1) پڑھنا مستحب ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان کی پیدائش مبداء اور قیامت کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے اور جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جس میں قیامت برپا ہوگی، وہ جمعہ کا دن ہے۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لئے دو

جمعوں کے مابین تک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے غروب آفتاب تک اس پر رحمتیں نازل کرتے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن اس طرح چار رکعتیں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار، آیہ الکرسی ایک بار اور قُلْ هُوَ اللَّهُ پندرہ بار، تو خدا تعالیٰ اس کے لئے جنات عدن میں سونے کے دس ہزار شہر بنائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی رات کو غروب آفتاب کے بعد اس طرح دو رکعت پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ إِذَا زُلْزِلَتْ اور ص پندرہ بار تو خدا تعالیٰ اس پر موت کی سختی بالکل آسان کر دے گا اور اُسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور اس ایک نماز کا ثواب ستر برس کی عبادت کے ثواب کے برابر لکھا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد سو دفعہ یوں کہے گا: "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ" خدا تعالیٰ اس کے ایک لاکھ گناہ اور اس کے ماں باپ کے چوبیس ہزار گناہ بخش دے گا۔ نیز حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص جمعہ کے دن امام کے سلام کے بعد اپنا پاؤں بچھانے سے پہلے سورہ فاتحہ، قُلْ هُوَ اللَّهُ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے گا، خدا تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔

جمعہ کی ساعت مقبولہ

ابن عماد اکثر علماء سے نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کہ وہ ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ آفتاب کے ڈوبنے کا وقت ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ اسے عصر کے بعد کی آخری ساعتوں میں ڈھونڈو، اسی طرح اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور تقریباً 42 روایتیں ہیں؟ مگر صاحب روضہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ساعت اجابت وہی ہے جس کا ذکر صحیح مسلم میں آیا ہے وہ یہ کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ ساعت امام کے

خطبہ پڑھنے اور منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے پورے ہونے تک ہے۔ اس میں جو دعا کی جائے انشاء اللہ قبول ہوگی۔ لیکن چونکہ خطبہ کے وقت خاموش رہنا واجب ہے اس لئے دل میں دعا کرے۔

### ترک جمعہ کا عذاب

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا اور پھر دوسری دفعہ بھی اذان سن کر نہیں آتا تو خدا تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کے دل کو منافق کا دل کر دیتا ہے۔ اگر کسی بستی کے ایک شخص نے جمعہ کی اذان سنی جس پر نماز جمعہ فرض نہ تھی اور سنی بھی ان لوگوں کے شہر سے جن پر لازم تھا تو تمام بستی والوں پر جمعہ کی نماز میں شریک ہونا واجب ہے گویا اس وقت یہ بستی فناء مصر کے حکم میں داخل ہے۔

جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ اس دن اس مہینہ اور سن میں تم پر جمعہ فرض کیا گیا ہے، اس کے بعد سے جو شخص اسے خفیف اور ہلکی سی بات سمجھ کر ترک کرے گا تو اس کی نماز ہی کیا، اس کے روزے ہی کیا، اس کی زکوٰۃ ہی کیا اور اس کا حج ہی کیا ہوگا۔

خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کی پریشانیاں کبھی دور نہ کرے گا، نہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہاں جو شخص اس کے بعد توبہ کر کے مرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔

ایک دوسری جگہ فرمایا: جس نے تین جمعے بلا عذر متواتر ترک کر دیے اس نے اسلام کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیا۔

## نماز عیدین کا بیان

انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشی کم۔ وہ اکثر مصائب و آلام کا شکار رہتا ہے۔ اس پر ہمیشہ رنج و الم کا ہجوم رہتا ہے اور اسے ہر وقت تفکرات گھیرے رہتے ہیں۔ اگر مذہب ان تفکرات کو دور کرنے کی صورت پیدا نہ کرتا تو یہ زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اس نظریہ کے ماتحت ہر مذہب نے کچھ مذہبی تہوار اور رسمیں مقرر کی ہیں جن میں قسم قسم کے فائدے ہیں اور ہر طرح کی مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت و فائدہ تو یہ ہے کہ سال میں ایک دو دفعہ عزیز واقارب باہم مل جل کر خوش ہوں، دوست و احباب ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوں اور ہم صحبت ہو کر تھوڑی دیر کے لئے افکار دنیا سے نجات پائیں، گویا سال بھر میں یہ چند دن عین خوشی اور قومی جشن کے ہوتے ہیں۔ الغرض تہوار کسی نہ کسی پہلو سے مذہب ہی کے سایہ حمایت و تربیت میں ہوتے ہیں۔ الغرض عام خوشی اور قومی جشن قوم میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے کسی مفید پہلو پر مبنی ہیں، لیکن ان میں فطرت شناسی، حقیقت دانی اور روحانیت کا شائبہ تک نہیں۔ لیکن دیگر اقوام کے مذہبی تہوار کھیل کود، لہو و لعب، ناچ رنگ، شراب و کباب اور شور و غل سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔

دیگر مذاہب کے مقابلہ میں اسلام کی شان سب سے نرالی ہے۔ اس نے سچی فطرت شناسی اور پوری حقیقت دانی کے ساتھ ساتھ اپنے تہوار اور رسوم کو معقولیت تہذیب اور روحانیت کا رنگ دیا ہے اور ان میں عبودیت و بندگی کی ایک اعلیٰ شان پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اصلی تہوار دو ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلام نے ان دونوں کو نہایت یاکیزہ اور پسندیدہ مذہبی شان دے دی ہے۔ ان میں سب سے مقدم دو گانہ نماز کو رکھا ہے اور اس تخیل کو لازمی قرار دیا ہے کہ مسلمان عام خوشی اور قومی جشن منانے سے پہلے خالق ذوالجلال والا کرام کے انعام و احسان کا شکر یہ بجالائیں جس نے اپنی عنایت و الطاف بے پایاں سے ان کو یہ مبارک دن دیکھنے نصیب کئے، اس طرح یہ دونوں تہوار مادی و روحانی



جذبات کے ماتحت پوری شان و شوکت کے ساتھ منائے جاتے ہیں اور فرزند ان توحید کو مسرت و خوشی و خورمی کے پاکیزہ و پسندیدہ جذبات سے لبریز کر دیتے ہیں۔

جس طرح حیات انفرادی کے لئے تفریح کی ضرورت ہے، اسی طرح حیات قومی کے لئے بھی تفریح ضروری ہے اس کیلئے اس سے اجسام میں ایک تازگی پیدا ہوتی اور روح میں بالیدگی نمایاں ہوتی ہے۔

عیدین کی اجتماعی شان جہاں ایک طرف قلبی مسرت اور روحانی انبساط پیدا کرتی ہے وہاں دوسری طرف تعلقات محبت و قرابت کو بھی گہرا کرتی، شناسائی و دوستی کی طرف منجر ہوتی، جذبات اخوت کو ابھارتی، حیات قومی کو ابھارتی اور درس مساوات دیتی ہے۔ یہ کتنی خوبی اور کمالات کی بات ہے کہ اسلام نے ان دونوں تہواروں کا تخیل اتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ کپڑوں کی نمائش، ساز و سامان کی چمک دمک اور کام و دہان کی تواضع کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن سچ پوچھو تو عیدین کی ساری خوشی عید گاہ جانے اور نماز پڑھنے تک ہوتی ہے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ لوگو! اپنی عیدین کو تکبیر و تہلیل اور تحمید و تقدیس کے ساتھ زینت و رونق دو۔

عید کا نام عید کس لئے رکھا گیا؟

عید کا نام اس لئے عید رکھا گیا ہے کہ اس دن میں خدا کی طرف سے اس کے بندوں پر طرح طرح کے عوائد احسان اور فوائد امتنان ہوتے ہیں یا اس لئے کہ وہ ہر برس ایک تازہ اور نئی مسرت و خوشی کے ساتھ عود کرتی ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کو عید اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ایماندار خدا کی محبت و اطاعت کا اظہار کرتے اور اس کے عادی ہوتے ہیں۔

وہب بن منہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر عید کے دن ابلیس لعین نہایت دردناک آواز سے روتا ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر تمام شیاطین جمع ہو کر کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار! تجھے کس چیز نے دکھ پہنچایا؟ اور کس نے غصہ میں ڈالا؟ شیطان کہتا ہے: آج میری

جان پر بڑا غضب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بخش دیا۔ لہذا تم سے جہاں تک بن پڑے انہیں ناجائز لذات، بیجا خواہشات، لہو و لعب اور شراب نوشی وغیرہ میں مشغول کر دو۔ یہاں تک کہ ان پر خدا کے غصے کی آگ بھڑک اٹھے۔

اس قول سے مقصود یہ ہے کہ عید کی ساری خوشی اس بات میں ہے کہ امت محمدی عیدین کے دن محبت و اطاعت الہی کا اظہار کرے اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے اس میں قلبی مسرت اور روحانی انبساط ہے۔ اس کے بغیر عیدین کی تمام مادی خوشیاں بیچ اور لغو ہیں۔

## عیدین کے احکام و مسائل

جاننا چاہیے کہ عیدیں دو ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں۔ نماز عیدین شہر والوں پر اسی طرح واجب ہے جس طرح جمعہ واجب ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے امام ابوحنیفہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

صحیح قول یہ ہے کہ جس پر جمعہ واجب ہے اسی پر صلوٰۃ عیدین بھی واجب ہے۔ پس مسافر، مریض، عورت اور غلام پر واجب نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ مگر ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح ہے۔

علاوہ ازیں عیدین شعائر اسلام میں سے ہیں۔ حاشیہ طحاوی میں ہے کہ وہ سن اولیٰ ہجری میں شروع ہوئی (1)۔ چنانچہ ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول خدا ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ والوں کے ہاں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: یہ کیا دن ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ان میں کھیلتے کودتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ

الْفِطْرِ (2)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان دونوں دنوں کو ان سے بہتر دنوں سے بدل دیا“

ہے اور وہ یوم الاضحیٰ اور یوم فطر ہیں۔“

### عیدین کی شرائط

- عیدین کی نماز کی شرائط و جوہ و ادا وہی ہیں جو جمعہ کی ہیں۔ صرف دو باتوں کا فرق ہے:
- ۱۔ جمعہ میں خطبہ شرط ہے۔ بغیر خطبہ کے جمعہ صحیح نہیں اور عیدین میں خطبہ سنت ہے۔
  - ۲۔ جمعہ میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں نماز کے بعد۔

عید کے دن مسنون امور یہ ہیں:

۱۔ صبح کی نماز اپنے محلہ کی مسجد میں پڑھنا۔

۲۔ غسل کرنا۔

۳۔ مسواک کرنا۔

۴۔ خوشبو لگانا۔

۵۔ نئے یا دھلے ہوئے کپڑے پہننا۔

۶۔ خاص عید گاہ کو جانا۔

۷۔ واپسی میں راستہ کو بدل دینا۔

۸۔ راستہ میں آتے جاتے تکبیر پڑھنا۔ عید الفطر کے دن آہستہ آہستہ تکبیریں پڑھے

اور عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے اور عید گاہ میں پہنچ کر ختم کر دی جائیں۔

۹۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا۔

۱۰۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے کچھ بیٹھا کھانا، چھوہاروں کو طاق کھانا زیادہ ثواب کا

باعث ہے۔

عید الاضحیٰ میں نماز سے پیشتر نہ کھانا مستحب ہے۔ خواہ قربانی کرے یا نہ کرے۔

### عیدین کی نماز پڑھنے کی ترکیب

امام اور مقتدی دونوں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کریں پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر

ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہم پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔

دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر

کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ مقتدی خاموش رہیں اور امام اعوذ بسم اللہ، الحمد اور کوئی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور سب مقتدی بھی چلے جائیں۔ پھر حسب معمول سجدہ سے فارغ ہو کر مقتدی و امام دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ امام حسب دستور قراءت کرے۔ الحمد اور سورت سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دے، دوسری بار بھی ایسا ہی کرے، تیسری بار بھی اسی طرح کرے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر انتقال کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور سجدہ وغیرہ کر کے نماز ختم کر دے۔

**ہدایات:** عید کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کو جاتے وقت تکبیر انتقال کہنا واجب ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر امام خطبہ پڑھے۔ تکبیرات کے درمیان خاموش رہنا چاہیے۔ ہر دو تکبیروں کے درمیان بقدر تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے خاموش رہے۔ تکبیروں کے بعد ہاتھ باندھنے اور نہ باندھنے کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جن تکبیروں کے بعد کچھ پڑھا جاتا ہے ان کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور جن تکبیروں کے بعد کچھ نہیں پڑھا جاتا ان کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جیسے عیدین کی تکبیریں اور جنازہ کی نماز میں تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے بعد پڑھا جاتا ہے۔

جو طریقہ نماز عیدین کا ہم نے سابق میں لکھا ہے، اس کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اکثر لوگ نماز عیدین میں غلطی کرتے ہیں۔ اول رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو فرض ہے ہاتھ باندھ لینے چاہئیں اور اول سے آخر تک سبحانک اللہم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تین تکبیریں زائد کہنی چاہئیں۔ ان تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ ان کے بعد اعوذ، بسم اللہ، الحمد اور سورت پڑھ کر رکوع کے لئے تکبیر انتقالی کہنی چاہیے۔ یہ تکبیر واجب ہے، پس اس طرح اول رکعت میں پانچ تکبیریں کہنی چاہئیں ایک تکبیر افتتاح، تین زائد تکبیریں کہنی چاہئیں۔ اور ہاتھ اٹھانے چاہئیں اور تکبیر انتقالی کہہ کر رکوع میں جانا چاہیے اور حسب دستور نماز تمام کرنی چاہیے۔

**عیدین کے خطبہ کے مسائل و احکام**

یاد رکھنا چاہیے کہ تین خطبے الحمد سے شروع کئے جاتے ہیں۔ جمعہ کا، استسقاء کا اور نکاح

کا۔ لیکن عیدین کا خطبہ الحمد سے شروع نہیں کیا جاتا، بلکہ دونوں عیدوں کے اور تینوں خطبے حج کے اللہ اکبر سے شروع کئے جاتے ہیں۔

عید کا پہلا خطبہ شروع کرنے سے قبل نو بار تکبیریں متواتر کہنی چاہئیں اور دوسرا خطبہ شروع کرنے سے قبل سات بار۔ (1)

جمعہ کے خطبے کو خطبہ شروع کرنے سے قبل امام تھوڑی دیر منبر پر بیٹھتا ہے۔ مگر حنفیہ کے

نزدیک عیدین کے خطبوں شروع کرنے سے پہلے نہ بیٹھنا چاہیے۔ (2)

جس وقت امام تکبیریں کہے تو حاضرین کو بھی کہنی چاہئیں۔ (3)

مسئلہ: اگر عید کی نماز سے پہلے جنازہ بھی حاضر ہو تو عید کی نماز پڑھ کر پھر جنازہ کی نماز

پڑھنی چاہیے اور پھر خطبہ پڑھنا چاہیے۔ (4)

عید الفطر کے خطبہ میں تکبیر، تسبیح اور درود وغیرہ کے بعد صدقہ فطر کے احکام بیان کئے

جائیں اور عید الاضحیٰ کے خطبہ میں تکبیر و تسبیح وغیرہ کے بعد قربانی کے احکام بیان کئے

جائیں۔ کیونکہ خطبہ صرف تعلیم احکام کے لئے ہے جس چیز کی ضرورت ہو حسب موقع اسی

کی تعلیم دینی چاہیے۔ (5)

### مسائل عید

عیدین کی نماز کا وقت سورج بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ جس وقت نماز اشراق

پڑھی جاتی ہے اور دوپہر تک باقی رہتا ہے۔ مگر عید الفطر کی نماز میں کسی قدر تاخیر کرنا بھی جائز

ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز میں تعجیل کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عید الاضحیٰ میں

چونکہ قربانی کرنی ہے اس لئے اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہر حال نمازیں زوال سے پہلے

پہلے ہو جانی چاہئیں۔

مسئلہ: اگر نماز عید کسی وجہ سے عید کے دن نہ ہو سکے۔ مثلاً اختلاف رویت ہلال ہو اور

دوپہر کو چاند کی خبر ملے، یا شدت بارش سے باہر نکلنا ہی مشکل ہو تو دوسرے روز صبح کو نماز عید

1۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 150 2۔ درمختار جلد 3 صفحہ 58

3۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 151 4۔ ایضاً، صفحہ 152 5۔ درمختار جلد 3 صفحہ 58-60

پڑھنی چاہیے۔

**مسئلہ:** جس وقت نماز پڑھی گئی اس وقت ابر تھا۔ نماز کے بعد معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز ہوئی ہے یا امام نے بے وضو نماز پڑھا دی تو ان دونوں صورتوں میں بھی عید الفطر کی نماز دوسرے دن زوال سے پہلے دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ دوسرے روز کے بعد عید الفطر کی نماز درست نہیں ہاں عید الاضحیٰ کی نماز تیسرے دن بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بارہویں تاریخ کو۔ (1)

**مسئلہ:** عیدین کی نماز کی دو رکعتیں ہوتی ہیں۔ بغیر اذان و اقامت کے۔ (2)

**مسئلہ:** اگر تکبیریں ہو جانے کے بعد کوئی شخص پہلی رکعت میں آ کر شریک ہو تو پہلے تکبیریں کہنی چاہئیں اور پھر اقتدا کرنی چاہیے۔ (3)

اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے رکوع میں امام کو پائے تو اگر بحالت قیام تکبیریں کہہ کر رکوع پالینے کی امید ہو۔ تب قیام میں تکبیریں کہہ کر رکوع میں شریک ہو جائے اگر رکوع پانے کی امید نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں باقی تکبیریں کہہ لے۔ اب اگر رکوع میں اتنا وقت نہ ملا کہ پوری تکبیریں کہہ سکتا اور امام نے اس کی تکبیریں پوری کرنے سے پہلے سر اٹھا لیا، تو جتنی تکبیریں وہ کہہ چکا ہے وہ تو ہو گئیں اور باقی اس کے ذمہ سے ساقط ہو گئیں۔ (4)

**مسئلہ:** اگر قومہ میں آ کر امام کے ساتھ شریک ہوا، تو اب اس رکعت میں تکبیریں نہ کہنی چاہئیں یہ رکعت اس سے فوت ہو گئی۔ اب یہ مسبوق ہو گیا۔ جس وقت یہ امام کے سلام کے بعد اپنی رکعت ادا کرے اس وقت قراءت کے بعد رکوع سے پہلے یہ فوت شدہ تکبیریں کہہ لے۔ یہی حکم پہلی رکعت کے سجدہ میں شامل ہونے کا ہے۔ ہاں لاحق تمام تکبیریں امام کی طرح کہے گا۔ کیونکہ وہ حکماً امام ہی کے پیچھے ہوتا ہے۔ منفرد نہیں ہوتا اور مسبوق بقیہ رکعت پڑھنے میں منفرد ہوتا ہے۔ (5)

**مسئلہ:** اگر کسی شخص نے امام کو تشہد کی حالت میں پایا، خواہ تشہد اصل نماز کا ہو یا سہو کا تو یہ

1۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 152 2۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 150، 53

3۔ درمکار جلد 3 صفحہ 55، 56 4۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 151 5۔ ایضاً

دونوں رکعتیں مع چھ تکبیروں کے امام کی طرح ادا کرے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر امام نے پہلی رکعت میں تکبیریں بھول کر قراءت شروع کر دی تو اگر الحمد اور سورت دونوں پڑھ چکنے کے بعد یاد آیا تو تکبیریں کہلا کر رکوع میں چلا جائے اور اگر صرف الحمد پڑھی تھی کہ یاد آ گیا تو الحمد چھوڑ کر تکبیریں کہے اور پھر دوبارہ الحمد اور سورت پڑھ کر رکوع میں جائے (غایۃ الاوطار)۔

**مسئلہ:** اگر امام دوسری رکعت میں تکبیریں کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں ہی تکبیریں کہہ لے، قیام کی طرف عود نہ کرے۔ (2)

**مسئلہ:** اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، ہاں گھر میں آ کر چار رکعت نفل بغیر تکبیروں کے پڑھ لے۔ (3)

**ہدایات:** اگر کوئی شخص نماز عید کی ایک رکعت بھی پالے تو اسے ثواب نماز مل جائے گا عیدہ گاہ پیادہ پا جانا مننون ہے۔ سواری پر جانا بھی جائز ہے۔ مگر افضل یہی ہے کہ پیادہ پا جائے عید گاہ سے آتے وقت راستہ بدل دینا چاہیے کیونکہ اس سے اسلامی شوکت و اجتماع کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص شب عید کو خلوص و طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن تمام دل مرجائیں گے۔ (4)

عید کی نماز عورتوں کے لئے گھروں میں مستحب ہے۔ خواہ انہیں میں کوئی عورت امام بن جائے یا وہ شخص جس پر یہ عورتیں حرام، مثلاً باپ، بیٹا اور بھائی وغیرہ خواہ کوئی تمیز دار لڑکا امامت کرے۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص عید کے دن تین سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اور اس کا ثواب مسلمانوں کے مردوں کو پہنچائے گا تو ہر ایک قبر میں بے حد نور ہوگا

2۔ در مختار جلد 3 صفحہ 57

1۔ فتاویٰ مالگیری جلد 1 صفحہ 151

4۔ کنز العمال جلد 8 صفحہ 549 طبع حلب۔

3۔ در مختار جلد 3 صفحہ 58

اور جب یہ شخص مرے گا تو اس کی قبر انتہائی نور سے منور ہوگی۔

### صدقہ فطر

ہمارے امام صاحب کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض۔ پس حنفیوں کے نزدیک منکر فطر کافر نہیں۔ فتاویٰ سراجی میں ہے کہ جو شخص صدقہ فطر دیتا ہے اس کے روزے قبول ہو جاتے ہیں اور اس کو جان کنی و عذاب قبر کی سختی نہ ہوگی۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر نہ دیا جائے روزے آسمان و زمین میں معلق رہتے ہیں، جو لوگ فارغ البال اور کھاتے پیتے ہیں ان پر واجب ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے اور عام جشن مسرت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔

حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ہر ایک آزاد مسلمان صاحب نصاب کو جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اس میں سے کسی ایک چیز کی قیمت کے برابر نقدی روپیہ ہو۔ یعنی صاحب زکوٰۃ کو اپنی طرف سے اور اپنی بیوی بچوں کی طرف سے اگرچہ کوئی بچہ شیر خوار ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی طرف سے اگر اس کی تحت میں ہوں۔ نیز لونڈیوں اور غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے۔

مسائل: صدقہ فطر عید گاہ جانے سے قبل ہی دے دینا چاہیے۔ اگر عید گاہ جانے سے پہلے نہیں دیا تو نماز پڑھنے سے قبل دے دے اور اگر کسی خاص مجبوری سے قبل نماز بھی نہیں دے سکا تو بعد میں دے دے۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر دینے میں عید کے روز حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص صاحب زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ مگر صدقہ فطر دینا چاہے تو دے سکتا ہے یہ اس کی مرضی و حوصلہ ہے۔ ورنہ شریعت اس پر بار نہیں ڈالتی۔

### صدقہ فطر کی مقدار

صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک کی طرف سے نصف صاع شرعی ہے۔ یعنی مرد و زن کے



مطابق 2 سیر 3 چھٹانک ہے۔ یہ گیہوں کی، اس کے آٹے کی اور ستو کی مقدار ہے۔ اگر گیہوں ستو کے علاوہ چنے یا جو یا ان کا آٹا یا ان کا ستو یا کش مش یا چھو ہارے دے دیے جائیں تو گیہوں کے وزن سے دو گنے دینے چاہئیں۔ یعنی چار سیر 6 چھٹانک۔

**مسئلہ:** صدقہ فطر اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی طرف سے دینا چاہیے۔ اگر فرزند خود اپنا مال نہ رکھتے ہوں۔ اگر وہ اپنا مال رکھتے ہوں تو خود دیں۔ پھر باپ پر دینا واجب نہیں جو فرزند جوان ہے اس کا صدقہ فطر باپ پر واجب نہیں۔ لیکن اگر جوان فرزند کا صدقہ باپ دے دے اور اس سے نہ کہے تو روا ہے۔ ہاں عورت کا بغیر اس کے کہے فطرہ دینا روا نہیں۔ (1)

**مسئلہ:** اگر صدقہ فطر آئندہ دس سال کا ایک دم دے دیا جائے تو جائز ہے (کافی)۔

### صدقہ فطر کا مصرف

صدقہ فطر اپنے شہر اور بستی کے محتاجوں، اپنے غریب و مفلس رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو، مانگنے والوں کو دے دینا چاہیے۔ دینی مدارس کے طلبہ کی امداد و اعانت بھی کی جاسکتی ہے۔

**تنبیہ** اکثر دیہاتوں اور قصبوں وغیرہ میں بعض جاہل اور مسئلہ نہ جاننے والے لوگ محض رواج اور سہولتوں اور عید گاہ لے جاتے ہیں اور قبل از نماز یا بعد نماز کے غیر مستحق ہٹے کئے فقیروں کو دیتے ہیں یا عید گاہ کے فرش پر ڈال کر چلے آتے ہیں جو تکبیر کا سائیں یا امام سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ اس طرح بغیر پوری مقدار دے اور غیر مستحق محتاجوں کو نہیں ملتا۔ لہذا اس مسئلہ کو اچھی طرح یاد رکھنا اور دوسروں کو بتلانا چاہیے کہ صدقہ فطر لینے کے حق دار صرف غریب، فقیر، مسکین، محتاج اور وہ یتیم و بیوائیں ہیں جن کا کوئی وارث، مددگار اور ذریعہ معاش نہیں۔ الغرض خیال کر کے حق داروں کو دینا چاہیے۔ بجائے غلہ کے اس کی قیمت دینا بھی درست ہے۔

## قربانی کا بیان

علماء کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر سے افضل و برتر ہے، کیونکہ وہ تمام سال کے افضل ایام عشرہ ذی الحجہ میں واقع ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں عید الاضحیٰ، ابراہیمی قربانی اور اسمعیلی ایشار کی عظیم الشان یادگار ہے۔ عید قربان سال بہ سال ہمیں یہ سبق دینے آتی ہے کہ مسلمانوں کی خوشیاں و بے آرامیاں، عیش و راحت، اضطراب و پریشانی اور الفت و عداوت سب کچھ ایز و متعال کی مرضی کے تحت ہونی چاہیے۔ ان کا مرنا جینا، ان کی نمازیں، ان کے روزے اور ان کی قربانیاں سب کچھ اللہ عز و جل کے لئے ہونی چاہئیں، اور ان کے تمام کام اس لئے ہونے چاہئیں کہ ان کا معبود حقیقی ان سے راضی ہو جائے۔

عید قربان ہمیں ایشار و قربانی کا سبق دینے اور روح حیات دینے آتی ہے کاش! ہم اس کے پیغام حیات کو سمجھیں۔

قربانی کا مسئلہ انسانی فطرت کا ایک ایسا مسلمہ مسئلہ ہے کہ یہ ہر قوم و مذہب میں کسی نہ کسی رنگ میں پایا جاتا ہے۔ مگر اسلامی قربانی کی شان سب سے نرالی ہے۔ تفصیل ملاحظہ

۷۰

### قربانی کی غایت کیا ہے؟

مسلمان ہمیشہ عید الاضحیٰ مناتے اور قربانیاں کرتے ہیں۔ مگر اس کی حقیقت اور مقصد کو مد نظر نہیں رکھتے۔ صرف اتنا جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور پل صراط پر سواری کا کام دیں گے اور بس۔ یہ ہے ان کی قربانیوں کی کل کائنات۔ پھر ان میں ایشار و قربانی کا رنگ کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ وہ اس کے مغز و حقیقت کو جانتے ہی نہیں اور صرف چھلکوں پر قناعت کئے بیٹھے ہیں۔ لہذا قربانی کی غایت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ خدا کرے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور وہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے جو قربانی کا اصل مقصد ہے۔ آمین۔

قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کی جاتی ہے اور اس امر میں امت محمدیہ علی صاحبہا

افضل الصلوٰۃ والسلام تمام پچھلی امتوں سے گوئے سبقت لے گئی ہے۔ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت کے ماتحت ہوتی ہیں، احاطہ شمار سے باہر ہیں اور ان کو ان قربانیوں پر سبقت ہے جو پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ عظیم البرکت کام، ہمارے دین میں ان کاموں میں شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا موجب ہوتے ہیں اور قربانی کے جانور اس سواری کی طرح سمجھے گئے ہیں جو بجلی سے مشابہ ہو اور جن کو بجلی کی چمک سے مماثلت ہو اس مماثلت و تشابہ کی وجہ سے ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا ہے۔

احادیث میں آیا ہے کہ یہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہیں، مگر اس شخص کے لئے جو اخلاص، خدا پرستی اور ایمان داری سے کرتا ہے۔ قربانی اسلامی عبادتوں میں سے ایک بزرگ ترین عبادت ہے اور اسی لئے قربانی کا نام عربی میں نسک ہے اور نسک کے معنی ہیں: اطاعت و فرماں برداری اور بندگی۔ اس کا اطلاق جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی ہوتا ہے جن کو ذبح کرنا مشروع ہے۔ پس یہ اشتراک جو نسک کے معنوں میں پایا جاتا ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حقیقی پرستار اور سچا عابد وہی ہے جو اپنی تمام خلاف شرع قوتوں، ناجائز خواہشوں اور خدا سے الگ کرنے والے محبوبوں کو اپنے رب کی رضا جوئی و فرماں برداری کے لئے ذبح کر ڈالے۔ یہی قربانی کی روح ہے اور اس کی غرض یہی دل کی بیداری اور جذبہ محبت اور اطاعت الہی کی آبیاری و پرورش ہے۔

قربانی ظاہر میں تو صرف یہی ہے کہ ہم ایک موٹے تازے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں اور اس کا گوشت تقسیم کر کے کھالیں۔ لیکن درحقیقت وہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اصلی عبادت وہی ہے جو آخرت کے خسارہ سے نجات دے اور وہ نفس امارہ کا ذبح کر ڈالنا ہے۔ کیونکہ وہ ہم کو ہمیشہ برے کاموں اور ناجائز خواہشوں کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی عبادت اور قربانی یہ ہے کہ اس کو انقطاع الی اللہ کی چھری سے ذبح کر دیا جائے اور خلقت سے قطع تعلق کر کے اپنے محبوب و معبود حقیقی کو اپنا مونس اور آرام جان قرار دیا جائے۔

یعنی احکام الہی کی بجا آوری میں انواع و اقسام کی سختیوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا جائے۔ تاکہ نفس غفلت کی موت سے نجات پائے۔ یہی اسلام کے معنی ہیں

اور یہی کام اطاعت کی حقیقت ہے پس سچا اور کامل مسلمان وہ ہے کہ اپنی اطاعت کی گردن خدا کے سامنے جھکا دے اور اپنے نفس کو ذبح کرنے کے لئے اس کے سامنے رکھ دے۔ یہ قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں، ان کا مقصود ضبط نفس، بذل نفس اور اطاعت الہی ہے۔ وہ اس چیز کے لئے بطور یاد دہانی کے ہیں اور مذکور بالا مقام حاصل کرنے کی ترغیب کا ایک ذریعہ ہیں۔ پس قربانی کرنے والے مرد و عورت پر جو خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، واجب ہے کہ اس حقیقت و غایت کو سمجھے اس کو اپنے مقصود کا ایک عین قرار دے۔ اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے، غفلت و راحت اختیار نہ کرے۔ جب تک اس قربانی کو اپنے رب و دود کے لئے ادا نہ کرے اپنی ساری عقل، دل کی روشنی اور پرہیزگاری کے ساتھ قربانی کی روح کو حاصل کرے اور نادانوں و جاہلوں کی طرح صرف نمونہ اور پوست بے مغز پر قناعت نہ کر بیٹھے۔

ہم نے اپنی ناقص عقل و سمجھ کے مطابق کافی وضاحت کے ساتھ قربانی کی حقیقت کو لکھ دیا ہے۔ اس سے زیادہ بحث اس موقع پر مناسب نہیں اور کتاب کو طویل دینا ہے۔ لہذا ہم صرف اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

کیا قربانی کرنا ظلم اور بے رحمی ہے؟

دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں: ایک خدا کے قائل اور دوسرے منکر، جو منکر ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ رحم کیا ہے اور ظلم کس جانور کا نام ہے۔ وہ قربانی پر اعتراض ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں جو لوگ خدا کے قائل ہیں اور کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں وہ صرف رحم اور ظلم کے نام ہی جانتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے مفہوم حقیقی سے نا آشنا ہیں۔ محض اس نا سمجھی کی وجہ سے قربانی پر وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں، وہ جانوروں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں اور وہ بڑے ہی بے رحم ہیں جو ہتھیار کرتے ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنے والے لوگ بے چارے کسی حد تک معذور بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ غریب ظلم و رحم کو جانتے ہیں نہیں۔ لہذا ان معترضین کی حالت پر ہمیں رحم آتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی جہالت سے اسلام پر اعتراض کر کے اپنی عقل و سمجھ پر ظلم کرتے ہیں مگر چونکہ ہمارا کام رحم کرنا ہے اس لئے ہمیں

رحم آہی جاتا ہے۔ ایسے معترض غور سے اس اعتراض کا جواب سنیں۔

کیوں صاحب! کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہین اور شکر وغیرہ پرند جانور کتنے بڑے بے رحم جانور ہیں جو پرندوں کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں، ذرا بھی ان پر رحم نہیں کرتے اور شیر و چیتے کیسے ظالم ہیں کہ جنگل کے جانوروں کو چیر پھاڑ کے بے ڈکار ہضم کر جاتے ہیں؟ صاحب عقل و خرد انسان تو ان جانوروں کو ظالم و بے رحم نہیں کہہ سکتا اور دیوانہ سے ہمیں سروکار نہیں۔ ان جانوروں کی غذا خالق ارض و سماء نے گوشت ہی بنائی ہے اور انہیں اوزار بھی ایسے ہی دیے ہیں۔ وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں کہ دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ کر اپنے پیٹ بھریں۔ وہ جیوتھیا کا وعظن کر بھوکے نہیں مر سکتے۔

بتلاؤ کہ کیا ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا؟ بلی کو چوہا پکڑنا کس نے سکھایا؟ بڑی مچھلی کو چھوٹی مچھلی کا کھانا کس نے بتایا؟ کون ہے جو ایسے بے رحم و ظالم جانوروں کو دوسرے کمزور جانوروں پر مسلط کرتا ہے؟

پھر اس سے زیادہ نظر کو وسیع کر کے دیکھو کہ حضرت ملک الموت کتنے بڑے بڑے انسانوں کو مار کر ہلاک کرتے ہیں۔ غور کرو اگر ہم جانوروں کو ذبح نہ کریں تو اور کیا کریں۔ کیا ان کی تکلیف کے خیال سے ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں؟ اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اور ان پر یہ رحم ہوگا کہ وہ نہ مریں۔

اس الزامی تمہید کے بعد معترضین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ شکاری اور گوشت خور جانوروں کو پیدا ہی نہ کرتا اور اگر پیدا کیا تھا تو ان کا پیٹ بھرنے کے لئے کھیتی باڑی کا انتظام کرتا، اگر ہم ان کو ذبح نہ کریں گے تو وہ خود بیمار ہو کر مریں گے اور اس وقت نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ بھی کہلائے گا۔ ان تمام باتوں سے ہر صاحب عقل انسان باطنی تامل معلوم کر سکتا ہے کہ درحقیقت جانوروں کا ذبح کرنا ظلم و بے رحمی نہیں۔ بلکہ منشاء ربانی اور اقتضائے فطرت ہے۔

اب ذرا ان رحم رحم پکارنے والوں کے رحم کی حقیقت بھی سن لیجئے۔ اگر یہ ایسے ہی دھرماتما اور جانوروں پر رحم کرنے والے ہیں تو ان جانوروں سے مل کیوں چلواتے ہیں؟ ان پر

سواری کیوں کرتے ہیں؟ ان کے بچے باندھ کر خود دودھ مزے لے لے کر کیسے پیتے ہیں۔  
کیا یہ تمام باتیں بے رحمی کی نہیں؟

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف کی صحت و بقاء کے لئے ارذل مارا جاتا ہے۔ اگر جوئیں پڑ جائیں تو محض انسان کے آرام کے لئے ہلاک کر دی جاتی ہیں اور کسی جانور کو کیڑے پڑ جائیں تو اس کے فائدہ کے لئے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ذبح و قربانی ہی پر اعتراض کیوں ہے؟ پس جب ہم قانون الہی میں یہ نظارہ دیکھتے ہیں جس کا اوپر بیان ہوا تو پھر کس کی ہمت و جرأت ہے جو ذبح کو منشاء الہی کے خلاف ظاہر کر سکے جب موت ضروری ہے تو ذبح ظلم نہیں ہو سکتا اور جو لوگ ذبح کو ظلم سمجھتے ہیں وہ عقل و خرد سے بے بہرہ اور قانون الہی سے نا آشنا ہیں۔

### قربانی کا ثواب

جناب نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کے لئے قربانی کی ہوگی، جب وہ قبر سے زندہ ہو کر اٹھے گا اپنی قبر کے سرہانے اس قربانی کو کھڑا پائے گا۔ اس کے بال سونے کے تاروں کے، آنکھیں یا قوت کی اور سینگ خالص سونے کے ہوں گے۔ وہ شخص کہے گا: تو کون ہے، میں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا؟ وہ کہے گی: میں تیری وہی قربانی ہوں جس کو تو نے دنیا میں خدا کے لئے ذبح کیا تھا۔ اب تو میری پیٹھ پر سوار ہو جا۔ وہ شخص سوار ہو جائے گا وہ اسے لے جا کر عرش کے سایہ تلے کھڑا کر دے گی۔

ایک دوسری جگہ فرمایا: جب بندہ اپنی قربانی زمین پر پچھاڑتا اور ذبح کرتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہر ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔

لوگو! خبردار ہو جاؤ کہ قربانی آدمی کو نجات دلانے والی ہے، وہ اپنے صاحب کو دنیا و آخرت میں برائی سے نجات دیتی ہے۔

نیز فرمایا: جس نے قربانی کی اس نے گویا اپنے نفس کو دوزخ سے آزاد کیا۔ قربانی کا جانور بل صراط پر سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمک گئی۔

ہدایت: یاد رہے کہ محض ان ثوابوں پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ بلکہ اس میں بھی قربانی کی اصلی روح حاصل کرنا چاہیے۔ جس کا ہم نے اوپر بیان کیا۔ یہ نہ سمجھیے کہ قربانی کی غرض محض اتنی ہی ہے کہ وہ آخرت میں فائدہ دے اور عذاب دوزخ سے نجات دے۔ بلکہ اس دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ جس نے اپنی قربانیوں سے اس دنیا میں کوئی سبق اور روحانی فائدہ حاصل نہیں کیا، وہ آخرت میں بھی کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے:

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۗ  
 كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ  
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٠﴾ (سورہ حج)

”نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقویٰ تمہاری طرف سے، یوں اس نے فرمانبردار بنا دیا ہے انہیں تمہارے لئے تاکہ تم بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اس (نعمت) پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور اے حبیب! ﷺ خوشخبری دیجیے احسان کرنے والوں کو“۔

### قرآن اور قربانی

صفحات سابقہ میں ہم نے لکھا ہے کہ قربانی ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں مذکورہ بالا آیت سے اوپر فرماتا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَدَّكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا سَرَّاهُمْ قُرْبَانًا  
 بِهِيَمَةُ الْأَنْعَامِ ۗ قَالَهُمْ إِنَّهُ وَإِذَا ذُكِرَا اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالضَّالِّينَ  
 عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ وَالنَّاسِ الصَّالِحِينَ ۗ وَمَا سَرَّاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥١﴾ وَ  
 الْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ ۗ قَدْ كُرُوا اللَّهَ  
 اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٍ قَاذًا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

الْقَائِمِ وَالْمُعْتَرِ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعْنَتَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

”اور ہم نے ہر امت کے لئے قربانی ٹھہرا دی ہے تاکہ مویشی چار پائیوں کی قسم سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اس پر اللہ کا نام لیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اسی کی فرماں برداری کرو اور ان عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں جو اس تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں جو ان کو بچنے اور نماز کے قائم کرنے والوں کو اور جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانیوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارے لئے ان میں بہتری ہے تو ان پر جب کہ وہ تین پاؤں پر کھڑے ہوں، اللہ کا نام لو۔ پھر جب وہ اپنے کسی پہلو پر گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت پیشہ اور مانگنے والوں کو کھلاؤ۔ یوں ہی ہم نے ان کو تمہارے بس میں کیا تاکہ تم شکر کرو“۔ (سورۃ حج)

ان آیات مبارکہ میں قربانی کی غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ پہلے کہہ آئے ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی سے مقصود یہ ہے کہ ہم توحید، فرمانبرداری، عاجزی، صبر اور نماز و زکوٰۃ کے جذبات عالیہ حاصل کریں جو لوگ قربانی تو کرتے ہیں۔ مگر ان کے جذبات عالیہ اور صفات مبارکہ حمیدہ سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی قربانیاں فضول و بیکار ہیں۔

## احکام قربانی

قربانی کس پر واجب ہے؟

جو لوگ صاحب نصاب شرعی ہیں یعنی جن کے پاس حوانج ضروریہ سے بچا کر ساڑھے ست تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا لہن کی قیمت وغیرہ ہے۔ ان پر قربانی واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقیم مالدار پر قربانی واجب ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مقیم و مسافر دونوں پر واجب ہے مگر وہ حاجی مسافر مستثنیٰ ہے جو منیٰ



میں موجود ہو۔ کیونکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مسنون ہونے کے قائل ہیں۔

تمام گھروالوں کی طرف سے ایک ہی قربانی یا دو مینڈھوں کی قربانی کافی ہے جبکہ باقی گھروالے صاحب نصاب نہ ہوں۔ نبی کریم ﷺ عام طور پر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ البتہ حجۃ الوداع میں تمام بیویوں کی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی فرمائی۔ قربانی بچوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ابو داؤد اور بوطا میں بہت حدیثیں ہیں جن میں بیان ہے کہ تمام گھر کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔

### قربانی کے معنی

قربانی کے معنی ہیں: تقرب الہی حاصل کرنے میں کوشش و سعی کرنا اور اصطلاح شرع میں قربانی عبادت کی نیت سے خاص وقت میں حیوان کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں اور اس کی شرطیں یہ ہیں:

قربانی کرنے والا مسلمان عورت ہو یا مرد، مقیم ہو یا سفر میں ہو اور اتنا مال دار ہو کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کرتا ہو، قربانی کا سبب اس کا وقت ہے یعنی ایام نحر سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ کی فجر سے لے کر 12 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کی تاریخیں مگر بہتر اور افضل 10 کو قربانی کرنا ہے۔

یاد رہے کہ زکوٰۃ کی طرح قربانی کے لئے بھی نصاب کا سال بھر تک باقی و قائم رہنا شرط نہیں۔ قربانی قدرت ممکنہ پر واجب ہے۔ خواہ قربانی کرنے والا شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات اور جنگل کا۔

### قربانی کی نیت

قربانی کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، دنیا میں، میں خدا کی محبت اور قرب حاصل کروں گا اور آخرت میں مجھ کو اس کا ثواب ملے گا، بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے اور جب قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو یہ پڑھے:

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّمَىٰ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا  
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٥﴾ (انعام)

”میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا منہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و  
زمین کو بنایا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

یہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے کے پاس سے ذبح کر دے۔ اگر اپنی طرف سے  
قربانی کرے تو یوں کہے: ”اللہم تقبل منی“ اور اگر دوسرے کی طرف سے کرے تو یوں  
کہے: ”اللہم تقبل من فلان“ فلاں کی جگہ اس کا نام لے دے یا دل میں نیت کر لے۔  
یہ ضروری نہیں کہ ان الفاظ کو عربی میں ادا کرے یا اپنی زبان میں بلکہ غرض یہ ہے کہ دل میں  
نیت اور ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما۔

### قربانی کے جانور

قربانی کے واسطے چھ قسم کے جانور مقرر ہیں۔ ان کے سوا جانور قربان نہیں ہو سکتا خواہ  
وہ گھر میں ہی کیوں نہ پلے ہوں۔

وہ چھ قسم کے جانور یہ ہیں:

(1) گائے (2) بھینس (3) اونٹ

(4) بکری (5) مینڈھا (6) دنبہ

ان میں سے نہ ہو یا مادہ۔ سب کی قربانی جائز ہے۔ مادہ جانور اگر گاہن ہو تو وہ بھی  
قربان ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلے اس کو بھی ذبح کر کے ذبح کر دینا  
چاہیے۔ بشرطیکہ بچہ پیٹ سے زندہ نکلے۔

ایک راس بکری یا مینڈھا یا دنبہ صرف ایک شخص کی طرف سے قربانی ہو سکتا ہے لیکن  
اونٹ، گائے اور بھینس میں سنات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ہر شریک ہونے والے  
کی نیت قربانی کی ہو۔ اگر کسی شریک کی قربانی کی نیت کے علاوہ اور کچھ نیت ہوگی۔ مثلاً  
گوشت فروخت کرنا وغیرہ تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی پس ایسے شخص کو شریک نہ کرنا  
چاہیے۔ جس کی وجہ سے سب کی قربانی ناجائز ہو۔

قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ اور تندرست ہونا چاہیے۔ یہ بیمار اندھا کان لنگڑا، لوٹھا، کان چرا، ناک دم نہ ہو، سینگ یا اور کوئی عضو تہائی تک کٹا ہوا نہ ہو یا وہ بھیڑ، بکری اور دنبی نہ ہو جس کا ایک تھن نہ ہو بھینس یا اونٹنی کے دود تھن نہ ہوں، یا علاج سے ایسے سوکھ گئے ہوں کہ دودھ نہ اتر سکے یا وہ دیوانہ جانور جس کو چارہ پانی کی پروا نہ ہو اور اس قدر دبلا کمزور کہ خود ذبح کرنے کی جگہ پر نہ جاسکے۔ ایسے تمام جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔

اگر کوئی جانور پیدائشی منڈا ہو یا جس کے نصف سے زیادہ دانت گر گئے ہوں یا جس کے پیدائشی کان چھوٹے ہوں یا خسی ہو یا جس دنبہ دنبی کی چوتھائی سے کم چکنی کٹی ہوئی ہو یا وہ لنگڑا کر چلتا ہو۔ یعنی چاروں پاؤں زمین پر ٹیکنے سے بھی اٹک کر چلتا ہو، یا دیوانہ جانور چرتا بھی ہو یا جس جانور کے مرض خارش ہو تو مگر دبلا نہ ہو اور یا جس جانور کی بیماری ظاہر نہ ہو ایسے تمام جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔

کسی جانور کا سینگ اس طرح پر ٹوٹا کہ اندر گودا ثابت ہے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی

ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی صاحب مقدرت شخص نے قربانی کے واسطے تندرست اور بے عیب جانور خریدا مگر قربانی کرنے سے پہلے اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ جانور قربان نہیں ہو سکتا دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا چاہیے البتہ اگر کوئی غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور قربانی کرنا چاہتا تھا اور اس کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ اسی عیب دار جانور کو قربان کر سکتا ہے۔ دوسرا خریدنے کی ضرورت نہیں

**قربانی کا جانور کس عمر کا ہو؟**

اونٹ پانچ برس کا، بھینس دو برس کی، بکری ایک برس کی، دنبہ اور بھیڑ چھ ماہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ وہ فرہی کے سبب سال بھر کی معلوم ہوتی ہو ورنہ سال بھر کا بھیڑ اور بھیڑی ہونی چاہیے۔ ان سے کم عمر جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔

**مسئلہ:** اگر کسی نے قربانی کے واسطے جانور خریدا اور وہ مر گیا یا گم ہو گیا اور دوسرا جانور خرید لیا مگر اس کے بعد وہ گم شدہ جانور بھی مل گیا تو اگر قربانی کرنے والا مال دار ہے تو دونوں

جانور قربان کر دے اور اگر غریب ہے تو صرف ایک (ہدایہ) مرے ہوئے کے لئے یہ حکم ہے کہ اگر امیر ہے تو دوسرا جانور خرید کر قربان کرے اور اگر غریب ہے تو دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں۔

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص ایام قربانی میں بجائے قربانی کے جانور کی قیمت کے برابر یا کم و بیش نقد روپے خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے ذمہ قربانی بدستور باقی رہے گی۔ لہذا جانور کی قیمت خیرات نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اصل جانور ہی کی لازمی طور پر قربانی کرنی چاہیے۔

**مسئلہ:** اگر کوئی شخص دسویں اور گیارہویں تاریخ تک مالدار نہ تھا، مگر اتفاق سے بارہویں تاریخ کو ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ لہذا بارہویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کر دے۔ اگر کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو ایک جانور کی قیمت خیرات کر دے۔

**مسئلہ:** قربانی کے تینوں دنوں میں صرف دن کو قربانی ہو سکتی ہے رات کو نہیں پس جس دن بھی کرنا چاہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کر دے۔

**مسئلہ:** نابالغ یتیم صاحب نصاب کی طرف سے اس کا ولی یا وارث قربانی کر سکتا ہے مگر نہ کرنا بہتر ہے۔

**مسئلہ:** اگر کوئی غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ مگر قرض لے کر نہ آئے۔ اگر کسی ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہیں مگر اس نے قربانی کی منت مان لی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہو گیا اور یہ واجب اس نے خود اپنے ذمہ عائد کیا ہے۔

**مسئلہ:** گائے، بھینس اور اونٹ میں شریک ہونے والوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے اگر کوئی شخص ساتویں حصہ سے کم لینے کی نیت سے شریک ہوگا تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی۔ ہاں اگر قربانی کے جانور میں کوئی عقیقہ کی نیت سے شریک ہونا چاہے تو اس کو شریک کر لینا جائز ہے۔

## قربانی کے گوشت کی تقسیم

قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے چاہئیں ایک حصہ اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے، دوسرا حصہ دوست و احباب کی تقسیم کے لئے اور تیسرا حصہ فقراء مساکین کے لئے قربانی کا گوشت اندازہ سے نہیں بلکہ وزن سے تقسیم کرنا بہتر ہے لیکن اگر کسی طرف پائے یا کھال بھی لگادی جائے تو پھر اندازہ سے تقسیم کرنا بھی درست ہے۔

**مسئلہ:** اگر کسی غائب کی جانب سے بغیر اس کی اجازت کے قربانی کی تو جائز نہیں ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو پھر جائز ہوگی۔

**مسئلہ:** قربانی کا گوشت یا کھال یا چربی یا کلیجی اور چھچھڑے وغیرہ قصاب کو مزدوری میں دینا جائز نہیں۔ کیونکہ اس طرح یہ ایک قسم کی تجارت ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں قربانی ناجائز ہے۔ لہذا مزدوری اپنے پاس سے الگ دینی چاہیے۔

## قربانی کی کھال

قربانی کی کھال اپنے صرف میں آسکتی ہے مثلاً اس کی چھلنی یا ڈول یا مشک یا جائے نماز بنالے تو جائز ہے البتہ اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے صرف میں لانا ناجائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی کھال فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء مساکین یتیموں اور محتاجوں کو دے دے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی مسجد کے متولی یا اسلامی مدرسہ کے ناظم کو دے دے تاکہ اس سے غریب و مسکین طلبہ کی تعلیمی ضروریات پوری ہوں۔ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت مسجد کے صرف میں لانا ناجائز ہے۔

**ہدایات:** قربانی کے جانور کو بائیں پہلو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ بعد ذبح پانی وغیرہ ڈال کر اس کو ٹھنڈا کریں بلکہ جب جانور خود ٹھنڈا ہو جائے تب کھال اتارے، ذبح کرنے والا اور جانور پکڑنے والا دونوں کا وضو ہونا چاہیے۔ قربانی شارع عام اور کھلے میدان میں نہیں کرنی چاہیے۔ جانور کو سجا بنا کر بھی ذبح کرنے کی جگہ نہ لے جانا چاہیے۔ قربانی میں حلال اور طیب مال لگانا چاہیے۔

قربانی کرنے والا شروع چاند سے حجامت نہ کرائے اور ناخن نہ کٹوائے۔ اس کی نسبت یقیناً نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سنت ہے یا مستحب؟

ایام تشریق کے احکام

جن لوگوں پر نماز فرض ہے انہی پر تکبیرات تشریق بھی واجب ہیں یہی صاحبین کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ لہذا مسافر عورت اور تنہا نماز پڑھنے والے پر بھی تکبیرات تشریق واجب ہوتیں۔ یہ تکبیریں نویں تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے شروع ہوتی ہیں اور تیرہویں تاریخ کی عصر کی نماز کے بعد تک رہتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد تین بار باواز بلند یہ تکبیریں پڑھنی چاہئیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد  
عورت کو یہ تکبیر آہستہ آہستہ کہنی چاہیے۔ ان تکبیروں کو فرض نماز کے سلام کے بعد فوراً کہنا چاہیے۔ اگر نماز کے بعد کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بناء نماز سے مانع ہو مثلاً کلام کیا یا کچھ کھاپی لیا یا کوئی دعا و درود وغیرہ جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی پڑھ لی تو پھر یہ تکبیریں ساقط ہو جاتی ہیں۔ (1)

اگر کوئی شخص ایام تشریق کی نمازیں غیر ایام تشریق میں یا غیر ایام تشریق کی ایام تشریق میں قضا کرے تو ان میں تکبیریں نہ پڑھنی چاہئیں۔ ہاں اگر انہی ایام تشریق کی قضا شدہ نمازیں لوٹائے تو تکبیر پڑھنی چاہیے بشرطیکہ اس سال کی ہوں۔ (2)

خلاصہ کلام

مذکورہ بالا تفصیل سے ثابت ہوا کہ قربانی کی اصل غرض یہ ہے کہ ہمیں خدا کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے میں ہر وقت اپنی دولت، عزت، مصلحت، مفاد امیدوں، آرزوؤں اور جملہ خواہشات و جذبات کو قربان کرنے کے واسطے تیار و مستعد رہنا چاہیے، کسی قسم کا پس و پیش، چون و چرا اور حیل و حجت نہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روح قربانی کی توفیق ارزانی فرمائے۔

## نوافل کا بیان

جو نمازیں فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ہیں ان کا بیان ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے اوراق میں کر چکے ہیں۔ اب اس عنوان کے ماتحت سنت غیر مؤکدہ کا جن کو نفل بھی کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے جو مشہور نوافل ہیں وہ یہ ہیں۔

عصر سے پہلے چار رکعت، عشاء سے پہلے چار رکعت عشاء کی مؤکدہ سنتوں کے بعد دو سلاموں سے چار رکعت، مغرب کی سنت مؤکدہ کے بعد چار رکعت، ان کو صلوٰۃ الاوابین کہتے ہیں اور جمعہ کی دو رکعت سنت مؤکدہ کے بعد دو رکعت یہ سب مستحب ہیں۔ (1)

مذکورہ بالا نوافل کے علاوہ فقہاء اور علماء نے اور نوافل بھی بیان کئے ہیں جن میں سے بعض کے مشہور نام یہ ہیں: وتر کے بعد دو نفل۔ ان کو نفل عائشہ کہا جاتا ہے، تحیۃ الوضوء، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد، سفر کو جاتے وقت، سفر سے واپسی کے وقت، صلوٰۃ التبیح، نماز استخارہ، نماز حاجت، نماز حفظ الایمان، نماز آسانی حفظہ قبر، نماز آسانی سوال منکر تکبیر، مینہ کی نماز اور ہفتہ کی نماز وغیرہ، ان کا علیحدہ علیحدہ مفصل بیان کیا جاتا ہے۔

### سنت و نفل کے عام فقہی مسائل

مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعتیں ہیں، ان کو صلوٰۃ الاوابین کہا جاتا ہے ان میں ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا افضل ہے۔ امام صالح جزائری اپنی کتاب ”فضیلة الصلوٰۃ“ میں لکھتے ہیں کہ یہ نماز تڑکیہ قلب کے لئے بہترین نعمت ہے میں نے اس نماز کو چالیس برس پڑھا ہے، اس وجہ سے میں جانتا ہوں کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں جو شخص چاہے کہ اس کا قلب روشن اور روح منور ہو جائے اور عالم قدس کی تجلیاں اس کے قلب پر نور پاشی کریں تو اسے چاہیے کہ صلوٰۃ الاوابین پڑھا کرے۔

**مسئلہ:** نماز عشاء سے قبل کی غیر مؤکدہ سنتیں اگر جاتی رہیں تو اس کی قضا نہیں، بعد میں

اگر پڑھ لے گا تو نفل ہوں گی اور اجر و ثواب کا مستحق ہوگا اور چار رکعت والی سنت مؤکدہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کے تعدد اولیٰ میں صرف التحیات پڑھے اور اس سے کچھ زیادہ پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔

نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مگر نماز تراویح اور تحیۃ المسجد کے نوافل اور سفر سے واپسی کے دو نفل ان کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے مگر نماز طواف کعبہ کی دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی چاہئیں۔

**مسئلہ:** نفل کی ہر رکعت میں منفرد و امام دونوں پر قراءت فرض ہے۔

**مسئلہ:** نفل نماز قصد شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نیت توڑ دے گا تو قضا پڑھنی ہوگی۔ اگر طلوع وغروب آفتاب یا نصف النہار کے وقت نفل نماز شروع کی تو واجب ہے کہ نیت توڑ دے اور غیر مکروہ وقت میں قضا پڑھے اور بلا وجہ شرعی نفل شروع کر کے نیت توڑ دینا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو تو نیت توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔

**بیٹھ کر نفل پڑھنے کا حکم**

اگر کسی شخص کو کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کی قدرت ہو۔ تب بھی اس کے لئے اجازت ہے کہ بیٹھ کر پڑھے لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: یاد رکھو بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والی کی نصف نماز ہے اور اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔

آج کل عام طور پر یہ رواج ہو گیا ہے کہ اول تو لوگ نماز نفل پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی تساہل پسندی ہے حتیٰ الامکان کھڑے ہو کر پڑھنے چاہئیں ہر نماز کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو البتہ نفل بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ نفل ہمیشہ عذر بلا عذر بیٹھ کر پڑھے جائیں اور یہ عادت ہی کر لی جائے۔ اس طرح اس کا ثواب رہ جاتا ہے۔



## نفل عائشہ

وتر کے بعد جو دو نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو نفل عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تعلیم دی تھی ان کو بیٹھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کو رات کو اٹھنا گراں ہو اس سے کہو وتر کے بعد دو رکعت پڑھ لیا کرے۔ اگر رات کو اٹھ کر نماز تہجد میسر آگئی تو فبہا ورنہ یہ دو رکعتیں تہجد کی نماز کے قائم مقام ہو جائیں گی (مشکوٰۃ)

اس سے ثابت ہوا کہ ان کا پڑھنا بہر حال افضل ہے۔

ان نفلوں میں پہلی رکعت میں اِذَا زُلْزِلَتْ اور دوسری میں سورہ کافرون پڑھنا مستحب ہے ورنہ جو چاہے پڑھ سکتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وتر کے بعد کے نفل بیٹھ کر پڑھے ہیں۔ لہذا ان کو ہمیشہ بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے سو جاننا چاہیے کہ یہ حدیث اگر صحیح ہے لیکن اس سے دلیل یہ لانا کہ یہ ہمیشہ بیٹھ کر پڑھنے چاہئیں، غلط ہے اس لیے کہ اس امر پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وتر کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھنا حضور ﷺ کے مخصوصات میں سے ہے۔ لہذا یہ دلیل غلط ہے۔

مسئلہ: اگر کسی نے نفل کھڑے ہو کر شروع کئے پھر بیٹھ گیا یا بیٹھ کر شروع کئے تھے، پھر کھڑا ہو گیا تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہا تھا اثنائے نماز تھک گیا اور مکان کی وجہ سے بیٹھ گیا یا دیوار سے سہارا لگا کر پڑھنے لگا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

مسئلہ: جب کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے تشهد میں بیٹھتے ہیں۔ قراءت کی حالت میں ناف پر ہاتھ باندھے جس طرح قیام میں باندھتے ہیں۔

## نفل نمازوں کی تفصیل

نوافل بے شمار ہیں ان کی تحدید نہیں۔ اوقات ممنوعہ کے سوا آدمی جتنے چاہے پڑھ سکتا ہے مگر نوافل میں سے جو مشہور اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں وہ بیان کئے جاتے ہیں حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔

### تحیۃ المسجد

جو شخص مسجد میں داخل ہوا اسے دو رکعت نماز نفل پڑھنا مستحب ہے اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص مسجد میں داخل ہوا سے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز نفل پڑھے۔ ان کا نام تحیۃ المسجد ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں داخل ہو جس میں نماز مکروہ ہے۔ مثلاً طلوع فجر کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد تو اسے چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھے بلکہ تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو جائے یہی مشغولیت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوگی۔ حق مسجد ادا ہو جائے گا۔

اگر کسی نے فرض یا سنت یا اور کوئی نماز مسجد میں آکر پڑھ لی تو اب تحیۃ المسجد کی ضرورت باقی نہ رہی۔ دن میں صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد کافی ہے۔ ہر دفعہ ضرورت نہیں اگر کوئی بے وضو مسجد میں داخل ہوا یا کوئی اور وجہ ہے کہ تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ چار مرتبہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔“ کہہ لے۔

نماز تحیۃ المسجد کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو اور وہ صدق و اخلاص کے ساتھ نماز کی طرف مائل ہوں۔

### تحیۃ الوضو

وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اسے نماز تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص وضو کرنے اور اچھا وضو کرنے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے۔ اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے باقی احکام بھی قریب قریب وہی

ہیں جو تحیۃ المسجد کے ہیں۔

### نماز اشراق

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور عالم ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور وہ آفتاب بلند ہونے تک وہیں بیٹھا رہا، تسبیح و تقدیس بیان کرتا رہا اور اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ان دو رکعتوں کو نماز اشراق کہتے ہیں۔

حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بچپن سے نماز اشراق کا شوق تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں نماز فجر سے فارغ ہو کر لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبیاء) پڑھتا تھا۔ جب آفتاب بلند ہو جاتا تو میں ذوق و شوق کے ساتھ دو رکعتیں پڑھتا۔ اس نماز کی برکت سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔

اشراق کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے کچھ دن چڑھے تک رہتا ہے۔ بعض چار رکعتیں دو سلاموں سے پڑھتے ہیں۔

### نماز چاشت

نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ اندازاً اس نماز کا وقت 9 اور 11 بجے کے درمیان سمجھنا چاہیے۔ اس کی بھی دو یا چار رکعتیں ہیں۔ بعض حدیثوں میں چار بھی آئی ہیں اور بعض روایتوں میں بارہ بھی آئی ہیں۔ الغرض چار سے لے کر بارہ تک حد ہے۔ جس کو خدا جتنی توفیق دے اتنی ہی پڑھ لے۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچ لیتی ہے اور فقر کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس باب النجی کہتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی تو ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ چاشت کی نماز پڑھی گئی کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ اس دروازہ سے داخل ہو تم پر خدا کی رحمت ہو۔

عمر بن شعیب اپنے دادا جان سے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا: جو شخص چاشت کی بارہ رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین دفعہ آیۃ الکرسی اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھے تو ہر آسمان سے ستر ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سفید کاغذ اور نور کے قلم ہوتے ہیں وہ ان قلموں سے ان کاغذوں پر قیامت تک اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے پاس فرشتے آئیں گے۔ ہر فرشتہ کے ہاتھ میں ایک حلہ اور ایک عمدہ تحفہ ہوگا۔ جب سب اکٹھے ہو لیں گے تو اس شخص کی قبر پر کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اے قبر والے! خدا کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو تو بالکل نڈر اور بے خوف ہے۔

ایک اور روایت میں حضور ﷺ فرماتے ہیں: جس نے چاشت کی دو رکعتیں پڑھیں وہ غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ جس نے چار رکعتیں پڑھیں، وہ عابدین میں شمار ہوگا۔ جس نے چھ رکعتیں پڑھیں وہ عساکرین میں لکھا جائے گا۔ جس نے آٹھ رکعتیں پڑھیں وہ قانتین میں لکھا جائے گا۔ جس نے دس پڑھیں وہ صالحین و محسنین میں شمار ہوگا اور جس نے بارہ رکعتیں پڑھیں اُسے قیامت کے دن عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ بشرطیکہ اس کی عبادت میں اخلاص ہو، اور ریاضت سے اس کا دامن پاک ہو۔

الغرض نماز چاشت بھی ایک عظیم البرکت عبادت و سعادت ہے۔

### نماز تہجد کا بیان

نماز تہجد ایک عجیب و آکسیر نماز اور شادابی روح و تنویر قلب کی ضامن عبادت ہے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر اس نماز کی ترغیب و تحریص دلائی گئی ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ یہ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مسلم نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ (1)

”فرض نماز کے بعد ثواب میں سب سے افضل و بہتر آدھی رات کی نماز ہے۔“

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: تم میں سے جو شخص سوتا ہے تو شیطان گدی پر گرہ لگاتا

1۔ مشرک حاکم جلد 1 صفحہ 451 طبع بیروت (مسلم شریف میں الفاظ مختلف ہیں)

ہے۔ ہر گز میں اس مضمون کو باندھتا ہے کہ رات بہت ہے سوتارہ۔ پس اگر وہ جاگا تو ایک گزہ کھل جاتی ہے اور اگر اٹھ کر وضو بھی کر لیا تو دوسری گزہ کھل جاتی ہے۔ پھر اگر نماز بھی پڑھی لی تو تیسری گزہ بھی کھل جاتی ہے اور صبح کو شاداں و خوش دل اٹھتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو بد دل اور کاہل اٹھتا ہے۔

پھر فرمایا: لوگو! اپنے اوپر رات کو نماز تہجد پڑھنا لازم پکڑو کیونکہ یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے جو تم سے پہلے تھے۔ سبب ہے خدا تعالیٰ سے نزدیکی کا، موجب ہے گناہوں کے دور ہونے کا اور باعث ہے گناہ سے بچنے کا۔

رسول کریم ﷺ کو رات کی عبادت اور نماز تہجد اتنی محبوب و مرغوب تھی اور رات کو حضور اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ ﷺ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ عبادت الہی میں اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے آپ کی امت کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت محض گناہوں کی معافی کے لئے ہی نہ کرنی چاہیے بلکہ یہ تو بہر حال فرض عبدیت ہے بندہ کے لئے بندگی ہر حالت میں لازم ہے۔ اور انسان جتنا زیادہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنا چاہے اسی قدر کثرت کے ساتھ عبادت و اطاعت الہی میں ترقی کرنا چاہیے۔

نیز فرمایا: تین لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو رات کو نماز کے لئے قیام کرے۔ دوسرے وہ جو جماعت میں صف باندھیں اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد میں صف باندھیں۔ پھر فرمایا: اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، اپنی بیوی کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر وہ انکار کرے تو خاوند اس کے منہ پر پانی چھڑکے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، اپنے شوہر کو جگائے وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ انکار کرے تو عورت اس کے منہ پر پانی چھڑکے۔

نیز اللہ تعالیٰ ہر شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے یعنی اس کی رحمت خاص رات کو

خصوصیت کے ساتھ عبادت گزار بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ جس وقت آخر رات کی تہائی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش چاہیے اور میں اس کو معاف کر دوں؟ پھر حضرت حق جل و علا شانہ اپنی قدرت کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو اس ذات کو قرض دے جو نہ مفلس ہے اور نہ ظالم، صبح تک یونہی فرماتا رہتا ہے۔

کیسے سعادت مند اور خوش قسمت ہیں وہ ایماندار اور اطاعت گزار جو رحمت خداوندی کی اس پکار کو سنتے اور گہرائے بخشش سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔

امت محمدی کے اشراف کون ہیں؟

رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے اشراف وہ لوگ ہیں جو قرآن حکیم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور وہ رات والے لوگ ہیں۔ یعنی تہجد گزار۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ایک زمین پر اٹھیں گے اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں؟ یہ پکار سن کر تہجد گزار اٹھیں گے مگر بہت تھوڑے ہوں گے اور جنت میں بے حساب جائیں گے۔

کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا: فرمائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میں جو کچھ وعظ و نصیحت اور حقائق و معارف کی باتیں کیا کرتا تھا، سب بیکار گئیں یعنی میرا علم و فضل کچھ کام نہ آیا۔ البتہ تہجد کی کچھ رکعتیں جو میں آدمی رات کو اٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہی کام آئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔

تمام اکابر اولیاء امت اور علمائے کرام نماز تہجد کے ذریعہ بڑے بڑے روحانی فیض پاتے اور کمال حاصل کرتے رہے ہیں اور بزرگی کی بلندیوں پر پہنچے ہیں۔ اگر اپنے دل کو منور اور روح کو گداز کرنا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز لازم کر لو۔ پھر دیکھو قلب پر انوار و تجلیات الہی کی کیسی مونسلا دھار بارش ہوتی ہے، یاد رکھو جو شخص رات کے وقت باری تعالیٰ عز اسمہ

کے حضور تضرع و زاری کرتا اور اس کے جلال سے ہیبت زدہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ضرور حصہ پاتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو صرف دو ہی رکعتیں پڑھ لیا کرو، یہ وقت دعا کرنے کا ایک زریں موقع ہوتا ہے۔ اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر اور جذب و قوت ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ قلبی رجوع، سچے درد اور جوش سے نکلتی ہیں اس وقت کا اٹھنا درد دل پیدا کرتا ہے جس کا ایک ذرہ دنیا و مافیہا سے بہتر و افضل ہے۔ درد دل سے دعائیں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اضطراب و اضطراب قبولیت دعا کا موجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ارزانی فرمائے۔

تہجد کی کم سے کم دو رکعت، اوسط چار یا آٹھ اور زیادہ بارہ رکعتیں مسنون ہیں۔ اس نماز کی کوئی خاص ترکیب رسول اللہ ﷺ سے ثابت نہیں۔ البتہ صوفیہ کے ہاں ایک خاص طریقہ مروج ہے جس کو عام لوگ بھی جانتے ہیں یعنی ہر رکعت میں ایک ایک بڑھاتے چلے جاؤ بارہ تک اور یا بارہ سے ایک ایک کم کرتے ہوئے ایک تک لے آؤ۔ علاوہ ازیں اس نماز میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ جمعہ، سورۃ یاسین اور سورۃ منزل کا پڑھنا بہتر ہے۔ ورنہ جو سورتیں بھی یاد ہوں پڑھ لے۔

### صلوٰۃ التَّسْبِيحِ

احادیث میں اس نماز کے فضائل بھی بکثرت آئے ہیں اور اس کی بڑی بزرگی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد و ابن ماجہ میں اس نماز کے متعلق ایک طویل حدیث آئی ہے۔ اس میں آنحضرت ﷺ اپنے چچا حضرت عباس کو اس نماز کی ترغیب دلاتے اور اس کی ترکیب بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نماز سے دس قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں:

۱۔ اگلے ۲۔ پچھلے ۳۔ نئے ۴۔ پرانے ۵۔ قصداً

۶۔ سہواً ۷۔ چھوٹے ۸۔ بڑے ۹۔ ظاہر ۱۰۔ چھپے ہوئے۔

صلوٰۃ التَّسْبِيحِ کی چار رکعتیں ایک سلام سے ہوتی ہیں اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ اول رکعت میں ”سبحانک اللہم پڑھ کے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد لله

ولا اله الا الله والله اكبر اس کے بعد لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم بھی پڑھ لے تو اور زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ پھر اعوذ، بسم الله، الحمد اور کوئی سورۃ پڑھ کر دس بار مذکورہ بالا کلمات کہہ کر رکوع کرے۔ رکوع میں دس بار پڑھے پھر قومہ میں دس بار، پھر سجدہ میں دس بار اور پھر جلسہ میں دس بار پھر دوسرے سجدہ میں دس بار اسی طرح چاروں رکعتیں پوری کرے۔ یعنی ہر رکعت میں مذکور تسبیح کو پچتر بار پڑھنا چاہیے۔

اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ تکاثر، دوسری میں والعصر، تیسری میں کافرون اور چوتھی میں سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ پہلی میں اِذَا زُلْزِلَتْ، دوسری میں وَالْعَادِيَاتِ اور تیسری میں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ اور چوتھی میں سورۃ اخلاص پڑھنی چاہیے یہ نماز زوال کے بعد قبل نماز ظہر پڑھنی افضل ہے علاوہ ازیں ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے۔ اس نماز کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں التحیات کے سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔

اللهم انی استلک توفیق اهل الهدی و اعمال اهل  
اليقين و مناصحة اهل التوبة و عزم اهل الصبر و جد اهل  
النخشية و طلب اهل الرغبة و تعبد اهل الورع و عرفان  
اهل العلم حتى اخافك منخافة تمحوني عن معاصيك  
حتى اعمل بطاعتك عملا اسحق به رضاك و حتى  
اناصحك بالتوبة خوفا منك و حتى اخلص لك  
النصيحة حبا لك و حتى اتوكل عليك في الامور  
حسن بك سبحانك خالق النور۔

رسول کریم علیہ التحیة و التسلیم نے یہ نماز اور دعا سکھا کر فرمایا کہ تمہارے گناہ کف سمندر کے برابر بھی ہوں گے تب بھی خدا تعالیٰ معاف فرمائے گا۔

مسئلہ: اگر اس نماز میں کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو میں یہ تسبیح نہ پڑھنی چاہیے ہاں اگر کوئی شخص کسی رکن کی تسبیح پڑھنا بھول گیا تو دوسرے رکن میں پڑھ لے۔ مثلاً کوئی شخص



رکوع میں تسبیح بھول گیا تو قومہ میں نہ پڑھے بلکہ سجدہ میں جا کر بجائے دس کے بیس تسبیحات پڑھ لے۔ کیونکہ قومہ رکن نہیں اور سجدہ رکن ہے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ رکوع وجود میں پہلے ان کی تسبیحات یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر پھر مذکورہ تسبیح پڑھے۔

### نماز استخارہ

استخارہ کے لغوی معنی طلب خیر اور بھلائی چاہنے کے ہیں اور نماز استخارہ سے مراد وہ نماز ہے کہ جب انسان کوئی غیر معمولی کام کرنے لگے یا کوئی مشکل امر پیش آجائے اور حصول مقصد کے لئے کوئی تدبیر کرنے کا ارادہ ہو اور کسی کام کے کرنے نہ کرنے میں متذبذب ہو تو چونکہ عاجز انسان انجام کار سے واقف نہیں ہوتا کہ وہ مفید ہوگا یا غیر مفید

ایسے مواقع پر طلب خیر کے لئے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو استخارہ نماز کہتے ہیں استخارہ کا حکم یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کا قصد کرے یعنی اس کام کا ارادہ کرے جو مباح ہو اور اس کے کرنے یا نہ کرنے میں اسے تردد ہو۔ مثلاً سفر، تعمیر مکان، حصول معاش اور نکاح وغیرہ امور مباح ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوائے مکروہ اوقات کے جس وقت چاہے دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے اور ان میں جوئی سورت چاہے پڑھے اور بعض روایتوں میں قل یا لھما الکفر ون اور قل ہو اللہ کا پڑھنا آیا ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں بھی اسی طرح ہے اور اگلے علماء سے بھی منقول ہے اور پھر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَجِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَ اَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ  
فَاَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ  
وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ  
اَنْ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ  
اَوْ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اَجَلِہٖ فَاَقْدِرْ لِیْ وَ یَسِّرْ لِیْ ثُمَّ بَارِکْ لِیْ  
فِیْہِ وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ  
وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِیْ وَ اَجَلِہٖ فَاَصْرِفْہُ عَنِّیْ وَ اصْرِفْ لِیْ

عَنْهُ وَاقْتَدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ (1)

”خداوند! میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ خیر کے اس کام میں تیرے علم کی مدد سے اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں خیر کے پانے پر تیری قدرت کے وسیلہ سے اور تیرے فضل سے مطلب یا بی طلب کرتا ہوں کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو چھپی باتوں کا زیادہ جاننے والا ہے۔ یا اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین میں، میری زندگی میں اور میرے انجام کار میں بہتر یا اس جہان اور اس جہان میں میرے لئے بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مہیا کر اور میرے حق میں اس کو آسان کر۔ پھر اس پر مجھ کو برکت عنایت کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دین، میری زندگی اور انجام کار میں برا ہے یا اس جہان اور اس جہان میں برا ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھ کو اس سے پھیر دے اور میرے لئے مہیا کر بھلائی جہاں کہیں ہو۔ پھر مجھ کو اس سے راضی کر۔“

اس استخارہ سے عند اللہ جو بات بہتر ہوگی وہی دل میں جم جائے گی۔ ہذا لامر کی جگہ اس امر کا نام لے جس کے لئے استخارہ کر رہا ہے اور یہ استخارہ کم سے کم دو ہفتے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح مشکل امور میں خدا تعالیٰ طلب سے خیر کریں تو کبھی ناکامی و نامرادی کا سامنا نہ ہو اور ہمارے دین و دنیا کے تمام کام درست اور انجام بخیر ہوں۔ یاد رہے کہ استخارہ صرف مستحب امور میں کرنا چاہیے۔ حرام یا مکروہ اور نامشروع امور میں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنی بد عقیدگی، کوتاہ نظری اور جہالت و نا سمجھی سے طرح طرح کی فالیں نکالا کرتے اور نجومیوں کے انکل پچو پر ایمان لے آیا کرتے ہیں، کاش! وہ مشکل امور میں اس امر مسنون سے کام لیا کریں اور ہر امر میں سچے دل کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کیا کریں تو ان کی کوئی مشکل اڑی نہ رہے۔

## نماز قضاے حاجت

جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس حاجت برآری کے لئے خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس نماز کو نماز حاجت کہتے ہیں۔ اس نماز کی دو رکعتیں ہیں اور بعض علماء چار بھی بتلاتے ہیں۔ لہذا اختیار ہے کہ چاہے دو پڑھے یا چار، یہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اول رکعت میں الحمد کے بعد تین بار آیۃ الکرسی پڑھے اور پھر بقیہ تین رکعتوں میں الحمد کے بعد ایک ایک بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورہ ناس پڑھے اگر دو رکعتیں پڑھے تو دونوں میں مذکورہ بالا سورتیں پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد الحمد اور درود پڑھ کر یہ دعا پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ  
الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مَوْجِبَاتِ  
رَحْمَتِكَ وَعِزَّتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ  
وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا  
إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

”خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا بڑا اور بزرگ ہے۔ عرش عظیم کا مالک خدا پاک ہے اور سب تعریف خدا کیلئے ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ میں تجھ سے ان کاموں کی بابت سوال کرتا ہوں جو تیری رحمت کا موجب ہوں اور ان خصلتوں کا سوال کرتا ہوں جن سے تیری بخشش متا کد ہوتی ہے۔ ہر نیکی کا حاصل اور خلاصہ اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! تو میرے لئے کوئی گناہ بغیر بخشے، کوئی غم بغیر دور کئے اور کوئی حاجت جسے تو پسند کرتا ہے بغیر ادا کئے نہ چھوڑ۔“

نماز استخارہ اور نماز حاجت میں فرق یہ ہے کہ نماز استخارہ آئندہ حاجت کے لئے ہوتی ہے اور نماز حاجت موجودہ کی خواستگاری کے لئے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اندھے نے آنحضرت ﷺ کے حضور آ کر عرض کیا

یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اس مرض سے عافیت دے۔ حضور نے فرمایا: اگر تو چاہے تو اپنی نابینائی پر صبر کر کہ تیرے حق میں صبر کرنا بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا آپ دعا ہی فرما دیجئے مگر حضور ﷺ نے دعا نہیں فرمائی بلکہ اسے وضو کیلئے حکم فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ  
الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي  
هَذِهِ فَتَقْضِ لِي اللَّهُمَّ شَفِيعَةً فِيَّ (1)

”یا اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنی حاجت اور تیری طرف متوجہ ہوں بذریعہ تیرے پیغمبر محمد ﷺ کے کہ نبی رحمت ہیں یا محمد! ﷺ میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے ذریعہ سے اپنے پروردگار کی طرف اپنی حاجت میں تاکہ میرے حق میں وہ حاجت روا کی جائے۔ الہی! تو ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما“ (نسائی)۔

### نماز حفظ ایمان

حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز حفظ الایمان پڑھنے والا دنیا سے باایمان جائے گا، نزع کے وقت شیطان لعین اس کو کسی طرح نہ بہکا سکے گا۔ اس نماز کی دو رکعتیں ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیت الکرسی، تین بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جاتی ہے۔ پھر نماز ختم ہونے کے بعد سجدہ میں تین بار یہ دعائیہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيْمَانِ

”اے زندہ اور قائم رہنے والے! مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔“

### ماہ محرم کی نماز

- ۱۔ دو رکعتیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے:
- ۲۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی مقرر کردہ نماز بھی اسی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے اور سلام کے بعد یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔

۱۔ سند امام احمد جلد 4 صفحہ 138۔

سُبُوْحٌ قُدُوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ

شب عاشور میں دو نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔

- ۱۔ دو رکعت روشنی قبر کے لئے جو شخص اس نماز کو پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھے،
- ۲۔ چار رکعتیں، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پچاس مرتبہ۔ خدا تعالیٰ اس نماز کی برکت سے سال بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

محرم کی دسویں تاریخ بھی عبادت کا دن ہے اس دن چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد حسب ترتیب یہ چار سورتیں پڑھنی چاہئیں۔ وَالشَّمْسِ، اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ، اِذَا زُلْزِلَتْ، اخلاص، فلق اور ناس۔ نماز کے بعد سجدہ میں جا کر سورہ کافرون پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔

### ربیع الاول کی نماز

ربیع الاول وہ ماہ مبارک ہے جس میں کائنات روحانی کے پیشوائے اعظم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں رونق افروز ہوئے اور بھنگی ہوئی دنیا کو راہ ہدایت ملی۔ یہ مہینہ رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کا بھی ہے، ہجرت کا بھی اور وفات کا بھی۔ لہذا اس مہینے میں عبادت کرنا انتہائی خیر و برکت کا موجب اور باعث تنویر ہے۔ ربیع الاول کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یکم تاریخ سے بارہ تاریخ تک روزانہ بیس رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں 31 بار قُلْ هُوَ اللهُ پڑھے۔ اس نماز کا عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے۔

اگر روزانہ یکم سے بارہ تک یہ نماز نہ پڑھ سکے تو کم از کم دوسری اور بارہویں تاریخ کو ضرور پڑھ لے۔ کیونکہ اس کا ثواب بے حد بے شمار ہے۔

### رجب اور لیلة الرغائب کی نماز

رجب کا مہینہ بھی بڑی عظمت و برکت والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص غسل کر کے رجب کی پہلی، پندرہویں اور تین آخری تاریخوں میں نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو رسول اکرم ﷺ کو معراج ہوئی تھی۔ گویا اسی ماہ میں عروج محمدی اپنے کمال کو پہنچا تھا۔ اس مناسبت سے بموجب ایک روایت کے یکم ماہ رجب کو مغرب و عشاء کے درمیان 30 رکعت آدا کرے۔

ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین بار سورہ کافرون اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔ خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔

اس ماہ میں لیلة الرغائب بھی ہے۔ یعنی اس مہینہ کی پہلی شب جمعہ کو لیلة الرغائب کہتے ہیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ کو مغرب کے بعد بارہ نوافل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین بار قدر: 1 اور بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام کے بعد ستر مرتبہ یہ درود پڑھے "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَآلِهِ" اس کے بعد سجدہ میں جا کر ستر بار یہ کہے:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعَلَّمَ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْكَرِيْمُ  
 "اے پروردگار! مجھ پر بخشش و رحم کر اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے درگزر فرما۔  
 تحقیق تو بڑی شان والا اور بخشش والا ہے۔"

### شعبان کی نماز

ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت اور بزرگی یہ ہے کہ اس کو حضور اکرم ﷺ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہئیں۔ علاوہ ازیں چند نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔

1۔ چاند رات کو بارہ رکعتیں پڑھی جائیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے۔

2۔ پندرہویں شعبان کو شب کے وقت چار رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد پچاس بار سورہ اخلاص پڑھی جائے۔

3۔ ہر جمعہ کی رات کو چار یا آٹھ رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 بار سورہ اخلاص پڑھے۔

## رمضان المبارک کی نماز

”رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا جو انسانوں کے لئے سراپا ہدایت ہے، اس میں سعادت و ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل میں علیحدگی پیدا کر دینے والا ہے۔“ یہ ہے وہ فضیلت و عظمت جو خدائے قدوس نے رمضان کے بیان میں ذکر فرمائی ہے اور اس کے سامنے بقیہ تمام فضائل گرد ہیں۔ تاہم ایک حدیث ہم رمضان کی فضیلت میں اور بیان کرتے ہیں۔ مصابیح کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔

اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ میں روزے رکھنا اور دوسری عبادتوں میں مشغول رہنا دوزخ سے بچاؤ اور دخول جنت کے قطعی اور یقینی اسباب ہیں پس اس ماہ کی نمازوں کا کیا کہنا ہے نور علی نور کا مصداق ہیں۔ مسلمان اس ماہ میں گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا اور خدائے قدوس کا قرب حاصل کرتا ہے۔

اس مہینہ میں ایمانداروں اور عبادت گزاروں پر رحمت و مغفرت کی بارش ہوتی ہے، ان کے رزق میں فراخی ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہر ایک حرکت عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تمام نیک اعمال کا دو چند ثواب لکھا جاتا ہے اور فرشتے مغفرت کے خواست گار ہوتے ہیں لہذا علاوہ روزوں کے اس ماہ کی خاص نماز کا بھی فکر و اہتمام کرنا چاہیے۔

### شب قدر کی نماز

رمضان کی ستائیسویں تاریخ کو چار نفل پڑھنے چاہئیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص 137 بار پڑھیں، نماز کے بعد استغفار، انشاء اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔

دوسری نماز یہ ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد انا

انزلنا، تین مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی تین مرتبہ پڑھیں۔  
تیسری ترکیب یہ ہے کہ چار رکعت نماز لقل پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار  
سورہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اور پچاس بار سورہ اخلاص پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ میں جا کر  
ایک بار تسبیح پڑھیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  
اس کے بعد اپنے مدعا کی خدا تعالیٰ سے دعا کریں، انشاء اللہ مستجاب ہوگی۔

### نماز تراویح

رمضان شریف میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے  
کیونکہ آنحضرت ﷺ نے یہ نماز پڑھی ہے۔ تراویح کی جماعت کرنا سنت کفایہ ہے یعنی  
اگر بعض لوگ جماعت سے تراویح پڑھ لیں گے تو اوروں کے ذمہ سے یہ سنت ساقط  
ہو جائے گی۔ اگر سرے سے تراویح کی جماعت ہی نہ ہوگی تو آبادی کے تمام لوگ ترک  
سنت کے مرتکب ہوں گے۔

تراویح کی تعداد بیس رکعتیں ہیں۔ دو دو رکعت کی نیت کے ساتھ چار رکعت کے بعد  
تھوڑی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ اس کو ”ترویجہ“ کہتے ہیں۔ اس بیٹھنے میں اختیار ہے کہ وہ  
خواہ کچھ پڑھے یا خاموش بیٹھا رہے اس تسبیح کا پڑھنا افضل اور معمول بہا ہے:

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ  
وَالْعِظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبَقَاءِ  
وَالنَّاءِ وَالضِّيَاءِ وَالْآلَاءِ وَالنُّعْمَاءِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ  
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُوْحُ  
قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

اس تسبیح کو ایک مرتبہ تراویح میں ذرا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔



## مسائل تراویح

نماز تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک ہے، خواہ وتر سے قبل ہو یا بعد، اگر کسی کو جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ملی اور امام و تروں کیلئے کھڑا ہو گیا تو اس کو وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لینے چاہئیں، بعد میں تراویح پڑھ لے۔ (1)

اگر کسی کی تراویح فوت ہو جائیں اور وقت نکل جائے تو بعض علماء کا قول ہے کہ تراویح کی قضا نہیں وقت نکل جانے کے بعد ان کا سنت مؤکدہ ہونا جاتا رہا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دوسرے روز کی تراویح تک انکی قضا کر سکتا ہے۔ (غایۃ الاوطار)

اگر کسی نے فرض نماز نہ پڑھی ہو تو اسے تراویح کی جماعت میں شامل ہونا جائز نہیں کیونکہ تراویح کی نماز، عشاء کی نماز کے تابع ہے اس کو عشاء سے مقدم کرنا جائز نہیں۔ لہذا پہلے عشاء کی نماز ادا کرے پھر جماعت تراویح میں شامل ہو اگر عشاء کی نماز تنہا پڑھ لی ہو اور جماعت سے نہ پڑھی ہو تب بھی تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے کیونکہ تراویح کی جماعت فرضوں کی جماعت کے تابع نہیں۔ (2)

اگر ایک شخص نے فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور تراویح جماعت سے نہ پڑھی ہوں تو پھر وتر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے ہاں اگر کسی نے فرض تنہا پڑھے ہوں تو پھر وتر جماعت سے نہیں پڑھ سکتا۔ (شامی غایۃ الاوطار)

اگر ایک پورے گروہ نے عشاء کے فرض تو جماعت سے پڑھے لیکن تراویح جماعت سے ادا نہ کیں۔ تو یہ گروہ وتر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتا۔ کیونکہ وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کی تابع ہے۔ (شامی)

ہدایت: اکثر لوگ سستی و تساہل پسندی کی وجہ سے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اگر امام رکوع میں جائے تو پھر ہم جماعت میں شامل ہوں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایسی عادت مارے

باندھے کی ہوگی۔ لہذا نمازیوں کو ایسی سستی نہ کرنی چاہیے۔ (درمختار) (1)

## ختم قرآن کا حکم

تراویح میں ایک بار پورے ماہ رمضان میں قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے ایک مرتبہ دور کرنے کی فضیلت ہے اور تین مرتبہ پڑھنا تو بہت ہی افضل ہے۔ (2)

اگر لوگ قرآن سننے میں سستی کریں تو ان کے خیال سے ختم قرآن پاک ترک نہ کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک مرتبہ تو بہر حال ضرور ہی ختم کرنا چاہیے۔

اگر سچ پوچھو تو تراویح کی غرض ہی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اسی لئے اسی ماہ میں قرآن کی سالگرہ منائی جائے۔ یعنی تمام مساجد میں قرآن خوانی ہو اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جس کے کان میں کلام الہی کی آواز نہ پہنچ جائے۔ گویا یہ مہینہ تبلیغ قرآن کا ہے۔ پس ختم قرآن کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی سستی نہ کرنی چاہیے۔

## قرآن خوانی کی اجرت

قرآن کی اجرت لینا ناجائز ہے جو حافظ پہلے ہی اجرت ٹھہرا لیتے ہیں وہ قرآن کو چند سکوں کے عوض گویا فروخت کرتے ہیں۔ یہ سخت نامناسب اور مکروہ فعل ہے انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے لئے جائز صورت اور مشروع طریقہ یہ ہے کہ قرآن خوانی صرف خدا کے واسطے کرنی چاہیے اور اپنا مذہبی حق سمجھتے ہوئے کریں پہلے سے اجرت نہ ٹھہرائیں۔ پھر لوگ اپنی خوشی سے کچھ کریں تو لے لیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن خوانی کو حصول دولت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ قرآن عظیم کی توہین ہے۔

**مسئلہ:** ایک مسجد میں تراویح کی دو مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہے۔ (3)

ہاں اگر ایک امام دو مسجدوں میں پوری پوری تراویح پڑھا دے تو درست نہیں (4) اگر

ایک امام ہی تراویح کی پوری بیس رکعتیں پڑھا دے تو افضل ہے اور دو امام پڑھائیں تو مستحب ہے کہ ہر ایک امام اپنا اپنا ترویج یعنی چار چار رکعتیں پڑھائے

**مسئلہ:** اگر فرض وتر دونوں کو ایک امام پڑھائے اور صرف تراویح دوسرا امام تو جائز ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرض وتر پڑھایا کرتے اور حضرت ابی بن کعب تراویح پڑھایا کرتے ہیں تھے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر تراویح کی دو رکعتیں قرأت کی غلطی یا اور کسی سبب سے فاسد ہو جائیں تو جو قرآن ان دور کعتوں میں پڑھا ہو اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ (2)

**مسئلہ:** جن مساجد میں قرآن خوانی نہ ہوتی ہو وہاں کے اماموں کو چاہیے کہ تراویح میں سورہ فیل سے آخر تک دس سورتیں تراویح میں پڑھایا کریں۔ (3)

**مسئلہ:** اگر تراویح کی دوسری رکعت میں امام قعدہ کرنا بھول گیا اور تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا تو اگر تیسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد یاد آئے تو اب چوتھی رکعت ملا کر آخر میں قعدہ کر کے سلام پھیرے۔ مگر یہ چار رکعتیں دو ہی شمار ہوں گی۔ ہاں اگر دوسری رکعت کا قعدہ بقدر تشہد کر لیا اور پھر کھڑا ہوا تھا اور پوری چار رکعتیں کر لیں تو پھر چار ہی شمار ہوں گی۔ (4)

### شب قدر کا بیان

رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینہ کا ایک فرض دوسرے مہینہ کے ستر فرضوں کے مساوی ہے۔ اسی مہینہ کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک تبرک و جلیل القدر رات شب قدر بھی ہے۔ جس میں عبادت گزار بندوں پر خصوصیت کے ساتھ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات میں بندوں پر کیسی کیسی برکتیں و رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی کیا فضیلت و عظمت ہے اس کے جواب میں سورہ قدر کو پیش کر دینا مناسب و افضل ہے ارشاد باری ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ

2- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118

1- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118

4- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118

3- فتاویٰ عالمگیری جلد 1 صفحہ 118

الْقَدْرُ بِأَحَدٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۖ تَنزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ  
رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَسْمَعُ ۚ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۖ (القدر)

”بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے اور تو نہیں جانتا ہے کہ  
لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح  
القدس اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور وہ ہر ایک امر میں سلامتی کا وقت ہوتا  
ہے۔ یہاں تک کہ فجر ہو۔“

اس سورہ مقدسہ کا مفہوم و مفاد یہ ہی ہے کہ جب سال بھر میں ہر طرف معصیت و سیاہ  
کاری کی تاریکی چھا جاتی ہے تو رحمت و مغفرت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی نور نازل  
ہو اور حصول سعادت کی تمنا رکھنے والے تاریک قلوب کو منور کرے، سو ایک نور تو ایسا دائمی  
ہے جو قیامت تک ہر لمحہ تاریک قلوب و ارواح پر تو افگن رہے اور اپنی پوری تابانی کیساتھ  
دنیا کی تاریکی کو دور کرتا رہے اور وہ قرآن مقدس ہے جو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں  
نازل کیا گیا اور دوسرا عارضی نور سال کی اس تبرک رات میں نازل ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا  
کو اپنے پیکر نوری میں جذب کر لیتا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نورانی  
ملائکہ اور روح القدس کو زمین پر نازل کرتا ہے۔ ہر امر میں سلامتی ہوتی ہے اور فرشتے ان  
تمام لوگوں کو جو سعید و رشید اور حصول سعادت میں مستعد ہوتے ہیں، نیکی کی طرف کھینچتے ہیں  
اور نیک توفیقین ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس عظیم و جمیل رات کی فضیلت و بزرگی  
میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے جو کچھ خود خدائے قدوس نے اس سورہ مبارکہ  
میں ارشاد فرمایا ہے۔

تاہم اتنا جان لیجئے کہ شب قدر بہ نص شریعت ہزار راتوں سے افضل ہے اور اس کا  
تمام احترام اس بات میں ہے کہ اس شب میں جاگتے رہنا، اعمالِ حسنہ میں مشغول رہنا، تسبیح  
و تہلیل اور توبہ استغفار کرنا اور اپنے دل امور دنیاوی سے خالی رکھنا چاہیے۔ اس رات کو ایک  
رکعت نفل ہزار نوافل سے افضل ہے۔

## شب قدر کی تعیین

شب قدر کو متعین کرنا مشکل ہے کیونکہ خود پروردگار عالم اور نبی کریم ﷺ نے اس کو مبہم و مستور رکھنا چاہا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت و مغفرت کے طلب گار اس کی تمنا میں رمضان کے آخری عشرہ کی تمام راتوں میں مشغول عبادت رہیں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ خدائے قدوس کی رحمت و مغفرت چاہتی ہے کہ اس کے بندے اسی بہانہ اخروی سعادت اور روحانی برکت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں تاہم اتنی بات یقینی اور قطعی ہے کہ بمقتضائے احادیث شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہے چنانچہ 21, 23, 25, 27, 29، تاریخوں کے متعلق مختلف روایتیں آئی ہیں۔ لیکن اغلب یہ ہے کہ 27 رمضان کی رات شب قدر ہے صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے امام اعظم کا بھی یہی مسلک ہے اور یہی مسلمانوں میں مشہور ہے۔ لہذا ستائیسویں شب کو خصوصیت کے ساتھ شب بیداری عبادت گزاری اور توبہ و استغفار کے لئے مخصوص کرنا چاہیے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابوسعید خدری بیان کیا گیا کہ رسول اکرم ﷺ نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا۔ پھر درمیان کے عشرہ میں ترکی خیمہ میں اعتکاف کیا۔ ایک روز اپنا سر خیمہ سے باہر نکال کر فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ نے آکر کہا کہ شب قدر کو پچھلے عشرہ میں تلاش کرو۔

## اعتکاف کا بیان

شرعی اصطلاح میں اعتکاف کے معنی ہیں کہ انسان کا مسجد یا گھر کے کسی معین گوشہ میں بحالت روزہ عبادت کی نیت سے جم کر بیٹھ جانا اور سوائے حاجات کے وقت مقررہ تک اس گوشہ سے نہ نکلنا۔ یہ اعتکاف مسنون ہے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔

اعتکاف کے متعلق مختصر طور پر اتنا جان لینا چاہیے کہ معتکف کو یا سب سے کٹ کر حق

تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے، دنیاوی امور و مشاغل سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو عبادت و اطاعت الہی کے لئے وقف کر دیتا ہے گویا دنیا کے سامنے رجوع الی اللہ کا ایک کامل نمونہ ہوتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو انقطاع الی اللہ کا سبق دیتا ہے۔

### مسنون اعتکاف

یہ ہے کہ رمضان کی 20 تاریخ کو مغرب سے ذرا پہلے اس مسجد میں جہاں پنج وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، عبادت کی نیت سے بیٹھ جائے۔ اگر عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر کے کسی گوشہ میں بیٹھ جائے جو نماز کے لئے مخصوص ہو اور رمضان کے آخری روزہ کو مغرب تک وہیں بیٹھا رہے اور ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہے خواہ نوافل پڑھے یا تلاوت قرآن پاک کرتا رہے یا توبہ و استغفار کی تسبیح و تہلیل اور دیگر اذکار میں مشغول رہے بہر حال مطلب یہ ہے کہ اکثر وقت عبادت میں بسر کرے۔

### اعتکاف کا رکن اور شرط

عبادت کی نیت سے ٹھہرے رہنا اعتکاف کا رکن ہے اور نیت و مسجد کا ہونا اس کی شرطیں ہیں اس رکن اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں عبادت کی نیت سے وقت مقررہ تک ٹھہرا رہے گا تو اعتکاف صحیح ہوگا ورنہ نہیں۔

اعتکاف واجب کی مدت کم از کم ایک دن ہے چنانچہ اگر کسی نے اعتکاف کی نذر مانی ہو تو مسجد میں طلوع فجر سے پہلے داخل ہو اور غروب آفتاب کے بعد نکلے، اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر اس مدت سے قبل اعتکاف چھوڑے گا تو فاسد ہو جائے گا اور پھر دوبارہ قضا لازم ہو گی اگر دو دن کے اعتکاف کی نذر مانی ہے تو غروب آفتاب سے قبل مسجد میں داخل ہو اور تیسرے روز غروب آفتاب کے بعد مسجد سے نکلے۔

### اعتکاف واجب کی وصیت اور کفارہ

اگر کسی نے اعتکاف کی نذر مانی اور وہ اس کو ادا نہ کر سکا تو اسے کسی دوسرے کو وصیت کر دینی لازم ہے اور ورثاء کو چاہیے کہ ہر دن کے بدلے صدقہ فطر کے برابر صدقہ کریں۔

جاننا چاہیے کہ اعتکاف واجب بغیر روزہ کے ادا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کسی نے اعتکاف کی نذر مانی ہو تو اس کو روزہ رکھنا لازم ہے ورنہ اعتکاف صحیح نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ زات کو اعتکاف کی نذر مانتی صحیح نہیں۔ اور جو کچھ بیان ہو اور جو شرطیں بیان کی گئیں وہ اعتکاف واجب کی تھیں۔ باقی رہا اعتکاف نفل، سو اس کی مدت کے بارے میں حضرت امام ابوحنیفہ سے دو روایتیں منقول ہیں: اول یہ کہ اعتکاف نفل کی کوئی مدت خاص مقرر نہیں ایک گھنٹہ اور اس کے کم کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے روزہ رکھنا بھی شرط نہیں۔ دوم یہ کہ اعتکاف نفل کے لئے بھی روزہ دار ہونا شرط ہے اور کم از کم اس کی مدت ایک روز اور یہی روایت صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔

امام صاحب کے نزدیک اعتکاف کی حالت میں بغیر ضروری حوائج یعنی پیشاب و پاخانہ وغیرہ کے مسجد سے تھوڑی دیر کے لئے نکلنا بھی اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک آدھے دن سے کم کے لئے معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے۔

معتکف کے لئے مسجد کے اندر کھانا پینا اور خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ لیکن سامان تجارت مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ صرف زبانی خرید و فروخت جائز ہے۔ معتکف کے لئے خاموش رہنا مکروہ ہے۔

افضل یہ ہے کہ ہر وقت ذکر الہی میں یا تلاوت قرآن یا نوافل میں مشغول رہے، امور دینی میں ہر وقت منہمک رہے۔ دینی مسائل کی درس و تدریس میں بھی وقت گزار سکتا ہے۔

### ہفتہ کی نمازیں

شنبہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعتیں پڑھ کر جو چاہیں دعا کریں انشاء اللہ مقبول ہوگی۔ شنبہ کے دن کسی وقت چار رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون تین بار پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک بار آیۃ الکرسی پڑھ لیا کریں۔

### یک شنبہ کی نماز

1۔ یک شنبہ کی رات 20 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں پچاس بار اخلاص

ایک بار فلق اور ایک بار سورہ ناس پڑھیں۔ پھر سلام کے بعد اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے سو مرتبہ استغفار کریں پھر سو مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر پچاس مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم کہیں اس کے بعد یہ کلمات کہیں:

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان آدم صفة الله و فطرته

و ابراهيم خليل الله عزوجل و موسى کلیم الله تعالیٰ

و عیسی روح الله سبحانه و محمدا حبیب الله عزوجل۔

2۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے گناہ معاف فرمادے گا۔

3۔ یک شنبہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد چار رکعت نفل پڑھیں۔ اول رکعت میں الحمد

کے بعد سورہ آلم سجدہ دوسری رکعت میں تَبَارَكَ الَّذِي پڑھ کر سلام پھیر دیں، پھر دوسری

رکعت کی نیت باندھیں۔ پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ ختم کریں

اور سلام کے بعد قاضی الحاجات سے اپنی حاجت طلب کریں۔ انشاء اللہ دعا قبول ہوگی۔

### دوشنبہ کی نماز

1۔ دوشنبہ کی رات چار رکعت نفل اس طرح پڑھے۔ اول رکعت میں الحمد کے بعد

دس بار سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بیس بار، تیسری رکعت میں تیس بار اور چوتھی رکعت

میں چالیس بار پڑھیں۔ یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس بار سورہ اخلاص بڑھائی

جائے گی۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد بھی سورہ اخلاص، استغفار اور درود شریف تینوں پچتر

پچتر بار پڑھ کر دعا مانگیں۔ انشاء اللہ تمام دینی امور و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ اس

نماز کا نام نماز حاجت ہے جو قضائے حاجت میں عجیب سریع الاثر چیز ہے۔

2۔ دوشنبہ کے دن کسی وقت بارہ رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں ایک بار آیت

الکبریٰ پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سورہ اخلاص 12 مرتبہ اور استغفر اللہ 12

مرتبہ کہیں۔ خدائے قدوس اجر جزیل عطا فرمائے گا۔



## سہ شنبہ کی نماز

منگل کی رات کو بارہ رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ مرتبہ  
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ بہشت بریں عطا فرمائے گا۔  
 2۔ منگل کے دن آفتاب بلند ہو جانے کے بعد یا زوال کے بعد دس رکعت نفل پڑھو۔  
 ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار آیۃ الکرسی اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ تمام آفات  
 و بلیات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔

## چہار شنبہ کی نماز

1۔ بدھ کی رات کو دو رکعت نفل پڑھیں۔ اول رکعت میں سورۃ فلق پڑھیں دس مرتبہ  
 اور دوسری میں سورۃ ناس دس بار پڑھیں۔ رحمت خداوندی شامل ہوگی۔  
 2۔ بدھ کے دن نماز اشراق کی بارہ رکعت پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک بار  
 آیۃ الکرسی تین بار سورۃ اخلاص، تین بار سورۃ فلق اور تین بار سورۃ ناس پڑھیں، باری تعالیٰ  
 عزا سے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔

## پنج شنبہ کی نماز

1۔ جمعرات کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان دو رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں  
 الحمد کے بعد آیۃ الکرسی، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں، پھر  
 سلام پھیرنے کے بعد پندرہ بار استغفار پڑھیں اور والدین کے لئے دعائے مغفرت  
 کریں انشاء اللہ والدین کی مغفرت ہوگی۔  
 2۔ جمعرات کے دن ظہر و عصر کے درمیان دو رکعت میں الحمد کے بعد سو مرتبہ آیت  
 الکرسی اور دوسری رکعت میں سو بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد سو مرتبہ درود  
 شریف پڑھ کر دعا کریں۔

## جمعہ کی نماز

1۔ جمعہ کی رات کو مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد

کے بعد دس دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔

2۔ جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اور سنتیں پڑھ کر دس رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد دس دس بار سورہ اخلاص اور ایک ایک بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھے۔ پھر وتر پڑھ کر دائیں کر وٹ کے بل سو رہے۔ اس نماز کا بہت بڑا ثواب ہے۔

3۔ جمعہ کے دن اشراق کی نماز کے بعد چار رکعت نفل ادا کرے یا آٹھ رکعت یا بارہ رکعت اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین تین بار سورہ اخلاص پڑھے۔

4۔ جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان دو رکعت ادا کرے۔ اول رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ آیۃ الکرسی، 20 مرتبہ سورہ فلق اور ایک بار ناس پڑھے۔ دوسری رکعت میں ایک بار سورہ اخلاص 20 بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر پچاس مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعائے انشاء اللہ قبول ہوگی۔

## نوافل کے مسائل

دن کے وقت ایک سلام سے چار رکعت نفل پڑھنے درست ہیں اور چار سے زائد مکروہ ہاں رات کے وقت ایک سلام سے آٹھ رکعت تک پڑھنا بھی درست ہے اور آٹھ سے زائد مکروہ (1)

باقی رات و دن دونوں میں ایک سلام سے چار رکعت نفل پڑھنے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص چار رکعت نماز نفل پڑھنے کی ایک سلام سے نذر مانے اور بوقت ادائیگی دو رکعتیں کر کے پڑھے تو نذر ادا نہ ہوگی۔ اور اگر دو دو کر کے چار رکعت کی نذر مانی اور پھر ایک سلام سے چاروں رکعتیں پڑھ لیں تو نذر ادا ہو جائے گی۔ (2)

مسئلہ: اگر ایک شخص نے اس خیال سے کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب اس نے نفل کی نیت توڑ کر فرض کی نیت سے دوبارہ اقتداء کی، یا صرف یہ صورت ہوئی کہ پہلے نفلوں کی امام کے پیچھے نیت باندھ لی پھر توڑ کر دوبارہ نفلوں کی نیت باندھ لی تو ان دونوں صورتوں

میں اس کے ذمہ نفلوں کی قضا نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ نماز امام کے ساتھ ادا کروں اور وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ (1)

**مسئلہ:** اگر کسی شخص نے بلا قید رکعت نفل نماز کی نیت کی، یعنی صرف یہ نیت کی کہ نفل نماز پڑھتا ہوں اور یہ نہ کہا کہ دو پڑھتا ہوں یا چار یا چھ وغیرہ تو اس صورت میں اس کے لئے صرف دو نفلیں پڑھنی ضروری ہیں چار نہیں۔ (2)

**مسئلہ:** اگر ایک شخص نے چار رکعت نفل کی نیت نہیں کی اور دو گانہ پڑھ کر بغیر قعدہ کیے ہوئے کھڑا ہو گیا اور یاد آیا کہ قعدہ ترک ہو گیا تو اسے فوراً بیٹھ جانا چاہیے، قعدہ کر کے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے اگر یاد آنے کے بعد قعدہ میں نہ لوٹے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ (3)

**مسئلہ:** اگر ایک شخص نے دو رکعت نفل کی نیت کی پھر بقدر تشہد بیٹھ کر تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت میں نماز تڑدی تو صرف دو رکعتوں کی قضا لازم ہوگی اور اگر بقدر تشہد بیٹھنے سے قبل رکعت کو کھڑا ہوا اور پھر نماز توڑی تو چاروں رکعتوں کی قضا واجب ہوگی۔ کیونکہ نوافل میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نفل کا ہر دو گانہ علیحدہ ہے۔ ایک دو گانہ کی تکمیل کے بعد اگر دوسرا دو گانہ فاسد ہو جائے تو صرف دو کی قضا لازم آتی ہے۔

ہاں تین حالتوں میں ایک دو گانہ، دوسرے دو گانہ سے علیحدہ نہیں رہتا۔

1۔ اقتداء یعنی اگر امام کی اقتداء چار رکعتوں کی کی اور دو پڑھ کر تیسری رکعت میں نماز کو فاسد کر دیا تو چاروں کی قضا لازم ہے۔

2۔ قعدہ اولی کا ترک یعنی اگر پہلے دو گانہ کا قعدہ چھوٹ گیا اور تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا اور پھر نماز کو فاسد کر دیا تب بھی چاروں رکعتوں ہی کی قضا لازم ہے (شامی)

**ضروری یادداشتیں**

1۔ بیل، گھوڑے، اونٹ اور تانگہ وغیرہ کی سواری پر نماز کا اشارہ سے پڑھنا مشروع ہے رکوع و سجود نہ کرنا چاہیے لیکن اگر سواری روک سکتا ہو تو روک لے اگر نہ روک سکتا ہو تو کم از کم قبلہ رخ کر لے اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو جس طرح ہو سکے بوقت ضرورت نماز ادا کر لے

اور پھر ان نمازوں کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم نہیں۔ (غایۃ الاوطار)  
 2۔ مسافر اور مقیم دونوں کو سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ مگر مسافر کو اس جواز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت اس وقت ہوگی جب وہ شہر سے باہر ہو جہاں سے مقیم پر قصر لازم آتا ہے۔ لہذا وہ شہر کے اندر سواری پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔

3۔ عذر کی وجہ سے چلتی ہوئی ریل میں فرض، واجب اور سنت سب نمازیں پڑھنا جائز ہیں ایک آدمی کو چلتی گاڑی میں نماز کا وقت آگیا مگر اس کو امید ہے کہ اگلے اسٹیشن پر پہنچنے تک نماز کا وقت باقی رہے گا تو اس کے لئے اولیٰ ہے کہ ریل کے ٹھہرنے تک توقف کرے۔ جب ریل ٹھہر جائے تو نماز پڑھے اگر ابتدائے وقت میں بھی چلتی ریل میں اسٹیشن پر پہنچنے سے پہلے پڑھ لے گا تب بھی جائز ہے چلتی کشتی کا حکم بھی ریل کی طرح ہے جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔

4۔ اگر ایک شخص ایک نفل میں کئی نفلوں کی نیت کرے مثلاً تحیۃ الوضو کا دو گنا نہ پڑھتے وقت تحتیۃ المسجد اور اشراق کی بھی نیت کرے تو جائز ہے اور اس نیت کی وجہ سے اسے سب نمازوں کا ثواب ملے گا۔ (غایۃ الاوطار)

### توبہ اور نماز توبہ کا بیان

جب کوئی بھول چوک ہو جائے یا قصداً گناہ کر لے اور پھر شرم و ندامت کی وجہ سے آئندہ اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے اور خدا کی جناب میں توبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور پھر یوں کہے۔

اللهم انی اتوب الیک منها لا ارجع الیہا ابدا

”اے اللہ! میں تیرے سامنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ ان کی طرف کبھی نہ

پھروں گا۔“

اس دعا کے پڑھنے سے گناہ بخشتا جاتا ہے اگر پھر وہی گناہ کر لے تو اس کے لئے سجدہ توبہ کرنی چاہیے مگر یاد رہے کہ توبہ کے وقت آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے۔ یہ نہ

ہو، توبہ کے بھروسہ پر گناہ کئے جائے کہ اب گناہ کر لو پھر توبہ کر لیں گے یہ فریب نفس ہے اور ایک قسم کا مذاق ہے ہاں اگر توبہ کے بعد بشریت کے تقاضا سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو اس کے لئے پھر توبہ کر لے۔ بشرطیکہ سچے احساسِ ندامت کے ساتھ توبہ کر لے۔

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے اسے چاہیے کہ توبہ کے ارادہ سے اٹھے اور غسل یا وضو کرے پھر دو گناہ پڑھے اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش چاہے تو اس کی بخشش کی جاتی ہے۔

### کسوف و خسوف کی نمازیں

جب سورج گرہن لگتا ہے تو اس کو کسوف کہتے ہیں اور جب چاند گرہن لگتا ہے تو وہ خسوف کہلاتا ہے۔ کسوف و خسوف کیوں واقع ہوتے ہیں؟ اس کا جواب علمِ ہیئت سے وابستہ ہے اور یہ چیز ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ مگر اسلامی نقطہ نگاہ سے ان کے متعلق مختصر اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دو بڑے ہی عظیم الشان نشان ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی جان لیجئے کہ کسوف و خسوف کے واقع ہونے کی مختص حقیقت یہ ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے۔ وہ آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے جب وہ آفتاب کے گرد گردش کرتے کرتے آفتاب اور زمین کے درمیان آجاتا ہے تو آفتاب کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے اور جب زمین درمیان میں آجاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہو جاتا ہے۔

ان کے علاوہ عوام الناس میں ان کے متعلق جو اہام و خرافات اور فرضی قصے کہانیاں مشہور ہیں وہ سب غلط اور جہالت و حماقت کی باتیں ہیں۔

سورج اور چاند گرہن کی نمازیں بالاتفاق سنت ہیں۔ ان میں اذان، اقامت اور خطبہ کے بغیر جماعت ہونی بھی جائز ہے۔ اگر جماعت سے نہ پڑھ سکے تو تنہا ہی پڑھ لے اور اگر نماز نہ پڑھ سکے تو اتنی دیر تسبیح و تہلیل اور دعاء و استغفار میں مشغول رہے۔ (1)

ان دونوں نمازوں کا وقت وہی ہے جب گرہن شروع ہو، مگر وہ حرام اوقات نہ ہونے چاہئیں نماز کسوف و خسوف کی کم از کم دور کعتیں ہیں چار یا آٹھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ سے یہ نماز کئی طرح سے منقول ہے۔ ان نمازوں میں قراءت آہستہ کرنی چاہئے۔ بلند آواز سے بھی کی جاسکتی ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت اور دوسری میں سورہ روم پڑھنا مسنون ہے۔

ان نمازوں میں قراءت کو اتنا طول دینا چاہیے کہ نماز پڑھتے پڑھتے گرہن ختم ہو جائے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا قیام اس نماز میں بڑا طولانی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا۔

”چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کے دو نشان ہیں یہ دونوں کسی کے پیدا ہونے یا مرنے سے گرہن میں نہیں آتے۔ لوگو! جب تم کو یہ موقع پیش آئے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ دعا مانگو، تکبیر و تہلیل کرو نماز پڑھو خیرات و صدقہ دو۔“

اگر گرہن اوقات ممنوعہ میں شروع ہو تو نماز کسوف نہ پڑھنی چاہیے۔ دعا و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر گرہن کی حالت میں ہی غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے گرہن کی نماز نہ پڑھنی چاہیے اگر اتفاق سے گرہن اور جنازہ کی نمازیں جمع ہو جائیں تو پہلے جنازہ کی نماز پڑھنی چاہیے۔ (1)

چاند گرہن کی نماز میں چونکہ لوگوں کا رات کے وقت جمع ہونا دشوار ہے اس لئے یہ نماز جماعت سے نہ پڑھی جائے۔

مسلمانوں کی حالت پر افسوس

اس بے عملی کے زمانہ میں مسلمانوں سے جہاں اور بہت سی خوبیاں اور احکام شریعت کی پابندیاں جاتی رہی ہیں۔ وہاں ان دونوں نمازوں کی پابندی بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے نکلیں گے جنہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کسوف و خسوف کے موقع پر بھی نماز ہوتی ہے، صدقہ دینا اور بھی معدوم ہے۔ جب پنجوقتہ نمازوں ہی کی پابندی نہیں تو کسوف و خسوف کی نماز کجا۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں اور کسوف و خسوف کی نمازیں بھی پڑھا کریں۔

### قحط اور نماز استسقاء

جب بندوں کا عصیان و طغیان اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ احساس گناہ ہی جاتا رہتا ہے اور گناہوں کا سیلاب اکثر و بیشتر عیش پسند لوگوں کو بہالے جاتا ہے تو قدرت قاہرہ کی طرف سے ان کی تادیب و گوشمالی ضروری ہو جاتی ہے اور غیرت حق، قحط یا دبا یا کسی دوسری بلائے عام کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔

### قحط کی تعریف

قحط سے مراد ہے اساک رزق۔ اب وہ خواہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا ٹنڈی دل کی آفت سے یا کسی اور وجہ سے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قحط بارش نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ قحط یہ ہے کہ مینہ برسے اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ طلب باران کی دعا نہ کریں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ لوگ حصول رزق کا مدار باران پر نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے وہ چاہے تو بلا باران کے رزق سے مالا مال اور نہال کر دے۔ پس نماز استسقاء یا طلب باران سے اصل مقصود، حق تعالیٰ کی رضا جوئی اپنے معاصی و تقصیرات کا اعتراف اور معافی کی التجا ہونی چاہئے۔ یہ ہے نماز استسقاء کی حقیقت و ضرورت جس سے عام لوگ ناواقف ہیں۔

### نماز استسقاء کا طریقہ

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس نماز کے لئے نہ جماعت مسنون ہے نہ خطبہ کے ساتھ بغیر اذان و اقامت کے ادا کی جائیں۔ (1)  
قراءت ان دونوں رکعتوں میں پکار کر پڑھنی چاہیے۔ یہی مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قح اور دوسری میں سورہ قمر یا پہلی میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ

غاشیہ پڑھنی چاہیے۔ (1)

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مقامی اسلامی حاکم، اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو قاضی شہر یا امام جامع لوگوں کو متواتر تین روزے رکھنے کا حکم دے۔ پھر چوتھے دن وہ تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آبادی سے باہر جنگل میں جائے اور وہاں نماز و دعا کرے یہ بھی منقول ہے کہ اسی طرح مسلسل تین روز تک جانا اور نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ عذر تفسیر تین مرتبہ کرنا معتاد ہے۔ جب جنگل کی طرف جائیں تو سواری پر نہیں بلکہ پیدل، سراقلندہ اور تذلل و انکسار کی حالت میں جائیں کپڑے سادہ اور صورتیں عاجزانہ ہوں۔ غرض لباس و پوشاک حرکات و سکنات طرز کلام اور انداز خرام سے توقع مسکنت اور عاجزی نمایاں ہو۔ ہر روز یا باہر جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ خیرات دیں۔ کیونکہ شدائد و مصائب کے وقت صدقہ و خیرات کرنا مشروع ہے اور اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں حقوق العباد ادا کئے جائیں اور اپنے تمام گناہوں سے از سر نو توبہ کی جائے۔ کیونکہ عاصیوں اور غیر فرماں برداروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔

مسنون دعا اور دیگر آداب

خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ استقاء کی دعا و نماز میں غریب و خستہ حال، ضعیف، بوڑھے اور اہل اصلاح و تقویٰ بکثرت شامل ہوں اور جب دعا کریں تو اس میں جانوروں اور معصوم بچوں کے لئے خصوصیت سے رحم کی درخواست کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر شیر خوار بچوں، بے زباں جانوروں اور عبادت گزار بندوں کا لحاظ نہ ہوتا تو تم پر عذاب ٹوٹ پڑتا اور یہ مسنون دعا بار بار پڑھنی چاہیے:

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَآخِي

بَلَدَكَ الْمَيِّتِ

”اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب فرما، اپنی رحمت پھیلا اور اپنی مردہ

آبادی کو زندہ کر۔“



دعا میں تمام مقتدی صف بستہ دوزانو بیٹھیں اور امام رو بقبلہ کھڑا ہو۔ دعا رقت قلب اور حضوری دل سے کی جائے دعا کے ساتھ اس تلقین کا جذبہ دل پر غالب ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں دعا کرو اور ساتھ ہی قبولیت کا یقین رکھو۔ مستحب یہ ہے کہ جو شخص تقویٰ و عبادت میں مشہور ہو، دعائیں اس کا تو سل کر کے یوں کہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَسْقِي وَنَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلَانٍ  
 ”یعنی الہی! ہم بارش مانگتے ہیں اور تیری بارگاہ میں تیرے فلاں بندہ کی سفارش لاتے ہیں۔“

صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، طلب باران کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو سل کیا کرتے تھے۔  
 خطبہ استسقاء

دو رکعت نماز استسقاء ادا کر کے خطبہ پڑھے۔ ابوداؤد اور ابن حاکم نے نقل کیا ہے کہ جب آفتاب کا کنارہ ظاہر ہو تو قاضی یا امام جنگل میں نکلے اور منبر پر بیٹھ کر اللہ اکبر کہے اور خدائے عزوجل کی تعریف بیان کرے، وہ خطبہ یہ ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ  
 الدِّينِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا  
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ  
 وَاجْعَلْ مِمَّا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ“

”سب تعریف خدا کو ہے جو دنیا جہان کا پروردگار ہے۔ نہایت مہربان بہت رحم والا، روز جزاء کا مالک، خدا کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الہی! تو معبود ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے اور ہم محتاج، ہم پر مینہ برسا اور تو نے ہم پر جو کچھ ہمارا رزق اتارا ہے اس کو اطاعت کی قیمت کا سبب کر اور مطلب کو پہنچنے کا باعث ایک مدت دراز تک کر۔ یعنی اس کے سبب سے ہم

مدت تک فائدہ اٹھائیں۔“

اس کے بعد امام یا قاضی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو۔ یعنی ہاتھ خوب اونچے کرے پھر آدمیوں کی طرف پیٹھ پھیر کر دعا کے لئے قبلہ رو ہو جائے اپنی چادر کو پلٹے ہاتھ اپنے اٹھائے رکھے۔ پھر آدمیوں کی طرف منہ کرے اور منبر سے اتر آئے۔ چادر اٹھنے کی ترکیب یہ ہے کہ داہنا سر بائیں طرف ہو جائے اور بائیں داہنی طرف اور اندر کا رخ باہر اور باہر کا اندر ہو جائے۔

صحیح مسلم میں بارش کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: ”اللَّهُمَّ اغْنِنَا“ (1) ان الفاظ کو تین بار کہے یعنی اے اللہ! ہم پر مینہ برسا، دوسری صحیح احادیث میں آیا ہے کہ بار بار یوں دعا کرے:

”اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ“

”خداوند! ہمیں بارش کا پانی پلا کرو وہ ہماری فریادری کرے اور انجام کار کے اعتبار سے سیر حاصل اور شاداب ہو، نفع پہنچائے اور نقصان نہ دے جلدی برسے تاخیر نہ کرے۔“

قحط کے متعلق چند روایتیں

کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں سخت قحط پڑا آپ بنی اسرائیل کو لے کر استقاء کے لئے جنگل کی طرف نکلے۔ تین دن تک نماز پڑھتے اور دعا مانگتے رہے مگر بارش نہ ہوئی۔ جناب باری سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تمہاری قوم میں ایک شخص چغل خور ہے۔ اس لئے تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: خداوند! وہ کون شخص ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اسے اپنی جماعت سے علیحدہ کریں۔ ارشاد باری ہوا: موسیٰ! میں تم لوگوں کو چغلی سے منع کرتا ہوں تو کیا خود ہی چغلی کھانے لگوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام لا جواب ہو گئے اور اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم سے ہر شخص چغلی سے توبہ کرے۔ سب لوگوں نے اس حکم کی تعمیل کی تب بارش ہوئی۔

حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر متواتر سات سال قحط رہا۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے مردار جانور اور بچے تک کھانے شروع کر دیے۔ وہ ہمیشہ

پھاڑوں پر جا کر گریہ وزاری کرتے اور بارش کی دعا مانگتے مگر قبول نہ ہوتی تھی۔ آخر خدا کی طرف سے اس قوم کے نبی پر وحی آئی کہ میں تم میں سے کسی کی نہ دعا قبول کروں گا اور نہ کسی کے رونے پر رحم کھاؤں گا تا وقتیکہ تم لوگ غصب کردہ حقوق ان کے حقداروں کو نہ ادا کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے تمام غصب کردہ حقوق العباد ادا کئے، تب ان پر بارش ہوئی۔ پس ہمیں یہی چاہیے کہ طلب باران کی دعا سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیا کریں۔

## نماز جنازہ کا بیان

موت سے کسی انسان کو چارہ نہیں۔ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک انسان کو سفر آخرت درپیش ہے۔ اس لئے ہر ایک عقل مند اور سعادت اندیش انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی موت کو ہر وقت پیش نظر رکھے۔ فشاء قبر سے لرزتا ہے اور مرنے کے متعلق ضروری مسائل و احکام سے واقفیت و آگاہی حاصل کرے۔

جاننا چاہیے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے پر بہت حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے زیادہ مؤکدہ حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے اور اس کے کفن و دفن میں شریک ہو۔ مرنے میں ہر ایک کو شریک ہونا چاہیے۔

### بیمار کی دعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا ﷺ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے ابو ہریرہ! کیا میں تجھے وہ چیز بتاؤں جو بالکل سچی اور برحق ہے اور یہ ایک دعا ایسی ہے کہ جو شخص اس کو بیماری کی حالت میں پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ کے پڑھنے والے کو دوزخ کے جانکاہ عذاب سے نجات دے گا تو جب کوئی بیمار پڑا کرے تو یوں کہا کرے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَتَّى لَا يَمُوتَ  
سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا  
طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا كَبِيرًا  
رَبَّنَا وَجَلَالُهُ وَقُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَمْرَضْتَنِي  
لِتَقْبِضَ رُوحِي فِي مَرَضِي هَذَا فَاجْعَلْ رُوحِي أَرْوَاحَ مَنْ  
سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى وَأَعِدْنِي مِنَ النَّارِ كَمَا أَعَدْتَ

أَوْلِيَاءَ كَالَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَىٰ“

اے ابو ہریرہ! اگر تو اپنے اس مرض میں مر جائے گا تو تجھے خدا تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی اور اس کا عیش نصیب ہوگا اگر تو نے گناہ کئے ہوں گے تو باری تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان کا حال پوچھ کر فرمایا: اے علی! تم مرض کی حالت میں ہو تو کہا کرو:  
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ أَوْ صَبْرًا عَلَيَّ  
بَلِيَّتِكَ خُرُوجًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ رَحْمَتِكَ

”الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جلد شفا عنایت فرمایا اپنی دی ہوئی تکلیف پر صبر عنایت کر یا دنیا سے اپنی وسیع و فراخ رحمت کی طرف نکال۔“  
تم ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور پاؤ گے۔

ایک دوسری جگہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی منقول ہے کہ مریض کا تکلیف کی وجہ سے آہ کرنا اور رونا تسبیح ہے اس کا بے قراری کی حالت میں چیخنا، تہلیل ہے اس کا سانس لینا صدقہ ہے اس کا بچھونے پر سونا عبادت ہے اور اس کا ایک کروٹ سے دوسری بدلنا راہ خدا میں دشمنان دین سے جہاد کرنا ہے۔

بیمار کی عیادت کرنا

شرح مہذب میں ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا سنت مؤکدہ ہے نیز عیادت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ عیادت کرنے میں دوست و دشمن، شناسا و اجنبی اور مسلمان و کافر کو برابر سمجھے۔ یعنی کافر بیمار کی عیادت کو بھی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت سرور کائنات ﷺ ایک یہودی کے لڑکے کی عیادت کو تشریف لے گئے تھے۔ حضور ﷺ کی عادت تھی کہ صحابیوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس کی عیادت کو جاتے، اس کی بیمار پرسی کرتے، اس کے پاس بیٹھتے اور اس سے پوچھتے کہ تیرا کیا حال ہے۔ کس چیز کو تیرا دل چاہتا ہے؟ پھر تین بار اس کے لئے دعا کرتے۔ عیادت کا کوئی

وقت مقرر نہ تھا۔ رات دن میں جب چاہتے تشریف لے جاتے اور فرماتے: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو بہشت کے باغ میں چلتا ہے، جب اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو اس پر خدا کی رحمت اترتی ہے حتیٰ کہ اس میں غرق ہو جاتا ہے۔

### بیمار پرسی کا ثواب

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اول دن اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر رات کو جائے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کی بخشش مانگتے ہیں اور اس کو بہشت میں میوہ کی غذا ملتی ہے صبح تک۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے محض لوجہ اللہ کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو دوزخ سے بقدر ساٹھ برس کی راہ کے دور ہوتا ہے۔

اکثر حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عیادت کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ مروی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندہ سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے! میں تیرا پروردگار ہوں۔ میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہ آیا۔ بندہ عرض کرے گا: خداوند! تو پروردگار عالم ہے تیری عیادت کیسی تھی؟ فرمائے گا: میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس سے زیادہ بیمار پرسی کی تاکید کیا ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ کی عیادت کو اپنی عیادت قرار دے کر مسلمانوں کو اس کی تحریص دلائی ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ بیمار خدا تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔

### عیادت کے آداب

تم نے بیمار پرسی کا اجر و ثواب معلوم کر لیا۔ اب اس کے آداب بھی جان لو۔ عیادت کے آداب یہ ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بیمار کے پاس جائے، بیمار کو تسلی دے، صبر و استقامت اختیار کرنے کی ہدایت کرے، اس کو زندگی و صحت کی امید دلائے۔ بیماری سے جو ثواب حدیثوں میں آئے ہیں وہ اس کو سنائے اور جاتے وقت کہے: لا باس ظہور ان شاء اللہ۔ ”کچھ ڈر نہیں یہ بیماری گناہوں سے پاک

کرنے والی ہے۔“

نیز بیمار پر ہاتھ رکھ کر وہ دعائیں پڑھے جو حدیثوں میں آئی ہیں، اس کے حق میں دعا کرے۔ اپنے لیے بھی اس سے دعا کی درخواست کرے۔ اس کے پاس کم بیٹھے اور وضو کر کے جائے، اپنا داہنا ہاتھ اس کی پیشانی یا ہاتھ یا اور عضو پر رکھ کر یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اَشْفِيهِ وَاَنْتَ الشَّافِي

لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (1)

”یا اللہ اس بیماری کو دور کر دے اے لوگوں کے پروردگار! اس کو شفا بخش اور تو شفا دینے والا ہے۔ سوائے تیری شفا کے کوئی شفا نہیں۔ تو بیمار کو ایسی شفا دے کہ کسی بیماری کو نہ چھوڑے (بخاری و مسلم)۔“

ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ بیمار پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا يُشْفِي سَقِيمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

”شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے یہ ہماری زمین کی مٹی اور ہم میں بعض کا تھوک

شفا دیا جائے ہمارا بیمار ہمارے پروردگار کے حکم سے“ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

اسی طرح حدیثوں میں اور بھی بہت سی دعائیں آئی ہیں۔ مگر ہم صرف انہی دو دعاؤں

پر اکتفا کرتے ہیں۔

نزع کی علامتیں

مرنے کے قریب مریض کی جو علامتیں ہوتی ہیں ان کو حالت نزع کہتے ہیں۔ نزع کی علامتیں یہ ہیں کہ مریض کے ہاتھ پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ناک کا بانسہ پھر جاتا ہے کنپٹیاں بیٹھ جاتی ہیں، منہ کی کھال تن جاتی ہے ہاتھ پاؤں اٹھنے لگتے ہیں اور آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں اور پتلیوں کا پھرنا موقوف ہو جاتا ہے جب یہ جان کنی کی علامتیں نمودار ہوں تو ورثاء کو چاہیے کہ میت کا منہ قبلہ کی طرف پھیر دیں۔ یعنی چپٹ لٹا کر منہ قبلہ کی طرف اونچا کر دیں اس طرح منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔

## تلقین موتی کا بیان

تلقین کے معنی سمجھانے کے ہیں مگر یہاں تلقین موتی سے مراد اس کلمہ کا پڑھنا ہے جو قریب المرگ آدمی کے روبرو اسی غرض سے پڑھا جاتا ہے کہ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتے سن کر پڑھنے لگے اور اس کلمہ پر ہی اس کا خاتمہ ہو

حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: ”جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کے پلنگ کو قبلہ رو کر دیں۔ تاکہ قبلہ کی موافقت حاصل ہو جائے اور لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیں لیکن مرنے والے سے کلمہ پڑھنے کو نہ کہیں کہ وہ موت کی گھبراہٹ اور جان کنی کی سختی کی وجہ سے کہیں انکار نہ کر دے۔ اگر کسی نے مرنے والے سے کلمہ پڑھنے کو کہا اور اس نے انکار کر دیا تو اس کا عذاب کہنے والے پر ہوگا۔ ابوداؤد میں ہے:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

”جس کسی کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔“

یعنی جس کا کلمہ پر خاتمہ ہو، وہ بہشت میں داخل ہوگا اگرچہ عذاب کے بعد ہو بشرطیکہ گنہگار ہو اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد یہاں پورا کلمہ طیبہ ہے کیونکہ کلمہ سے ایمان کی تلقین غرض ہے اور ایمان اقرار مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قریب المرگ شخص یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

”یعنی اے اللہ! تو مجھ کو بخش اور مجھ پر رحم کر اور مجھ کو رفیقِ اعلیٰ سے ملا۔“

رفیقِ اعلیٰ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے اور ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں۔ جب ورثاء میں سے کوئی شخص میت کی آنکھیں بند کرنے جائے تو وہ اپنے نفس کے لئے دعائے خیر کرے کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ دعائیہ الفاظ یہ ہیں:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ وَأَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَأَخْلَفْهُ فِي

عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَأَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْفَسْحَ لَهُ

فِي قَبْرِهِ وَنُورَ لَهُ فِي قَبْرِهِ“



”اے اللہ! تو فلاں شخص کو بخش (یہاں اس میت کا نام لے) اور اس کا درجہ ہدایت یافتوں میں بلند کر اور اس کا کارساز ہو، اس کے اہل و عیال جو اس کے پس ماندہ ہیں، ہم کو اور اس کو بخش دے، اے عالموں کے پروردگار! اور اس کے لئے اس کی قبر پر فراخی کر اور اس کے لئے اس کی قبر میں روشنی کر (ابوداؤد، نسائی)۔ (1)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کے پاس جائے جو قریب المرگ ہو تو اس کو چاہیے کہ مریض کے پاس بیٹھ کر اچھے جملے استعمال کرے۔ کیونکہ اس وقت فرشتے آئین کہتے ہیں اور وہ الفاظ خدا کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مردہ کے پاس بیٹھ کر فضول باتیں نہ کرے۔ بلکہ اپنی موت کو یاد کرے، خاتمہ بالخیر اور حصول مغفرت کی اچھی اچھی باتیں کرے۔

### نزع کی سختی آسان ہونے کی سورتیں

اگر نزع کی حالت میں سختی ہو تو پاس بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ وہ سورہ رعد اور سورہ یسین پڑھیں۔ میت کے قریب نیک لوگ بیٹھیں، وہ اچھے کلمات زبان سے نکالتے رہیں جب دم نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر باندھیں۔ تاکہ منہ کھلنے نہ پائے، آنکھوں کو بند کر دیں، انگلیاں اور ہاتھ کو سیدھا کریں۔ تاکہ دم آسانی سے نکل جائے پھر میت کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز مثلاً لوہا اور پتھر وغیرہ رکھ دینا چاہیے تاکہ پیٹ پھول نہ جائے۔ مگر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بوجھل چیز زیادہ بھاری نہ ہو۔ اس کے بعد ایک کپڑے سے میت کے سارے بدن کو ڈھانک دیں اور میت کو چار پائی یا کسی ایسی چیز پر رکھ دیں کہ زمین کی سیل سے بدن سے محفوظ رہے۔

دم نکلنے کے بعد ورثاء کے لئے ضروری امور

جب ورثاء مذکورہ بالا امور سے فارغ ہو جائیں تو اب انہیں سب سے پہلے میت کے

قرضہ کی ادائیگی کا فکر و اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر وہ کچھ قرضہ چھوڑ کر مرا ہو اور اس کا ادا کرنا اسی

وقت ممکن بھی ہو۔ میت کے قرضہ کی ادائیگی کا فکر اس لئے سب سے مقدم کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”میت اپنے قرضہ کے بدلہ مقید رہتی ہے“ پس مرنے والے کے رنج و الم اور محبت و شفقت کا زبردست تقاضا یہ ہے کہ اسے اس قید سے رہائی دلائی جائے۔ مرنے والے کے ساتھ سچی ہمدردی اور حقیقی محبت یہی ہے۔

بعد ازاں میت کی تجھیز و تکفین میں حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے اور اس کی صورت یہ ہے کہ مذکورہ بالا امور سے فارغ ہوتے ہی بلا مزید تاخیر دوست و احباب کو فی الفور اطلاع دے دیں۔ پھر قبر کھودنے کے لئے آدمیوں کو بھیج دیں۔ اس کے بعد اسی وقت کفن کا انتظام کر لیں اور پھر غسل کا۔ سوائے ورثائے میت کے اور کسی کا انتظار زیادہ دیر تک نہیں کرنا چاہیے۔ بہر حال عجلت سے کام لینا چاہیے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے: ”اگر میت نیک ہے تو جنت اس کا انتظار کر رہی ہے اور اگر بد ہے تو عذاب میں تاخیر ہوگی“۔ اس حدیث سے تجھیز و تکفین میں جلدی کرنے کی حکمت و مصلحت اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے۔

افسوس کہ جو باتیں مشروع ہیں وہ تو مسلمان کرتے ہی نہیں ہیں۔ غیر مشروع امور، رونے دھونے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میت کے قرضہ کی ادائیگی سے پہلے رسمی اخراجات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گریہ و زاری سے آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس بارے میں جان لینا چاہیے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ وہ کسی امر میں خلاف فطرت و جبری تعلیم نہیں دیتا۔ ہاں فطری کجروی سے ضرور بچاتا ہے۔ اس بناء پر شریعت نے آنسوؤں سے رونے کو تو جائز رکھا ہے وہ رونے کی ممانعت نہیں کرتی کیونکہ مرنے پر ورثاء کا رونا عوام الناس کے نقطہ نظر سے ایک فطری جذبہ ہے جس کا دبانا سطحی النظر انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ ہاں شریعت بلند آواز سے ہائے وائے کرنے، چیخنے چلانے، منہ نوچنے، کپڑے پھاڑنے اور نوحہ و بین کرنے سے ضرور روکتی ہے کیونکہ یہ افعال وحشت و جہالت کی پیداوار اور منافی اسلام ہیں۔ لہذا ان ناشائستہ اور جاہلانہ امور سے خود بھی اجتناب کرنا چاہیے دوسروں کو اور خصوصاً عورتوں کو بھی روکنا چاہیے۔

یہاں اس امر کو بھی صاف کر دینا ضروری ہے اور مناسب معلوم ہوتا ہے جو ایک مشہور

حدیث کی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور ہے۔ وہ یہ ہے کہ پسماندگان کے رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے مفہوم کو زبردست دلائل کی بناء پر غلط قرار دیتی ہیں اور عقلاً بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ روئیں تو زندہ اور عذاب میت کو۔ ایسا اعتقاد و قرآنی آیات کے بالکل خلاف ہے۔ اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چونکہ موجب طوالت ہے۔ لہذا ہم صرف انہی ارشادات پر اکتفا کرتے ہیں مگر ابھی اتنا مختصر طور پر ضرور بتلائے دیتے ہیں کہ پس ماندگان کے رونے سے میت کو عذاب نہیں ہوتا۔ ہاں رونے والے ضرور گناہ گار ہوتے ہیں۔

### غسل کا بیان

میت کو غسل دینا اجماع امت سے ٹھہر چکا ہے۔ اور اس کو تو اترو تعامل نے ثابت کیا ہے۔ بہر حال میت کو غسل دینا نہایت ضروری اور مؤکدہ امر ہے۔ غسل کا کیا طریقہ ہے اس کے متعلق ہم پہلے صاحبین کی ایک حدیث کا ترجمہ درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد فقہاء کا بتلایا ہوا معتاد طریقہ بتلائیں گے۔

ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم حضور ﷺ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو نہلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: زینب رضی اللہ عنہا کو تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا اس سے زائد اگر ضرورت ہو پانی اور پیری کے پتوں سے نہلاؤ اور پچھلی مرتبہ کے غسل میں کافور کا استعمال کرو۔ جب نہلانے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم فارغ ہوئے تو حضور علیہ التحیۃ والتسلیم کو اطلاع دی۔ آپ نے ہمارے طرف اپنا تہبند پھینک کر فرمایا کہ زینب رضی اللہ عنہا کو اس میں لپیٹ دو۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: زینب رضی اللہ عنہا کو طاق مرتبہ نہلاؤ اور دائیں طرف کے اعضاء اور ان میں سے بھی اعضاء وضو سے دھونا شروع کرو۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پھر ہم نے زینب رضی اللہ عنہا کے سر کے بالوں کو تین مینڈھیاں گوندھ

کرا نہیں لپیٹ کر پیچھے ڈال دیا۔

## طریق غسل

فقہاء نے غسل کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے: جب غسل کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے تختہ وغیرہ کو جس پر میت کو غسل دینا ہے، پانچ یا سات مرتبہ دھو کر اتنی ہی مرتبہ بان وغیرہ کی دھونی دیں، پھر نہایت آہستگی سے میت کو اس پر لٹائیں۔ خواہ قبلہ کی طرف پاؤں ہوں یا شمال و جنوب میں عرضاً لٹائیں جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں پھر چاروں طرف پردہ کر لیں تاکہ مردہ کی بے پردگی نہ ہو اور سوائے غسل دینے والوں کے اور کوئی نہ دیکھ سکے اس کے بعد ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے ڈھانک دیں، پھر اس طرح استنجا کرائیں کہ غسل دینے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے لپیٹ لے تاکہ ستر کو حجاب سے مس کرے اور مقام نجاست کو دھوئے پھر مردہ کو وضو کرائے۔ مگر وضو ہاتھوں سے نہ شروع کرے بلکہ منہ اور ناک سے شروع کرے اس وضو کی ترکیب یہ ہے کہ غسل دینے والا مردہ کی ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کی بجائے اپنی انگلی پر ایک کپڑا لپیٹ کر اس کو کسی قدر تر کر کے مردہ کے منہ میں داخل کرے اور اس کے دانتوں، مسوڑھوں، اور لبوں پر پھیر کر صاف کرے۔ پھر نکتوں میں انگلی ڈال کر اسے صاف کرے، اس کے بعد منہ دھلا کر سر کا مسح کرائے پھر غسل دینا شروع کرے۔

سب سے پہلے سر اور داڑھی کے بالوں کو صابن یا ملتان مٹی سے دھوئے۔ اگر بال نہ ہوں تو پھر سر دھونے کی ضرورت نہیں جب سر دھو چکے ہوں تو مردہ کو بائیں کروٹ لٹا کر پانی بہائیں۔ جب پانی نیچے تک پہنچ جائے تو پھر دائیں کروٹ لٹا کر اسی طرح سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں۔ اس کے بعد مردہ کو سہارے کے ساتھ بٹھا کر پیٹ کو نرمی سے سوتیں تاکہ نجاست اچھی طرح خارج ہو جائے اور نہانے کے بعد نہ نکلے اگر کوئی نجاست نکلے تو دھودی جائے مگر وضو و غسل کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مذکورہ طریقہ سے دائیں کروٹ لٹا کر غسل دیا جائے اور پھر بائیں پہلو لٹا کر۔ جب غسل سے فراغت ہو جائے تو کسی پاک کپڑے سے پانی خشک کیا جائے پھر داڑھی اور سر پر عطر لگا دیا جائے کا نور پیشانی، ناک،

دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر ملا جائے۔ بس اس کے بعد غسل مکمل ہو گیا عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بڑا سب کے غسل کا یہی طریقہ ہے۔

**بیری کے پتوں اور کافور کے استعمال کی حکمت**

سنت یہ ہے کہ پانی میں بیری کے پتے جوش دے لئے جائیں۔ اگر نہ مل سکیں تو خالص پانی ہی کافی ہے اور گرم پانی سے غسل دینا افضل ہے۔ عام طور پر دستور یہ ہے کہ مردہ کو بیری کے پتوں سے جوش دیے ہوئے پانی سے نہلایا جاتا ہے کوتاہ نظر اور حقائق سے ناواقف نئے خیال کے لوگ اس بات پر ہنستے ہیں کہ بھلا اس میں کیا حکمت ہے؟ ایسے لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ جس طرح صابن سے بدن کا میل کٹتا ہے اور بدن صاف ہو جاتا ہے اسی طرح بیری کے پتے بھی میل کو کاٹتے اور بدن کو صاف کرتے ہیں۔ بیری کے پتے سہل الھصول ہیں اور ان پر کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا اس لئے رسول اللہ ﷺ کی لطافت و نظافت پسندی اور عقل جہاں ہیں بیری کے پتوں کو تجویز کیا ہے عقل و سمجھ والوں کی شریعت کی اس آسانی، بالغ نظری اور صفائی کی داد دینی چاہیے۔

اب کافور کو لیجئے سب جانتے ہیں کہ کافور موادِ دروہ کو دبانے والا ہے، چونکہ میت میں ایک قسم کی بساند پیدا ہو جاتی ہے اس لئے حضور ﷺ نے کمال حکمت کے ساتھ کافور کا استعمال ضروری قرار دیا تاکہ میت کو کچھ دیر کے لئے لعفن سے محفوظ رکھے۔

**غسل کے مسائل**

شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ ایامِ عدت ختم ہونے تک اس کا تعلق شوہر کے ساتھ باقی رہتا ہے۔

**مسئلہ:** اگر کوئی مرد مر جائے اور سوائے عورتوں کے اور کوئی مرد موجود نہ ہو یا عورت مر جائے اور مردوں کے سوا کوئی عورت موجود نہ ہو تو مردہ کو تیمم کرایا جائے۔ مگر عورت کو اس کے محرم مرد اور مرد کو اس کی محرم عورتیں تیمم کرائیں۔ اگر محرم موجود نہ ہو تو اجنبی شخص اپنے

ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر مردہ کو تیمم کرائے۔ اگر مردہ عورت ہو تو اس کی باہوں پر نظر نہ ڈالی جائے ہاں اگر مرد ہو اس کی باہوں پر نظر ڈالنا جائز ہے۔ (۱)

باقی ضروری یادداشتیں اور ہدایتیں یہ ہیں:

۱۔ جو بچہ مردہ ہو یا اس کے اعضاء ناقص ہوں اور ساقط ہو جائے تو اس کو بھی غسل دینا

چاہیے۔

۲۔ مردہ کے بال اور ناخن تراشنا جائز ہے۔ خواہ کسی جگہ کے بال ہوں۔ اگر اس ممانعت کے باوجود تراشے جائیں یا ٹوٹا ہوا ناخن علیحدہ کیا جائے تو مردہ کے کفن میں ہی ان چیزوں کو رکھ دینا چاہیے۔

۳۔ مردہ کے کان، ناک اور منہ وغیرہ میں روئی رکھنے کا کچھ حرج نہیں۔ مگر پیشاب و پاخانہ وغیرہ کے مقام پر نہ رکھی جائے۔

۴۔ اگر کوئی شخص ڈوب کر مر جائے تو اس کو بھی غسل دینا چاہیے۔ لیکن اگر پانی سے نکالتے وقت اسے غسل کی نیت سے ہچکولے دے لئے ہوں تو پھر دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مردہ بہت زیادہ سڑ گیا ہو، یہاں تک کہ اس کو ہاتھ لگانا بھی دشوار ہو تو اس پر صرف پانی بہا دینا کافی ہے۔

۵۔ اگر کسی کی نصف سے زائد لاش سر سمیت ملے تو اسے بھی غسل دینا چاہیے اور اگر نصف لاش بغیر سر کے ملے یا صرف سر ملے تو نہ غسل دیا جائے اور نہ اس پر نماز پڑھی جائے۔ ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا چاہیے۔

۶۔ اگر کوئی شخص جہاز میں مر جائے تو اس کو غسل و کفن دے کر اور نماز پڑھ کر روزنی چیز باندھ کر دریا میں ڈال دینا چاہیے۔

تنبیہ: غسل دینے والا نہ جب ہونا چاہیے، نہ حیض و نفاس والی عورت، اگر یہ غسل دے دیں تو مکروہ ہے ہاں بے وضو غسل دینے میں کوئی کراہت نہیں۔

ہدایت: اگر کوئی شخص کسی مردہ کا کوئی عیب یا عذاب کی علامت دیکھے۔ مثلاً مردہ کا منہ

سیاہ ہو جائے یا اس سے بدبو آنے لگے یا اس کا جنازہ بھاری پڑ جائے تو اس کا دوسروں سے ذکر نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے ایک مسلمان بھائی کی پردہ دہری اور خفت ہوتی ہے۔ حالانکہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مردہ بدعتی یا بدعتیہ اور لاندہب ہو یا شراب خور ہو یا زانی ہو یا مشرک ہو تو اس کی حالت ظاہر کر دینی چاہیے۔ تاکہ دوسرے مسلمانوں کو عبرت ہو اور اصلاح حال کی ان کے دلوں میں تحریک ہو اور اگر مردہ کی کوئی اچھی بات نظر آئے مثلاً چہرے پر نور چمکنے لگے اور قبر سے خوشبو آنے لگے تو اس کا ذکر کرنا مستحب ہے۔

### غسل کی اجرت

اگر نہلانے والے چند لوگ موجود ہوں اور ان میں سے ایک آدمی غسل دے تو اس صورت میں نہلانے کی اجرت لینا جائز ہے اور اگر نہلانے والا صرف ایک ہی شخص ہو اور اس پر نہلانا موقوف ہو تو اس صورت میں اجرت لینا جائز نہیں۔ بہر حال اجرت نہ لینا افضل ہے۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی میت کو تیمم کر دیا گیا اور دفن سے قبل پانی مل گیا تو پھر غسل دینا چاہیے یونہی دفن کر دینا جائز نہیں۔ چھوٹی بچی کا مردوں کو غسل دینا جائز ہے۔ اور چھوٹے بچہ کو عورتیں غسل دے سکتی ہیں۔

مذکور ذیل اشخاص کو غسل نہ دیا جائے

1- جس شخص نے ماں یا باپ کو قصداً قتل کیا ہو۔

2- جو شخص امام وقت سے باغی ہو جائے۔

3- جو شخص گلا گھونٹ کر لوگوں کو ہلاک کیا کرتا ہو۔

4- جو شخص راتوں کو ہتھیار باندھ کر ڈکیتی اور غارت گری کیا کرتا ہو۔

ان چاروں اشخاص کو غسل نہ دینے کا حکم تنبیہنا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ جو لوگ ان جرائم کے مرتکب ہوں ان کی یوں مٹی خراب ہوا کرتی ہے ان میں سے آخر الذکر دو شخصوں کو غسل نہ دینے کا حکم اس وقت ہے جب کہ وہ گرفتاری سے قبل لڑائی میں مارے جائیں اور گرفتاری کے بعد اپنی موت مریں تو پھر ان کو حسب دستور غسل و کفن دیا جائے گا اور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

## کفن کا بیان

مردہ کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ یعنی ایک شخص کے کفن دینے سے سب کے ذمہ سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بھی نہ دے تو سب کے سب ترک فرض کے مرتکب ہوں گے۔ اسی بناء پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی محلہ میں کوئی شخص مر جائے اور محلہ داروں میں اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ اس کو کفن دے سکیں تو اس کو مسلمانوں کے بیت المال سے کفن دینا چاہیے۔ اگر بیت المال نہ ہو، عام مسلمانوں سے چندہ کر کے کفن دیا جائے۔ اگر چندہ کر کے کسی کو کفن دیا جائے اور کفن دینے کے بعد کچھ رقم بچ رہے تو وہ اسی شخص کو واپس دے دینی چاہیے جس سے چندہ لیا گیا یا اور محتاج کے کفن میں صرف کر دیے جائیں۔ اگر ان صورتوں میں سے کسی صورت سے بھی کفن میسر نہ آئے تو جنازہ کے چاروں طرف لپیٹنا ممکن ہو یا جس قدر بھی میسر آسکے اتنا دے دے۔ اگر پورا کفن میسر نہ آئے اور مردہ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا رہے تو اس حصہ کو گھاس سے چھپا دینا چاہیے۔

## کفن کفایہ و مسنون

کفن کفایہ مرد کے لئے دو کپڑے ہیں۔ کفنی اور لپیٹنے کی چادر، صرف یہ دو کپڑے کافی ہیں اور عورت کے لئے تین کپڑے کافی ہیں کفنی، اوڑھنی اور لپیٹنے کی چادر۔ الغرض مرد کے لئے کفن کفایہ دو کپڑے اور عورت کے لئے تین کپڑے ہیں۔

مرد و عورت کے کفن کا فرق یہ ہے کہ مرد کی کفنی کا گریبان موٹھوں کی طرف ہونا چاہیے اور عورت کی کفنی کا گریبان سینہ کی طرف ہونا چاہیے۔

کفن مسنون مرد کے لئے تین کپڑے ہیں:

1- تہبند سر سے پاؤں تک۔

2- کفنی گردن سے پاؤں تک۔

3- چادر سر سے پاؤں تک۔

عورت کے لئے پانچ کپڑے مسنون ہیں تین کپڑے تو یہی جن کا اوپر بیان ہو اور دو



کپڑے ان سے ڈالیں:

1- اوڑھنی تقریباً دو گز کی۔

2- سینہ بند جو چھاتیوں سے رانوں تک ہونا چاہیے۔

نابالغ بچوں کو بالغ کی طرح کفن دینا چاہیے۔ ورنہ بچوں کے کفن کے لئے دو کپڑے یا

ایک ہی کپڑا کافی ہے۔

کفن بالعموم سفید ہونا چاہیے لیکن رنگ دار بھی دیا جاسکتا ہے جو کپڑا مردہ کو حالت زندگی میں پہننا درست ہے اس کا کفن بھی اس کے لئے جائز ہے مگر مرد و عورت سب کے لئے سفید کفن ہونا ہی بہتر و افضل ہے۔ عورتوں کو ریشمی اور رنگین کفن بھی دیا جاسکتا ہے۔

مرد کا کفن اس قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کا لباس وہ عید پر پہنا کرتا تھا اور عورت کا کفن اس قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کے کپڑے وہ زندگی کی حالت میں ماں باپ کے ہاں پہن کر جایا کرتی تھی۔

کفن پہنانے کا مسنون طریقہ

سب سے پہلے کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے پوٹ کی چادر بچھا کر اس پر تہ بند کی چادر بچھا دی جائے اس کے بعد قمیص یعنی کفتی جس کا گریبان چاک ہو پہنا کر لٹا دیں پھر اس کا بایاں پلہ لپیٹ کر دائیاں پلہ اس کے اوپر لپیٹا جائے آخر میں پوٹ کی چادر کا اول بایاں جانب اور پھر دائیاں جانب لپیٹا جائے یہ مردوں کو کفن پہنانے کا طریقہ ہے عورتوں کو کفن پہنانے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔

پہلے پوٹ کی چادر بچھا کر اس پر تہ بند کی چادر بچھا دی جائے پھر قمیص پہنائی جائے لیکن قمیص کا گریبان سینہ پر رہنا چاہیے۔ اس کے بالوں کے دو حصے کر کے دائیں بائیں سینہ پر کفن کے اوپر رکھ دیے جائیں پھر اوڑھنی اڑھائی جائے۔ اس کے بعد تہ بند کی چادر اور پوٹ کی چادر مذکورہ بالا طریقہ سے لپیٹ دی جائے۔ پھر سب کے اوپر سینہ بند باندھا جائے۔

## نماز جنازہ کا بیان

مسلمان کو غسل دینا، اس کی تجہیز و تکفین کرنی اور اس کی نماز پڑھنی یہ سب باتیں فرض کفایہ ہیں یعنی اگر ایک دو یا چند یہ فرض ادا کر لیں گے تو باقی سب مسلمانوں کے ذمہ سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔

جنازہ کی نماز میں جماعت شرط نہیں۔ پس اگر ایک مسلمان بھی جنازہ کی نماز پڑھ لے گا تو سب کے سب سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کی حقیقت کیا ہے؟ صرف دعا اور درود و تسبیح۔ اس کو نماز اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ ورنہ اس میں نہ قعدہ ہے اور نہ رکوع و سجود صرف قیام ہی قیام ہے۔

## صحت نماز کی شرط

صحت نماز کی صرف تین شرطیں ہیں:

۱۔ میت کا مسلمان ہونا۔

۲۔ اس کا پاک و صاف ہونا۔

۳۔ جنازہ کا سامنے موجود ہونا۔

ان تینوں امور کو ذرا تشریح و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

جنازہ کی نماز ہر اس مسلمان کی پڑھنی چاہیے جو پیدا ہونے کے بعد مرے خواہ بچہ ہو یا مرد یا عورت، آزاد ہو یا غلام، متقی ہو یا فاسق و فاجر اور نمازی ہو یا بے نماز الغرض جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اور مسلمان کہلاتا ہے۔ اس کے جنازہ کی نماز لازمی ہے اگر کسی مسلمان کو بغیر غسل و نماز کے دفن کر دیا گیا تو تین روز کے اندر اندر اس کی قبر پر نماز پڑھی جائے۔ اگر غسل سے پہلے نماز پڑھ لی گئی ہو تو دوبارہ غسل کے بعد پڑھنی چاہیے کیوں کہ میت کا غسل میت کی نماز کے لئے ضروری ہے۔ یعنی غسل دینا لازم ہے (عالمگیری)۔

حنفیہ کے نزدیک جنازہ کا سامنے موجود ہونا صحت نماز کی شرط ہے۔ پس ہمارے

نزدیک غائب شخص پر نماز پڑھنی درست نہیں۔

نماز جنازہ کے ارکان و فرائض

نماز جنازہ کے صرف دو رکن ہیں۔

۱۔ قیام: اگر کوئی شخص بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔

۲۔ چار تکبیریں چار رکعتوں کی قائم مقام ہیں اس کا واجب صرف ایک ہے اور وہ

ہے میت کے لئے دعا کرنا۔ اگر بچہ کا جنازہ ہو تو اپنے لئے دعا کی جاتی ہے۔

باقی رہیں سنتیں، سووہ دو ہیں؛

۱۔ ثناء و تسبیح  
۲۔ درود

یعنی نماز جنازہ کے فرائض دو ہیں۔ واجب ایک اور سنتیں دو ہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں الحمد پڑھنا بھی واجب ہے،

لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے نزدیک الحمد کا پڑھنا

واجب اور ضروری نہیں ہاں اگر بقصد ثناء پڑھ لے تو جائز ہے۔

نماز جنازہ کی شرائط میں اوپر جن امور کا ذکر ہوا ہے اب ان کو پھر اچھی طرح ذہن نشین

کر لینا چاہیے۔

۱۔ میت کا مسلمان ہونا۔ ۲۔ میت کا حقیقی اور حکمی نجاست سے پاک ہونا۔

۳۔ ستر عورت ۴۔ استقبال قبلہ

۵۔ نیت ۶۔ میت کا سامنے موجود ہونا

۷۔ میت کا زمین پر رکھا ہونا۔

غائب میت کی نماز رسول اللہ ﷺ کے مخصوصات میں تھی، دوسرے کیلئے جائز

نہیں۔

نماز جنازہ کا مسنون طریقہ

امام میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہو کر اس طرح نیت کرے۔ میں اللہ کی عبادت کے

لئے اس فرض کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہہ کر ہاتھ

باندھ لے۔ مقتدی تکبیر آہستہ آہستہ کہیں۔ تکبیر کے بعد امام اور مقتدی دونوں یہ ثناء پڑھیں:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى  
جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

پھر امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ آہستہ ہاتھ باندھے، تکبیر کہیں اور وہ درود پڑھیں جو نماز کے آخری قعدہ میں معمولاً پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بالغ مرد و عورت دونوں کی نماز کے لئے یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا  
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا۔ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَي  
الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَي الْإِيمَانِ

”یا اللہ! تو ہمارے زندوں کو بخش اور ہمارے مردوں کو اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو اور ہمارے حاضر شخصوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو۔ یا اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو ہم سے موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔“  
اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا  
شَافِعًا وَ مُشَفَّعًا

”اے اللہ! اس بچہ کو ہمارے لئے منزل پر آگے پہنچنے والا بنا۔ باعث اجر، آخرت کا ذخیرہ اور شفاعت کرنے والا بنا۔“

اگر نابالغ لڑکی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھیں:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ  
اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً (1)

”اگر کسی کو ان دعاؤں میں سے کوئی دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اگر یہ دعا بھی یاد نہ ہو، تو جو دعا یاد ہو وہی پڑھ سکتا ہے۔ (عالمگیری)

اس کے معنی یہ نہیں کہ مذکورہ بالا دعاؤں کو یاد نہ کیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوشش کے باوجود یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو پھر آسانی سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

ان دعاؤں میں سے حسبِ حال کو دعا پڑھ کر تکبیر کہیں اور دائیں بائیں سلام پھیر دیں دوسرا سلام بہ نسبت پہلے سلام کے کسی قدر آہستہ ہو۔

**مفسدات:** نماز جنازہ فاسد کرنے والے امور وہی ہیں جن سے فرائض پنجگانہ کی نمازیں فاسد ہوتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اگر جنازہ کی نماز میں مرد کے برابر عورت آکر کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔

**متفرق مسائل:** اگر جوتیاں پاک ہوں تو جوتیوں سمیت جنازہ کی نماز پڑھنی درست ہے اور اگر ناپاک ہوں تو اتار کر پڑھنی چاہیے۔ اگر ایک شخص پہلے سے جنازہ کی نماز کے وقت موجود تھا اور کسی وجہ سے تکبیر تحریمہ میں شریک نہ ہو سکا تو تکبیر ثانی کا انتظار کئے بغیر جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر تکبیر کہنے کے بعد آیا ہے تو اس صورت میں اسے دوسری تکبیر کہنے تک امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام دوسری تکبیر کہہ چکے اس وقت تکبیر کہہ کر یہ بھی شامل ہو جائے اور جس وقت امام نماز سے فارغ ہو اس وقت فوت شدہ تکبیر کو کہہ لینا چاہیے۔ یہی حکم دوسری اور تیسری تکبیر نہ ملنے کا ہے اور اگر کوئی شخص چوتھی تکبیر کے ختم ہونے کے بعد آیا ہو تو وہ فوراً جماعت میں شامل ہو جائے اور جب لوگ جنازہ کو اٹھائیں یہ تکبیریں پوری کرے اور دعائیں ترک کر دے (عالمگیری)۔

اگر امام دوسری یا تیسری تکبیر کے بعد بھولے سے سلام پھیر دے تو نماز پوری کرے، اس سہو سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

اگر بہت سے جنازے حاضر ہوں تو اختیار ہے چاہے ہر جنازہ کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھیں اور چاہے سب کی ایک ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر بہت سے جنازے آجائیں تو ترتیب وار رکھے جائیں۔ خواہ طول میں اس طرح رکھے جائیں کہ اس کے سر کی طرف دوسرے کے

پاؤں ہوں یا یکے بعد دیگرے قبلہ کی طرف رکھے جائیں۔ مگر امام کے سامنے سب سے اول مرد کا جنازہ ہو۔ اور اگر سب ہی مرد ہوں تو جو شخص حالت زندگی میں سب سے نیک اور صالح ہو اس کا جنازہ امام کے روبرو ہونا چاہیے۔

مسئلہ: جنازہ کے ہمراہ جس قدر آدمی ہوں ان میں سے کوئی شخص نماز ہونے سے قبل واپس نہ ہو۔ جب نماز جنازہ ہو چکے اور ولی اجازت دے دے تو دفن سے قبل لوگ جاسکتے ہیں۔ اگرچہ بغیر اجازت کے بھی لوگ جاسکتے ہیں۔ لیکن مناسب یہی ہے کہ ولی کی اجازت سے جائیں۔

مسجدوں میں نماز جنازہ مکروہ ہے

اس بات میں مذہب حنفیہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر مسجد میں نماز جنازہ ادا کر لی جائے تو نماز ہو جائے گی مگر بلا ضرورت مکروہ ہوگی۔ کس قسم کی مکروہ ہے؟ اس کے متعلق صحابہ کے دو قول ہیں۔ بعض فقہاء کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور بعض کے نزدیک تنزیہی۔ ابن الہمام رحمۃ اللہ علیہ نے قول ثانی کو مرجح کیا ہے۔ اب اس کراہت کی دلیل سنئے۔ سنن ابوداؤد اور ابن ماجہ میں ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ

”جس نے میت پر مسجد میں نماز پڑھی۔ اس کو کچھ ثواب نہیں ہے۔“

شمس الدین ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعانی ہدی خیر العباد میں تحریر کرتے ہیں:

لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدِيَةِ الرَّاقِبِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ

وانما كان يصلى على الجنائز خارج المسجد

”آنحضرت ﷺ مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ مسجد سے باہر ادا

فرماتے۔“

اسی واسطے اس کراہت کے ثبوت میں اور بہت سے آثار و اقوال ہیں جن کو درج کرنا موجب طوالت ہے۔ ہاں فقہاء کے دو چار اقوال نقل کرنے ضروری ہیں تاکہ یہ مسئلہ بقدر ضرورت واضح ہو جائے اور حنفی مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے سے احتراز کریں محیط میں ہے:

فَلَا تُقَامُ فِيهِ اِي فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَهَا اِلَّا لِعِذْرٍ  
 ”نہ ادا کی جائے مسجد میں سوائے نماز پنجگانہ وغیرہ کے مگر کسی عذر کے۔“  
 قدوری تجرید میں کہتے ہیں:

قال اصحابنا تکره الصلوة على الموتى في مسجد  
 الجماعة

”کہا ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہ مکروہ ہے نماز اموات پر مسجد جماعت میں۔“  
 اس قسم کے بے شمار دلائل سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ مسجدوں میں نماز جنازہ  
 مکروہ ہے حنفیوں کو اس امر کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ باقی اس کراہت پر جو اہل حدیث  
 اعتراضات کیا کرتے ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو خلاف حدیث بتلایا  
 کرتے ہیں وہ ان کی ناسمجھی اور کوتاہ فہمی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب احادیث  
 صحیحہ کے بالکل مطابق ہے۔ الغرض مسجدوں میں نماز جنازہ بلا عذر مکروہ ہے۔

### میت کو قبرستان میں لے جانے کا بیان

جو شخص میت کو چار پائی پر رکھے یا اس کو زمین سے اٹھائے تو اسے چاہیے کہ بسم اللہ کہے  
 پھر جنازہ کے اٹھانے میں دو چیزیں سنت ہیں۔ اصل سنت یہ ہے کہ چاروں پاؤں کو چار  
 آدمی پکڑ کر دس دس قدم چلیں اور کمال سنت یہ ہے کہ اٹھانے والا اول مردہ کے سر ہانے کے  
 دائیں پائے کو پکڑے اور اپنے بائیں کندھے پر رکھے اور پھر دوسرا آدمی پائنتی کے دائیں  
 پایہ کو اٹھا کر کندھے پر رکھے۔ پھر تیسرا آدمی مردہ کے سر ہانے کے بائیں پایہ کو اپنے داہنے  
 کندھے پر رکھے، پھر آخر میں پائنتی کے بائیں پایہ کو بائیں کندھے پر رکھے۔

تنبیہ: جنازہ کی چار پائی میں لکڑیاں وغیرہ باندھ کر دو شخصوں کو جنازہ اٹھانا مکروہ ہے  
 ہاں اس میں کچھ حرج نہیں کہ چار پائی کے پایہ کو کندھے پر رکھا جائے یا ہاتھ پر۔ البتہ یہ  
 مکروہ ہے کہ نصف پایہ کا دھسے پر ہو اور نصف گردن کے کنارہ پر۔

اگر جنازہ شیر خوار بچہ کا ہو یا بڑا ہو لیکن ہوشیار نہ ہو تو اس کو ہاتھوں پر بھی لے جایا جاسکتا  
 ہے۔ ورنہ کھنولی یا چار پائی لے جائیں۔

ہدایات: جنازہ کو گھر سے لے چلنے میں حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔ پھر ذرا تیز تیز لے جائیں، لیکن دوڑنا نہیں چاہیے چلنے میں سر ہانا آگے ہونا چاہیے جب قبرستان میں پہنچیں تو پہلے جنازہ کی چار پائی رکھی جائے۔ اس کے بعد لوگ بیٹھیں۔ شرکاء جنازہ آگے آگے نہ چلیں۔ ہاں اگر جنازہ سے زیادہ فاصلہ پر آگے چلیں تو درست ہے۔ جنازہ کے دائیں بائیں چلنا بہر صورت ناجائز ہے۔ راستہ میں اگر کلمہ طیبہ دل میں پڑھتے جائیں تو جائز ہے۔ اگر راستہ میں جنازہ جا رہا ہو تو شرکت کے ارادہ سے کھڑا ہو جانا جائز ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص جنازہ دیکھ کر ”اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ زِدْ إِيْمَانًا وَتَسْلِيمًا“ کہے گا تو اس کے کہنے کے دن سے قیامت تک ہر روز بیس نیکیاں اس کے لئے لکھی جائیں گی۔

### تدفین کا بیان

مردہ کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، بغلی اور غیر بغلی دونوں طرح کی قبر جائز ہے۔ مگر بغلی قبر بنانی مسنون ہے۔ قبر طول قدم آدم اور عرض میں نصف قدم آدم اور گہراؤ میں آدمی کے سینہ تک ہونی چاہیے۔ اگر قبر بغلی نہ ہو اور مٹی کے گر جانے کا اندیشہ ہو تو کچا گھڑا لگانا جائز ہے۔ پکی اینٹوں کی لحد بنانی یا کڑا لگانا خلاف اولیٰ ہے۔ ہاں اگر پختہ اینٹیں مردہ کے متصل یعنی دائیں بائیں اور پائنتی دسر ہانے نہ ہوں تو اس میں کچھ حرج نہیں۔

لوہے یا لکڑی کے تابوت میں مردہ کو رکھ کر دفن کرنا بلا ضرورت مکروہ ہے اور اگر ضرورت ہو تو اس صورت میں بھی مردہ کے نیچے مٹی بچھا دیں اور ارد گرد کچی اینٹیں لگا دیں اور تابوت کی چھت کو بھی مٹی سے لپ دیں تاکہ لحد کی شکل ہو جائے۔

قبر میں مردہ کے نیچے چٹائی یا گدا بچھانا جائز ہے۔ گھروں میں قبریں بنانی جائز نہیں، مردہ کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ جس زمین پر انتقال ہوا ہے وہاں اس کو دفن نہ کریں۔ اور نہ میت کو زمین پر رکھ کر چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کریں۔



## قبر میں اتارنے کا بیان

چنازہ کو قبر سے قبلہ کی طرف رکھ کر مردہ کو اتارنا مستحب ہے۔ قبر میں اتارنے والے نمازی پر ہیز گار اور قوی آدمی ہوں۔ عورت کو اتارنے والے اس کے محارم ہونے چاہئیں۔ غیروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دفن سے قبل شرکت کریں۔ اگر محارم نہ ہوں تو رشتہ دار ہوں اور رشتہ دار بھی نہ ہوں تو ان سے نزدیکی رشتہ دار اس خدمت کو انجام دیں۔ آوارہ گرد اور فاسق و فاجر لوگوں کو ہاتھ لگانے کا حکم نہیں۔

مردہ کو قبر میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتار دیں تو دائیں کروٹ پر قبلہ رخ لٹائیں اور اس وقت تینوں گریں کھول دیں۔ کچی اینٹیں بغلی قبر کے منہ پر لگا دیں اور ڈھیلوں وغیرہ سے ان کی درزیں بند کر دیں جب اس طرح قبر کا اندرونی حصہ مکمل ہو جائے۔ تو پھر وہی قبر سے نکلی ہوئی مٹی ڈال دیں اس سے زیادہ مٹی ڈالنی مکروہ ہے اور اگر ساری قبر ہو تو دائیں کروٹ سے قبلہ رخ کورکھ کر تینوں گریں کھول کر تختے دے دیے جائیں اور ڈھیلوں وغیرہ سے درزیں بند کر کے مٹی ڈال دی جائے۔

بعض لوگ صرف منہ کی بندش کھولتے ہیں اور بندشیں باقی رکھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تمام بندشیں کھولنی چاہئیں۔

جب قبر میں مردہ کو اتارنے لگیں تو اتارنے والا اور دوسرے لوگ کہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ (1)

”یعنی اس کو رکھتا ہوں اللہ کے نام اور اس کے حکم سے اور رسول خدا ﷺ کے

دین پر۔“

اگر میت عورت کی ہے تو اس وقت تک پردہ رکھیں جب تک اندر نہ اتار دی جائے۔ جب پٹاؤ سے فارغ ہو جائیں اور قبر پر مٹی ڈالنے لگیں تو ہر مٹی ڈالنے والا کہے: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور ایک لپ مٹی بھر کر ڈال دیں اور دوسری بار ڈالتے وقت کہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور تیسری بار ڈالتے وقت کہے، وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ سر کی طرف سے مٹی ڈالنی

مستحب ہے اس کے بعد قبر بنا دی جائے۔ (1)  
 قبر کو ہان نما ہونی چاہیے چورس نہ ہو۔ قبر کی اونچائی حنفیہ کے نزدیک ایک بالشت  
 چاہیے اور بیچ میں سے قبر کچی رہنی چاہیے۔ اگر قبر بنا دینے کے بعد اس پر پانی چھڑک دیا  
 جائے۔ جیسا کہ عام دستور ہے تو کچھ حرج نہیں۔  
 مسائل متفرقہ

اپنے لئے حالت زندگی میں قبر بنا رکھنی جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ ایک وقت میں ایک قبر  
 میں چند مردوں کو دفن کرنا جائز ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت جائز ہے بلکہ مسنون ہے اب  
 ان میں اگر مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو اول قبلہ کی طرف مرد کو رکھیں اس کے پیچھے عورت کو  
 اور اگر مرد ہی مرد ہوں تو جو زیادہ نیک اور متقی ہو اس کو قبلہ کی طرف رکھیں اور اس کے پیچھے  
 اوروں کو، ہاں اگر مردہ گل سر جائے تو پھر اس قبر میں دوسرے کو دفن کرنا یا اس جگہ کھیتی کرنی یا  
 عمارت بنانی جائز ہے (2) مستحب تو یہی کہ جس شہر میں آدمی مرے وہیں کے قبرستان میں  
 اس کو دفن کیا جائے، لیکن اگر ضرورت لاحق ہو تو دوسرے شہر میں بھی لے جانا جائز ہے۔ مگر  
 یہ جواز و اختیار اس وقت تک ہے جب تک مردہ کو دفن نہ کیا جائے۔ جب دفن بھی کر دیا تو  
 اب قبر کو اکھاڑ کر جنازہ نکال کر کسی دوسری جگہ لے جانا سوائے دو صورتوں کے قطعاً ناجائز  
 ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں:

- ۱۔ جس زمین میں مردہ کو دفن کیا گیا ہو وہ زمین غصب شدہ یعنی چھینی ہوئی ہو۔
  - ۲۔ کوئی دوسرا شخص جنازہ کے دفن ہونے کے بعد اس زمین کو بطور شفعہ کے لے لے۔
- ان دو صورتوں میں تو قبر اکھاڑ کر جنازہ لے جانا جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ (3)  
 دفن کرتے وقت اگر اتارنے والے کا کچھ مال قبر میں رہ جائے اور قبر بند کر دی تو قبر  
 کھود کر اس کو نکال لینا جائز ہے۔

قبرستان کی خشک لکڑی اور گھاس کا ثنا جائز ہے۔ البتہ تر لکڑی یا گھاس کا ثنا ناجائز ہے۔

حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبرستان میں جوتیاں پہنے ہوئے چلے جانا جائز ہے۔ اگر دفن کے بعد جانفطوں کو قبر کے پاس بٹھا کر قرآن پڑھوایا جائے اور اس کا ثواب مردہ کو پہنچایا جائے اس میں کچھ ہرج نہیں۔ (1)

جب میت کے دفن سے فارغ ہو جائے تو قبر کے پاس اس کا ولی حاضرین سے کہے کہ اللہ سے بخشش مانگو اور اپنے اس مرنے والے کے حق میں ثابت قدمی کی دعا کرو کہ وہ منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہے ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر شروع بقر سے مفلحون تک پڑھے۔ پھر پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر اسی سورۃ کا آخری رکوع امن الرسول سے آخر تک پڑھے۔

### زیارۃ القبور

حضور سرور کائنات ﷺ نے ابتدائے اسلام میں زیارت قبور سے منع فرمایا تھا اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ زیارت قبور کے متعلق مشرکین میں بعض غلط رواج تھے۔ احتمال تھا کہ کہیں مسلمان بھی ان بے ہودہ رسم و رواج میں مبتلا نہ ہو جائیں جب یہ احتمال جاتا رہا اور حضور ﷺ نے دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا ہے تو پھر آپ نے زیارت قبور کی اجازت دے دی۔ اس بناء پر قبروں کی زیارت کرنا مستحب ٹھہرا کیونکہ اس سے غافل و مدہوش انسان کا دل نرم ہوتا ہے، موت یاد آتی ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ دنیا فانی ہے مجھے تو شہ آخرت جمع کرنے کا بھی فکر و اہتمام کرنا چاہیے۔

اس باب میں علماء نے اختلاف کیا کہ آیا عورتوں کے حق میں ممانعت باقی ہے یا نہیں۔ ان کو زیارت قبور کی اجازت ہوگی یا وہ پہلے ہی حکم میں شامل ہیں؟ اس سلسلہ میں صحیح مسلک یہ ہے کہ اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے۔

### زیارت قبور کا طریقہ

جب کوئی شخص قبروں کی زیارت کو جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ  
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ  
وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ بِكُمْ لِأَحْقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ  
وَالْمُسْتَأْخِرِينَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا  
وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ

”سلام ہو تم پر، اے قبر والو! مسلمین، مسلمات، مومنین اور مومنات پر۔ تم ہم سے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں اور اگر خدا نے چاہا تمہارے ساتھ ملیں گے۔ اللہ رحم کرے ہم میں سے انگوں پر اور پچھلوں پر، میں اللہ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت مانگتا ہوں۔ خدا ہم کو اور تم کو بخشے اور رحم کرے اللہ ہم پر اور تم پر۔“  
اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو سکے تو صرف یہ پڑھ لے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ  
لِأَحْقُونَ (1)

”یعنی سلام ہو تم پر اے مومن قوم کے گھر والو! اگر خدا نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ ملیں گے۔“

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص الحمد شریف، قل ہو اللہ اور سورہ تکاثر پڑھ کر مردوں کو ان کا ثواب بخشے گا۔ مردے قیامت کے روز اس کے لئے شفیق ہوں گے۔ سورہ یسین پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب بخشے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اس کو بھی مردوں کے شمار کے موافق ثواب ملتا ہے۔

**ضروری ہدایات:** ابن ہمام کہتے ہیں کہ قبروں پر بیٹھنا اور ان کو روندنا منع ہے۔ قبر سے تکیہ لگا کر بیٹھنا بھی منع ہے۔ قبر کھودنے کی غرض سے دوسری قبروں پر پاؤں رکھ کر کام کیا جاسکتا ہے۔ قبر کے نزدیک سونا مکروہ ہے اور قبر کے پاس استنجا کرنا بھی مکروہ ہے۔ مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر تو یہ

ہے کہ آگ پر بیٹھ جائے۔

نیز قبرستان میں فضول بکواس کرنا، بے فائدہ دنیوی کلام کرنا، حقہ پینا، چلانا، پکارنا، ہنسنا، ٹھٹھے مارنا، کھانا پینا، لین دین اور خرید و فروخت کرنا اور سونا ناجائز امور ہیں۔ ان سے احتراز کرنا چاہیے بلکہ وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کل تک یہ ہماری طرح زندہ اور جاہ و حشمت والے تھے۔ مگر آج زیر خاک مدفون، بے بس ہیں، قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری میں مقید ہیں۔ نہ کوئی یار و مددگار ہے نہ مونس و غمخوار، اگر کوئی ساتھ دینے والی چیز ہے تو صرف نیک اعمال۔ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں آنا ہے اور ہر شے فانی ہے اور دنیا ایک جھوٹی کہانی ہے۔ اللہ بس باقی ہوں۔

### سوگ و تعزیت

اعزہ واقربا کو تین دن سے زائد سوگ کرنا حرام ہے۔ ہاں عورت پر اپنے شوہر کے ایام عدت تک سوگ کرنا جائز ہے۔ باقی منہ نوچنا، کالے کپڑے پہننا اور بین کرنا تو بہر حال سخت منع ہے، اعزہ واقرباء سے اظہار ہمدردی کرنا اس کو تسلی و دلاسا دینا اور اس طرح ایک بار تعزیت کرنی مستحب ہے بلکہ مسنون ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ماتم پرستی کرنے والا قیامت کے روز عذاب کا سزاوار ہوگا۔ تعزیت کرنے والے کو حسب ذیل کلمات کہنے چاہئیں:

عَظَّمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ جَزَائِكَ وَغَفَرَ مِيتَكَ (1)

”یعنی اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور اچھی جزا دے اور تمہاری میت کو بخشنے۔“

### ایصال ثواب

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ مردہ پر پہلی رات سے زیادہ سخت اور کوئی رات نہیں آتی، سو تم اپنے مردوں پر خیرات کر کے رحم کرو۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں ایصال ثواب کی ترغیب و تحریریں دلائی گئی ہیں۔ ایصال ثواب میں کسی کو اختلاف نہیں

ہے۔ الغرض مردہ کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانا یا کھانا کھلا کر اس کا ثواب بخشنا، بہر حال مستحسن اور جائز فعل ہے۔ مگر یہ چیز حد و شریعت میں رہنی چاہیے۔

مستحقوں کو گھر پر دینا اور اس کا ثواب مردہ کو پہنچانا ہر طرح درست ہے۔ خواہ گھر پر ہو یا قبرستان میں، ایران میں ہو یا ہندوستان میں اور مشرق میں ہو یا مغرب میں، پہلے دن ہو یا دوسرے تیسرے دن، بیسیویں دن ہو یا چالیسیویں دن اور سال میں ہو یا دو سال میں۔

خلاصہ یہ کہ ایصالِ ثواب بغیر تخصیصِ اوقات کے ہر طرح جائز ہے اور مردہ کو ثواب پہنچتا ہے۔

### شہید کا بیان

شہید وہ ہے جو ملک و ملت اور اشاعتِ دین کے لئے خدا کی راہ میں مارا جائے یعنی خوشنودی باری تعالیٰ کے لئے اس نے اپنی جان عزیز قربان کر دی ہو۔

شہادت کی دو قسمیں ہیں:

شہادتِ کاملہ

شہادتِ ناقصہ

شہادتِ کاملہ یہ ہے کہ انسان ایثار و فداکاری اور رضائے الہی کے جذبہ کے ماتحت حق و حریت کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان کر دے اور مذکورہ ذیل صورتوں میں شہادتِ ناقصہ حاصل ہوتی ہے:

۱۔ جو شخص لڑائی میں دشمن کو مارنے کا قصد کر رہا ہو، حق پر بھی ہو اور دھوکا سے خود اپنے ہاتھ سے مر جائے۔

۲۔ جو شخص پانی میں ڈوب کر مر جائے بشرطیکہ قصدِ آنہ ڈوبا ہو۔

۳۔ جو شخص دیوار یا چھت یا درخت وغیرہ سے گر کر مر جائے۔

۴۔ جو شخص جل کر مر جائے۔

۵۔ جو شخص سفر میں مر جائے۔

۶۔ دستوں یا استقام سے مرنے والا۔

۷۔ طاعون یا ہیضہ سے مرنے والا۔

- ۸۔ سل کی بیماری سے مرنے والا۔
  - ۹۔ مرگی کی بیماری سے مرنے والا۔
  - ۱۰۔ نمونیا سے مرنے والا۔
  - ۱۱۔ اپنے گھر کی حفاظت میں مرنے والا۔
  - ۱۲۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔
  - ۱۳۔ اپنی جان بچانے کی حالت میں مرنے والا۔
  - ۱۴۔ عشق صادق میں مرنے والا۔
  - ۱۵۔ سچ بولنے والا سوداگر۔
  - ۱۶۔ اذان دینے والا۔
  - ۱۷۔ سانپ بچھو کے کاٹنے سے مرنے والا۔
  - ۱۸۔ علم شرعی کی طلب میں مرنے والا۔
- ان سب مرنے والوں کو شہادت ناقصہ حاصل ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حسب ذیل  
شخصوں کو بھی شہادت ناقصہ حاصل ہوتی ہے:
- ۱۹۔ سواری سے گر کر مرجانے والا۔
  - ۲۰۔ رات کو باطہارت سونے والا۔
  - ۲۱۔ فتنہ و فساد اور بے دینی کے زمانہ میں سنت نبویہ پر قائم رہ جانے کی وجہ سے  
مارے جانے والا۔
  - ۲۲۔ زہر سے مرنے والا۔
  - ۲۳۔ حالت حمل میں مرجانے والی عورت۔
  - ۲۴۔ وضع حمل یا نفاس کی حالت میں مرجانے والی عورت۔
  - ۲۵۔ اپنی عزت کو بچانے کے لئے جان تک دے دینے والی عورت۔
  - ۲۶۔ ظالم کے ظلم سے مرجانے والا۔
  - ۲۷۔ سچے دل سے دعائے مانگنے والا۔

یہ سب شہیدِ اخروی ہیں مگر خلوص نیت شرط ہے۔ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اگر نیت خالص ہوگی اور رضائے الہی کی ہر وقت طلب و جستجو ہوگی تو انشاء اللہ یہ درجہ شہادت نصیب ہوگا۔

### شہیدِ کامل

اصطلاح شرع میں شہید وہ جان نثار مسلمان عاقل اور بالغ ہے جو بحالت طہارت کسی کافر، رہزن یا دشمن کے ہاتھ سے بصورتِ مقابلہ یا غیر مقابلہ کسی طریقہ سے ظلماً مارا جائے خواہ آلہ جارحہ سے اسے قتل کیا گیا ہو یا آگ میں جلادیا گیا ہو، یا پانی میں ڈبو کر جان لی ہو یا اور کسی طریقہ سے ظلماً مارا گیا ہو۔

مذکورہ بالا شہادت ناقصہ کی صورت میں شہید ناقص پر دنیوی احکام شہادت جاری نہ ہوں گے یعنی اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ ہاں آخرت میں اسے شہادت کا درجہ اور ثواب ملے گا۔

شہادتِ کاملہ کی صورت میں شہیدِ کامل کو غسل نہ دیا جائے گا۔ مگر اس کی نماز پڑھی جائے گی۔ ویسے ہی خون آلود کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر اس کے کپڑوں میں نجاست لگی ہو تو اس کو دھو دیا جائے اور جو چیز جنس کفن سے نہ ہو اس کو بھی اس کے بدن سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یعنی جو کپڑا کم ہو وہ پورا کر دیا جائے۔ مگر یاد رہے کہ یہ احکام اس شہید کے لئے جو میدانِ جنگ میں زخمی ہونے کے بعد منافعِ حیات سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکا ہو، نہ کچھ کلام کر سکا، نہ کچھ کھاپی سکا ہو اور نہ علاجِ معالجہ کرنا ممکن ہو، نیز زخمی ہونے کے بعد ایک نماز کے پورے وقت تک زندہ نہ رہا ہو۔

باقی وہ شخص جس نے منافعِ حیات میں سے کوئی فائدہ حاصل کر لیا ہو۔ مثلاً کچھ کھاپی لیا ہو، علاجِ معالجہ کیا ہو، یا میدانِ جنگ سے اسے زندہ اٹھا کر لایا گیا ہو اور ہوش و حواس اس کے اتنی دیر تک درست رہے ہوں، جتنی دیر تک ایک نماز کا وقت گزر جائے گا، یا خرید و فروخت کی ہو، یا دنیوی باتیں کی ہوں، تو ان سب صورتوں میں شہید کو غسل و کفن دیا جائے گا۔ مگر ثوابِ شہیدِ کامل ہی کا پورا پورا حاصل ہوگا۔



## وصیت کرنے کا بیان

وصیت کرنا مستحب ہے۔ مرنے والے کو مرنے سے قبل اختیار ہے کہ اپنا ثلث مال کسی کو یہ کہہ کر دے دے کہ میرے مرنے کے بعد تم اتنا مال لینا، بعد اس کے مرنے کے اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ عزیز و اقارب اور دوست و اجنبی سب کو وصیت کرنا صحیح ہے۔ اگر میت کا بچہ حالت حمل میں ہو تو اس کے لئے وصیت کرنا بھی صحیح ہے لیکن وصیت کا اجراء اس وقت مکمل سمجھا جائے گا۔ جس وقت وہ شخص جس کے لئے مال کی وصیت کی ہے وہ اسے قبول بھی کر لے۔ اگر قبول کرنے سے قبل یہ شخص خود ہی مر گیا تو اب اس کے وارثوں کو میت کا وصیت کردہ مال نہ دیا جائے گا۔ مثلاً زید نے مرتے وقت وصیت کی کہ عمر کو اتنا مال دے دینا اور عمر قبول کرنے سے پہلے مر گیا تو اب عمر کے وارثوں کو یہ مال نہیں مل سکتا۔

میت کو اختیار ہے کہ اپنی وصیت سے قولاً یا فعلاً رجوع کرے۔ مثلاً یہ کہہ دے کہ میں نے پہلے وصیت کی تھی۔ اس کو حالت زندگی میں فروخت کر دیا یا کسی اور کو ہبہ کر دیا۔ تو ان سب صورتوں میں وصیت کا اجراء نہ کیا جائے۔ مذکورہ ذیل اشخاص وصیت نہیں کر سکتے۔

- ۱۔ وہ مقروض جس کا مال قرض کی رقم سے زائد نہ ہو۔

۲۔ بچہ

۳۔ مکاتب غلام

۴۔ مجنون آدمی

اگر یہ لوگ وصیت کریں گے تو اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص حالت زندگی میں ہی وصیت کر کے انکار کر دے اور کہہ دے کہ میں نے وصیت نہیں کی تو یہ انکار معتبر نہیں۔ ہاں وصیت سے انکار اور وصیت کو فسخ کر دینا معتبر ہے (شرح وقایہ، شامی)۔

## سلام کرنے کا بیان

بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام کرے تو اس طرح کہے: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" یعنی تم پر سلامتی ہو۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس بناء پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی محافظت تمہارے ساتھ رہے، یا تم سب آفات و بلیات سے سلامت رہو۔ سلام میں جمع کی ضمیر اس لئے رکھی گئی ہے کہ محافظ فرشتوں پر بھی سلام ہو جائے۔

سلام کرنا سنت ہے۔ مگر یہ سنت الہی اتنی موکدہ اور اہم ہے کہ فرض سے بھی افضل ہے اور سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے یعنی اگر کسی مجلس میں بہت سے آدمی بیٹھے ہوں اور کوئی شخص آ کر سلام کرے تو اس کا جواب اس مجلس میں سے ایک مسلمان بھی دے دے گا تو سب کی طرف سے کافی ہے اوروں کے ذمہ سے اس کا جواب اتر جائے گا اور مجلس میں سے ایک بھی جواب نہ دے گا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔

## سلام کرنے کی فضیلت اور ثواب

ایک شخص نے حضور سرور کائنات ﷺ سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی خصلتیں باقی خصلتوں سے بہتر ہیں؟ حضور ﷺ نے جواب دیا: بھوکوں کا کھانا کھلانا اور تیرا ہر شخص کو سلام کرنا جس کو تو پہچانے یا نہ پہچانے۔ یعنی اسلام کی تمام خصلتوں سے بہتر وہ خصلتیں ہیں۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔

نیز فرمایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کریں اس کو آپ نے دخول جنت کا باعث بتلایا ہے۔

ابوداؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی ملائے تو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ہر ایک کے عوض دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی فقط السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملیں گی۔ اگر ورحمۃ اللہ بھی کہا تو بیس اور اگر وبرکاتہ بھی کہا تو تیس۔

السلام علیکم کا جواب یہ ہے: وعلیکم السلام۔ اس کے ساتھ بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بڑھانا ثواب کی زیادتی کا باعث ہے جو کسی کی طرف سے کسی کو سلام پہنچائے تو اس پر بھی سلام پہنچانا مستحب واولیٰ ہے۔

وہ لوگ جن کو سلام کرنا مکروہ ہے

۱۔ نماز پڑھتا ہوا۔

۲۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا

۳۔ وعظ یا ذکر الہی میں مشغول یا جو قرآن و حدیث اور وعظ کو کان لگا کر سن رہا ہو

۴۔ جو شخص حدیث یا خطبہ پڑھنے میں مصروف ہو

۵۔ اس قاضی یا حاکم کو جو فیصلہ کرنے کے لئے مسند پر بیٹھا ہو

۶۔ وہ شخص جو مسائل شرعی کے متعلق گفتگو کر رہا ہو

۷۔ مؤذن جو اذان دے رہا ہو

۸۔ جو شخص تکبیر کہہ رہا ہو

۹۔ جو علم دین میں مشغول ہو

۱۰۔ جو ان عورتوں کو

۱۱۔ ان لوگوں کو جو شطرنج وغیرہ کھیل رہے ہوں اور کسی ناجائز لہو و لعب میں منہمک

ہوں۔

۱۲۔ باجہ بجانے والے، گانے والے شراب پینے والے، جو ا کھینے والے، غیبت

کرنے والے اور کبوتر اڑانے والے کو۔

۱۳۔ کافر کو

۱۴۔ برہنہ آدمی کو

۱۵۔ پیشاب و پاخانہ یا استنجا کرنے والے کو

۱۶۔ وہ بوڑھا شخص جو مسخرہ ہو اور مذاق اڑاتا ہو

۱۷۔ اس شخص کو جو کھانا کھا رہا ہو

۱۸۔ جھوٹے کو

۱۹۔ گالیاں بکنے والے کو

۲۰۔ عیب چیں کو

ان تمام اشخاص کو سلام کرنا مکروہ ہے ان کے علاوہ اور سب کو سلام کرنا مستنون اور

ثواب ہے۔

وہ لوگ جن پر جواب دینا واجب نہیں

۱۔ اگر کوئی شخص بجائے السلام علیکم یا سلام علیکم کے کچھ اور کہے تو جواب دینا واجب

نہیں۔

۲۔ جو شخص نماز میں مصروف ہو۔

۳۔ تلاوت قرآن یا ذکر الہی یا خطبہ یا تکبیر اور یا اذان دینے میں مشغول ہو۔

۴۔ اگر پیشاب یا پاخانہ میں مصروف ہو، تو ان سب کا جواب دینا واجب نہیں۔

علاوہ ازیں لڑکے پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ جو ان عورت پر سلام کا جواب

واجب نہیں، دیوانہ پر بھی واجب نہیں، نیز اونگھنے والے پر، مغمی علیہ پر یا اس شخص پر جو نشہ

سے سرمست ہو۔ ان سب لوگوں پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔

۵۔ اگر کوئی ان میں سے کسی کو سلام کرے اور یہ لوگ جواب نہ دیں تو گناہ گار نہیں۔

## بعض خاص سورتوں کے اجر و ثواب

نوافل اور بعض خاص خاص نمازوں میں بعض خاص سورتوں کے بڑے بڑے اجر و ثواب بیان ہوتے ہیں۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تفصیل کے ساتھ ان کے اجر و ثواب لکھ دیں۔ تاکہ سعادت مندوں کو ترغیب و تحریص دلائیں۔

### سورۃ فاتحہ کی فضیلت

یہ سورۃ مبارکہ قرآن شریف کی پہلی سورۃ ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیونکہ قرآن کی ابتداء اس سے ہے اس کا نام ام الكتاب بھی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک کی تمام تعلیمات کا عطر و خلاصہ اس میں موجود ہے۔ اس سورت میں ہدایت پانے اور دارین کی کامرانی و فائز المرامی حاصل کرنے کے لئے ایک جامع و مانع دعا سکھائی گئی ہے تاکہ بندوں کو یہ معلوم ہو کہ فیوض ربانی و برکات سماوی حاصل کرنے کے لئے دعا کرنا مقدم اور ضروری ہے۔

اس سورۃ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر عقل انسانی وجد میں آجاتی ہے، چنانچہ اس کو **الْحَمْدُ لِلّٰہ** سے شروع کیا گیا ہے۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت روح کے جوش، طبیعت کی کشش اور عشق و محبت کے جذبہ کے ماتحت ہونی چاہیے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰہ** کے معنی یہ ہیں کہ جمیع اقسام و انواع کی حمد و تعریف اس ذات کے لئے مسلم اور سزاوار ہے جس کا نام اللہ ہے اور کامل خوبیوں کا جامع ہے۔ کامل تعریف دو قسم کی خوبیوں کے لئے ہوتی ہے۔

۱۔ کمال حسن

۲۔ کمال احسان

اگر کسی میں یہ دونوں خوبیاں جمع ہوں تو پھر اس کی طرف دل خود بخود کھینچتا ہے اور روح اسی کے آستانہ پر سجدہ ریز ہوتی ہے قرآن مبین کی تعلیم کا سب سے بڑا کمال اور خوبی یہ ہے کہ یہ حق و صداقت کے طالب علموں پر جس خدائے قدوس کو پیش کرتا ہے، اس کی یہی

دونوں خوبیاں بیان کرتا ہے تاکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف لوگوں کے قلوب جھکیں اور روح کے جوش و کشش کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی کریں۔ اس مقصد و مطلوب کا خدا تعالیٰ نے اس پہلی سورۃ میں ہی ایک نہایت لطیف نقشہ پیش کیا ہے۔ یہ سورۃ بتلاتی ہے کہ وہ خدا جس کی طرف قرآن بنی نوع انسان کو بلاتا ہے۔ وہ کیسی کیسی خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس سورۃ مقدسہ میں کمال حسن اور کمال احسان دونوں قسم کی خوبیوں کو ایک لطیف اور روح پرور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی سے اس سورۃ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے۔

ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ﷺ میں نے آپ کی امت کی ایک ایسی مبارک سورۃ کے ساتھ تعظیم و تکریم کی ہے جو آسمانی کتابوں میں سے کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے جو اسے دلی عقیدت مندی کے ساتھ پڑھے گا۔ میں اس کے جسم کو آتش دوزخ پر حرام کر دوں گا۔

حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ فاتحہ تورات و انجیل میں اتاری جاتی تو اہل تورات و انجیل کبھی یہود و نصرانی نہ بنتے۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فاتحہ کا پہلا حصہ نعت اور بیچ کا حصہ تعظیم و توقیر ہے۔ یعنی خدا کی بزرگی و بندگی کو شامل ہے اور اس کے آخری حصہ میں خدا تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سورۃ میں تمام ظاہری و باطنی بیماریوں کی شفاء ہے۔ یعنی یہ روحانی و جسمانی امراض کی معالج ہے۔ مثلاً ایاک نعبد سے ریا و نمود سے شفاء حاصل ہوتی ہے۔ وایاک نستعین میں کبر و نخوت اور خود پسندی کا علاج ہے۔

چنانچہ ایک صحیح اور مشہور حدیث میں بھی آیا ہے:

الْفَاتِحَةُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سَقِيمٍ

”سورہ فاتحہ ہر روگ و بیماری سے شفاء دینے والی ہے“۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ

فاتحہ کی پہلی آیت میں اسم اعظم ہے۔

## آیت الکرسی کے فوائد

حدیث شریف میں آیا ہے جسے یہ بات بھلی معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ اس کے گھر کو بھلائی اور خیر کثیر سے بھر دے تو اسے چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کا ورد رکھے۔ جو شخص اس کو با وضو ایک مرتبہ پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے چالیس درجے بلند کرے گا اور ہر حرف سے ایک ایک فرشہ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے لئے بخشش کی دعا مانگیں گے۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے لئے صبح تک رحمت کے دروازے کھول دے گا اور اس کے بدن کے ہر ہر بال کی گنتی کی مقدار نور کا ایک شہر عنایت کرے گا۔ اگر یہ شخص اس رات کو مر جائے گا تو شہید مرے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص غروب آفتاب کے وقت چالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھے خدا تعالیٰ اس کو چالیس حج کا ثواب دے گا۔

نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا ورد رکھے گا۔ وہ بھگ الموت کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی روح قبض کرے گا اور یہ شخص ان لوگوں کے درجہ میں شمار ہوگا جو خدا کے مقدس پیغمبروں کے ہمراہ جہاد میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے۔

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے ہزار دنیاوی رنج و مصیبتیں دور کر دیتا ہے جن میں سے کمتر فقر و محتاجی کی مصیبت ہوتی ہے اور ہزار ہی اخروی مصیبتیں ٹال دیتا ہے جن میں سب سے کم درجہ دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔

نسفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے محمد ﷺ سرکش جنوں میں سے ایک بڑا بھاری جن آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کر اس کے شر کو دفع کریں۔

نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔

## سورہ یاسین کے فضائل

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اس سورہ مقدسہ کو ایک دفعہ پڑھے گا۔ خدا تعالیٰ اس کے عوض دس دس قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ (1)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا: اے علی! اکثر اوقات سورہ یسین پڑھا کر کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس میں دس برکتیں رکھی ہیں:

۱۔ جو بھوکا آدمی اسے پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کا پیٹ بھر دے گا۔

۲۔ پیاسا پڑھے گا تو سیراب کر دے گا۔

۳۔ ننگا پڑھتا ہے تو اسے غیب سے لباس پہنایا جاتا ہے۔

۴۔ جو شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔

۵۔ خائف پڑھتا ہے تو ڈر اور بے باک ہو جاتا ہے۔

۶۔ قیدی پڑھتا ہے تو قید سے نجات حاصل کرتا ہے۔

۷۔ مسافر پڑھتا ہے تو سفر میں مدد دی جاتی ہے۔

۸۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو تو اس کی برکت سے مل جاتی ہے۔

۹۔ بیمار اور مریض پڑھتا ہے مرض سے شفا پاتا ہے۔

طبرانی میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ یسین پر ہمیشگی کرے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔

## سورہ دخان اور سورہ ملک کے فضائل

ترمذی کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی شب کو سورہ دخان پڑھے گا اس کے لئے ستر فرشتے صبح تک استغفار کرتے رہیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ قرآن مقدس میں تین آیتوں کی ایک سورہ ہے۔ اس نے ایک آدمی کے لئے شفاعت کی، یہاں



تک کہ اسے بخشوا دیا۔ وہ سورہ تَبَارَكَ الَّذِي ہے۔ (۱)  
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کتاب اللہ میں  
 تیس آیتوں کی ایک سورہ ہے جو شخص اسے سوتے وقت پڑھتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لئے  
 تیس نیکیاں لکھتا ہے، تیس برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے لئے خاص طور پر ایک فرشتے کو  
 مقرر فرماتا ہے وہ اپنے پروں کا سایہ کئے رہتا اور ہر آفت و مصیبت سے بچائے رہتا ہے۔  
 حضور ﷺ فرماتے ہیں: سورہ تَبَارَكَ الَّذِي ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔  
 (حاکم)

### سورہ اخلاص کی تفسیر اور فضائل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۙ

الصَّمَدُ ۙ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُولَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۙ

”کہہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ ایسا معبود ہے نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ  
 وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی کفو نہیں یعنی مثیل نہیں۔“

جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی سورہ بے شمار حقائق و معارف کا خزینہ ہے۔ اس  
 میں توحید کامل کا نہایت ہی بلند اور اعلیٰ تخیل پیش کیا گیا ہے۔ اگر مسلمان اپنے اندر توحید  
 کامل کا یہی جذبہ پیدا کر لیں جو اس کے اندر موجزن ہے تو وہ بھی صحابہ کی طرح کائنات  
 ارضی و سماوی کے مالک بن سکتے ہیں۔

ذرا غور کرو کس لطافت، عمدگی اور بلاغت کے ساتھ ہر قسم کی شراکت سے وجود باری  
 عز اسمہ کا منزه ہونا بیان فرمایا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شرکت از روئے حصر عقل  
 چار قسم پر منقسم ہے:

۱۔ کبھی شرکت عدد میں ہوتی ہے۔

۲۔ کبھی مرتبہ میں۔

۳۔ کبھی نسبت میں۔

۴۔ کبھی فعل و تاثیر میں۔

انہی چاروں قسموں کی شرکت سے خدا تعالیٰ کا پاک و منزہ ہونا بیان فرمایا ہے۔ یعنی وہ عدد میں ایک ہے، دو یا تین نہیں وہ احد ہے۔ وہ مرتبہ، وجود اور محتاج الیہ ہونے میں بھی منفرد و یگانہ ہے کیونکہ وہ احد ہے۔ بجز اس کے اور باقی تمام چیزیں ممکن الوجود اور ہالک الذات ہیں۔ جو اس کی طرف ہر دم محتاج ہیں وہ لَمْ یَلِدْ ہے یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تاکہ کوئی بوجہ بیٹا ہونے کے اس کا شریک ٹھہرے اور وہ وَلَمْ یُولَدْ بھی ہے یعنی اس کا کوئی باپ نہیں کہ بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک ہو اور وہ وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں تاکہ باعتبار فعل و تاثیر کوئی اس کا شریک قرار نہ پائے۔

حاصل یہ ہے کہ وہ ہر طرح اور ہر اعتبار سے شرکت سے منزہ اور وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہے وہ توحید کاملہ کا درس و تخیل جو اس چھوٹی سی سورۃ میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تو سورۃ اخلاص کا مختصر مفہوم و مفاد تھا۔ اب اس کے فضائل سنئے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ نے ایک شخص کو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: واجب ہوگئی۔ میں نے عرض کیا: اے خدا کے حبیب! کیا چیز واجب ہوگئی؟ فرمایا: جنت (1)۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سورۃ کا پڑھنے والا جنت کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گناہ محو کر دیے جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص سورۃ اخلاص چار رکعتوں میں بائیں طور پڑھے کہ ہر رکعت میں اس کو 25، 25 دفعہ پڑھے تو اس کے سو برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پچاس برس کے بچھلے اور پچاس برس کے اگلے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا: جو شخص ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو خاص اسی کے لئے آسمان سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جو شخص دو دفعہ پڑھے تو اس پر اور اس کے تمام گھر والوں پر خیر و برکت اترتی ہے

اور جو شخص تین مرتبہ پڑھے تو اس پر اس کے گھر والوں پر اور پڑوسیوں پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور کم رزقی کی شکایت کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تو اپنے گھر آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر اور سورہ اخلاص پڑھا کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ اس پر اور اس کے پڑوسیوں پر بھی اہتمام درجہ کی ترقی ہوئی۔

اس سورہ کے پڑھنے کا ثواب اس قدر ہے جس قدر تہائی قرآن مجید پڑھنے کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک ٹکٹ میں احکام ہیں۔ ایک ٹکٹ میں ترغیب و ترہیب اور وعدہ و وعید اور تیسرے ٹکٹ میں خدا تعالیٰ کے اسما و صفات کا بیان ہے اور یہی تینوں باتیں اس سورہ میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے سورہ اخلاص پڑھی۔ اس نے گویا تہائی قرآن مجید پڑھا۔

### سورہ کافرون اور معوذتین کے فضائل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جیسی سورہ کافرون شیطان کو سخت غصہ میں ڈالنے والی سورہ ہے ویسی اور کوئی سورہ نہیں۔ کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری اور توحید کا حکم ہے اور یہی چیز شیطان کو آگ کے انگاروں پر لوٹانے والی ہے۔

ایک شخص نے سرور کائنات ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضور! ﷺ مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ سورہ کافرون پڑھا کرو کیونکہ وہ آدمی کو شرک سے بری کرتی ہے، یعنی انسان کے حق میں سب سے بڑی وصیت یہ ہے کہ اسے شرک سے مجتنب رہنے اور موحد بننے کی وصیت و ہدایت کرے۔

عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے حبیب! کہہ۔ میں چپ ہو رہا اور کچھ نہ کہا۔ حضرت ﷺ نے دوبارہ فرمایا: اے حبیب! کہہ۔ میں نے عرض کیا: حضور! ﷺ کیا کہوں؟ فرمایا: صبح و شام تین دفعہ سورہ

اخلاص اور معوذتین پڑھا کر۔ یہ پڑھنا تجھے ہر چیز سے کفایت کرے گا۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حبیب خدا ﷺ کے ہمراہ چلا جاتا تھا کہ اچانک ایک تیز آندھی اٹھی اور ایک تیز و تند جھکڑ نے ہمیں ڈھانک لیا۔ حضور ﷺ یہ دیکھ کر معوذتین پڑھ کر دعا اور خدا کی پناہ مانگنے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو بھی ان دونوں سورتوں کے ساتھ پناہ مانگ۔ اے عقبہ! تو کوئی ایسی سورت ہر گز نہ پڑھے گا جو معوذتین سے زیادہ خدا کے نزدیک پیاری و مقبول ہو۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنی کسی نماز میں یہ دو سورتیں فوت نہ کر یعنی ان دونوں سورتوں کو ہمیشہ اپنی نمازوں میں پڑھا کر۔

ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر معوذتین کا مفہوم و مفاد بھی پیش کر دیا جائے تاکہ معوذتین کی فضیلت و عظمت علمی رنگ میں بھی ذہن نشین ہو جائے۔

سو جاننا چاہیے کہ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ لفظ فلق کسی شے کے پھاڑنے کو یا بعض کو جدا کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قَالِقُ الْاِصْبَاحِ آئی ہے۔ یعنی وہ صبح کو پھاڑنے والا، ظاہر کرنے والا اور نمودار کرنے والا ہے۔ اس بناء پر اس کے معنی یہ ہوئے کہ ”میں پناہ پکڑتا ہوں ساتھ پروردگار فلق کے جو صبح کو روشن و نمودار کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب! حفاظت طلب کر اور پناہ مانگ اس رب کے حضور میں جو صبح کا رب، خالق، مدبر اور اس کے چڑھانے والا ہے۔ گویا اس سورۃ کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار! اگرچہ ہم اپنی نادانی، بے علمی اور گنہ گاری کے سبب ایک ظلمت و تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تیری ذات وہ ذات ہے کہ تمام ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کر دیتی ہے۔ نور اور روشنی پیدا کر کے حق و باطل اور مفید و مضر اشیاء میں تمیز کرانے والا اور آفات و بلیات ارضی و سماوی سے انسان کو بچانے والا تو ہی ہے۔ پس اے ارحم الراحمین! ہم پر رحم فرما کیونکہ ہم تیرے حضور میں تمام تاریکیوں کے شر سے پناہ گزین ہونے آئے ہیں۔

سورہ ناس میں یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں اللہ رب العزت نے حقیقی مستحق حمد

کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی ذکر فرمایا ہے اور یہ اس لئے کہ اس سے اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو۔ چنانچہ اس سورت میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے حضور میں جو جمیع صفات کاملہ کا مالک ہے، جو رب ہے لوگوں کا اور معبود و مطلوب حقیقی بھی۔ اس سورۃ میں اصل تو سبب کو بھی قائم رکھا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کئے جائیں۔ لفظ ”رب“ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن عارضی اور ظلی طور پر دو وجود اور بھی ہیں جو ربوبیت الہیہ کے مظہر ہیں۔ ایک وجود جسمانی کی پرورش کرتا ہے اور وہ والدین ہیں اور ایک وجود روحانی کی تربیت و پرورش کرتا ہے اور وہ مرشد کامل اور علماء و صلحاء ہیں۔ یعنی تمہیں خدا تعالیٰ کی اطاعت و محبت کے ساتھ ساتھ ان دونوں قسم کے مربیوں کی اطاعت بھی کرنی چاہیے اور یہی دونوں اطاعتیں تمہیں کامل بااخلاق اور باخدا انسان بنا دیں گی۔

اس سورۃ کا پڑھنے والا انسان گویا حضور خداوندی میں دعا کرتا ہے کہ اے خدا! تو ہی لوگوں کا پرورش کنندہ ہے، تو ہی میرا بادشاہ ہے اور تو ہی میرا معبود ہے، پس میں تیرے ہی حضور میں اپنی عاجزانہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ نیکی کے حصول کے بعد انسان کے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں اور اس کو نیکی و اطاعت کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان خیالات و وساوس کے شر سے مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یہ سورۃ قرآن شریف میں سب سے آخری سورۃ ہے اور آخری قرآنی دعا ہے کہ خداوند! جس کے پڑھنے کی تو نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ساتھ ہی ایسا بھی کر کہ ہمارے دل اس پختگی ایمان پر قائم رہیں اور صراط مستقیم پر اس طرح ثابت قدم رہیں کہ کوئی وسوسہ اور خیال ہمیں راہ حق سے منحرف نہ کر سکے۔

## وظائف نافع

نماز کا مغز دعا ہے۔ اس لئے نماز کے اندر تشہد کے بعد دعائیں قلبی رجوع سے پڑھی جائیں ان کی مقبولیت و تاثیر میں کسی مسلمان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز کے بعد جو دعائیں بخشوع قلب مانگی جائیں ان کی مقبولیت و تاثیر میں بھی کسی ایمان دار کو کلام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا اور تدبیر انسانی طبیعت کے دو طبعی تقاضے ہیں جو قدیم سے انسانی فطرت کے حقیقی خادم چلے آئے ہیں۔ مگر ان دونوں کا باہمی تعلق ہر دعا مانگنے والے کو سمجھ لینا چاہیے۔ تدبیر دعا کے لئے بطور نتیجہ ضروریہ کے ہے اور دعا تدبیر کے لئے بطور محرک اور جاذب کے ہے۔ لہذا انسان کی سعادت و کامیابی اور دارین کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ تدبیر کرنے سے پہلے دعا کے ذریعہ مبداء فیض سے مدد طلب کرے تاکہ اس چشمہ لازوال سے روشنی پا کر عمدہ تدبیریں میسر آسکیں۔

خوب سمجھ لو کہ دعا کی غرض صرف یہ نہیں کہ اس کے ذریعہ ہم جاہ و حشمت، زن و فرزند، راحت و آرام اور دنیا کی بڑائیاں حاصل کر لیں اور تدبیر کو چھوڑ کر ذرا سی باتوں میں دعا کے لئے ہاتھ دراز کر دیا کریں۔ بلکہ دعا کی اصلی غرض یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعہ اطمینان و سکون، روحانی تسلی اور حقیقی خوشحالی حاصل کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری حقیقی خوشحالی صرف اس امر میں ہے جس کو ہم بذریعہ دعا چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا ہی اس امر کو خوب جانتا ہے جس میں ہماری خوشحالی ہے۔ اسی لئے ہم اس کار ساز حقیقی سے دعا کرتے ہیں۔ اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہ دعا کے بعد ہمیں خوش حالی عنایت کر دیتا ہے اور اگر نہ چاہے تو دعائیں بے کار بھی نہیں جاتیں بلکہ اجر و ثواب کا ذخیرہ بن جاتی ہیں۔

جو شخص روح کی گدازگی اور قلبی رجوع کے ساتھ اور اس کے ظاہری و باطنی آداب کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے وہ ممکن نہیں کہ حقیقی طور پر نامراد رہ سکے۔ دعا کے بعد اگر اسے دنیاوی راحت و خواہش میسر نہیں آتی تو روحانی دولت تو لازمی طور پر حاصل ہو جاتی

ہے۔ اس سے زیادہ اگر مسئلہ دعا کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہی مطلوب ہو تو حمید پریس دہلی سے ”قرآن و حدیث کی مقبول و موثر دعائیں“ منگوا کر مطالعہ کرنا چاہیے۔

اس ضروری تمہید کے بعد ہم چند خاص وظائف درج کرتے ہیں۔

### صبح و شام کے وظیفے

حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے تو اس دن اور رات میں اس کو کوئی بلائے ناگہانی نہیں پہنچتی اور اس کو کوئی چیز بھی ضرر نہیں پہنچاتی۔

وہ دعا یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”یعنی صبح و شام کی ہم نے اس خدا کے نام پر کہ جس کے نام کے ذکر کرنے سے کوئی

چیز خواہ کھانے کی قسم ہو یا دشمن وغیرہ ضرر نہیں کرتی، زمین میں نہ آسمان میں اور وہ

سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس اعوذ اور سورہ حشر کی ان آخری تین آیتوں

کو صبح کے رت پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس کے

لئے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر وہ اس دن میں مر جائے تو شہید مرے گا اور جو کوئی اس کو

شام کے وقت پڑھتا ہے تو بھی یہی ثواب اور درجہ پاتا ہے وہ اعوذ اور تین آیتیں یہ ہیں:

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (تین

مرتبہ) هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُبِينُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا

يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ

الْحُسْنٰى ۝ يَسْبِقُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيْمُ ۝ (سورة الحشر)

نیز ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صبح و شام

کے وقت تین تین بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا پڑھنا ہر چیز سے کفایت کرتا ہے۔ یعنی ہر برائی اور بلا کو دفع کرتا ہے۔

### دن کا وظیفہ

بخاری و مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دن میں کسی وقت سو بار یہ کلمات مبارک پڑھنے کا ورد کرے گا، اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لئے سونکیاں لکھی جاتی ہیں، سو گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیے جاتے ہیں، وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لائے گا۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

ایک اور حدیث میں آیا ہے۔ دن میں دس بار اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے یعنی ”اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم“ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس شخص کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس سے شیطان کو ورد کرتا ہے۔ یعنی اس کے دوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

### رات کا وظیفہ

صحاح ستہ میں ہے کہ جس نے آخر سورۃ بقرہ کی آیتیں اَمِنْ الرَّسُولِ (بقرہ: 285) سے رات کے وقت پڑھیں، وہ اس کو کفایت کریں گی۔ یعنی تہجد سے کافی ہوں گی۔ گویا ان آیتوں کا پڑھنا ثواب میں تہجد کی نماز کے برابر ہے۔ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں۔ رات کے جس حصہ میں چاہے پڑھے۔

بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے کہ رات کو سورۃ اخلاص کا ورد رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رات کو سو آیتیں قرآن کی پڑھیں، وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا۔



## سلام کے بعد کا وظیفہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا  
مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنَّةِ مِنْكَ الْجَدُّ

اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔

## حصولِ غنا کی دعا

جو کوئی جمعہ کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد نماز کی ہیئت میں بیٹھا ہو اسورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس سات سات بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو ہر مومن کے شمار کے موافق ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ان سورتوں کے بعد سات بار یہ دعا پڑھنا بھی مذکور ہے،

اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا وَدُودُ اكْفِنِي  
بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ  
وَاعْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

جو شخص اس پر مواظبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔

## توبہ و استغفار کا بیان

### گناہ کا علاج

گناہ کو قرآن حکیم میں لفظ ”جرم“ ”اثم“ اور ”فسق“ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان چاروں الفاظ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ایک فعل کو اس وقت کہا جاتا ہے جب کہ ایک انسان اس فعل کے ذریعہ خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھہرے۔ یعنی گناہ وہ فعل ہے جس کے ذریعہ انسان خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھہرے اور عند الارزکاب مرتکب کا ارادہ بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ نہ ہوگا تو وہ گناہ شمار نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ گناہ عمداً ترک فراموش اور ارادۃً ارتکابِ نواہی کو کہتے ہیں۔

انسان میں گناہ کرنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ سو جانا چاہیے کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کرنے کی قوت خدا ہی نے رکھی ہے۔ جس کی وجہ سے اسے خالق خیر و شر کہا جاتا ہے۔ خدا نے انسان میں گناہ کرنے کا مادہ کیوں رکھا؟ اس لئے کہ نیکی و بدی کے خیالات کی کش مکش میں پڑ کر انسان عذاب و ثواب کا مستحق ٹھہرے۔ بدی کے مقابلہ سے نیکی جوہر کھلیں اور خدائے حکیم و بصیر میں گناہ بخشنے کا جو خلق و وصف ہے اس کے ظاہر کرنے کے لئے ایک موقع نکالا جائے۔

گناہ بے شک پرہیزگارانہ زندگی کے لئے ایک زہر ہے مگر توبہ و استغفار کی آگ اسے تریاق بنا دیتی ہے۔ پس یہی گناہ توبہ و پشیمانی کے بعد روحانی ترقیات کو موجب ہوتا ہے۔ عجب، تکبر اور خود نمائی کی بری عادتوں کا استیصال کرتا ہے، گناہ کی طاقت انسان کو ہر وقت بیدار کرتی رہتی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی اور اس کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے اگر انسان میں گناہ کی طاقت نہ رکھی جاتی تو خدا تعالیٰ کے ساتھ حقیقی محبت بھی قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ گناہ کی طاقت ہی تو ہے جس نے انسان کو خدا سے وابستہ کیا۔

باری تعالیٰ عزا سہہ کا کس قدر لطف و احسان اور بندہ پروری ہے کہ اس نے جہاں

انسان میں گناہ کرنے کی طاقت رکھی، وہاں ساتھ ہی اس کا علاج اور اس کی سزا سے بچاؤ کی صورت بھی بتلا دی۔

چنانچہ قرآن حکیم نے گناہ سے پرہیز کرنے اور اس کی سزا سے بچنے کے متعدد طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ توبہ و استغفار بھی ہے۔  
استغفار کے معنی

استغفار کے معنی باری تعالیٰ جلت عظمتہ سے مدد طلب کرنے اور گناہوں سے حفاظت مانگنے کے ہیں۔ اور گناہوں سے حفاظت مانگنا دو طرح پر ہوتا ہے: ایک تو سرزد شدہ گناہوں کے بد نتائج سے حفاظت طلب کرنا۔ دوسرے خود گناہوں کے وقوع سے حفاظت طلب کرنا۔ پس استغفار صرف سرزد شدہ گناہوں کے لئے ایک دعا نہیں ہے بلکہ ہم بغیر کسی گناہ کے وقوع کے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت استغفار کیا کرو۔ خوب سمجھ لو کہ استغفار صرف گنہ گاروں کا کام نہیں بلکہ مقبولوں کا بھی شیوہ اطاعت ہے۔ لہذا استغفار گنہ گار اور بے گناہ سب کو کرنا چاہیے اور سب کو بارگاہ کبریائی میں جھکنا چاہیے اب توبہ کے معنی سنئے:

عربی زبان میں توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں توبہ حصول تقویٰ کے لئے خدا سے مدد طلب کرنے کی درخواست کا نام ہے۔ جب انسان گناہوں سے دست بردار ہو کر صدق دل سے آئندہ اس کے نزدیک نہ جانے کا پختہ عزم کرتا اور اس امر پر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سعید انسان وہی ہے جو معصیت و سیاہ کاری کے تیز و تند سیلاب سے اپنے آپ کو باہر نکال کر سچی توبہ کر کے گناہ سے کنارہ کش ہو جائے اور اپنی فطرت کو پاک و صاف کر لے۔

توبہ درحقیقت ناپاک جذبات کو فنا کرنے اور اپنے خلاف شرع ارادوں کی سچی قربانی کرنے کا نام ہے اگر توبہ کرتے وقت دل میں یہ روشنی اور آئندہ محتاط رہنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ نہیں بلکہ ایک دل بہلاوا اور فریب نفس ہے۔

قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک انسان کو تائب اسی وقت کہا جائے گا جب کہ وہ بالکل

نفس امارہ کی پیروی سے دست بردار ہو کر صدق دل سے حصول تقویٰ کا ارادہ کرے۔  
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿١٠﴾ (فرقان)

جو شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور ان کی معافی طلب کرے اور پھر اس کے بعد نیک اعمال میں مشغول رہے تو حقیقت میں وہی شخص اس قابل ہے کہ اسے تائب الی اللہ کہا جائے۔ دوسری جگہ فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوْا فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١﴾ (بقرہ)

یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول کیا کرتا ہوں اور ان پر رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہوں جو اپنے پہلے گناہوں کی معافی چاہیں، ان کو دور کریں۔ پھر وہ نیکی اختیار کریں اور ہدایت کو کمال طریق پر لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ ہیں جو تائب کہلا سکتے ہیں جن پر میں اپنا فضل کیا کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توبہ کی توفیق دے۔ آمین۔

## اسم اعظم کا بیان

جس طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے اسی طرح اسم اعظم بھی اسمائے الہی میں پوشیدہ ہے جس طرح قطعی اور یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ شب قدر کون سی رات ہے، اسی طرح اسم اعظم کی نسبت بھی قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کون سا اسم الہی ہے۔ لیکن جمہور شب قدر کی طرح کہتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ ”اللہ“ ہے۔ چنانچہ قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ اسم ذات اس شرط کے ساتھ اسم اعظم ہے کہ تو ”اللہ“ کہے اور تیرے دل میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔

عبداللہ بن ابی بردہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا ﷺ نے ایک شخص کو یوں دعا مانگتے ہوئے دیکھا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي لَا  
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ  
يَلِدْ لَهُ كُفُؤًا أَحَدٌ (1)

جب وہ شخص یہ کہہ چکا تو حضور ﷺ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے شخص! تو نے خدا کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے سوال کیا جاتا ہے تو جناب الہی سے عطا کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہے تو فوراً مقبول ہوتی ہے۔

قرطبی کے اسماء الحسنی کی شرح میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اس اسم اعظم کی تعلیم دیجیے کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو درجہ قبولیت کو پہنچے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: اٹھ وضو کر۔ مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھ اور پھر اتنی زور سے دعا مانگ کہ میں اسے سن سکوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر عمل کر کے یوں دعا مانگی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ أَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا  
عَلِمْنَا مِنْهَا وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ  
الْأَعْظَمِ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ الَّذِي مِنْ دَعَاكَ بِهِ أَجَبْتَهُ وَمَنْ  
سَأَلَكَ بِهِ أَعْطَيْتَهُ (1)

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ کلمات سن کر فرمایا: اے عائشہ! تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگئی اور تو اس دعا کو پہنچ گئی یعنی اسم اعظم پالیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسم اعظم اس دعا کے اسماء میں سے کوئی اسم ہے۔

ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ اسم اعظم آیتہ کریمہ میں سے ہے۔ اسی طرح اور بہت سی روایتیں ہیں۔ اس بناء پر بعض محققین نے تمام مختلف اقوال کو دیکھ کر ایک جامع دعا تجویز کی ہے جس میں وہ تمام اسماء آجاتے ہیں جن کو اگلے بزرگوں نے اسم اعظم بتلایا ہے وہ یہ دعا ہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا  
حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا سَمِيعَ  
الدُّعَاءِ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا أَللَّهُ يَا عَالِمُ يَا سَمِيعُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ  
يَا مَالِكُ يَا سَلَامُ يَا حَقُّ يَا قَدِيمُ يَا قَائِمُ يَا غَنِيُّ يَا مُحِيطُ يَا  
حَكِيمُ يَا عَلِيُّ يَا قَاهِرُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا سَرِيعُ يَا كَرِيمُ  
يَا مُنْفَعِي يَا مُعْطِي يَا مُبَاعِ يَا مُحْيِي يَا مُقْسِطُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ  
يَا أَحَدُ يَا حَمْدُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ يَا

قَرِيبُ يَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۙ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ  
 اَنْتَ حَسْبِیْ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ“

اس دعا میں وہ تمام اسمائے حسنی آگے ہیں جن کے متعلق اسم اعظم ہونے کی روایتیں آئی ہیں۔ اگر اس دعا کے وسیلہ سے دعا کی جائے گی تو انشاء اللہ ضرور مقبول ہوگی واللہ اعلم بالصواب۔

## آخری کلمات

قرآن و حدیث سے نماز کی دینی خوبیوں، محاسن اور بزرگیوں پر کتنی تیز روشنی پڑتی ہے اور اس فریضہ اسلام کا کیا درجہ ہے؟ اس کے متعلق ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں نماز کی برکات و حسنات پر دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں تاہم ہم نے ان کا بحر بے پایاں میں سے جتنے قطرے بھی لئے ہیں ان سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ نماز اصل ایمان اور مذہب، ذریعہ خوشنودی رب قدیر، باعث قبولیت وغیرہ، وجہ نیکی و نیکوکاری اور وسیلہ فلاح دارین ہے۔ اس کے جسمانی و روحانی فائدے حد شمار سے باہر ہیں اس میں اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ صد ہزار دنیوی فوائد بھی مرکوز ہیں۔ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ نماز تمام دینی و دنیوی کامرانیوں اور فائز المرامیوں کی کفیل، جملہ اوامر و احکام الہی کا مخزن، دین و دنیا کا سب سے اہم سب سے ضروری، سب سے دل ربا اور پیارا فریضہ اسلام ہے۔

اگر انسان کو بد اعمالیوں اور جرائم سے روکنے والی کوئی زبردست چیز مذہب کے پاس ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ بشرطیکہ اس کا پڑھنے والا اس کی روح و حقیقت سے بھی آگاہ ہو۔ اور خدا ترسی کا مادہ رکھتا ہو۔ آج مسلمان اپنی نمازوں کی بے اثری کے شاک میں ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ دل سے سب چاہتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہو۔ لیکن اس کیفیت کو حاصل کرنا نہیں جانتے۔

یہ کتاب اسی غرض سے لکھی گئی ہے کہ مسلمان نماز کی روح و حقیقت سے آگاہ ہو جائیں اور ان کی نظریں نماز کے صرف ظاہری آداب و محاسن تک محدود نہ رہیں بلکہ وہ باطنی آداب و محاسن کے حصول کی بھی کوشش کریں۔ وہ صدیوں سے نماز کے ظاہری آداب و محاسن کی پابندی کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ باطنی آداب و مجلس کے حصول و پابندی کی بھی کوشش کریں۔ اس کے بغیر ان کے نماز میں حقیقی



نمازیں نہیں بن سکتیں۔

مسلمان اگر واقعی موجودہ ذلت و پستی سے نکلنا اور عروج و ارتقاء حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے فریضہ نماز کی پابندی کا فکر و اہتمام کرنا چاہیے صرف اکیلی نماز ان کو صحیح معنوں میں مسلمان اور باخدا انسان بنا دے گی۔ کیونکہ ترقی و کامیابی اور حکم رانی و فرماں روائی کے لئے کسی قوم میں جتنی خوبیاں محاسن، اوصاف اور اصول ہونے چاہئیں وہ سب محض ایک نماز کے اندر موجود ہیں اور صرف ایک نماز مسلمان کو ان تمام خوبیوں کا مالک بنا دیتی ہے۔

## التماس

میں اس قابل توشہ تھا کہ نماز جیسے اہم عنوان پر قلم اٹھاتا۔ تاہم جب اسلامی جذبہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں باوجود اپنی بے بضاعتی، کم مانگی، بے علمی اور کوتاہ فہمی کے اس عظیم الشان دینی خدمت کا باز اپنے ذمہ لوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کہاں تک اس خدمت کو صحیح طور پر انجام دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے اپنی بساط کے مطابق نماز کے مالہ و ماعلیہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی ہے کہ اس سلسلہ کا ایک کافی مواد جمع کر دیا ہے۔ اگر کوئی صاحب اس میں کوئی قابل اصلاح غلطی پائیں یا میں نے کوئی بات مسلک حنفیہ کے خلاف لکھی ہو، تو مجھے بلا تکلف اس سے آگاہ کر دیں۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی تلافی ہو سکے، میں نہایت ہی ممنون ہوں گا۔

آخر میں دعا ہے کہ خداوند! اور اے رب بے نیاز! تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے دین کی صحیح فہم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ! مسلمانوں کے دل آنکھیں کھول دے کہ اپنا مرکز حیات اور زندگی حقیقی دستور العمل دیکھ لیں، ان کو عقل و سمجھ دے کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے عز و اقبال کی تلاش بجائے انجمنوں اور ہالوں کے مسجدوں میں کریں۔ تیرے گھروں کو آباد کریں اور نمازوں کو قائم کر کے دین و دنیا کے مالک بنیں۔ آمین

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ سَرَّيْنَاكَ قَبْلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى  
عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

نگ سعادت

نذیر الحق

مورخہ 20 اپریل 1937

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 رِیَاضُ الصَّالِحِیْنَ كِتَابٌ لِّمَنْ یَّقِنُ

# نقشہ دائمی اوقات نماز

ضلع لاہور و مضافات

## لاہور اور مشہور شہروں میں فرق

فرق	نام شہر	فرق	نام شہر
10 منٹ بعد	کیسبل پور	2 منٹ بعد	گوجرانوالہ
11 منٹ بعد	ملتان	3 منٹ بعد	گجرات
= = 12	پشاور، بنوں	= = 3	سیالکوٹ
= = 14	بہاول پور	= = 3	کوٹلی (آزاد کشمیر)
= = 15	ڈیرہ غازیخان	= = 4	مری
= = 23	حیدر آباد	= = 6	راولپنڈی
= = 24	لاڑکانہ	= = 6	سرگودھا
= = 27	کراچی	= = 6	ساہیوال
= = 28	کوئٹہ	= = 5	لاکھ پور
		= = 10	میانوالی

احتیاط:

سحری۔ صبح صادق سے ۵ منٹ قبل بند کر دیں۔

افطاری۔ غروب آفتاب سے ۵ منٹ بعد کریں

## جنوری

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب	نحوہ کبریٰ اس وقت کو نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	5 : 36	7 : 06	11 : 23	12 : 07	3 : 32	5 : 10	6 : 37
2	5 : 36	7 : 06	11 : 23	12 : 07	3 : 32	5 : 10	6 : 37
3	5 : 36	7 : 05	11 : 23	12 : 07	3 : 33	5 : 11	6 : 38
4	5 : 36	7 : 05	11 : 24	12 : 08	3 : 33	5 : 11	6 : 39
5	5 : 36	7 : 04	11 : 24	12 : 08	3 : 34	5 : 12	6 : 40
6	5 : 37	7 : 04	11 : 25	12 : 09	3 : 35	5 : 13	6 : 41
7	5 : 37	7 : 04	11 : 25	12 : 09	3 : 36	5 : 14	6 : 42
8	5 : 37	7 : 04	11 : 26	12 : 10	3 : 37	5 : 15	6 : 42
9	5 : 37	7 : 04	11 : 27	12 : 10	3 : 38	5 : 16	6 : 43
10	5 : 37	7 : 04	11 : 27	12 : 11	3 : 39	5 : 17	6 : 44
11	5 : 37	7 : 03	11 : 27	12 : 11	3 : 39	5 : 17	6 : 44
12	5 : 37	7 : 03	11 : 28	12 : 11	3 : 40	5 : 18	6 : 45
13	5 : 37	7 : 03	11 : 28	12 : 12	3 : 41	5 : 19	6 : 46
14	5 : 37	7 : 03	11 : 28	12 : 12	3 : 42	5 : 20	6 : 47
15	5 : 37	7 : 03	11 : 29	12 : 12	3 : 43	5 : 21	6 : 48
16	5 : 37	7 : 02	11 : 29	12 : 13	3 : 44	5 : 22	6 : 48
17	5 : 36	7 : 02	11 : 29	12 : 13	3 : 45	5 : 23	6 : 49
18	5 : 36	7 : 02	11 : 30	12 : 13	3 : 46	5 : 24	6 : 50
19	5 : 36	7 : 02	11 : 30	12 : 14	3 : 47	5 : 24	6 : 50
20	5 : 36	7 : 02	11 : 30	12 : 14	3 : 48	5 : 25	6 : 51
21	5 : 36	7 : 02	11 : 31	12 : 14	3 : 49	5 : 27	6 : 52
22	5 : 36	7 : 01	11 : 32	12 : 15	3 : 50	5 : 28	6 : 53
23	5 : 36	7 : 01	11 : 32	12 : 15	3 : 51	5 : 29	6 : 54
24	5 : 35	7 : 01	11 : 32	12 : 15	3 : 52	5 : 30	6 : 55
25	5 : 35	7 : 00	11 : 32	12 : 15	3 : 53	5 : 31	6 : 56
26	5 : 35	7 : 00	11 : 33	12 : 16	3 : 54	5 : 32	6 : 57
27	5 : 34	6 : 59	11 : 33	12 : 16	3 : 55	5 : 33	6 : 58
28	5 : 34	6 : 59	11 : 33	12 : 16	3 : 55	5 : 34	6 : 59
29	5 : 33	6 : 58	11 : 33	12 : 16	3 : 56	5 : 35	6 : 59
30	5 : 33	6 : 58	11 : 33	12 : 16	3 : 57	5 : 35	6 : 59
31	5 : 32	6 : 57	11 : 34	12 : 16	3 : 58	5 : 36	7 : 00

# فروری

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انتہائے فجر	ضحوہ کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	5:32	6:56	11:34	12:16	3:59	5:37	7:00
2	5:31	6:56	11:34	12:17	4:00	5:38	7:01
3	5:31	6:55	11:35	12:17	4:01	5:39	7:01
4	5:30	6:54	11:35	12:17	4:01	5:39	7:02
5	5:30	6:54	11:35	12:17	4:02	5:40	7:03
6	5:29	6:53	11:35	12:17	4:02	5:41	7:04
7	5:29	6:52	11:35	12:17	4:03	5:42	7:05
8	5:28	6:52	11:35	12:17	4:04	5:43	7:05
9	5:28	6:51	11:36	12:17	4:04	5:44	7:06
10	5:27	6:50	11:36	12:17	4:05	5:44	7:07
11	5:27	6:49	11:36	12:17	4:06	5:45	7:07
12	5:26	6:48	11:36	12:17	4:07	5:46	7:08
13	5:26	6:47	11:36	12:17	4:08	5:47	7:09
14	5:25	6:46	11:36	12:17	4:08	5:48	7:09
15	5:24	6:45	11:36	12:17	4:10	5:49	7:10
16	5:23	6:44	11:36	12:17	4:11	5:50	7:11
17	5:22	6:43	11:36	12:17	4:11	5:50	7:12
18	5:21	6:42	11:36	12:17	4:12	5:51	7:13
19	5:21	6:41	11:36	12:17	4:13	5:52	7:13
20	5:20	6:40	11:36	12:17	4:14	5:53	7:14
21	5:19	6:39	11:36	12:17	4:15	5:54	7:15
22	5:18	6:38	11:36	12:17	4:16	5:55	7:15
23	5:17	6:37	11:36	12:16	4:16	5:55	7:16
24	5:16	6:36	11:36	12:16	4:17	5:56	7:17
25	5:15	6:35	11:36	12:16	4:18	5:57	7:17
26	5:14	6:34	11:36	12:16	4:19	5:58	7:18
27	5:12	6:33	11:35	12:16	4:19	5:58	7:19
28	5:11	6:32	11:35	12:16	4:20	5:59	7:20

# مارچ

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب	ظہور کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	5 : 10	6 : 31	11 : 35	12 : 16	4 : 20	6 : 00	7 : 21
2	5 : 09	6 : 29	11 : 35	12 : 15	4 : 21	6 : 00	7 : 22
3	5 : 08	6 : 28	11 : 34	12 : 15	4 : 21	6 : 01	7 : 22
4	5 : 07	6 : 27	11 : 34	12 : 15	4 : 22	6 : 02	7 : 23
5	5 : 06	6 : 26	11 : 34	12 : 15	4 : 23	6 : 02	7 : 24
6	5 : 05	6 : 25	11 : 34	12 : 14	4 : 23	6 : 03	7 : 24
7	5 : 04	6 : 24	11 : 34	12 : 14	4 : 24	6 : 04	7 : 25
8	5 : 03	6 : 23	11 : 34	12 : 14	4 : 25	6 : 05	7 : 26
9	5 : 02	6 : 22	11 : 34	12 : 14	4 : 25	6 : 06	7 : 26
10	5 : 00	6 : 21	11 : 33	12 : 14	4 : 26	6 : 07	7 : 27
11	4 : 59	6 : 19	11 : 33	12 : 13	4 : 26	6 : 07	7 : 28
12	4 : 58	6 : 18	11 : 33	12 : 13	4 : 27	6 : 08	7 : 28
13	4 : 57	6 : 17	11 : 33	12 : 13	4 : 28	6 : 09	7 : 29
14	4 : 56	6 : 16	11 : 33	12 : 13	4 : 28	6 : 10	7 : 30
15	4 : 54	6 : 14	11 : 32	12 : 12	4 : 29	6 : 10	7 : 30
16	4 : 53	6 : 13	11 : 32	12 : 12	4 : 29	6 : 11	7 : 31
17	4 : 52	6 : 12	11 : 32	12 : 12	4 : 29	6 : 12	7 : 31
18	4 : 51	6 : 10	11 : 31	12 : 11	4 : 30	6 : 12	7 : 32
19	4 : 50	6 : 09	11 : 31	12 : 11	4 : 30	6 : 13	7 : 32
20	4 : 48	6 : 08	11 : 31	12 : 11	4 : 30	6 : 14	7 : 33
21	4 : 47	6 : 06	11 : 30	12 : 10	4 : 31	6 : 14	7 : 34
22	4 : 46	6 : 05	11 : 30	12 : 10	4 : 31	6 : 15	7 : 34
23	4 : 44	6 : 03	11 : 30	12 : 10	4 : 31	6 : 16	7 : 35
24	4 : 43	6 : 02	11 : 29	12 : 09	4 : 32	6 : 16	7 : 36
25	4 : 41	6 : 01	11 : 29	12 : 09	4 : 32	6 : 17	7 : 37
26	4 : 40	5 : 00	11 : 29	12 : 09	4 : 33	6 : 18	7 : 37
27	4 : 39	5 : 58	11 : 28	12 : 09	4 : 33	6 : 18	7 : 38
28	4 : 38	5 : 57	11 : 28	12 : 08	4 : 33	6 : 19	7 : 39
29	4 : 36	5 : 56	11 : 28	12 : 08	4 : 33	6 : 20	7 : 40
30	4 : 35	5 : 55	11 : 27	12 : 08	4 : 34	6 : 20	7 : 41
31	4 : 33	5 : 54	11 : 27	12 : 07	4 : 34	6 : 21	7 : 42

# اپریل

وقت عشاء	غروب آفتاب	وقت عصر	نصف النہار ابتداء ظہر	ضحو کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	طلوع آفتاب انجام فجر	صبح صادق ابتداء فجر ختم سحری	تاریخ
7 : 43	6 : 21	4 : 34	12 : 07	11 : 26	5 : 52	4 : 32	1
7 : 44	6 : 22	4 : 35	12 : 07	11 : 26	5 : 51	4 : 30	2
7 : 45	6 : 22	4 : 35	12 : 06	11 : 25	5 : 49	4 : 29	3
7 : 46	6 : 23	4 : 35	12 : 06	11 : 25	5 : 48	4 : 27	4
7 : 46	6 : 24	4 : 36	12 : 06	11 : 25	5 : 47	4 : 26	5
7 : 47	6 : 25	4 : 36	12 : 06	11 : 24	5 : 46	4 : 24	6
7 : 48	6 : 26	4 : 36	12 : 05	11 : 24	5 : 45	4 : 23	7
7 : 49	6 : 26	4 : 37	12 : 05	11 : 23	5 : 43	4 : 21	8
7 : 49	6 : 27	4 : 37	12 : 05	11 : 23	5 : 42	4 : 19	9
7 : 50	6 : 28	4 : 38	12 : 05	11 : 23	5 : 41	4 : 18	10
7 : 51	6 : 28	4 : 38	12 : 04	11 : 22	5 : 39	4 : 16	11
7 : 52	6 : 29	4 : 38	12 : 04	11 : 22	5 : 38	4 : 15	12
7 : 53	6 : 29	4 : 39	12 : 04	11 : 21	5 : 37	4 : 13	13
7 : 54	6 : 30	4 : 39	12 : 04	11 : 21	5 : 36	4 : 12	14
7 : 55	6 : 30	4 : 40	12 : 03	11 : 21	5 : 35	4 : 09	15
7 : 55	6 : 31	4 : 40	12 : 03	11 : 20	5 : 34	4 : 08	16
7 : 56	6 : 32	4 : 41	12 : 03	11 : 20	5 : 33	4 : 06	17
7 : 57	6 : 32	4 : 41	12 : 02	11 : 19	5 : 32	4 : 05	18
7 : 58	6 : 33	4 : 42	12 : 02	11 : 19	5 : 31	4 : 04	19
7 : 58	6 : 34	4 : 42	12 : 02	11 : 19	5 : 30	4 : 03	20
7 : 59	6 : 34	4 : 43	12 : 02	11 : 18	5 : 29	4 : 02	21
8 : 00	6 : 35	4 : 44	12 : 02	11 : 18	5 : 28	4 : 01	22
8 : 01	6 : 36	4 : 44	12 : 01	11 : 17	5 : 26	3 : 59	23
8 : 02	6 : 36	4 : 45	12 : 01	11 : 17	5 : 25	3 : 58	24
8 : 03	6 : 37	4 : 46	12 : 01	11 : 17	5 : 24	3 : 57	25
8 : 04	6 : 38	4 : 47	12 : 01	11 : 16	5 : 23	3 : 55	26
8 : 05	6 : 39	4 : 47	12 : 01	11 : 16	5 : 22	3 : 54	27
8 : 06	6 : 39	4 : 48	12 : 00	11 : 16	5 : 21	3 : 53	28
8 : 07	6 : 40	4 : 49	12 : 00	11 : 16	5 : 20	3 : 52	29
8 : 08	6 : 41	4 : 49	12 : 00	11 : 15	5 : 19	3 : 51	30



## حصہ

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انتہائے فجر	غروب آفتاب	وقت عصر	وقت عشاء	نصف النہار ابتدائے ظہر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	3 : 50	5 : 18	6 : 41	4 : 50	8 : 09	12 : 00	6 : 41	8 : 09
2	3 : 49	5 : 17	6 : 42	4 : 50	8 : 10	12 : 00	6 : 42	8 : 10
3	3 : 48	5 : 16	6 : 43	4 : 51	8 : 11	12 : 00	6 : 43	8 : 11
4	3 : 47	5 : 15	6 : 43	4 : 51	8 : 12	12 : 00	6 : 43	8 : 12
5	3 : 46	5 : 15	6 : 44	4 : 52	8 : 13	12 : 00	6 : 44	8 : 13
6	3 : 45	5 : 14	6 : 45	4 : 52	8 : 14	12 : 00	6 : 45	8 : 14
7	3 : 43	5 : 13	6 : 45	4 : 52	8 : 15	12 : 00	6 : 45	8 : 15
8	3 : 42	5 : 12	6 : 46	4 : 53	8 : 16	12 : 59	6 : 46	8 : 16
9	3 : 41	5 : 11	6 : 47	4 : 53	8 : 16	11 : 59	6 : 47	8 : 16
10	3 : 40	5 : 10	6 : 48	4 : 53	8 : 17	11 : 59	6 : 48	8 : 17
11	3 : 38	5 : 09	6 : 48	4 : 53	8 : 18	11 : 59	6 : 48	8 : 18
12	3 : 37	5 : 09	6 : 49	4 : 53	8 : 20	11 : 59	6 : 49	8 : 20
13	3 : 36	5 : 08	6 : 50	4 : 54	8 : 21	11 : 59	6 : 50	8 : 21
14	3 : 35	5 : 07	6 : 50	4 : 54	8 : 22	11 : 59	6 : 50	8 : 22
15	3 : 34	5 : 07	6 : 51	4 : 54	8 : 23	11 : 59	6 : 51	8 : 23
16	3 : 33	5 : 06	6 : 52	4 : 54	8 : 24	11 : 59	6 : 52	8 : 24
17	3 : 33	5 : 05	6 : 52	4 : 54	8 : 24	11 : 59	6 : 52	8 : 24
18	3 : 32	5 : 05	6 : 53	4 : 54	8 : 25	11 : 59	6 : 53	8 : 25
19	3 : 31	5 : 04	6 : 54	4 : 55	8 : 26	11 : 59	6 : 54	8 : 26
20	3 : 30	5 : 03	6 : 54	4 : 55	8 : 27	11 : 59	6 : 54	8 : 27
21	3 : 29	5 : 03	6 : 55	4 : 55	8 : 28	11 : 59	6 : 55	8 : 28
22	3 : 28	5 : 03	6 : 56	4 : 55	8 : 29	11 : 59	6 : 56	8 : 29
23	3 : 27	5 : 02	6 : 57	4 : 55	8 : 30	12 : 00	6 : 57	8 : 30
24	3 : 27	5 : 02	6 : 57	4 : 55	8 : 31	12 : 00	6 : 57	8 : 31
25	3 : 26	5 : 01	6 : 58	4 : 55	8 : 32	12 : 00	6 : 58	8 : 32
26	3 : 25	5 : 01	6 : 59	4 : 56	8 : 33	12 : 00	6 : 59	8 : 33
27	3 : 25	5 : 01	6 : 59	4 : 56	8 : 34	12 : 00	6 : 59	8 : 34
28	3 : 24	5 : 00	7 : 00	4 : 56	8 : 35	12 : 00	7 : 00	8 : 35
29	3 : 23	5 : 00	7 : 00	4 : 56	8 : 36	12 : 00	7 : 00	8 : 36
30	3 : 22	4 : 59	7 : 01	4 : 56	8 : 37	12 : 00	7 : 01	8 : 37
31	3 : 22	4 : 59	7 : 01	4 : 56	8 : 38	12 : 00	7 : 01	8 : 38

## جون

وقت عشاء	غروب آفتاب	وقت عصر	نصف النہار ابتدائے ظہر	ضحو کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	طلوع آفتاب انتہائے فجر	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	تاریخ
8 : 39	7 : 02	4 : 57	12 : 01	11 : 12	4 : 59	3 : 21	1
8 : 39	7 : 03	4 : 57	12 : 01	11 : 12	4 : 59	3 : 21	2
8 : 40	7 : 03	4 : 57	12 : 01	11 : 12	4 : 58	3 : 20	3
8 : 41	7 : 03	4 : 57	12 : 01	11 : 12	4 : 58	3 : 20	4
8 : 41	7 : 04	4 : 57	12 : 01	11 : 12	4 : 58	3 : 20	5
8 : 42	7 : 04	4 : 58	12 : 01	11 : 12	4 : 57	3 : 20	6
8 : 43	7 : 05	4 : 58	12 : 02	11 : 12	4 : 57	3 : 20	7
8 : 43	7 : 05	4 : 58	12 : 02	11 : 13	4 : 57	3 : 20	8
8 : 44	7 : 06	4 : 58	12 : 02	11 : 13	4 : 57	3 : 20	9
8 : 44	7 : 06	4 : 58	12 : 02	11 : 13	4 : 57	3 : 19	10
8 : 45	7 : 06	4 : 59	12 : 02	11 : 13	4 : 57	3 : 19	11
8 : 45	7 : 07	4 : 59	12 : 03	11 : 13	4 : 57	3 : 19	12
8 : 46	7 : 07	4 : 59	12 : 03	11 : 13	4 : 57	3 : 19	13
8 : 46	7 : 07	4 : 59	12 : 03	11 : 13	4 : 57	3 : 19	14
8 : 46	7 : 08	4 : 59	12 : 03	11 : 13	4 : 57	3 : 19	15
8 : 47	7 : 08	5 : 00	12 : 03	11 : 13	4 : 57	3 : 19	16
8 : 47	7 : 08	5 : 00	12 : 04	11 : 14	4 : 58	3 : 19	17
8 : 47	7 : 09	5 : 00	12 : 04	11 : 14	4 : 58	3 : 19	18
8 : 47	7 : 09	5 : 00	12 : 04	11 : 14	4 : 58	3 : 19	19
8 : 48	7 : 09	5 : 00	12 : 04	11 : 14	4 : 58	3 : 19	20
8 : 48	7 : 09	5 : 01	12 : 04	11 : 14	4 : 58	3 : 19	21
8 : 48	7 : 10	5 : 01	12 : 05	11 : 14	4 : 59	3 : 19	22
8 : 48	7 : 10	5 : 01	12 : 05	11 : 14	4 : 59	3 : 19	23
8 : 48	7 : 10	5 : 01	12 : 05	11 : 14	4 : 59	3 : 19	24
8 : 49	7 : 10	5 : 01	12 : 05	11 : 15	4 : 59	3 : 20	25
8 : 49	7 : 11	5 : 01	12 : 05	11 : 15	4 : 59	3 : 20	26
8 : 49	7 : 11	5 : 01	12 : 06	11 : 15	5 : 00	3 : 20	27
8 : 49	7 : 11	5 : 02	12 : 06	11 : 15	5 : 00	3 : 20	28
8 : 49	7 : 11	5 : 02	12 : 06	11 : 16	5 : 00	3 : 21	29
8 : 50	7 : 11	5 : 02	12 : 06	11 : 16	5 : 00	3 : 21	30

## جولائی

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انتہائے فجر	ضحوہ کبریٰ اس وقت کو نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	3 : 22	5 : 01	11 : 16	12 : 06	5 : 02	7 : 11	8 : 50
2	3 : 23	5 : 01	11 : 17	12 : 07	5 : 02	7 : 11	8 : 50
3	3 : 23	5 : 02	11 : 17	12 : 07	5 : 02	7 : 11	8 : 50
4	3 : 24	5 : 02	11 : 17	12 : 07	5 : 02	7 : 11	8 : 49
5	3 : 24	5 : 03	11 : 18	12 : 07	5 : 02	7 : 11	8 : 49
6	3 : 25	5 : 03	11 : 18	12 : 07	5 : 02	7 : 11	8 : 49
7	3 : 26	5 : 04	11 : 18	12 : 08	5 : 02	7 : 11	8 : 48
8	3 : 27	5 : 04	11 : 18	12 : 08	5 : 02	7 : 11	8 : 48
9	3 : 27	5 : 05	11 : 19	12 : 08	5 : 01	7 : 11	8 : 48
10	3 : 28	5 : 05	11 : 19	12 : 08	5 : 01	7 : 10	8 : 47
11	3 : 28	5 : 05	11 : 19	12 : 08	5 : 01	7 : 10	8 : 47
12	3 : 29	5 : 06	11 : 19	12 : 08	5 : 01	7 : 10	8 : 47
13	3 : 30	5 : 06	11 : 19	12 : 08	5 : 01	7 : 10	8 : 46
14	3 : 31	5 : 07	11 : 20	12 : 08	5 : 01	7 : 09	8 : 46
15	3 : 32	5 : 08	11 : 20	12 : 09	5 : 01	7 : 09	8 : 45
16	3 : 32	5 : 09	11 : 20	12 : 09	5 : 00	7 : 09	8 : 45
17	3 : 33	5 : 09	11 : 20	12 : 09	5 : 00	7 : 09	8 : 44
18	3 : 34	5 : 10	11 : 21	12 : 09	5 : 00	7 : 08	8 : 44
19	3 : 35	5 : 10	11 : 21	12 : 09	5 : 00	7 : 08	8 : 43
20	3 : 35	5 : 11	11 : 21	12 : 09	5 : 00	7 : 08	8 : 43
21	3 : 36	5 : 11	11 : 21	12 : 09	5 : 00	7 : 07	8 : 42
22	3 : 37	5 : 11	11 : 21	12 : 09	4 : 59	7 : 06	8 : 41
23	3 : 37	5 : 12	11 : 21	12 : 09	4 : 59	7 : 06	8 : 40
24	3 : 38	5 : 12	11 : 21	12 : 09	4 : 59	7 : 05	8 : 39
25	3 : 39	5 : 12	11 : 22	12 : 09	4 : 59	7 : 05	8 : 38
26	3 : 40	5 : 14	11 : 22	12 : 09	4 : 56	7 : 04	8 : 37
27	3 : 41	5 : 15	11 : 22	12 : 09	4 : 59	7 : 03	8 : 36
28	3 : 42	5 : 16	11 : 22	12 : 09	4 : 58	7 : 02	8 : 35
29	3 : 43	5 : 17	11 : 22	12 : 09	4 : 58	7 : 02	8 : 35
30	3 : 44	5 : 17	11 : 22	12 : 09	4 : 58	7 : 01	8 : 34
31	3 : 45	5 : 18	11 : 22	12 : 09	4 : 58	7 : 00	8 : 33

# اگست

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انتہائے فجر	ضحو کبریٰ اس وقت کو نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	3 : 46	5 : 19	11 : 23	12 : 09	4 : 58	7 : 00	8 : 32
2	3 : 47	5 : 19	11 : 23	12 : 09	4 : 57	6 : 59	8 : 31
3	3 : 47	5 : 20	11 : 23	12 : 09	4 : 57	6 : 58	8 : 29
4	3 : 48	5 : 21	11 : 23	12 : 09	4 : 56	6 : 56	8 : 28
5	3 : 49	5 : 22	11 : 23	12 : 09	4 : 56	6 : 56	8 : 27
6	3 : 50	5 : 23	11 : 23	12 : 09	4 : 55	6 : 55	8 : 26
7	3 : 51	5 : 23	11 : 23	12 : 09	4 : 54	6 : 54	8 : 25
8	3 : 52	5 : 24	11 : 23	12 : 09	4 : 54	6 : 53	8 : 24
9	3 : 53	5 : 24	11 : 23	12 : 08	4 : 53	6 : 52	8 : 23
10	3 : 54	5 : 25	11 : 23	12 : 08	4 : 52	6 : 51	8 : 22
11	3 : 55	5 : 26	11 : 23	12 : 08	4 : 52	6 : 50	8 : 21
12	3 : 56	5 : 26	11 : 23	12 : 08	4 : 51	6 : 49	8 : 20
13	3 : 57	5 : 27	11 : 23	12 : 08	4 : 50	6 : 48	8 : 18
14	3 : 58	5 : 28	11 : 23	12 : 08	4 : 50	6 : 47	8 : 17
15	3 : 58	5 : 28	11 : 23	12 : 07	4 : 49	6 : 47	8 : 16
16	3 : 59	5 : 29	11 : 23	12 : 07	4 : 49	6 : 46	8 : 14
17	4 : 00	5 : 29	11 : 23	12 : 07	4 : 48	6 : 45	8 : 13
18	4 : 01	5 : 30	11 : 23	12 : 07	4 : 48	6 : 44	8 : 12
19	4 : 02	5 : 30	11 : 23	12 : 07	4 : 47	6 : 43	8 : 10
20	4 : 03	5 : 31	11 : 23	12 : 06	4 : 46	6 : 42	8 : 09
21	4 : 04	5 : 31	11 : 23	12 : 06	4 : 46	6 : 40	8 : 07
22	4 : 05	5 : 32	11 : 22	12 : 06	4 : 45	6 : 39	8 : 06
23	4 : 06	5 : 33	11 : 22	12 : 06	4 : 44	6 : 38	8 : 04
24	4 : 07	5 : 33	11 : 22	12 : 05	4 : 44	6 : 37	8 : 03
25	4 : 08	5 : 34	11 : 22	12 : 05	4 : 43	6 : 36	8 : 01
26	4 : 09	5 : 34	11 : 22	12 : 05	4 : 42	6 : 35	8 : 00
27	4 : 10	5 : 35	11 : 22	12 : 05	4 : 41	6 : 34	7 : 58
28	4 : 10	5 : 35	11 : 21	12 : 04	4 : 41	6 : 32	7 : 57
29	4 : 11	5 : 36	11 : 21	12 : 04	4 : 40	6 : 31	7 : 56
30	4 : 12	5 : 37	11 : 21	12 : 04	4 : 40	6 : 30	7 : 55
31	4 : 13	5 : 37	11 : 21	12 : 03	4 : 39	6 : 29	7 : 53

## ستمبر

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انتهائے فجر	ضحوہ کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	4 : 14	5 : 37	11 : 21	12 : 03	4 : 38	6 : 28	7 : 52
2	4 : 15	5 : 38	11 : 21	12 : 03	4 : 37	6 : 27	7 : 51
3	4 : 15	5 : 39	11 : 21	12 : 02	4 : 36	6 : 26	7 : 49
4	4 : 16	5 : 39	11 : 20	12 : 02	4 : 35	6 : 24	7 : 48
5	4 : 17	5 : 40	11 : 20	12 : 02	4 : 34	6 : 23	7 : 47
6	4 : 18	5 : 41	11 : 20	12 : 01	4 : 33	6 : 22	7 : 45
7	4 : 18	5 : 42	11 : 19	12 : 01	4 : 32	6 : 20	7 : 44
8	4 : 19	5 : 43	11 : 19	12 : 01	4 : 31	6 : 19	7 : 42
9	4 : 20	5 : 43	11 : 19	12 : 00	4 : 30	6 : 18	7 : 40
10	4 : 21	5 : 44	11 : 18	12 : 00	4 : 29	6 : 16	7 : 39
11	4 : 22	5 : 44	11 : 18	12 : 00	4 : 28	6 : 15	7 : 38
12	4 : 23	5 : 45	11 : 18	11 : 59	4 : 27	6 : 14	7 : 36
13	4 : 23	5 : 45	11 : 18	11 : 59	4 : 26	6 : 13	7 : 35
14	4 : 24	5 : 46	11 : 17	11 : 59	4 : 25	6 : 11	7 : 34
15	4 : 24	5 : 46	11 : 17	11 : 58	4 : 24	6 : 10	7 : 32
16	4 : 25	5 : 47	11 : 17	11 : 58	4 : 23	6 : 08	7 : 31
17	4 : 26	5 : 48	11 : 17	11 : 58	4 : 22	6 : 07	7 : 29
18	4 : 26	5 : 49	11 : 16	11 : 57	4 : 21	6 : 06	7 : 28
19	4 : 27	5 : 50	11 : 16	11 : 57	4 : 20	6 : 05	7 : 26
20	4 : 28	5 : 51	11 : 16	11 : 56	4 : 19	6 : 04	7 : 25
21	4 : 29	5 : 52	11 : 15	11 : 56	4 : 18	6 : 02	7 : 24
22	4 : 30	5 : 52	11 : 15	11 : 56	4 : 17	6 : 01	7 : 23
23	4 : 30	5 : 53	11 : 15	11 : 55	4 : 16	5 : 59	7 : 21
24	4 : 31	5 : 53	11 : 14	11 : 55	4 : 15	5 : 57	7 : 20
25	4 : 32	5 : 53	11 : 14	11 : 55	4 : 14	5 : 55	7 : 19
26	4 : 32	5 : 53	11 : 14	11 : 54	4 : 13	5 : 55	7 : 17
27	4 : 33	5 : 54	11 : 13	11 : 54	4 : 12	5 : 54	7 : 16
28	4 : 33	5 : 55	11 : 13	11 : 54	4 : 11	5 : 53	7 : 14
29	4 : 34	5 : 55	11 : 13	11 : 53	4 : 10	5 : 51	7 : 13
30	4 : 34	5 : 56	11 : 12	11 : 53	4 : 09	5 : 50	7 : 11

# اکتوبر

وقت عشاء	غروب آفتاب	وقت عصر	نصف النہار ابتدائے ظہر	محوہ کبریٰ اس وقت کو نماز نہیں	طلوع آفتاب انجائے فجر	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	تاریخ
6 : 10	5 : 49	4 : 08	11 : 53	11 : 12	5 : 57	4 : 35	1
6 : 08	5 : 48	4 : 07	11 : 53	11 : 12	5 : 57	4 : 36	2
6 : 07	5 : 47	4 : 06	11 : 52	11 : 12	5 : 58	4 : 36	3
6 : 06	5 : 45	4 : 05	11 : 52	11 : 11	5 : 58	4 : 37	4
6 : 04	5 : 44	4 : 05	11 : 52	11 : 11	5 : 59	4 : 38	5
6 : 03	5 : 43	4 : 03	11 : 51	11 : 11	6 : 00	4 : 38	6
6 : 02	5 : 41	4 : 02	11 : 51	11 : 10	6 : 00	4 : 39	7
6 : 00	5 : 40	4 : 01	11 : 50	11 : 10	6 : 01	4 : 40	8
6 : 59	5 : 39	4 : 00	11 : 50	11 : 10	6 : 02	4 : 40	9
6 : 58	5 : 37	3 : 59	11 : 50	11 : 09	6 : 03	4 : 41	10
6 : 57	5 : 36	3 : 58	11 : 50	11 : 09	6 : 03	4 : 42	11
6 : 56	5 : 35	3 : 57	11 : 49	11 : 09	6 : 04	4 : 42	12
6 : 55	5 : 34	3 : 56	11 : 49	11 : 08	6 : 05	4 : 43	13
6 : 54	5 : 33	3 : 55	11 : 49	11 : 08	6 : 05	4 : 44	14
6 : 53	5 : 32	3 : 54	11 : 49	11 : 08	6 : 06	4 : 45	15
6 : 51	5 : 31	3 : 53	11 : 49	11 : 08	6 : 07	4 : 45	16
6 : 50	5 : 29	3 : 52	11 : 48	11 : 07	6 : 08	4 : 45	17
6 : 49	5 : 28	3 : 51	11 : 48	11 : 07	6 : 09	4 : 46	18
6 : 48	5 : 27	3 : 50	11 : 48	11 : 07	6 : 10	4 : 46	19
6 : 47	5 : 26	3 : 49	11 : 48	11 : 07	6 : 11	4 : 47	20
6 : 46	5 : 25	3 : 48	11 : 48	11 : 07	6 : 11	4 : 48	21
6 : 45	5 : 24	3 : 47	11 : 47	11 : 06	6 : 12	4 : 48	22
6 : 44	5 : 23	3 : 46	11 : 47	11 : 06	6 : 13	4 : 49	23
6 : 43	5 : 22	3 : 45	11 : 47	11 : 06	6 : 14	4 : 50	24
6 : 42	5 : 21	3 : 44	11 : 47	11 : 06	6 : 15	4 : 50	25
6 : 42	5 : 20	3 : 43	11 : 47	11 : 05	6 : 15	4 : 51	26
6 : 41	5 : 19	3 : 42	11 : 47	11 : 05	6 : 16	4 : 52	27
6 : 40	5 : 18	3 : 41	11 : 47	11 : 05	6 : 16	4 : 52	28
6 : 40	5 : 17	3 : 40	11 : 47	11 : 05	6 : 17	4 : 53	29
6 : 39	5 : 16	3 : 39	11 : 47	11 : 05	6 : 18	4 : 54	30
6 : 38	5 : 15	3 : 38	11 : 47	11 : 05	6 : 18	4 : 55	31

## نومبر

تاریخ	صبح صادق ابتدائے فجر و ختم سحری	طلوع آفتاب انہجائے فجر	ضحوہ کبریٰ اس وقت کی نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	4 : 56	6 : 19	11 : 05	11 : 47	3 : 37	5 : 14	7 : 37
2	4 : 57	6 : 20	11 : 05	11 : 47	3 : 36	5 : 14	7 : 36
3	4 : 57	6 : 21	11 : 05	11 : 47	3 : 36	5 : 13	7 : 35
4	4 : 58	6 : 22	11 : 05	11 : 47	3 : 35	5 : 12	7 : 34
5	4 : 59	6 : 23	11 : 05	11 : 47	3 : 34	5 : 11	7 : 33
6	4 : 59	6 : 23	11 : 05	11 : 47	3 : 34	5 : 10	7 : 33
7	5 : 00	6 : 24	11 : 05	11 : 47	3 : 33	5 : 10	7 : 32
8	5 : 01	6 : 25	11 : 05	11 : 47	3 : 33	5 : 09	6 : 32
9	5 : 01	6 : 25	11 : 05	11 : 47	3 : 32	5 : 09	6 : 31
10	5 : 01	6 : 26	11 : 05	11 : 47	3 : 32	5 : 08	6 : 31
11	5 : 03	6 : 27	11 : 05	11 : 47	3 : 31	5 : 07	6 : 30
12	5 : 03	6 : 28	11 : 05	11 : 47	3 : 30	5 : 06	6 : 29
13	5 : 04	6 : 29	11 : 05	11 : 47	3 : 39	5 : 05	6 : 29
14	5 : 05	6 : 29	11 : 05	11 : 47	3 : 29	5 : 05	6 : 29
15	5 : 05	6 : 30	11 : 05	11 : 48	3 : 28	5 : 04	6 : 29
16	5 : 06	6 : 31	11 : 05	11 : 48	3 : 28	5 : 04	6 : 28
17	5 : 07	6 : 32	11 : 05	11 : 48	3 : 27	5 : 03	6 : 28
18	5 : 08	6 : 33	11 : 05	11 : 48	3 : 27	5 : 03	6 : 28
19	5 : 09	6 : 34	11 : 05	11 : 48	3 : 26	5 : 02	6 : 27
20	5 : 10	6 : 35	11 : 06	11 : 49	3 : 26	5 : 02	6 : 27
21	5 : 10	6 : 36	11 : 06	11 : 49	3 : 26	5 : 02	6 : 27
22	5 : 11	6 : 36	11 : 06	11 : 49	3 : 25	5 : 01	6 : 27
23	5 : 12	6 : 37	11 : 06	11 : 49	3 : 25	5 : 01	6 : 26
24	5 : 13	6 : 38	11 : 06	11 : 50	3 : 25	5 : 00	6 : 26
25	5 : 13	6 : 39	11 : 06	11 : 50	3 : 24	5 : 00	6 : 26
26	5 : 14	6 : 40	11 : 07	11 : 50	3 : 24	5 : 00	6 : 26
27	5 : 15	6 : 40	11 : 07	11 : 51	3 : 24	4 : 59	6 : 26
28	5 : 15	6 : 41	11 : 07	11 : 51	3 : 23	4 : 59	6 : 26
29	5 : 16	6 : 42	11 : 07	11 : 51	3 : 23	4 : 59	6 : 25
30	5 : 17	6 : 43	11 : 08	11 : 51	3 : 23	4 : 59	6 : 25

## دسمبر

تاریخ	صبح صادق ابتدائے نجر و طم سحری	طلوع آفتاب انہائے فجر	ضحو کبریٰ اس وقت کو نماز نہیں	نصف النہار ابتدائے ظہر	وقت عصر	غروب آفتاب	وقت عشاء
1	5 : 18	6 : 44	11 : 08	11 : 52	3 : 22	4 : 59	6 : 25
2	5 : 19	6 : 45	11 : 09	11 : 52	3 : 22	4 : 59	6 : 25
3	5 : 20	6 : 46	11 : 09	11 : 53	3 : 22	4 : 59	6 : 25
4	5 : 20	6 : 47	11 : 09	11 : 53	3 : 22	4 : 59	6 : 25
5	5 : 21	6 : 48	11 : 10	11 : 54	3 : 22	4 : 59	6 : 25
6	5 : 22	6 : 49	11 : 10	11 : 54	3 : 22	4 : 59	6 : 26
7	5 : 22	6 : 50	11 : 10	11 : 54	3 : 23	4 : 59	6 : 26
8	5 : 23	6 : 50	11 : 11	11 : 55	3 : 23	4 : 59	6 : 26
9	5 : 24	6 : 51	11 : 11	11 : 55	3 : 23	4 : 59	6 : 26
10	5 : 24	6 : 51	11 : 11	11 : 56	3 : 23	4 : 59	6 : 27
11	5 : 25	6 : 51	11 : 12	11 : 56	3 : 24	4 : 59	6 : 27
12	5 : 26	6 : 52	11 : 12	11 : 57	3 : 24	4 : 59	6 : 27
13	5 : 26	6 : 52	11 : 13	11 : 57	3 : 24	5 : 00	6 : 28
14	5 : 27	6 : 53	11 : 13	11 : 58	3 : 25	5 : 00	6 : 28
15	5 : 27	6 : 54	11 : 14	11 : 58	3 : 25	5 : 02	6 : 29
16	5 : 28	6 : 55	11 : 15	11 : 59	3 : 25	5 : 01	6 : 29
17	5 : 29	6 : 56	11 : 15	11 : 59	3 : 26	5 : 02	6 : 29
18	5 : 30	6 : 56	11 : 16	12 : 00	3 : 26	5 : 02	6 : 30
19	5 : 30	6 : 57	11 : 16	12 : 00	3 : 26	5 : 03	6 : 30
20	5 : 31	6 : 58	11 : 17	12 : 01	3 : 27	5 : 04	6 : 31
21	5 : 31	6 : 58	11 : 17	12 : 01	3 : 27	5 : 04	6 : 31
22	5 : 32	6 : 59	11 : 18	12 : 02	3 : 27	5 : 05	6 : 31
23	5 : 33	6 : 59	11 : 18	12 : 02	3 : 28	5 : 05	6 : 32
24	5 : 33	7 : 00	11 : 19	12 : 03	3 : 28	5 : 06	6 : 32
25	5 : 34	7 : 00	11 : 20	12 : 03	3 : 28	5 : 06	6 : 32
26	5 : 34	7 : 01	11 : 20	12 : 04	3 : 29	5 : 0	6 : 33
27	5 : 34	7 : 01	11 : 20	12 : 04	3 : 29	5 : 07	6 : 34
28	5 : 35	7 : 02	11 : 21	12 : 05	3 : 30	5 : 08	6 : 35
29	5 : 35	7 : 02	11 : 21	12 : 05	3 : 30	5 : 08	6 : 35
30	5 : 35	7 : 03	11 : 22	12 : 06	3 : 31	5 : 09	6 : 36
31	5 : 35	7 : 03	11 : 22	12 : 06	3 : 31	5 : 09	6 : 36



صاحبانِ ذوق و مجتہدین اور اربابِ فکر و نظر

# مژدہ جالفرآ

سیرتِ اَبی سَلَمَہ صَلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر

حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کے

بہارِ آفریںِ مسلم سے نکلا ہوا لازوال شاہکار  
درد و سوز اور تحقیق و آگہی سے معمور تصنیف

مرکز  
ضیاء ابی

مکمل سیٹ سات جلدیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور، کراچی۔ پاکستان

کتابِ رشد و ہدایت کی ہمہ گیر آفاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے  
نور و سرور اور جذبہ حب رسول ﷺ پر مبنی آیات احکام کی مفصل وضاحت  
اردو زبان میں پہلی مرتبہ

## تفسیر احکام القرآن

مفسر قرآن، علامہ مفتی محمد جلال الدین قادری

آیات احکام کا مفصل لغوی و تفسیری حل امہات کتب تفسیر کی روشنی میں  
مفسرین کی تصریحات کے مطابق پیش کیا گیا۔

اس لئے یہ کتاب طلباء، علماء، وکلاء، ججز

اور عوام و خواص کے لئے قیمتی سرمایہ

آج ہی طلب فرمائیں

**ضیاء القرآن پبلی کیشنز**

لاہور۔ کراچی۔ پاکستان

# اہل علم کیلئے عظیم علمی پیشکش



آیات احکام کی تفسیر و تشریح پر مشتمل عصر حاضر کے یگانہ روزگار اور معتبر عالم دین

حضرت علامہ سید سعادت علی قادری کے

قلم سے نکلا ہوا عظیم علمی شاہکار

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

۲ جلدیں

### خصوصیات

۱۔ زندگی کے تمام شعبوں اور عصر حاضر کے جملہ مسائل کا حل

۲۔ متلاشیان علم کے لئے ایک بہترین علمی ذخیرہ

۳۔ مقررین و واعظین کیلئے بیش قیمت خزانہ

۴۔ ہر گھر کی ضرورت اور ہر فرد کیلئے یکساں مفید

آج ہی طلب  
فرمائیں

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

